16

कुरुक्षेत्र जन्तरी 1930

لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم

ہر چند کہ ظاہر مین تقویم یکسال ہی لیکن باطن مین پانچ برس کے زمانِ ماضی و مستقبل کا حال ہی مجازاً

بڑی جنتری ۶ سنہ ۱۹۱۷



اسکا نام صاف ہے حقیقتاً جام جمشید و آئینہ سکندر کا فوٹوگراف [illegible]

نامی پریس مشہور کانپور مین چھپوائی

مثنوی شریف مولانا روم علیہ الرحمہ معہ دفتر اول پاکٹ ایڈیشن

مثنوی مولوی معنوی

ہین حمائل درزبان پہلوی

چارسو برس ہوئے جبکہ مولانا جامیؒ نے پہلے پہلے مثنوی شریف کا مطالعہ کیا، تو فرط ارادۃ مین اُنکی زبان مبارک سے شعر مندرجہ عنوان بے ساختہ نکل گیا جسکا دوسرا مصرع یون ہے کہ ع

ہست قرآن درزبان پہلوی

کتاب مثنوی شریف کیا بہ مضامین توحید و رسالت، اور کیا بخیالات اخلاق و نصیحت، اور کیا بہ اظہار رموز فطرت، اگر زبان پہلوی مین منشاے کلام اللہ کو ادا کرتی ہے۔ تو جسطرح قرآن عربی بطرز حمائل تحریر و طبع ہو کر صد ہا شکلون سے شایع ہو چکا ہے اُسی طرح یہ قرآن عجمی بھی بطور حمائل گلے کی زیب یا رونق جیب ہونا ضروری تھا جو افسوس ہے کہ تمام دنیاے اسلام کی بے توجہی کے باعث نہو سکا۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ اس کمی کو ساڑھے چھ سو برس بعد نامی پریس کانپور نے پورا کیا اور مثنوی شریف کا دفتر اول پاکٹ ایڈیشن چھاپکر شایع کر دیا۔

بالفعل یہ دفتر سفید اور چکنے کاغذ پر چھاپا گیا، اسکا ٹائیٹل مہیا کارہے، اور کلکتہ کے ایک مشہور و معروف بک بائنڈر سے طلائی نام کیساتھ ولایتی ساخت پر مجلد کرایا گیا ہے۔ اگر لائبریری مین رکھدین تو الماری کی زینت ہو جائے اور اگر سفر مین ساتھ ہو تو آسانی سے طے ہو جاے۔

خوشنکہ اسکا اپنے پاس رکھنا ہم خرما و ہم ثواب ہے قیمت مبلغ دو روپیہ آٹھ آنے ؁ محصولڈاک ذمہ خریدار ہے۔

المشتہر محمد رحمت اللہ رعد نامی پریس کانپور

کارخانہ عطر شیخ محمد عُمر محمد صدیق چوک لکھنؤ

فضل خدا سے اسوقت ہمارے کارخانہ کو اپنے مال کی عمدگی اور نرخ مناسب ہونیکی وجہ سے بہت بڑی ناموری حاصل ہے اور بہت سے والیان ملک و رؤسا شہر کو ہمارے کارخانیکی سچائی اور مال کی عمدگی کا حال بخوبی معلوم ہے حضرات شائقین کو بھی ایکبار اس کارخانیکے روغن اور عطریات و تمباکو خوردنی کا تجربہ کرنا ضروری ہے۔ امید کہ تجربہ کرنیکے بعد خوش ہونگے اور فرمایش لائقہ سے مال کی عمدگی اور سچائی کا حال بھی روشن ہو جائیگا۔

نام عطر	قیمت فی تولہ	نام عطر	قیمت فی تولہ
روح پانڑی	سے، عا،	مدن بان	صہ، للعہ، عا، عہ،
روح خس	صہ، للعہ،	عروس	عا، عہ، ۱۲ار
روح گلاب	ئہ	نرگس	للعہ، عا، عہ،
گیندا	عہ، ۱۲ار	سورنگی	سے، للعہ، عا، عہ،
حنا مشکی	للعہ، سے، عا، عہ، ۱۲ار	گل صنوبر	سے، للعہ، عا،
مشک عنبر	صہ، للعہ، عا،	کامنی	عہ سے، للعہ، عا،
برگ حنا	عا،	دُلہن	سے، عا، عہ،
مخلوط عنبری	سے،	فتنہ	للعہ، سے، عا، عہ،
موتیا	صہ، للعہ، سے، عا، عہ، ۱۲ار	کیوڑا	للعہ، سے، عا، عہ، ۱۲ار
نارنگی	عہ، ۱۲ار	سوسن	سے، للعہ، عا،
مجموعہ	للعہ، عا، عہ، ۱۲ار	کشمم	عا، عہ،
ارگجا	للعہ، عا، عہ،	نازبو	سے، للعہ، عا،
اگر غرقی	۶۰	مولسری	عا، عہ،
اگر	سے، للعہ،	گلاب	عہ نہ صہ، للعہ، عا،
بیلا	للعہ، عا، عہ، ۱۲ار	گل یعنی مٹی	عہ، ۱۲ار
مخلوط آصفی	سے، للعہ،	پانڑی	عہ، ۱۲ار
چنبیلی	عہ سے، صہ، للعہ، عا، عہ، ۱۲ار	موگرا	للعہ، سے، عا، عہ،
خس	عا، عہ، ۱۲ار	ناگیسر	عہ، سے، عا،
جوہی	عا، عہ، ۱۲ار	دونا	عا، عہ، ۱۲ار
سیوتی	عا، عہ، ۱۲ار	سہاگ	عا، عہ، ۱۲ار
مہک پسی	سے، عا،	شگفتہ	عا، عہ، ۱۲ار
گل داؤدی	سے، عا، عہ	ہزارا	سے، عا، عہ
زعفران	عا، عہ،	ہرسنگار	عا، عہ، ۱۲ار
انبہ	عا، عہ،	کیتکی	عا، عہ، ۱۲ار
شونناز	عا، عہ،	جوہی	عا، عہ، ۱۲ار
شمامۃ العنبر	صہ،		

کتھہ خوشبودار فی سیر عا، سے، للعہ
مِتی خوشبودار فی سیر عا، سے، للعہ
سُرمہ سادہ فیتولہ ۲ر سرمہ موتی فیتولہ ۴ر سرمہ
اصفہانی فی تولہ ۲ر

نام روغن	قیمت فی سیر
چنبیلی	سے، صہ، للعہ، عا، عہ،
بیلا	سے، صہ، للعہ، عا، عہ،
کیوڑہ	سے، صہ، للعہ، عا، عہ
مولسری	سے، للعہ،
حنا	عہ سے، للعہ، عا، عہ،
گل حنا	سے، للعہ،
کامنی	سے، للعہ،
روغن گل	سے، للعہ، عا،
کدو	صہ، للعہ،
کاہو	صہ، للعہ،
موگرا	صہ، للعہ،
بادام دیسی	فیتولہ ۲ر
پستہ	" ۴ر
دارچینی	" ۴ر
مصطگی	" ۸ر
موم	" ۱۲ار

گولی مشکی طلائی ۴ہ نقرئی ۸ر

نام روغن	قیمت فی سیر
لوبان	فیتولہ ۸ر
لونگ	" ۴ر
قسط	" ۱۲ار
بنفشہ	" ۴ر
بروزہ	" ۴ر
اجوائن	" ۴ر

نام عرقیات	قیمت فی سیر
کیوڑہ	للعہ، عا، عہ، ۱۲ار
گلاب	للعہ، عا، عہ، ۱۲ار
بید مشک	عہ، ۸

تمباکو خوردنی پتی تمباکو مشکی قسم اول فیسیر عہ
قسم دوم عہ قسم سوم عہ قسم چہارم للعہ، قسم پنجم عا،
قوام تمباکو مشکی فیتولہ عہ، ۸ر، ۶ر، ۴ر
قوام تمباکو خوردنی برقی ۴ہ

نام شربت	قیمت فی بوتل
شربت انار شیرین بیدانہ	عا، عہ،
شربت انار قندھاری	عا، عہ،
شربت پیاز	عہ،
شربت لنگترہ	عہ،
شربت نارنج	عہ،

نام شربت	قیمت فی بوتل
شربت انگور	عا، عہ،
شربت انار سوم	عہ،
گاؤ زبان عطر کی فیسیر	۱۶	۱۲
روغن دسا	" ۱۶	۱۲
روغن صندل نرخ بازار	

ضوابط کارخانہ

(۱) نام و پتہ صاف خوشخط لکھنا چاہیے (۲) صرف عطر و تمباکو خوردنی ویلوپے ایبل روانہ کیا جاتا ہے (۳) تیل یا عرق کی فرمایش کیواسطے روپیہ پیشگی روانہ کرنا چاہیے (۴) صرف نئے خریدار صاحبان اگر عطر کیساتھ تیل وغیرہ طلب کریں تو کل قیمت پیشگی ورنہ چہارم قیمت کارخانہ میں بھیجیں ورنہ فرمایش تعمیل نہوگی (۵) بذریعہ ریل پارسل طلب کرنیکے واسطے اپنے اسٹیشن پر مال منگانا منظور ہو تو اُس اسٹیشن کا نام صاف تحریر کرنا چاہیے (۶) اگر مال ناقص ہوگا کارخانہ واپس لیگا بلکہ واپس شدہ مال کا محصول ڈاک بھی کارخانہ ادا کریگا۔

بڑی جنتری ۱۹۱۷ء کے مضامین کی فہرست

عرض

[illegible]

المشتہر محمد صدیق حسن مالک و ایڈیٹر [illegible] خان لکھنؤ

برجاہ پیر از شرق آبرو و نہر * جملہ در تسبیح و تہلیل حیِ لا یموت * چون حمل، چون ثور، چون جوزا، و سرطان و اسد * سنبلہ میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت

جنگِ عالمگیر

آغازِ جنگ کو تیسرا سال ہے اِس مُدت مین یورپ پر جو مصیبت گذر رہی ہے - وہ دُنیا کو معلوم ہے مگر ہندوستان بھی تجارتی تباہی مین اِس قدر مبتلا ہے اور ہوتا جاتا ہے جو خدا ہی علیم و دانا ہے کہ آیندہ اُس کا کیا حشر ہونے والا ہے - جہازی راستے مخدوش ہو جانے کے باعث لوہا، تانبا، رنگ، کپڑا، اور دیگر اسباب ولایتی کمیاب ہو کر روز بروز گران ہو رہا ہے اور اِسی سلسلے مین کاغذ بھی ہے -

جس قسم کے معمولی کاغذ پر بڑی جنتری ہر سال چھپتی تھی اُس کی قیمت فی رم زیادہ سے زیادہ چار روپیہ ہوتی تھی مگر امسال بارہ سے چودہ روپیہ تک ہے اور اِس پر بھی ناکافی بلکہ نہایت کمی کے ساتھ دستیاب ہوتا ہے - اِس دقت پر نظر کر کے ارادہ ہوا کہ ۱۹۱۷ء کی جنتری نہ شایع کی جائے بلکہ سال ناغہ کر دیا جائے - لیکن اِس رائے سے بعض تجربہ کار دوستوں اور زمانہ دیدہ کتب فروشوں نے اختلاف کیا اور مشورہ دیا کہ گرانی کاغذ کی وجہ سے اگر جنتری کا حجم بعض ایسے مضامین سے جنکو حساب ماہ و سال سے تعلق نہو کم کر دیا جائے تو کچھ مضائقہ نہوگا - مگر تحویلات نوروزی، یا رمضان المبارک کے مختلف اوقات، یا خمسہ متحیرہ مین سیارون کی روش مستقیمی اور رجعت قہقری، یا بارہ ماہ کے سنین مروجہ ہند، یا چاند کی کم و بیش ماہواری شکلین، یا چاندنی کا روزانہ گھٹنا بڑھنا وغیرہ وغیرہ، اگر اِن مضامین سے سال خالی گیا تو ایک بڑا ضروری سلسلہ ٹوٹ جائیگا - اور ٹوٹنے کے بعد پھر جوڑنا محال ہو جائیگا -

لہذا اِس رائے پر عمل کیا گیا اور جنتری چھاپ ڈالی گئی - یہ سچ ہے کہ جنتری ہذا مین گذشتہ جنتریون سے اوراق کم ہین یعنی مضامین صفحہ ۴۸ تک ختم ہین - اور جملہ صفحات مع ٹائیٹل کے ۷۲ ہین - مگر باوجود اِس کمی کے لاگت ڈیوڑھی خرچ کرنی پڑی تب جنتری شایع ہوئی -

ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ جنتری ہذا کے مقابلہ مین اور جنتریان بھی شایع ہوتی ہین - اُن مین اُدھک ماس یعنی لوند کے متعلق بسا اوقات اختلاف کر جاتی ہین - مثلاً اِس سال جنتری ہذا کے بھادون ماس مین اُدھک ماس یعنی لوند واقع ہوا ہے - بعض جنتریون مین اِس کے خلاف بجائے بھادون کے اسوج یعنی کنوار مین اُدھک ماس قرار دیکر شایع کیا ہے -

ہم ناظرین کو آگاہ کرتے ہین - کہ وہ اِس مغالطہ مین نہ آئین اور بھادون ہی مین اُدھک ماس یعنی لوند کو صحیح باور فرمائین - چنانچہ اِسکے متعلق جنتری ہذا کے صفحہ پر ایک بڑا نقشہ درج ہوتا ہے جس مین سمبت ۱۹۴۲ بکرمی گذشتہ سے سمبت ۲۰۹۹ بکرمی آیندہ تک دو سو چھ برس کے اُدھک ماس یعنی لوند درج کر دیے گئے ہین جنمین اکیاسی برس گذشتہ کا پچھلی جنتریون سے مقابلہ ہو سکتا ہے اور آیندہ ایک سو پچیس ۱۲۵ سال کا فیصلہ جوتش یعنی علم ہیئت ابھی کر سکتا ہے -

قطعہ تاریخ طبع جنتری نامی از نتیجہ طبع گرامی جناب حکیم سید محمد رضا صاحب بلگرامی متخلص آرزو

حسن ہے کچھ اور شے، ہے چیز دیگر دلبری	دسترس پائے نہ جسکے لیے محل ہے ہمسری
اور ہے معراج ہے، شوکت امت اور ہے	معجزہ کچھ اور شے ہے، اور ہے جادوگری
دیکھیے کس کس کے نہ چھل بل کا الہ رنگ مین	کچھ نہ کام آئی کسیکی فطرت اسکندری
پس یہی ہے بات دنیا مین ہر اک شئے کے لیے	کوئی ہمنا دل ڈرانا یا کہ وہ ہو جنتری
رتبہ ہے اک خاص لطف صانع بیمثل ہے	جوہری خود ہی پرکھ لیتا ہے ہر کھوٹی کھری
ہاتھ کنگن کے لیے کب آرسی درکار ہے	مالک کے دست مبارک مین ہے جب خود جنتری
آپ بھی لکھ دیجیے برجستہ تاریخ آرزو	لوح دانش، بے مثال، وکار آمد جنتری

۱۹۱۷ء

لارڈ کچنر

لارڈ کچنر جنہے گذشتہ موسم بہار میں جام قضا پیا - یہی برٹش امپائر کا ہیرا بلکہ تاج شاہنشاہی کا گوہر تابان تھا - برٹش کمانڈر ان چیف میں
لارڈ نپیر آف مگڈالا کے بعد لارڈ رابرٹس نے اور انکے بعد لارڈ کچنر نے اپنی اپنی فتوحات کی بدولت یکے بعد دیگرے شہرتیں حاصل کیں - مگر لارڈ کچنر کا درجہ
نہایت ممتاز ہے ۱۸۹۸ء میں سوڈان اور ۱۹۰۲ء میں ساؤتھ افریقہ پر فتح پائی - حال کی جنگ میں چالیس لاکھ فوج کا فراہم کر دینا ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے -

جنرل الکزی بروسیلاف

یہ جنرل اُس روسی فوج کا کمانیر ہے جو سلطنت روس کے جنوبی حصے اور رومانوی سرحد پر رومانیہ کی حفاظت کے لیئے تعینات ہے۔
آجکل رومانیہ چار دشمنوں کے نرغے میں ہے۔ اوّل جرمن۔ دوم آسٹریا۔ سوم بلغاریہ۔ چہارم ترک۔ مگر جو شخص ان چاروں حملوں سے رومانیہ کو اب تک محفوظ رکھے ہوئے ہے وہ بروسیلاف کی مدبری اور مردانگی ہے۔

ڈیوک آف اوسٹا

اس جنرل کے ہاتھ مین تیسری اطالین فوج کی کمان تھی جبکہ وہ آسٹریا کی فوج سے برسرپیکار ہوکر کئی بار اسکو شکست دے چکی تھی - مگر ۹ - اگست ۱۹۱۶ء کو مقام گوریزیا کی سخت جنگ مین اسکا آخری فیصلہ ہوگیا یعنی ڈیوک موصوف کا مقام مذکور پر تمام و کمال قبضہ ہوگیا -
یہ جنرل شاہ عمانویل والی ملک اطالیہ کا چچازاد بھائی ہے - اور اسکی شجاعت اور بہادری کا تمام یوروپ معترف ہے -

سمبت ۱۸۹۳ بکرمی گذشتہ سے سمبت ۲۰۹۹ بکرمی آئندہ تک ۲۰۶ برس کے ادھک ماس یعنی لوند

۱		۲		۳		۴		۵		۶		۷	
سمبت بکرمی	ادھک ماس	سمبت بکرمی	ادھک ماس	سمبت بکرمی	ادھک ماس	سمبت بکرمی	ادھک ماس	سمبت بکرمی	ادھک ماس	سمبت بکرمی	ادھک ماس	سمبت بکرمی	ادھک ماس
۱۸۹۳	اساڑھ ۴	۱۸۹۶	جیٹھ ۳	۱۸۹۸	کنوار ۶	۱۹۰۱	ساون ۵	۱۹۰۴	جیٹھ ۳	۱۹۰۷	بیساکھ ۲	۱۹۰۹	بھادوں ۶
۱۹۱۲	اساڑھ ۴	۱۹۱۵	جیٹھ ۳	۱۹۱۷	کنوار ۶	۱۹۲۰	ساون ۵	۱۹۲۳	جیٹھ ۳	۱۹۲۶	بیساکھ ۲	۱۹۲۸	بھادوں ۶
۱۹۳۱	اساڑھ ۴	۱۹۳۴	جیٹھ ۳	۱۹۳۶	کنوار ۶	۱۹۳۹	ساون ۵	۱۹۴۲	جیٹھ ۳	۱۹۴۵	چیت ۱	۱۹۴۷	بھادوں ۶
۱۹۵۰	اساڑھ ۴	۱۹۵۳	جیٹھ ۳	۱۹۵۵	کنوار ۶	۱۹۵۸	ساون ۵	۱۹۶۱	جیٹھ ۳	۱۹۶۴	چیت ۱	۱۹۶۶	ساون ۵
۱۹۶۹	اساڑھ ۴	۱۹۷۲	بیساکھ ۲	۱۹۷۴	بھادوں ۶	۱۹۷۷	ساون ۵	۱۹۸۰	جیٹھ ۳	۱۹۸۳	چیت ۱	۱۹۸۵	ساون ۵
۱۹۸۸	اساڑھ ۴	۱۹۹۱	بیساکھ ۲	۱۹۹۳	بھادوں ۶	۱۹۹۶	ساون ۵	۱۹۹۹	جیٹھ ۳	۲۰۰۲	چیت ۱	۲۰۰۴	ساون ۵
۲۰۰۷	اساڑھ ۴	۲۰۱۰	بیساکھ ۲	۲۰۱۲	بھادوں ۶	۲۰۱۵	ساون ۵	۲۰۱۸	جیٹھ ۳	۲۰۲۱	چیت ۱	۲۰۲۳	ساون ۵
۲۰۲۶	اساڑھ ۴	۲۰۲۹	بیساکھ ۲	۲۰۳۱	بھادوں ۶	۲۰۳۴	اساڑھ ۴	۲۰۳۷	جیٹھ ۳	۲۰۴۰	کنوار ۶	۲۰۴۲	ساون ۵
۲۰۴۵	جیٹھ ۳	۲۰۴۸	بیساکھ ۲	۲۰۵۰	بھادوں ۶	۲۰۵۳	اساڑھ ۴	۲۰۵۶	جیٹھ ۳	۲۰۵۹	کنوار ۶	۲۰۶۱	ساون ۵
۲۰۶۴	جیٹھ ۳	۲۰۶۷	بیساکھ ۲	۲۰۶۹	بھادوں ۶	۲۰۷۲	اساڑھ ۴	۲۰۷۵	جیٹھ ۳	۲۰۷۸	کنوار ۶	۲۰۸۰	ساون ۵
۲۰۸۳	جیٹھ ۳	۲۰۸۶	چیت ۱	۲۰۸۸	بھادوں ۶	۲۰۹۱	اساڑھ ۴	۲۰۹۴	جیٹھ ۳	۲۰۹۷	کنوار ۶	۲۰۹۹	اساڑھ ۴

بڑی جنتری کی ماہواری جدول کا فرہنگ

بڑی جنتری کا ہر مہینہ دو صفحے مین ختم ہوتا ہی اسکے متعلق دونون صفحات کی جدولون مین جو مضامین درج ہوتے ہین معلوم ہوا کہ لوگ اُنسے اور اُنکی اصطلاحونسے ناواقف ہین اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اُنکا فرہنگ جنتری ہذا کیساتھ شامل ہوا کرے چنانچہ درج ذیل ہے،

قمر در عقرب۔ اس نام کا بڑی جنتری کے خانونمین اسطرح پتہ چل سکتا ہی کہ ہر صفحۂ طاق ہندسہ کے چندر مان والے خانے مین برچھیک کا لفظ دیکھنا چاہیے جس ساعت سے جس ساعت تک برچھیک کا وقت رہے وہ قمر در عقرب ہی، مگر اسکو زیادہ واضح کرنیکی غرض سے دونون کے خانونمین سیاہی کا حلقہ دیکر اس کا اظہار کردیا ہے جو ذیل کی پانچ شکلون سے معلوم ہوگا،

ایک صبح سے دوسری صبح تک قمر در عقرب
دوپہر دن سے دوسری صبح تک قمر در عقرب
شام سے صبح تک قمر در عقرب
صبح سے شام تک قمر در عقرب
صبح سے آدھی رات تک قمر در عقرب

یہ پانچ شکلین مثالاً دکھلا دیگئی ہین۔ اب اِن کے درمیانی درجے خودبخود سمجھ مین آسکتے ہین،

پنچک جسطرح بعض شیعہ مسلمانونمین ہبوط ماہ یعنی قمر در عقرب کی ساعتین نحس مانی جاتی ہین اسیطرح اکثر ہنود مین زوال ماہ یعنی پنچک کی ساعتونمین تمام اچھے کام خصوصاً چوبی اور خس کے متعلق کام ملتوی کردیے جاتے ہین۔ پنچک کی شناخت حاشیہ پر اُس برکٹ سے ہوتی ہی جو کسی دن سے شروع ہوکر اُسکے چوتھے یا پانچوین دن ختم ہوتا ہی۔ آغاز اور انجام سے دونکے آٹھ آٹھ حصے کرکے گویا ایک ایک پہر قایم کیا ہی جس روز کے جس پہر سے پنچک شروع ہوکر جس روز کے جس پہر مین ختم ہوتی ہی برکٹ اُنکو صاف کردیتا ہی،

تاریخین۔ اس جنتری مین مختلف سنونکی تاریخین درج ہین جسمین عیسوی کو سلطنت سے، ہجری کو مسلمانون سے سمبت کو ہندوؤن سے تعلق ہی، اور الٰہی سلطنت نظام مین فصلی ممالک متحدہ مین، بنگلہ بنگال مین اور پر وسٹہ پنجاب مین، حصول مالگذاری کے لیے جاری ہے، اس لیے ہر سنہ بکار آمد ہی،

جدول آفتاب۔ اسکے نیچے دو خانے طلوع و غروب کے ہین جسکے پہلے خانے مین گھنٹہ اور منٹ کے ہندسے اوپر نیچے دیے گئے ہین مگر بعد کے خانون مین صرف منٹ دکھا دیا ہی کہ اُسکی کمی بیشی روزانہ معلوم ہوسکے،

جدول ماہتاب۔ اسکے نیچے ایک خانہ ہی جس سے چاند کا گھٹاؤ بڑھاؤ بذریعہ اُسکی تصویر کے دکھا دیا گیا ہے اور اُس کے بعد برابر خانون مین اندھیری اور اُجالی کے گھنٹے ہین، سفید خانون سے چاندنی رات اور آڑی لکیرونکے سیاہ خانون سے اندھیری رات مراد ہی بعض ابتدائی خانے روشن اور انتہائی خانے تاریک اور بعض انتہائی خانے روشن اور ابتدائی تاریک ملینگے اگر ابتدائی خانے روشن ہون تو شام سے چاندنی مانی جائیگی، اور اگر انتہائی خانے روشن ہونگے تو شام سے اندھیری مانی جائیگی، یہ خانہ بعض جرائم کی تحقیقات مین پولیس اور وکلا اور عدالت کو اکثر مدد دیتا ہے،

کیفیت۔ اس خانے مین مختلف مذاہب کی یادگارین اور سنکرانت یعنی ایک برُج سے دوسرے برُج مین تحویل آفتاب درج کیجاتی ہے،

یادداشت۔ یہ سادہ خانہ کسی اہم واقعہ کے یاد رکھنے کو یا کسی عزیز کی ولادت و وفات کے درج کرلینے کو چھوڑ دیا جاتا ہی تاکہ عند الضرورت دیکھ لیا جائے،

تتھ۔ یہ خانہ دونون صفحون مین ہوتا ہی دوسرے صفحے مین واضح طور پر گھڑی پل کے ساتھ ہوتا ہی تتھ کے بعد جو دو خانے ہین اور انمین گ ت پ لکھا ہوتا ہی اس سے مراد گھڑی اور پل ہی اور ہر ہندی تاریخ کو گھڑی پل سے تعلق ہوتا ہی مثلاً ۲۵ جنوری کو ماگھ سدی کی دوج بھی ہی اور تیج بھی ہی اور اسکے برعکس ۹، ۱۰ فروری کو دو روز تک پورناشی ہی۔ پہلی مثال ایکروز مین دو تتھ کی اور دوسری مثال دو روز تک ایک تتھ کی ہی پس اسی کمی بیشی کے ساتھ ہر تتھ کو سمجھ لینا چاہیے کہ کس تاریخ کو کے گھڑی پل ہی،

نچھتر۔ منجملہ آسمان کی ۲۷ منزلون کے ایک منزل کا نام ہی لیکن جنتری مین یہ خانہ محض قمر کی چال دکھانے کے لیے درج ہی یعنی چاند کس تاریخ کو کس نچھتر مین ہی اور اسکی گھڑی پل کیا ہین۔

جوگ۔ اُنکی تعداد ۲۷ ہی۔ ہنود اسمین بعض کو سعد اور بعض کو نحس قرار دیکر اپنے کو اُن ساعتونمین خوشی کے کامون سے بچاتے ہین۔

دنمان۔ یہ خانہ دن کی مقدار بتاتا ہی مثلاً ۲۱ مارچ اور ۲۳ ستمبر کو دن رات برابر ہوتے ہین اسلیے اُس روز کا دنمان ۳۰ گھڑی کا ہوگا اور ۲۳ جون کو سب سے بڑا دن ہوتا ہے اسلیے اُس روز کا دنمان ۳۳ گھڑی ۱۵ پل کا ہوگا اور ۲۳ دسمبر کو سب سے چھوٹا دن ہوتا ہی اسلیے اُس روز کا دنمان ۲۵ گھڑی ۴۴ پل کا ہوگا کیونکہ ہمیشہ دن رات کی مجموعی مقدار ۶۰ گھڑی کی ہی،

بھدرا۔ ایک تتھ کے نصف حصہ کا نام ہی۔ بدی پاکھ مین ۳، ۷، ۱۰، ۱۴ کو اور سدی پاکھ مین ۴، ۸، ۱۱، ۱۵ کو واقع ہوتا ہی۔ ہنود بھدرا کی ساعت کو نحس مانتے ہین اور اچھے کامون کو اس سے بچاکے کرتے ہین۔

چندرمان۔ یہ خانہ نچھتر کے خانے سے تعلق رکھتا ہی جسطرح آسمان کو ۲۷ حصونپر تقسیم کرنیسے ہر حصّہ کا نام نچھتر قرار پایا ہے اسیطرح ۱۲ حصونپر تقسیم کرنیسے ہر حصے کا نام راس قرار پایا ہی جب چاند ایک رات کی مسافت طی کرتا ہی گویا ۱ نچھتر طی کرتا ہی۔ اسیطرح جب چاند راس کی مسافت طی کرتا ہے اُسوقت ۹ نچھتر کی مسافت طے کرتا ہے۔

سیّارونکی چال۔ چاند کے علاوہ اور سیّارے جو ہین اُنکی روزانہ چالین اس خانے مین دکھائی جاتی ہین یعنی جو سیّارہ آسمان کی ایک منزل کے کسی حصے سے دوسری منزل کے کسی حصے مین جسوقت تحویل کرتا ہی مع نام منزل اور تعداد گھڑی پل کے اسمین لکھ دیا جاتا ہی۔

تقویم کواکب یہ خانہ اوپر کے خانہ کی ہفتہ وار میزان ہے یعنی اسمین ہر ہفتہ کی ایک تاریخ مین دکھایا جاتا ہی کہ آج فلان وقت فلان فلان سیّارہ ہائے آسمانی فلان فلان منزل پر ہین۔ راہ اور کیت ایکہی چال پر ۶ برج کے فاصلے سے چلتے ہین، اسلیے صرف ایک لکھ دیا جاتا ہی

سائن سنکرانت۔ یہ سنکرانت اُس دائرے مین درج ہوتی ہی جسمین برُج کی تصویر ہوتی ہی یہ سنکرانت پہلے صفحہ کی سنکرانت سے ۲۲۰ انس کے قریب فرق رکھتی ہی مثلاً جب مین کے ۸۰ انس گزرین تو اس سنکرانت مین میکھ کی ساعت ہوجائے گی۔

تقویم نوروز عالم افروز از افق کانپور

بفضلِ خداوند عالم و طفیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال آئندہ دورہ اثنا عشرہ سے چھٹا سال ہے۔ تاریخ ۲۹۔ جمادی الاولےٰ ۱۳۳۵ ہجری مطابق ۲۱۔ مارچ ۱۹۱۷ء روز چہارشنبہ بعد صبح صادق وقت ۶ بجے ۱۴ منٹ ۴۴ سکنڈ پر بساعت عطارد تحویل آفتاب برج حمل میں اور ظہور نوروز عالم افروز ہے۔ سواری اژدر آتش فشان رُخ جانب شمال و مغرب سمت راست میں دخن نفت اور دست چپ میں ولایتی دیاسلائی۔ خوراک کباب دل شیر۔ رنگ سُرمئی۔ نام سال بیلان ئیل۔ اور مالک سال زہرہ ہے۔

پس اس سال کے آثار خیالی درج ذیل کیئے جاتے ہیں۔

مُلکی حالت

ہندوستان۔ گرمی متوسط درجے پر ہو۔ برسات میں کمی رہے جاڑا شدت سے ہو۔ اکثر درختوں اور بعض کھیتوں کو پالے سے نقصان پہنچے زراعت کی حالت اوسط درجے پر ہو۔ گیہوں کسیقدر گران رہے۔ ہوا نامعتدل چلے۔ آم کم اور دیگر فواکہات بکثرت پیدا ہوں۔ چوپایوں میں بیماریاں ہوں۔ لو زیادہ چلے۔ جُہلا کی اخلاقی اور مذہبی حالتیں خراب ہوں اصلاح کا اثر نہو۔ ایک گروہ دوسرے گروہ سے جنگ کر کے فتح کا خواہاں ہو۔ مگر اپنے مطلب میں مایوس ہوں۔ سرحد مغربی پر خطرات عظیم واقع ہوں۔ جن کے دفع کرنے میں مُلک کا بہت روپیہ صرف ہو۔

ایشیا۔ چین اور جاپان میں ایک خُفیہ معاہدہ ہو۔ اور اسکے افشا ہونے پر شاہان یورپ اور خصوصاً برطانیہ میں تشویش بڑھے۔ حجاز کی تندرستی عمدہ حالت میں رہے۔ بدوؤں کی تلوّن مزاجی سے بدامنی ہو جایا کرے عراق کی فصلیں ضایع ہوں۔ کھجور کم پیدا ہو۔ بصرہ پر برٹش اقتدار ہو۔ ایران میں بادشاہ اور رعایا میں نااتفاقی ہو۔ افغانستان میں امن و امان کی ترقی رہے۔

یورپ۔ جرمن جنگ عالمگیر میں سویڈن اور ناروے کو اپنی جانب شریک کرنا چاہے مگر کامیابی نہو۔ اٹلی میں قحط کے آثار نمایاں ہوں۔ سوئیٹزرلینڈ اور ڈنمارک میں جدید دُخانی کارخانے جاری ہوں اور کامیابی حاصل کریں۔ ٹرکی انگلستان کی دوستی کی جانب قدم بڑھانا چاہے مگر جرمن مانع ہو۔ جاپان کی عالمگیر تجارتی ترقی یورپ کی جنگ آور طاقتوں کو پریشانی میں ڈالے۔ اور بالآخر صلح کے وجوہ میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو۔ روس کو جرمن اتحادیوں سے توڑنا چاہے مگر کامیاب نہو۔ انگلستان اور روس موجودہ جنگ میں اپنی انتہائی قابلیت کا ایسا اظہار کریں کہ دنیا حیرت میں رہ جاسے۔ اسپین میں کم اور پرتگال میں زیادہ بحری ترقیاں ہوں۔

افریقہ۔ ٹیونس میں بغاوت اور مراکو میں بلوے ہوں۔ طرابلس اٹلی کے قبضے سے نکلنا چاہے مگر کامیاب نہو۔ ملاّے صومالی کا اثر ایبے سینیا تک بڑھ جاسے۔ سوڈان کی مخالفت مصر تک ترقی نکر سکے۔ ساؤتھ افریقہ میں برٹش فتوحات میں وسعت ہو۔ برٹش مقبوضات میں مسلمانوں کو ہر طرح کی ترقیات حاصل ہوں۔ زنجبار اور میڈیغاسکر کے باشندوں کو تجارتی نقصان رہے۔

امریکہ۔ شمالی امریکہ میں تجارت سست رہے۔ اکابرین ملک جنگ عالمگیر صلح کی کوشش کریں اگرچہ ناکامیاب ہوں مگر اخیر تک کوشش کریں۔



جنوبی امریکہ کے صوبہ برٹش گائنا میں بڑی جنتری کی اشاعت ہو۔

العلم عند اللہ

کانپور کے علاوہ دیگر شہروں میں ساعت نوروزی

نام شہر	ساعت نوروزی بعد صبح صادق: گھنٹہ	منٹ	سکنڈ	نام شہر	ساعت نوروزی بعد صبح صادق: گھنٹہ	منٹ	سکنڈ	نام شہر	ساعت نوروزی بعد صبح صادق: گھنٹہ	منٹ	سکنڈ
قسطنطنیہ	۶	۱۹	۴۹	اجمیر	۹	۲۵	۳۲	بارہ بنکی زیدپور	۹	۴۶	۹
مدینہ منورہ	۶	۳۶	۳۰	دہلی	۹	۳۰	۴۳	فیض آباد	۹	۴۶	۲۰
مکہ معظمہ	۷	۱	۲۳	آگرہ	۹	۴۴	۴۰	گونڈہ بہرائچ	۹	۴۶	۲۰
کربلائے معلیٰ	۷	۲۳	۲۲	حیدرآباد دکن	۹	۳۴	۳۰	الہ آباد	۹	۴۷	۲۱
کاظمین	۷	۳۳	۲۲	رام پور	۹	۳۶	۰	جونپور	۹	۵۰	۰
سامرہ	۷	۴۵	۲۲	اناؤ گوالیار	۹	۳۷	۵۹	بنارس	۹	۵۲	۴۲
طہران	۷	۴۵	۴۴	بانس بریلی	۹	۳۹	۳۲	عظیم آباد	۱۰	۰	۴۰
شیراز	۷	۵۶	۵۶	فرخ آباد	۹	۴۰	۲۰	مرشدآباد	۱۰	۴	۴۰
مشہد مقدس	۸	۴۰	۴۰	بلگرام	۹	۴۱	۲۰	پورنیہ	۱۰	۱۰	۲۰
کابل	۹	۵	۴۰	مدراس	۹	۴۱	۴۳	کلکتہ	۱۰	۱۵	۲۹
کشمیر	۹	۹	۱۱	اناؤ صفی پور	۹	۴۳	۵۳	ڈھاکہ	۱۰	۲۰	۳۲
بمبئی سورت	۹	۱۲	۳۲	فتح پور	۹	۴۵	۱۶	رنگون	۱۰	۳۲	۲۰
لاہور	۹	۲۱	۴۴	لکھنؤ	۹	۴۵	۵۶	منڈالہ	۱۰	۴۷	۳۸

خمسہ متحیرہ بابت سنہ ١٩١٧ع یعنی وہ پانچ سیارے جو کبھی سیدھے اور کبھی اُلٹے چلتے ہیں



رمضان المبارک کے مختلف اوقات

تاریخ رمضان المبارک	تاریخ انگریزی	اودھ میں طلوع صبح صادق		اودھ میں غروب آفتاب		روہیلکھنڈ میں طلوع صبح صادق		روہیلکھنڈ میں غروب آفتاب		اجمیر میں طلوع صبح صادق		اجمیر میں غروب آفتاب		جے پور میں طلوع صبح صادق		جے پور میں غروب آفتاب		حیدرآباد دکن میں طلوع صبح صادق		حیدرآباد دکن میں غروب آفتاب	
		گھنٹہ	منٹ	گھنٹہ	منٹ	گھنٹہ	منٹ	گھنٹہ	منٹ	گھنٹہ	منٹ	گھنٹہ	منٹ	گھنٹہ	منٹ	گھنٹہ	منٹ	گھنٹہ	منٹ	گھنٹہ	منٹ
۱	۲۱ جون	۳	۵۲	۷	۶	۳	۵۵	۷	۱۶	۴	۹	۷	۱۹	۴	۶	۷	۱۴	۴	۷	۷	۳
۲	۲۲	۳	۵۲	۷	۶	۳	۵۵	۷	۱۶	۴	۹	۷	۱۹	۴	۶	۷	۱۴	۴	۷	۷	۳
۳	۲۳	۳	۵۲	۷	۶	۳	۵۵	۷	۱۶	۴	۹	۷	۱۹	۴	۶	۷	۱۴	۴	۷	۷	۳
۴	۲۴	۳	۵۲	۷	۶	۳	۵۵	۷	۱۶	۴	۹	۷	۱۹	۴	۶	۷	۱۴	۴	۷	۷	۳
۵	۲۵	۳	۵۳	۷	۵	۳	۵۶	۷	۱۵	۴	۱۰	۷	۱۸	۴	۷	۷	۱۳	۴	۸	۷	۲
۶	۲۶	۳	۵۳	۷	۵	۳	۵۶	۷	۱۵	۴	۱۰	۷	۱۸	۴	۷	۷	۱۳	۴	۸	۷	۲
۷	۲۷	۳	۵۳	۷	۵	۳	۵۶	۷	۱۵	۴	۱۰	۷	۱۸	۴	۷	۷	۱۳	۴	۸	۷	۲
۸	۲۸	۳	۵۳	۷	۵	۳	۵۶	۷	۱۵	۴	۱۰	۷	۱۸	۴	۷	۷	۱۳	۴	۸	۷	۲
۹	۲۹	۳	۵۳	۷	۵	۳	۵۶	۷	۱۵	۴	۱۰	۷	۱۸	۴	۷	۷	۱۳	۴	۸	۷	۲
۱۰	۳۰	۳	۵۳	۷	۵	۳	۵۶	۷	۱۵	۴	۱۰	۷	۱۸	۴	۷	۷	۱۳	۴	۸	۷	۲
۱۱	یکم جولائی	۳	۵۳	۷	۵	۳	۵۶	۷	۱۵	۴	۱۰	۷	۱۸	۴	۷	۷	۱۳	۴	۸	۷	۲
۱۲	۲	۳	۵۳	۷	۵	۳	۵۶	۷	۱۵	۴	۱۰	۷	۱۸	۴	۷	۷	۱۳	۴	۸	۷	۲
۱۳	۳	۳	۵۴	۷	۴	۳	۵۷	۷	۱۴	۴	۱۱	۷	۱۷	۴	۸	۷	۱۲	۴	۹	۷	۱
۱۴	۴	۳	۵۴	۷	۴	۳	۵۷	۷	۱۴	۴	۱۱	۷	۱۷	۴	۸	۷	۱۲	۴	۹	۷	۱
۱۵	۵	۳	۵۴	۷	۴	۳	۵۷	۷	۱۴	۴	۱۱	۷	۱۷	۴	۸	۷	۱۲	۴	۹	۷	۱
۱۶	۶	۳	۵۴	۷	۴	۳	۵۷	۷	۱۴	۴	۱۱	۷	۱۷	۴	۸	۷	۱۲	۴	۹	۷	۱
۱۷	۷	۳	۵۴	۷	۴	۳	۵۷	۷	۱۴	۴	۱۱	۷	۱۷	۴	۸	۷	۱۲	۴	۹	۷	۱
۱۸	۸	۳	۵۵	۷	۳	۳	۵۸	۷	۱۳	۴	۱۲	۷	۱۶	۴	۹	۷	۱۱	۴	۱۰	۷	۰
۱۹	۹	۳	۵۵	۷	۳	۳	۵۸	۷	۱۳	۴	۱۲	۷	۱۶	۴	۹	۷	۱۱	۴	۱۰	۷	۰
۲۰	۱۰	۳	۵۵	۷	۳	۳	۵۸	۷	۱۳	۴	۱۲	۷	۱۶	۴	۹	۷	۱۱	۴	۱۰	۷	۰
۲۱	۱۱	۳	۵۵	۷	۳	۳	۵۸	۷	۱۳	۴	۱۲	۷	۱۶	۴	۷	۷	۱۱	۴	۱۰	۷	۰
۲۲	۱۲	۳	۵۶	۷	۲	۳	۵۹	۷	۱۲	۴	۱۳	۷	۱۵	۴	۱۰	۷	۱۰	۴	۱۱	۶	۵۹
۲۳	۱۳	۳	۵۶	۷	۲	۳	۵۹	۷	۱۲	۴	۱۳	۷	۱۵	۴	۱۰	۷	۱۰	۴	۱۱	۶	۵۹
۲۴	۱۴	۳	۵۶	۷	۲	۳	۵۹	۷	۱۲	۴	۱۳	۷	۱۵	۴	۱۰	۷	۱۰	۴	۱۱	۶	۵۹
۲۵	۱۵	۳	۵۶	۷	۲	۳	۵۹	۷	۱۲	۴	۱۳	۷	۱۵	۴	۱۰	۷	۱۰	۴	۱۱	۶	۵۹
۲۶	۱۶	۳	۵۷	۷	۲	۳	۵۹	۷	۱۲	۴	۱۳	۷	۱۵	۴	۱۰	۷	۱۰	۴	۱۱	۶	۵۸
۲۷	۱۷	۳	۵۷	۷	۱	۴	۰	۷	۱۱	۴	۱۴	۷	۱۴	۴	۱۱	۷	۹	۴	۱۲	۶	۵۸
۲۸	۱۸	۳	۵۷	۷	۱	۴	۰	۷	۱۱	۴	۱۴	۷	۱۴	۴	۱۱	۷	۹	۴	۱۲	۶	۵۸
۲۹	۱۹	۳	۵۸	۷	۰	۴	۱	۷	۱۰	۴	۱۵	۷	۱۳	۴	۱۲	۷	۸	۴	۱۳	۶	۵۷
۳۰	۲۰	۳	۵۸	۷	۰	۴	۱	۷	۱۰	۴	۱۵	۷	۱۳	۴	۱۲	۷	۸	۴	۱۳	۶	۵۷

یہ وقت ریلوے ٹائم سے ہے

رمضان المبارک کا وقت کانپور مین

تاریخ ماہ رمضان المبارک	مطابق تاریخ انگریزی	ابتداے وقت افطار گھنٹہ	ابتداے وقت افطار منٹ	انتہاے وقت سحری گھنٹہ	انتہاے وقت سحری منٹ
چاند رات	۲۰ جون	۰	۰	۳	۳۰
۱	۲۱	۷	۱۳	۳	۳۰
۲	۲۲	۷	۱۳	۳	۳۰
۳	۲۳	۷	۱۳	۳	۳۰
۴	۲۴	۷	۱۳	۳	۳۰
۵	۲۵	۷	۱۲	۳	۳۱
۶	۲۶	۷	۱۲	۳	۳۱
۷	۲۷	۷	۱۲	۳	۳۱
۸	۲۸	۷	۱۲	۳	۳۱
۹	۲۹	۷	۱۲	۳	۳۱
۱۰	۳۰	۷	۱۲	۳	۳۱
۱۱	یکم جولائی	۷	۱۲	۳	۳۱
۱۲	۲	۷	۱۲	۳	۳۱
۱۳	۳	۷	۱۱	۳	۳۱
۱۴	۴	۷	۱۱	۳	۳۲
۱۵	۵	۷	۱۱	۳	۳۲
۱۶	۶	۷	۱۱	۳	۳۲
۱۷	۷	۷	۱۱	۳	۳۲
۱۸	۸	۷	۱۱	۳	۳۲
۱۹	۹	۷	۱۰	۳	۳۳
۲۰	۱۰	۷	۱۰	۳	۳۳
۲۱	۱۱	۷	۱۰	۳	۳۳
۲۲	۱۲	۷	۱۰	۳	۳۳
۲۳	۱۳	۷	۹	۳	۳۴
۲۴	۱۴	۷	۹	۳	۳۴
۲۵	۱۵	۷	۹	۳	۳۴
۲۶	۱۶	۷	۸	۳	۳۵
۲۷	۱۷	۷	۸	۳	۳۵
۲۸	۱۸	۷	۸	۳	۳۵
۲۹	۱۹	۷	۷	۳	۳۶
۳۰	۲۰	۷	۷	۰	۰

بیاہ کی سہالگ بابت سنہ ۱۹۱۷ء

شادی کی لگن مین دس گرہن ہین جنکے نام یہ ہین۔ لات۔ پات جبت۔ بید۔ جامتر۔ بدھ پنچک۔ اکارگل ادپاگرہ۔ کرانت۔ سام وگدھ منجان ہند اس لگن مین صرف اشارات سے کام لیتے ہین یہ سون گرہن دو شکلون سے لکھی جاتی ہین یعنی یا تو سیدھی لکیر مثل ا کے یا اسطرح مثل ی کے ذرا خمدار پس ان لکیرون مین جو سیدھی ہو وہ گرہ عمدہ اور جو خمدار ہو وہ گرہ ناقص ہے۔ مثلاً دس لکیر دنمین آٹھوین لکیر خمدار اور باقی سیدھی بنائی گئی ہین تو سمجھ لینا چاہیے کہ اُس روز جو لگن ہے اس مین ادپاہ گرہ ہوگا لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر چھٹی لکیر یعنی بدھ پنچک ناقص ہو تو اُس مین پانچ طرح کے نقص ہوتے ہین روگ یعنی بیماری اگن یعنی آگ۔ مرت یعنی موت نرپ یعنی خوف چور یعنی راہزنی۔ اس سبب سے جس لگن مین چھٹا خانہ ناقص ہے وہان ان پانچون نقص مین سے جو ہے اُس کا حرف اوّل لکھ کر اشارہ کردیا ہے نقشہ مندرجہ ذیل مین چھٹا خانہ یعنی بدھ پنچک ناقص پڑتا ہی تو اس کے آگے سرے کا حرف لکھ کر اس کا پتہ دیا ہی یعنی (ر) سے روگ (ا) سے اگن (م) سے مرت (ن) سے نرپ (چ) سے چور۔

لگن کی صورت

تاریخ وماہ	نچھتر	۱	۲	۶	۷	۵	۹	۲	۸	۵	۱۰	لگن
۱۶ جنوری	سواتی	ی	۱	۱	۱	ی	۱	۱	۱	۱	۱	گ ۵۴
۱۷ ″	بساکھا	۱	ی	۱	۱	۱	۱	۱	ی	۱	۱	ل ۱۲
۲۰ ″	مول	۱	۱	۱	ی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	ل ۹
۲۲ ″	اُتراکھاد	۱	ی	ی	۱	ی	۱	ی	۱	۱	۱	گ ۱۲
۲۷ ″	اترابھادرپد	۱	۱	۱	۱	۱	ی ن	۱	۱	۱	۱	ل ۲
۲۸ ″	ریوتی	ی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	ل ۱۲
یکم فروری	روہنی	۱	۱	۱	۱	۱	ی ن	۱	۱	۱	۱	ل ۱۲
۷ ″	مگھا	۱	۱	۱	۱	ی	۱	۱	۱	۱	۱	ل ۶
۱۰ ″	اتراپھالگنی	۱	۱	۱	۱	۱	ی ن	۱	۱	۱	۱	گ ۵۴
۱۵ ″	اترادھا	۱	۱	۱	۱	۱	۱	ی	ی	۱	۱	ل ۶
۱۷ ″	مول	۱	۱	ی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	گ ۶
۱۸ ″	پورباکھاد	۱	ی	۱	۱	ی	۱	ی	ی	۱	۱	ل ۱۲
۲۳ ″	اترابھادرپد	ی	ی	۱	۱	ی	ی(۱)	ی	ی	۱	۱	گ ۶
۲۴ ″	ریوتی	ی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	ی	ل ۱۲
۲۸ ″	روہنی	۱	ی	۱	۱	۱	ی ر	۱	۱	۱	۱	ل ۶
یکم مارچ	مرگسرا	۱	۱	۱	۱	ی	ی ر	۱	۱	۱	۱	گ ۶
۱۸ جون	روہنی	۱	۱	ی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	ل ۱۲
۱۸ ″	مرگسرا	ی	ی	۱	۱	۱	۱	ی	ی	۱	۱	ل ۱۲
۲۴ ″	مگھا	۱	۱	۱	۱	۱	۱	ی	ی	۱	۱	گ ۵۴
۲۶ ″	اتراپھالگنی	۱	ی	۱	۱	۱	ی(۱)	ی	ی	۱	۱	ل ۶
۲۷ ″	ہست	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	ی گ ۲۴
۲۹ ″	سواتی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	گ ۵۴
۳ جولائی	پورباکھاد	۱	۱	ی	۱	ی	ی ن	۱	۱	۱	۱	ل ۱۲
۵ دسمبر	مگھا	ی	ی	۱	۱	۱	ی م	ی	ی	۱	۱	ل ۶
۷ ″	اتراپھالگنی	۱	۱	۱	۱	۱	ی ن	۱	۱	۱	۱	گ ۱۲
۸ ″	ہست	ی	۱	۱	۱	۱	ی ن	۱	۱	۱	۱	گ ۱۴
۱۰ ″	سواتی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	ی	۱	۱	ل ۱۲
۱۲ دسمبر	اترادھا	۱	۱	۱	۱	ی	۱	۱	۱	۱	۱	ل ۴۶

برسات کے نکھت (نچھتر)

امسال یعنی سنہ ۱۹۱۷ء مین برسات کا موسم ۲۱ جون سے شروع ہوکر ۲۳ اکتوبر کو ختم ہوگا جس کے نچھتر یعنی حصے مندرجہ ذیل ہین' آردرا ۲۱ جون کو۔ پورنبس ۵ جولائی کو۔ پکھ (چریا) ۱۹ جولائی کو۔ اشلیکھا (سرکھا) ۲ اگست کو۔ مگھا ۱۶ اگست کو۔ پورباپھالگنی ۳۰ اگست کو۔ اتراپھالگنی ۱۳ ستمبر کو۔ ہست (ہتیا) ۲۶ ستمبر کو شروع ہوگا' چترا (چیت) ۱۰ اکتوبر کو شروع ہوکر ۲۳ اکتوبر کی شام کو ۳۸ گھڑی ۱۴ پل گزر کر ختم ہوجائیگا (دیکھو خانہ ہاے سیارہ گی چال)

گرہن بابت سنہ ۱۹۱۷ء

واضح ہو کہ زمین کی شکل گول ہی اور اسکی گولائی کے باعث سے چاند اور سورج ہر وقت ایک ہی شہر کے مقابل نہین رہتے' یہی سبب ہی کہ ایک ہی وقت مین کہین رات اور کہین دن ہوتا ہے۔ علی ہذا جب چاند گرہن یا سورج گہن ہو تو جہان سے جہان تک وہ دکھائی دیگا وہین گرہن بھی پڑے گا باقی شہر صاف ہون گے۔ رات اور دن کا فرق ( ) اس شکل سے معلوم ہوگا' جس خانہ مین یہ شکل ہو تو رات ہے ورنہ دن تصور کرنا چاہیے' چاند گرہن دن کو اور سورج گہن رات کو نہ معلوم ہوگا'

نام شہر	چندر گرہن کامل ۴ جولائی ۱۹۱۷ء	سورج گرہن ناقص ۱۹ جولائی ۱۹۱۷ء
لندن	۸	۱۰
قسطنطنیہ	۱۰	۱۲
مصر	۱۰	۱۲
زنجبار	۰۱	۱
مکہ معظمہ	۱۱	۲
شیراز	۱۱	۰۲
کابل	۱۲	۳
بمبئی	۱	۴
لاہور	۱	۴
دہلی	۰۱	۴
حیدرآباد دکن	۰۱	۴
رام پور	۰۱	۴
کانپور	۱	۰۴
الہ آباد	۱	۰۴
بنارس	۲	۰۴
پٹنہ	۲	۴
مرشدآباد	۰۲	۰۵
کلکتہ	۰۳	۰۵
رنگون	۰۳	۶
چین	۰۴	۷
مکسیکو	۱	۰۴

فہرست تعطیلات محکمہ جات ممالک محروسہ نظام دکن بابت ۱۹۱۷ع بطرز جدید

نام تعطیل	تاریخ تعطیل	تعداد یوم	کیفیت
نیو ایرس ڈے	۲۹- بہمن	۱	صرف عیسائیونکے لیے
عرس خواجہ منتخب الدین	۲۹- ″	۱	اورنگ آباد مین
دوازدہم شریف	۵- اسفندار	۱	عام
گیارھوین شریف	۳- فروردین	۱	عام
عرس جوال بہار	۳- اردی بہشت	۱	بھونگیر کے لیے
عرس خواجہ اجمیر	۲۴- خورداد	۱	عام
عرس خواجہ کوہ مولا	۴- تیر	۱	بلدہ حوالی کے لیے
شب معراج	۱۳- تیر	۱	عام
شب برات	۳۱- تیر و یکم امرداد	۲	عام
عرس بابا شرف الدین	۴- شہریور	۱	دفاتر بلدہ کے لیے
سالگرہ حضور نظام	۰	۱	جو تاریخ مقرر ہو
شب قدر	۹ تا ۱۱- شہریور	۳	عام
عید الفطر	۱۳ تا ۱۶ شہریور	۴	عام
عرس گلبرگہ شریف	۲۸ تا ۳۰ مہر	۳	گلبرگہ مین
عید الضحیٰ	۲۱ تا ۲۶ آبان	۵	عام
محرم الحرام	۱۷ تا ۲۴- آذر	۸	عام
تل سنکرانت	۱۱- اسفندار	۱	عام

نام تعطیل	تاریخ تعطیل	تعداد یوم	کیفیت
بسنت پنچمی	۲۵- اسفندار	۱	عام
مہاشیوراتری	۱۹- فروردین	۱	عام
ہولی	۴ و ۵- اردی بہشت	۲	عام
اوگادی	۲۰- اردی بہشت	۱	عام
راکھی پونم	۲۸- شہریور	۱	عام
جنم اشٹمی	۴- مہر	۱	عام
گنیش چوتھ	۱۵- آبان	۱	عام
انت چودس	۲۴- آبان	۱	عام
دسہرہ	۱۹ و ۲۰- آذر	۲	عام
دیوالی	۱۰ و ۱۱- دے	۲	عام
سالگرہ ملکہ وکٹوریہ	۱۹- تیر	۱	عام
سالگرہ حضور قیصر ہند	۲۹- تیر	۱	یا جو تاریخ مقرر ہو-
کرسمس	۲۲ تا ۲۸- بہمن	۷	صرف عیسائیونکیلیے

علاوہ انکے ہر جمعہ کو تعطیل ہوتی ہے۔ اگر تعطیلات مین کوئی جمعہ پڑ جائے تو اسکا معاوضہ نہین دیا جاتا ہے۔ عیسائیون کو بجائے جمعہ کے اتوار کو تعطیل ہوتی ہے۔ سورج گہن کے دن اور چاند گہن کے دوسرے روز ایک دن کی تعطیل ہنود کے لیے مقرر ہے۔

فہرست عام تعطیلات عدالت ہائے دیوانی و فوجداری و مال ملک محروسہ بھوپال بابت ۱۹۱۷ع

نام تعطیل	تاریخ تعطیل	تعداد یوم	کیفیت
سالگرہ صاحبزادہ محمد حمید اللہ خان بہادر	۳- جنوری	۱	
ولادت رحمۃ للعالمین	۷- ″	۱	
سالگرہ صدر نشینی سرکار عالیہ	۱۲- ″	۱	
سالگرہ صاحبزادی برجیس جہان بیگم صاحبہ	۱۴- ″	۱	
مکر سنکرانت	۱۵- جنوری	۱	
بسنت پنچمی	۲۷- دسمبر	۱	
گیارھوین شریف	۴- فروری	۱	
مہاشیوراتری	۲۰- ″	۱	
ہولی	۹- مارچ	۱	
گنگور تیج	۲۵- ″	۱	
رام نومی	۳۱- ″	۱	
عید پاسکو	۸- اپریل	۱	
سالگرہ حضور قیصر ہند	۳- جون	۱	
شب برات	۵ و ۶- ″	۲	
سالگرہ صاحبزادہ حبیب اللہ خان بہادر	۲- جولائی	۱	
عید الفطر	۱۹ تا ۲۲- ″	۴	
راکھی پونم	۳- اگست	۱	
سالگرہ صاحبزادہ حفیظ الظفر خان بہادر	۹- اگست	۱	

نام تعطیل	تاریخ تعطیل	تعداد یوم	کیفیت
سالگرہ کرنل محمد عبید اللہ خان بہادر	۲۶- اگست	۱	
گوکل اشٹمی	۲۷- ″	۱	
سالگرہ صاحبزادہ نواب محمد نصر اللہ خان بہادر ولیعہد	۵- ستمبر	۱	
سالگرہ سرکار عالیہ دام اقبالہا	۱۵- ″	۱	
سالگرہ صاحبزادہ محمد سعید الظفر خان بہادر	۱۹- ″	۱	
ڈول گیارس	۱۹- ″	۱	
گنیش چوتھ	۲۰- ″	۱	
عید الضحیٰ	۱۷ تا ۲۲- ″	۶	
سالگرہ صاحبزادہ محمد وحید الظفر خان بہادر	۸- اکتوبر	۱	
نو درگا و دسہرہ	۲۴ و ۲۵- ″	۲	
محرم الحرام	۲۴ تا ۲۷- ″	۴	
عطائے خطابات سرکار عالیہ دام اقبالہا	۹- نومبر	۱	
دیوالی	۱۵- ″	۱	
سالگرہ صاحبزادہ محمد رفیق اللہ خان بہادر	۱۷- دسمبر	۱	
بڑا دن	۲۵- ″	۱	

علاوہ انکے ہر جمعہ کو تعطیل ہوتی ہے۔ سورج گہن کے روز اور چاند گہن کی صبح کو ایک روز کی تعطیل ہنود کو دیجاتی ہے۔ عیسائیونکے لیے ہر اتوار کو تعطیل مقرر ہے۔ محکمہ فوجداری، پولیس، فوج، سائر، جنگلات، تعمیرات اور ڈاکخانہ جات وغیرہ مین ہر روز کام ہوتا ہے۔

جنتری سنہ ۱۹۱۴ عیسوی

یوم	جنوری	فروری	مارچ	اپریل	مئی	جون	جولائی	اگست	ستمبر	اکتوبر	نومبر	دسمبر
شنبہ	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶
یکشنبہ	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷
دوشنبہ	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸
سہ شنبہ	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹
چہارشنبہ	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰
پنجشنبہ	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱
جمعہ	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵

جنتری سنہ ۱۹۱۵ عیسوی

یوم	جنوری	فروری	مارچ	اپریل	مئی	جون	جولائی	اگست	ستمبر	اکتوبر	نومبر	دسمبر
شنبہ	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵
یکشنبہ	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶
دوشنبہ	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷
سہ شنبہ	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸
چہارشنبہ	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹
پنجشنبہ	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰
جمعہ	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱

جنتری سنہ ۱۹۱۶ عیسوی

یوم	جنوری	فروری	مارچ	اپریل	مئی	جون	جولائی	اگست	ستمبر	اکتوبر	نومبر	دسمبر
شنبہ	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰
یکشنبہ	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱
دوشنبہ	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵
سہ شنبہ	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶
چہارشنبہ	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷
پنجشنبہ	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸
جمعہ	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹

جنتری سنہ ۱۹۱۸ عیسوی

یوم	جنوری	فروری	مارچ	اپریل	مئی	جون	جولائی	اگست	ستمبر	اکتوبر	نومبر	دسمبر
شنبہ	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸
یکشنبہ	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹
دوشنبہ	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰
سہ شنبہ	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱
چہارشنبہ	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵
پنجشنبہ	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶
جمعہ	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۳۱	۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸	۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶	۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷	۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵	۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹	۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷

ایام ہفتہ	جنوری ۱۹۱۷ عیسوی	ربیع الاول ۱۳۳۵ ہجری	ایام سعد و نحس	تفصیل	یادداشت
دوشنبہ	۱	۶	سعد	عرس خواجہ منتخب الدین / نیو ایرس ڈے	
سہ شنبہ	۲	۷	سعد		
چہار شنبہ	۳	۸	نحس	وفات امام حسن عسکری	
پنجشنبہ	۴	۹	سعد	پتردا اکادسی	
جمعہ	۵	۱۰	نحس	پوترا دوادسی	
شنبہ	۶	۱۱	سعد		
یکشنبہ	۷	۱۲	نحس	ولادت و رحلت خاتم النبیین / خلافت صدیق اکبر	
دوشنبہ	۸	۱۳	نحس	عرس ... ان کلیر / ماگھ اشنان شروع	
سہ شنبہ	۹	۱۴	سعد		
چہار شنبہ	۱۰	۱۵	سعد		
پنجشنبہ	۱۱	۱۶	نحس		
جمعہ	۱۲	۱۷	سعد	ولادت امام جعفر صادق / سنکٹ چوتھ	
شنبہ	۱۳	۱۸	سعد	مکر کی سنکرانت	
یکشنبہ	۱۴	۱۹	سعد	کھچڑاہی	
دوشنبہ	۱۵	۲۰	نحس		
سہ شنبہ	۱۶	۲۱	نحس	کالا اشٹمی	
چہار شنبہ	۱۷	۲۲	سعد	عرس مشتنا حضرت شاہ فضل رحمان	
پنجشنبہ	۱۸	۲۳	سعد		
جمعہ	۱۹	۲۴	نحس	کھٹ تلا اکادشی	
شنبہ	۲۰	۲۵	نحس	پردوش	
یکشنبہ	۲۱	۲۶	نحس		
دوشنبہ	۲۲	۲۷	نحس		
سہ شنبہ	۲۳	۲۸	سعد	مونی اماوس	
چہار شنبہ	۲۴	۲۹	سعد	رویت ہلال صریح - دھنش جگ	
پنجشنبہ	۲۵	ربیع الثانی	نحس		
جمعہ	۲۶	۲	سعد	تل چوتھ	
شنبہ	۲۷	۳	نحس	بسنت پنچمی	
یکشنبہ	۲۸	۴	سعد	ولادت امام حسن عسکری	
دوشنبہ	۲۹	۵	نحس	رتھ ستمی	
سہ شنبہ	۳۰	۶	سعد	ان پورنا اشٹمی	
چہار شنبہ	۳۱	۷	سعد		

دن	جنوری	تتھ	گ	پ	نچھتر نام	گ	پ	جوگ نام	گ	پ	دنمان گ	پ	بھدرا ابتدا	انتہا	چندرمان راس	گ	پ	ستاروں کی چال
پیر	۱	۸	۷	۴۳	ریوتی	۳۶	۳۶	پرکھ	۱۷	۳۷	۲۵	۵۵			مینکھ	۳۶	۳۶	
منگل	۲	۹	۵	۹	اسونی	۳۶	۶	شیو	۱۲	۳۷	۲۵	۵۷						
بدھ	۳	۱۰	۳	۳۰	بھرنی	۳۶	۴۷	سدھ	۸	۳۶	۲۵	۵۶		[illegible]	برکھ	۵۲	۱۵	
جمعرات	۴	۱۱	۲	۱۳	کرتکا	۳۸	۴۰	ساودھ	۵	۳۸	۲۶	۰	[illegible]					
جمعہ	۵	۱۲	۱	۳۲	روہنی	۴۱	۵۲	سبھ	۳	۱۶	۲۶	۲						سرون (۱) کے بدھ ۵ + ۱۲ ۔
ہفتہ	۶	۱۳	۶	۵۲	مرگسرا	۴۶	۱۴	سوکل	۲	۴	۲۶	۴			متھن	۱۴	۴	
اتوار	۷	۱۴	۱۰	۲۱	اردرا	۵۱	۴۲	براہم	۱	۵۸	۲۶	۵	[illegible]	[illegible]				
پیر	۸	۱۵	۱۴	۴۹	پونربس	۵۷	۲۹	ایندر	۲	۲۳	۲۶	۶			کرک	۴۱	۱۰	
منگل	۹	ماگھ ۱	۱۹	۴۹	پوکھ	۶۰	۰	بیدھرت	۳	۲۷	۲۶	۸						مول (۱) پر دھن کے سکر ۲۲ + ۷ ۔ بدھ بکری ہوا ۲۹ + ۴۵ ۔
بدھ	۱۰	۲	۲۵	۷	پوکھ	۴	۲	بسکمبھ	۴	۴۲	۲۶	۹		[illegible]				اتراکھاڑ (۱) کے سورج ۸ + ۲۶
جمعرات	۱۱	۳	۳۰	۱۷	اشلیکھا	۹	۵۴	پریت	۵	۵۶	۲۶	۱۰		[illegible]	سنگھ	۹	۵۴	سرون (۱) کے منگل ۱۰ + ۵۱
جمعہ	۱۲	۴	۳۴	۵۹	مگھا	۱۶	۳۶	ایوکھان	۶	۵۰	۲۶	۱۲						بدھ پچھم مین غروب ہوا ۔ ۳۱ + ۴۵
ہفتہ	۱۳	۵	۳۸	۴۶	پوروپھاگنی	۲۱	۳۷	سوبھاگ	۷	۲	۲۶	۱۳			کنیا	۳۷	۴۲	اتراکھاڑ (۲) پر مکر کے سورج ۲۳ + ۵۶ مورت ۴۵ ۔
اتوار	۱۴	۶	۴۱	۳۹	اتراپھاگنی	۲۵	۵۷	سوبھن	۶	۳۳	۲۶	۱۴	[illegible]					
پیر	۱۵	۷	۴۳	۲	ہست	۲۹	۴	اتگنڈ	۵	۲۶	۲۶	۱۶		[illegible]	تلا	۵۹	۵۹	
منگل	۱۶	۸	۴۳	۱۰	چترا	۳۰	۵۴	سوکرم	۳	۱۲	۲۶	۱۷						اسونی (۲) کے برہسپت ۱۳ + ۲۰
بدھ	۱۷	۹	۴۲	۱۳	سواتی	۳۱	۳۰	شول	۵۵	۴۷	۲۶	۱۸						
جمعرات	۱۸	۱۰	۲۹	۵۲	بساکھا	۳۱	۰	گنڈ	۵۰	۳۷	۲۶	۲۰	[illegible]	[illegible]	برچھیک	۱۶	۱۷	اتراکھاڑ (۱) پر دھن کے بکری بدھ ۹ + ۱۶
جمعہ	۱۹	۱۱	۳۶	۲۵	انرادھا	۲۹	۱۶	بردھ	۴۴	۳۷	۲۶	۲۱						
ہفتہ	۲۰	۱۲	۳۲	۲۶	جیسٹھا	۲۶	۵۰	دھرو	۳۷	۵۷	۲۶	۲۲			دھن	۲۶	۵۰	پوراکھاڑ (۱) کے سکر ۲ + ۱۹ ۔ پوراکھاڑ (۴) کے راہ پونربس (۲) کے کیت ۱۵ + ۱۳
اتوار	۲۱	۱۳	۲۸	۴۰	مول	۲۳	۳۶	بیاگھات	۳۰	۵۸	۲۶	۲۴	[illegible]	[illegible]				
پیر	۲۲	۱۴	۲۲	۲	پورواکھاڑ	۱۹	۵۷	ہرکھن	۲۳	۲۵	۲۶	۲۷			مکر	۳۳	۴۱	
منگل	۲۳	۳۰	۱۶	۲۱	اتراکھاڑ	۱۴	۵۶	بجر	۱۵	۳۷	۲۶	۳۰						سرون (۱) کے سورج ۱۱ + ۱۱
بدھ	۲۴	شدی ۱	۱۰	۲۹	سرون	۱۱	۴۹	سدھ	۷	۴۸	۲۶	۳۳			کمبھ	۳۵	۴۷	
جمعرات	۲۵	۲ / ۳	۳ / ۵۸	۴۴ / ۴۹	دھنشٹا	۷	۴۶	بتی پات	۰	۶	۲۶	۳۶						
جمعہ	۲۶	۴	۵۴	۱۲	ستبکھا	۴	۱	پرکھ	۴۵	۹	۲۶	۴۰	[illegible]	[illegible]	مین	۴۶	۴۰	
ہفتہ	۲۷	۵	۵۹	۴۶	پوروابھادرپد	۰	۵۴	شیو	۳۸	۱۵	۲۶	۴۳						
اتوار	۲۸	۶	۴۶	۱۹	ریوتی	۵۶	۲۱	سدھ	۳۲	۲۳	۲۶	۴۶			میکھ	۵۶	۱۶	دھنشٹا (۱) کے منگل ۴۱ + ۲۲ ۔ بدھ پورب سے طلوع ہوا ۔ ۴۱ + ۲۲
پیر	۲۹	۷	۴۲	۴۶	اسونی	۵۵	۴۶	ساودھ	۲۷	۱۹	۲۶	۴۹		[illegible]				
منگل	۳۰	۸	۴۲	۳۳	بھرنی	۵۶	۵	سبھ	۲۲	۵۱	۲۶	۵۲	[illegible]					اتراکھاڑ (۱) کے سکر ۳۵ + ۰
بدھ	۳۱	۹	۴۲	۱۱	کرتکا	۵۷	۳۷	سوکل	۱۹	۱۶	۲۶	۵۴			برکھ	۱۱	۲۸	

تقویم کواکب متعلقہ جنوری ۱۹۱۷ء

نمبر	گرہ	راس	انس	کلا	بکلا	گت	بگت
نمبر (۱) بتاریخ ۱ جنوری وقت صبح	سورج	دھن	۲۴	۲۸	۴۴	۶۱	۳۰
	منگل	مکر	۷	۱۸	۹	۴۸	۵۰
	بدھ	مکر	۹	۹	۲۹	۱۰	۲۵
	برہسپت	میکھ	۴	۲۳	۳۰	۲	۲۸
	سکر	برچھیک	۲۰	۱۶	۱۰	۷۵	۳۲
	سنیچر	کرک	۷	۲۳	۵۹	۴	۵۶
	راہ	دھن	۲۶	۳۰	۵۲	۳	۱۱
نمبر (۲) بتاریخ ۱۱ جنوری وقت صبح	سورج	مکر	۲	۳۹	۳۹	۶۱	۱۳
	منگل	مکر	۱۳	۳۱	۱۳	۴۹	۲
	بدھ	مکر	۷	۲۱	۳	۳۹	۳۵
	برہسپت	میکھ	۴	۵۳	۴۸	۲	۸
	سکر	دھن	۸	۱۷	۵۶	۷۶	۳۲
	سنیچر	کرک	۷	۴۲	۳۱	۴	۵۶
	راہ	دھن	۲۶	۵۵	۲۷	۳	۱۱
نمبر (۳) بتاریخ ۲۱ جنوری وقت صبح	سورج	مکر	۹	۴۸	۱۸	۶۱	۸
	منگل	مکر	۱۸	۵۷	۵۱	۴۹	۲
	بدھ	مکر	۱	۳۰	۰	۴۹	۵۱
	برہسپت	میکھ	۵	۳۷	۱۰	۴	۸
	سکر	دھن	۱۶	۷	۲۹	۷۶	۲۲
	سنیچر	کرک	۷	۶	۴	۴	۵۶
	راہ	دھن	۲۶	۳۲	۱۰	۳	۱۱
نمبر (۴) بتاریخ ۳۰ جنوری وقت صبح	سورج	مکر	۱۲	۵۶	۱۶	۶۱	۲
	منگل	مکر	۲۸	۲۸	۲	۴۸	۵۰
	بدھ	دھن	۲۶	۲۴	۱۵	۲۰	۵۱
	برہسپت	میکھ	۶	۲۰	۳۴	۶	۸
	سکر	دھن	۲۵	۵۵	۲۱	۷۶	۳۲
	سنیچر	کرک	۵	۳۱	۴۰	۴	۵۶
	راہ	دھن	۲۶	۱۰	۲۴	۳	۱۱

آثار پھل و اسباب حفظ صحت

آثار پوس اور ماگھ

پوس میں غلہ کا نرخ ارزان رہے ماگھ میں کپڑے کا نرخ گران ہو جائے دودھ دہی گھی اگر (؟) اور شکر ارزان رہے۔ ممالک متحدہ میں حادثات کافی طور سے برسے۔ اور تجارت میں فائدہ رہے

پھل اور ترکاریاں

نارنگی۔ اناس۔ بیر۔ امرود۔ گاجر۔ شکرقند۔ مٹر۔ گوبھی۔ کرم کلہ۔ شلغم۔ مولی۔ میتھی۔ پیاز۔ باقلا۔ سیم۔ چقندر۔ لیموں۔ اشیاء جنوری میں دستیاب ہو سکتی ہیں۔

استعمال

علی الصبح ٹھنڈی باہر کی ہوا کھانا۔ بشرط ورزش گرم مکان میں بیٹھ کر تیل و ترناس کی بدن پر مالش کرنا غذا گرم کھانا۔ اگر میسر ہو تو بیضہ مرغ کی خوراک کرنا چاہیے چائے مع دودھ کے استعمال کرنا مفید ہے

پرہیز

بدن کا کچھ حصہ ڈھکا اور کچھ کھلا رکھنا۔ بہت سرد پانی پینا۔ زیادہ گرم پانی سے نہانا۔ حمام درجہ سے زیادہ گرم ہونا۔ گرم جگہ سے دفعۃً سرد جگہ میں آنا مضر صحت ہے۔

۲۸ یوم	فروری ۱۹۱۷ عیسوی	ربیع الآخر ۱۳۳۵ ہجری	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	جدول آفتاب: طلوع	جدول آفتاب: غروب	جدول ماہتاب	[illegible]	تاریخ سعد و نحس	[illegible]	یادداشت
پنجشنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
جمعہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	جیا اکادسی	
شنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	وفات حضرت آمنہ خاتون رض	
یکشنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس	گیارھویں شریف	
دوشنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
سہ شنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس		
چہارشنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	ماگھ اشنان ختم	
پنجشنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
جمعہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس		
شنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
یکشنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	کمبھ کی سنکرانت	
دوشنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
سہ شنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
چہارشنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس		
پنجشنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	کالا اشٹک۔ جانکی جنم	
جمعہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
شنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس		
یکشنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس	بجیا اکادشی	
دوشنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
سہ شنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	مہاشیوراتری	
چہارشنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس	ایش وڈنس ڈے	
پنجشنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
جمعہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	رویت ہلال	
شنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
یکشنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
دوشنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس	وفات خاتون جنت رض	
سہ شنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
چہارشنبہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس		

دن	فروری	ماگھ سمبت ۱۹۷۳ تتھ	گ	پ	نچھتر نام	گ	پ	جوگ نام	گ	پ	دنمان گ	پ	بھدرا ابتدا	انتہا	چندرمان راس	گ	پ	ستاروں کی چال
جمعرات	۱	۱۰	۴۳	۲۷	روہنی	۶۰	۰	برہم	۱۶	۵۰	۲۶	۵۸						بدھ مارگی ہوا ۱-۱ + ۳۲
جمعہ	۲	۱۱	۴۵	۵۶	روہنی	۰	۳۷	اندر	۱۵	۲	۲۷	۰	[illegible]	[illegible]	متھن	۳۲	۳۹	اترا کھاد (۲) پر مکر کے سکر ۱۱ + ۴۰ - اسونی (۳) کے برہسپت ۹ + ۴۷
ہفتہ	۳	۱۲	۴۹	۲۷	مرگسرا	۴	۴۳	بیدھرت	۱۴	۵۸	۲۷	۲						
اتوار	۴	۱۳	۵۳	۵۶	آردرا	۹	۵۰	وشکمبھ	۱۵	۱۱	۲۷	۵			کرک	۵۹	۱۲	
پیر	۵	۱۴	۵۹	۱	پونربس	۱۵	۴۴	پریت	۱۶	۶	۲۷	۸	[illegible]					دھنشٹا (۱) کے سورج ۱۶ + ۳۲ -
منگل	۶	۱۵	۶۰	۰	پکھ	۲۲	۵	ایوشمان	۱۷	۲۳	۲۷	۱۱		[illegible]				دھنشٹا (۲) پر کمبھ کے منگل ۱۵ + ۳۸ -
بدھ	۷	۱۵	۴	۱۶	اشلیکھا	۲۸	۳۲	سوبھاگ	۱۸	۳۹	۲۷	۱۵			سنگھ	۲۸	۳۲	اترا کھاد (۲) پر مکر کے بدھ ۲۰ + ۳ -
جمعرات	۸	پھاگن	۹	۲۲	مگھا	۳۴	۴۷	سوبھن	۱۹	۳۸	۲۷	۱۹						
جمعہ	۹	۲	۱۳	۵۷	پوربا پھالگنی	۴۰	۴	اتگنڈ	۲۰	۱۳	۲۷	۲۲	[illegible]		کنیا	۵۶	۱۲	
ہفتہ	۱۰	۳	۱۷	۴۴	اترا پھالگنی	۴۴	۳۷	سوکرم	۲۰	۱۱	۲۷	۲۷		[illegible]				سرون (۱) کے سکر ۸ + ۲۸ -
اتوار	۱۱	۴	۴	۱۸	ہست	۴۰	۵	دھرت	۱۹	۱۵	۲۷	۳۱						دھنشٹا (۳) پر کمبھ کے سورج ۵۰ + ۱۴ - جھورت ۳۰ -
پیر	۱۲	۵	۲۱	۴۱	چترا	۵۰	۹	سول	۱۷	۲۳	۲۷	۳۴			تلا	۱۹	۷	
منگل	۱۳	۶	۳۱	۴۷	سواتی	۵۱	۵	گنڈ	۱۴	۳۲	۲۷	۳۷	[illegible]					
بدھ	۱۴	۷	۳۰	۳۵	بساکھا	۵۰	۵۵	بردھ	۱۰	۳۰	۲۷	۴۰			برچھک	۲۵	۵۷	ست بکھا (۱) کے منگل ۴۹ + ۵۳
جمعرات	۱۵	۸	۱۸	۹	انرادھا	۴۹	۲۲	دھرو	۵	۵۳	۲۷	۴۴						سرون (۱) کے بدھ ۱۷ + ۲۴ -
جمعہ	۱۶	۹	۱۲	۴۸	جیشٹھا	۴۶	۲	بیاگھات	۰	۲۱	۲۷	۴۷	[illegible]		دھن	۴۷	۲	
ہفتہ	۱۷	۱۰	۱۰	۲۶	مول	۴۳	۵۸	ہرکھن	۴۶	۵۲	۲۷	۵۰		[illegible]				
اتوار	۱۸	۱۱ ۱۲	۳۰ ۲۳	۵۴	پوربا کھاد	۴۰	۲۹	سدھ	۳۹	۳۰	۲۷	۵۳			مکر	۵۴	۳۰	ست بکھا (۱) کے سورج ۲۵ + ۱۵ -
پیر	۱۹	۱۳	۵۴	۵	اترا کھاد	۳۶	۳۱	بتی پات	۳۲	۰	۲۷	۵۶	[illegible]					
منگل	۲۰	۱۴	۴۸	۱۵	سرون	۳۴	۲۹	بریان	۲۴	۷	۲۸	۰		[illegible]				دھنشٹا (۱) کے سکر ۴۹ + ۴۵ -
بدھ	۲۱	۳۰	۴۲	۳۰	دھنشٹا	۳۰	۲۶	پرگھ	۱۶	۲۶	۲۸	۴			کمبھ	۰	۲۸	
جمعرات	۲۲	چیت	۳۶	۰	ست بکھا	۲۷	۳۶	شیو	۸	۴۸	۲۸	۸						اسونی (۴) کے برہسپت ۲۶ + ۳۱ -
جمعہ	۲۳	۲	۳۱	۵۵	پوربا بھادرپد	۳۱	۱۳	سدھ	۱	۳۰	۲۸	۱۲			مین	۷	۳	
ہفتہ	۲۴	۳	۲۷	۴۴	اترا بھادرپد	۲۸	۲۷	سادھ	۴۸	۱۶	۲۸	۱۶	[illegible]					دھنشٹا (۱) کے بدھ ۲۵ + ۳۲ -
اتوار	۲۵	۴	۲۴	۳	ریوتی	۱۶	۲۴	سوبھ	۴۲	۵۱	۲۸	۲۰		[illegible]	میکھ	۱۶	۲۴	
پیر	۲۶	۵	۲۱	۲۳	اسونی	۱۵	۲۴	برہم	۳۸	۱۵	۲۸	۲۴						دھنشٹا (۳) پر کمبھ کے سکر ۱۲ + ۴۴ -
منگل	۲۷	۶	۲۰	۱۱	بھرنی	۱۵	۲۸	اندر	۳۴	۳۶	۲۸	۲۸			برکھ	۳۰	۵۷	
بدھ	۲۸	۷	۲۰	۲	کرتکا	۱۶	۵۶	بیدھرت	۳۱	۵۵	۲۸	۳۲	[illegible]	[illegible]				

تقویم کواکب متعلقہ ماہ فروری سنہ ۱۹۱۷ع

	گرہ	راس	انش	کلا	وکلا	گتی	کلا
نمبر (۵) بتاریخ ۷ فروری وقت صبح	سورج	مکر	۲۵	۴	۱۸	۶۰	۵۳
	منگل	کمبھ	۰	۳۶	۷	۴۸	۵۰
	بدھ	دھن	۲۹	۴۷	۱۹	۳۷	۵۶
	برہسپت	میکھ	۷	۲۵	۳۲	۸	۸
	سکر	مکر	۵	۵۹	۳۶	۷۶	۳۲
	سنیچر	کرک	۴	۵۳	۵۸	۳	۴۴
	۲/۱۵	دھن	۲۵	۴۵	۲۸	۳	۱۱
نمبر (۶) بتاریخ ۱۵ فروری وقت صبح	سورج	کمبھ	۳	۱۰	۵۷	۶۰	۴۱
	منگل	کمبھ	۶	۴۸	۱۴	۴۸	۵۰
	بدھ	مکر	۷	۱۴	۴۱	۷۴	۳۰
	برہسپت	میکھ	۸	۳۳	۶	۸	۸
	سکر	مکر	۱۴	۱	۴۸	۷۴	۹
	سنیچر	کرک	۳	۲۳	۲۰	۱	۴۴
	۲/۱۵	دھن	۲۵	۲۰	۱	۳	۱۱
نمبر (۷) بتاریخ ۲۱ فروری وقت صبح	سورج	کمبھ	۹	۴۳	۴۰	۴	۳۲
	منگل	کمبھ	۱۲	۲۶	۲۸	۴۸	۵۰
	بدھ	مکر	۱۵	۷	۲۴	۸۳	۵۶
	برہسپت	میکھ	۹	۳۱	۱۸	۹	۴۸
	سکر	مکر	۲۳	۳۳	۱۳	۷۴	۵۶
	سنیچر	کرک	۴	۱	۵۸	۲	۳۲
	۲/۱۵	دھن	۲۵	۰	۵۷	۳	۱۱
نمبر (۸) بتاریخ یکم مارچ وقت صبح	سورج	کمبھ	۱۷	۱۸	۱۵	۶۰	۱۹
	منگل	کمبھ	۱۴	۲۹	۱۱	۴۸	۳۸
	بدھ	مکر	۲۶	۲۴	۲۵	۹۹	۸
	برہسپت	میکھ	۱۰	۵۳	۴۲	۹	۴۸
	سکر	کمبھ	۳	۲۰	۵۶	۷۴	۵۶
	سنیچر	کرک	۳	۴۰	۹	۲	۳۲
	۲/۱۵	دھن	۲۴	۳۵	۳۰	۳	۱۱

آثار پھل اور اسباب حفظ صحت

آثار پھاگن

اس مہینے مین غلے کا نرخ ارزان رہے۔ کپڑے اور کرانے کی تجارت مین فائدہ رہے۔ چاندی سونا اور ایندھن گران ہو جائے۔ کپڑے کے تاجروں کو زیادہ فائدہ ہو۔ چمڑے کا نرخ تیز رہے۔

پھل اور ترکاریان

اکثر مطابق ماہ جنوری کے ہین۔ گوبھی سیم چقندر لیموں کمیاب۔ سبز مٹر بیل بکثرت شہتوت کی ابتدا یہ چیزین ماہ فروری کی ہین۔



استعمال

روغن بادام یا اُبٹنا بدن پر ملنا مکان، حجرے اور حمام ۶۵ درجے سے زیادہ گرم نہ کرنا ورزش کرنا بغیر دھوپ کی انگیٹھی جلانے کا استعمال کرنا مولی کے پتے نکلے ڈنٹھل کو جل مین جلا کر بیٹھے بدن پر اسکا عرق نچوڑنا مفید ہے۔

پرہیز

صبح یا شب کو ننگے بدن اُٹھکے دفعتہً پاخانہ جانا کسی ہوا کی جگہ یا شبنم سے بدن کو محفوظ نہ رکھنا گھر مین کوئلہ دہکا کر مکان بند کر لینا وغیرہ نہایت مضر ہے:۔

۳۱ یوم	تاریخ عیسوی ۱۹۱۷ء	تہوار	یادداشت
پنجشنبہ	۱	ہولکا اشٹک	
جمعہ	۲		
شنبہ	۳		
یکشنبہ	۴	آملکی اکادسی	
دوشنبہ	۵		
سہ شنبہ	۶		
چہارشنبہ	۷	عرس جمال بہار ح	
پنجشنبہ	۸	ہولی	
جمعہ	۹	دھولینڈی	
شنبہ	۱۰		
یکشنبہ	۱۱	عرس شاہ قطب المدار ح	
دوشنبہ	۱۲	گنیش چوتھ	
سہ شنبہ	۱۳	مین کی سنکرانت۔ رنگ پنچمی	
چہارشنبہ	۱۴		
پنجشنبہ	۱۵	سیتلا اشٹمی	
جمعہ	۱۶	درگا اشٹمی۔ آٹھوں کا میلہ	
شنبہ	۱۷		
یکشنبہ	۱۸		
دوشنبہ	۱۹	پاپ موچنی اکادشی	
سہ شنبہ	۲۰	مہا بارنی	
چہارشنبہ	۲۱	نوروز عالم افروز	
پنجشنبہ	۲۲		
جمعہ	۲۳		
شنبہ	۲۴	رویت ہلال صبح [illegible] ہجری	
یکشنبہ	۲۵	گنگور تیج	
دوشنبہ	۲۶		
سہ شنبہ	۲۷	سرستی پنچمی	
چہارشنبہ	۲۸		
پنجشنبہ	۲۹		
جمعہ	۳۰	درگا اشٹمی	
شنبہ	۳۱	رام نومی	

تقویم کواکب متعلقہ ماہ مارچ سنہ ۱۹۱۶ء

ستارون کی چال

دن	تاریخ	نچھتر	جوگ	ستارون کی چال
جمعرات	۱	روہنی	بسکمبھ	
جمعہ	۲	مرگسرا	پریت	دھنشٹا (۳) پر کمبھ کے بدھ ۴۴ + ۹
ہفتہ	۳	آردرا	ایوکھمان	ست بکھا (۱) کے سکر ۳۲ + ۵۰ - بدھ پورب مین غروب ہوا ۴۴ + ۴۹
اتوار	۴	پونربس	سوبھاگ	[illegible]
پیر	۵	پوکھ	شوبھن	
منگل	۶	اشلیکھا	اتگنڈ	ست بکھا (۱) کے بدھ ۳۳ + ۳۰ -
بدھ	۷	مگھا	سوکرم	
جمعرات	۸	پوربا پھالگنی	دھرت	پونربس (۴) کے بکری سنیچر ۵۵ + ۴۰
جمعہ	۹	اترا پھالگنی	سول	
ہفتہ	۱۰	اترا پھالگنی	گنڈ	
اتوار	۱۱	ہست	بردھ	
پیر	۱۲	چترا	دھرو	[illegible] ۱۵ + ۵۵ + ۷ -
منگل	۱۳	سواتی	بیاگھات	پوربا بھادرپد (۴) پر مین کے سورج ۳۹ + ۴۶ مہورت ۵۴ سکر پورب
بدھ	۱۴	بساکھا	ہرکھن	پوربا بھادرپد (۱) کے سکر ۱۴ + ۲۳ - پوربا بھادرپد (۱) کے بدھ ۱ + ۸
جمعرات	۱۵	انرادھا	بجر	
جمعہ	۱۶	جیشٹھا	سدھ	پوربا بھادرپد (۴) پر مین کے منگل ۵۶ + ۳۴ -
ہفتہ	۱۷	مول	بتی پات	اترا بھادرپد (۱) کے سورج ۰ + ۲۵ -
اتوار	۱۸	پورباکھاڈ	پرکھ	اترا بھادرپد (۱) کے بدھ ۴۳ + ۱۳ -
پیر	۱۹	سرون	شیو	پوربا بھادرپد (۴) پر مین کے بدھ ۲۴ + ۸ -
منگل	۲۰	دھنشٹا	سدھ	
بدھ	۲۱	ست بھکا	سادھ	اترا بھادرپد (۱) کے منگل ۲۲ + ۲۰ -
جمعرات	۲۲	پوربا بھادرپد	سبھ	پوربا بھادرپد (۴) پر مین کے سکر ۱۴ + ۳۴ -
جمعہ	۲۳	اترا بھادرپد	سوکل	پوربا بھادرپد (۳) کے راہ پونربس (۲) کے کیت ۹ + ۲۳ -
ہفتہ	۲۴	ریوتی	برہم	اترا بھادرپد (۱) کے سکر ۵ + ۵۵ -
اتوار	۲۵	اسونی	اندر	
پیر	۲۶	بھرنی	بیدھرت	بھرنی (۲) کے برہسپت ۱۰ + ۱۵ -
منگل	۲۷	کرتکا	پریت	
بدھ	۲۸	روہنی	ایوکھمان	ریوتی (۱) کے بدھ ۳۳ + ۴۰ -
جمعرات	۲۹	مرگسرا	سوبھاگ	
جمعہ	۳۰	آردرا	شوبھن	ریوتی (۱) کے سورج ۲۷ + ۲ -
ہفتہ	۳۱	پونربس	اتگنڈ	سنیچر مارگی ہوا ۳۷ + ۱۸ -

اثار پھل و اسباب حفظ صحت

اثار چیت

موسم نہایت عمدہ نظر آئے فصل ربیع کی بابت زیادہ امیدین پیدا ہون کہین کہین خفیف اولے پڑین غلے کی تجارت مین فائدہ اور کرانے کی تجارت مین نقصان ہے۔ دودھ دہی گھی گران ہے

پھل اور ترکاریان

بموجب ماہ فروری۔ بیر بقلت۔ شہتوت بکثرت مل سکتے ہین۔ آخر ماہ تک ککڑیان بھی دستیاب ہو سکتی ہین۔

استعمال

علی الصباح اٹھنا۔ خفیف ورزش کرنا فصل کی ترکاریون کا استعمال کرنا۔ گرم کھانا کھانا۔ موٹا کپڑا بغیر روئی کا پہننا مفید ہے۔

پرہیز

نیا گیہون کھانا۔ آفتاب نکلنے کے بعد دوپہر دن کو سونا۔ بہت باریک کپڑے کا پہننا اصطبل مین جہان مویشی رہتے ہون سونا مضر ہے۔

روز	اپریل ۱۹۱۷ عیسوی	جمادی الاولیٰ و الآخری ۱۳۳۵ ہجری	[illegible]	چیت ۱۳۲۴ فصلی	[illegible]	[illegible]	[illegible]	جدول آفتاب: طلوع	جدول آفتاب: غروب	[illegible]	یادداشت
یکشنبہ	۱	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	وفات صدیق اکبرؓ
دوشنبہ	۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	
سہ شنبہ	۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	کامدا اکادسی
چہارشنبہ	۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	نحس	
پنجشنبہ	۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	نحس	عرس حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ
جمعہ	۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	نحس	گڈ فرائیڈے
شنبہ	۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	
یکشنبہ	۸	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	ایسٹر ڈے
دوشنبہ	۹	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	نحس	
سہ شنبہ	۱۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	
چہارشنبہ	۱۱	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	گنیش چوتھ
پنجشنبہ	۱۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	
جمعہ	۱۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	بیساکھی سنکرانت۔ ولادت خاتون جنت [illegible]
شنبہ	۱۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	سنہ ۱۳۲۴ بنگلہ
یکشنبہ	۱۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	نحس	
دوشنبہ	۱۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	نحس	
سہ شنبہ	۱۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	بروتھنی اکادسی
چہارشنبہ	۱۸	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	
پنجشنبہ	۱۹	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	
جمعہ	۲۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	
شنبہ	۲۱	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	ستواہی اماوس
یکشنبہ	۲۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	رویت ہلال مشکوک
دوشنبہ	۲۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	
سہ شنبہ	۲۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	ولادت امام علی النقیؑ
چہارشنبہ	۲۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	نحس	وفات امام علی النقیؑ
پنجشنبہ	۲۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	
جمعہ	۲۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	نحس	
شنبہ	۲۸	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	گنگا ستمی
یکشنبہ	۲۹	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	درگا اشٹمی۔
دوشنبہ	۳۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سعد	

ستارون کی چال

دن	اپریل	چیت سمبت ۱۹۷۲ تتھ	گ	پ	نچھتر نام	گ	پ	جوگ نام	گ	پ	دنمان گ	پ	بھدرا ابتدا	انتہا	چندرمان راس	گ	پ	ستارون کی چال
اتوار	۱	۹	۷	۵۰	پوکھ	۵۹	۵	سوکرم	۴۷	۴۹	۳۰	۴۴						
پیر	۲	۱۰	۱۲	۴۵	اشلیکھا	۶۰	۰	دھرت	۴۹	۷	۳۰	۴۸	[illegible]					
منگل	۳	۱۱	۱۷	۴۵	اشلیکھا	۵	۲۷	شول	۴۹	۵۹	۳۰	۵۲		[illegible]	سنگھ	۵	۲۷	
بدھ	۴	۱۲	۲۲	۴۱	مگھا	۲۱	۴۷	گنڈ	۵۱	۳۶	۳۰	۵۶						ریوتی (۱) کے سکر ۳ + ۶ - اسونی (۱) پر میکھ کے بدھ ۴۳ + ۳۹ -
جمعرات	۵	۱۲	۲۷	۱۲	پوربا پھالگنی	۱۷	۳۳	بردھ	۵۲	۹	۳۱	۰			کنیا	۳۲	۴۹	بدھ پچھم سے طلوع ہوا ۳ + ۳۸ -
جمعہ	۶	۱۴	۳۰	۳۶	اترا پھالگنی	۲۲	۳۵	دھرو	۵۱	۵۷	۳۱	۳	[illegible]					
ہفتہ	۷	۱۵	۳۲	۵۶	ہست	۲۶	۳۱	بیاگھات	۵۱	۷	۳۱	۵		[illegible]	تلا	۵۷	۵۰	ریوتی (۱) کے منگل ۳۱ + ۶ -
اتوار	۸	بیساکھ	۳۴	۲	چترا	۲۹	۸	ہرکھن	۴۸	۲۳	۳۱	۸						
پیر	۹	۲	۳۲	۵۲	سواتی	۳۰	۴۶	بجر	۴۵	۱۴	۳۱	۱۰						بھرنی (۳) کے برہسپت ۱۶ + ۲۰ -
منگل	۱۰	۳	۳۲	۲۵	بساکھا	۳۱	۴	سدھ	۴۱	۳	۳۱	۱۲	[illegible]	[illegible]	برچھیک	۱۶	۰	پوکھ (۱) کے سنیچر ۲۲ + ۳۰ -
بدھ	۱۱	۴	۲۹	۴۵	انرادھا	۳۰	۷	بتی پات	۳۶	۳	۳۱	۱۶						
جمعرات	۱۲	۵	۲۶	۶	جیسٹھا	۲۸	۱۱	بریان	۳۰	۲۰	۳۱	۲۰			دھن	۲۸	۱۱	بھرنی (۱) کے بدھ ۲ + ۷ -
جمعہ	۱۳	۶	۵۱	۳۵	مول	۲۵	۲۷	پرکھ	۲۳	۴۷	۳۱	۲۲	[illegible]	[illegible]				اسونی (۱) پر میکھ کے سورج ۱ + ۴۰ مہورت ۳۰ -
ہفتہ	۱۴	۷	۱۶	۱۹	پوربا کھاڈ	۲۲	۴	سیو	۱۷	۲	۳۱	۲۸			مکر	۳۶	۱۱	
اتوار	۱۵	۸	۱۰	۳۵	اترا کھاڈ	۱۸	۳۰	سدھ	۹	۵۰	۳۱	۳۲						اسونی (۱) پر میکھ کے سکر ۱۸ + ۱۷ -
پیر	۱۶	۹ / ۱۰	۴ / ۵۴	۴۵ / ۰	سردن	۱۴	۲۹	سادھ	۲	۱۱	۳۱	۳۶	[illegible]	[illegible]	کمبھ	۴۲	۲۶	
منگل	۱۷	۱۱	۵۲	۴۹	دھنشٹا	۱۰	۲۲	سوکل	۴۶	۵۶	۳۱	۴۰						
بدھ	۱۸	۱۲	۴۷	۱۵	ست بکھا	۶	۲۵	برہم	۳۹	۵۸	۳۱	۴۴			مین	۴۸	۴۸	
جمعرات	۱۹	۱۳	۴۲	۲	پوربا بھادر	۲	۵۵	اینڈر	۳۲	۲۹	۳۱	۴۸	[illegible]					
جمعہ	۲۰	۱۴	۳۷	۲۸	ریوتی	۵۷	۵۱	بیدھرت	۲۶	۰	۳۱	۵۲		[illegible]	میکھ	۵۹	۲۱	
ہفتہ	۲۱	۳۰	۳۴	۲	اسونی	۵۵	۵۴	بسکمبھ	۲۰	۷	۳۱	۵۶						
اتوار	۲۲	سدی ۱	۲۱	۲۲	بھرنی	۵۵	۳۱	پریت	۱۵	۱۳	۳۲	۰						کرتکا (۱) کے بدھ ۱۴ + ۴۰ -
پیر	۲۳	۲	۲۵	۵۲	کرتکا	۵۶	۲۵	ایوکھمان	۱۱	۸	۳۲	۳			برکھ	۱۰	۴۴	۳۳ + ۳۴
منگل	۲۴	۳	۲۹	۳۹	روہنی	۵۸	۲۴	سوبھاگ	۸	۰	۳۲	۶						کرتکا (۲) پر برکھ کے بدھ ۳۴ + ۲۴ - اسونی (۱) پر میکھ کے منگل
بدھ	۲۵	۴	۳۰	۴۳	مرگسرا	۶۰	۰	شوبھن	۵	۵۲	۳۲	۹	[illegible]	[illegible]	متھن	۳۰	۳	بھرنی (۱) کے سکر ۵۰ + ۱۶ -
جمعرات	۲۶	۵	۲۲	۵	مرگسرا	۱	۴۵	اتگنڈ	۴	۴۶	۳۲	۱۲						بھرنی (۱) کے سورج ۴۱ + ۲۶ -
جمعہ	۲۷	۶	۳۶	۴۵	آردرا	۶	۹	سوکرم	۴	۲۳	۳۲	۱۴		۰	کرک	۵۵	۱۳	
ہفتہ	۲۸	۷	۴۱	۵	پونربس	۱۱	۲۳	دھرت	۵	۹	۳۲	۱۹	[illegible]					بھرنی (۴) کے برہسپت ۲۶ + ۳۱ -
اتوار	۲۹	۸	۴۵	۵۳	پکھ	۱۷	۴۱	شول	۶	۲۰	۳۲	۲۲		[illegible]				
پیر	۳۰	۹	۵۰	۵۵	اشلیکھا	۲۴	۹	گنڈ	۷	۴۳	۳۲	۲۵			سنگھ	۲۴	۹	

تقویم کواکب متعلقہ ماہ اپریل سنہ ۱۹۱۶ء

نمبر (۱۳) بتاریخ ۸ اپریل وقت صبح

گرہ	راس	انش	کلا	بکلا	گتی کلا	گتی بکلا
سورج	مین	۲۴	۵	۲۱	۵۸	۵۸
منگل	مین	۱۶	۲۴	۳۹	۴۸	۳۸
بدھ	میکھ	۳	۵۰	۴۵	۱۰۱	۳۲
برہسپت	میکھ	۱۸	۲۲	۱۰	۲	۲۶
سکر	مین	۱۹	۳۹	۳۶	۴۷	۵۲
سنیچر	کرک	۳	۱۵	۲۷	۰	۴۰
راہو	دھن	۲۲	۳۶	۵۱	۳	۱۱

نمبر (۱۴) بتاریخ ۱۵ اپریل وقت صبح

گرہ	راس	انش	کلا	بکلا	گتی کلا	گتی بکلا
سورج	میکھ	۱	۵۵	۴۳	۵۸	۴۰
منگل	مین	۲۲	۲۵	۳۸	۴۸	۳۸
بدھ	میکھ	۱۶	۲۵	۲۷	۸۷	۵۶
برہسپت	میکھ	۲۰	۳	۱۶	۱۲	۴۶
سکر	مین	۲۹	۳۷	۱۱	۴۷	۵۳
سنیچر	کرک	۳	۳۰	۲۹	۲	۱۶
راہو	دھن	۲۲	۱۲	۲۴	۳	۱۱

نمبر (۱۵) بتاریخ ۲۲ اپریل وقت صبح

گرہ	راس	انش	کلا	بکلا	گتی کلا	گتی بکلا
سورج	میکھ	۷	۴۶	۵۲	۵۸	۲۴
منگل	مین	۲۶	۱	۴۵	۴۶	۵۰
بدھ	میکھ	۲۵	۱۲	۸	۵۹	۳۲
برہسپت	میکھ	۲۱	۳۳	۵۳	۱۲	۴۶
سکر	میکھ	۷	۵	۱۳	۴۷	۳۲
سنیچر	کرک	۳	۴۴	۱۰	۲	۱۶
راہو	دھن	۲۱	۵۳	۱۹	۳	۱۱

نمبر (۱۶) بتاریخ ۲۹ اپریل وقت صبح

گرہ	راس	انش	کلا	بکلا	گتی کلا	گتی بکلا
سورج	میکھ	۱۵	۲۳	۶	۵۸	۱۰
منگل	میکھ	۳	۸	۲۵	۴۸	۲
بدھ	میکھ	۳	۳	۱۹	۴۳	۲۲
برہسپت	میکھ	۲۳	۲۶	۴۱	۱۳	۴۶
سکر	میکھ	۱۶	۶	۳۹	۴۷	۵۳
سنیچر	کرک	۴	۷	۳۶	۳	۲۰
راہو	دھن	۲۱	۲۶	۵۳	۳	۱۱

آثار پھل اور اسباب حفظ صحت

آثار بیساکھ

اس مہینے مین جوار باجرہ مکا اور چاول کا نرخ اوسط درجے پر رہے - اور بیساکھ گیہون اور ازان ہونے کی امید ہے - گھی افراط اور گڑ شکر ارزان رہے - اور سیسہ کی تجارت مین فائدہ رہے -

پھل اور ترکاریان

اکثر لوچ، سیب، مالٹا، ککڑیان، کدو، شیرین، فالسا، آڑو، کٹہل، خربوزہ، تربوز بقلت

اور انبہ خام بھی دستیاب ہوسکتے ہین

استعمال

فصد اجلاب لینا زیادہ رات گئے کھانا کھانا بعد غذا کے پانی پینا موٹے کپڑے پہننا مکان مین نیا پلاستر یا قلعی کرانا رات رہے سفر کرنا مفید ہے -

پرہیز

ننگے بدن سونا دوپہر کو زیادہ سونا سوکر اٹھنے یا صحبت کے بعد ہی نہانا نہایت مضر ہے -

ایام	مئی ۱۹۱۷ عیسوی	رجب ۱۳۳۵ ہجری	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	جدول آفتاب طلوع	جدول آفتاب غروب	جدول ماہتاب	اوقات رجال	تاریخ سعد و نحس	مشہور ایام	یادداشت
سہ شنبہ	۱	۹	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
چہار شنبہ	۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	ولادت و وفات امام محمد تقی	
پنجشنبہ	۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس	ولادت حیدر کرار رضا موتی اکا دکی۔	
جمعہ	۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس		
شنبہ	۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
یکشنبہ	۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	نرسنگھ چودس	
دوشنبہ	۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس	وفات امام جعفر صادق	
سہ شنبہ	۸	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس		
چہار شنبہ	۹	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	عرس خواجہ کوہ مولا	
پنجشنبہ	۱۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	گنیش چوتھ	
جمعہ	۱۱	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
شنبہ	۱۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
یکشنبہ	۱۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس	برکھ کی سنکرانت۔ عرس سید سالار مسعود غازی	
دوشنبہ	۱۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
سہ شنبہ	۱۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس	جہابیر کا میلہ	
چہار شنبہ	۱۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
پنجشنبہ	۱۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس	وفات امام موسی کاظم۔ ابرا اکادسی۔ سید بدھ کالی	
جمعہ	۱۸	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	شب معراج	
شنبہ	۱۹	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
یکشنبہ	۲۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
دوشنبہ	۲۱	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	برکھا سوم سوواری اماوس	
سہ شنبہ	۲۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	رویت ہلال	
چہار شنبہ	۲۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
پنجشنبہ	۲۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	وکٹوریہ ڈے	
جمعہ	۲۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	ولادت امام حسین	
شنبہ	۲۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
یکشنبہ	۲۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	ولادت امام زین العابدین	
دوشنبہ	۲۸	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
سہ شنبہ	۲۹	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	درگا اشٹمی	
چہار شنبہ	۳۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
پنجشنبہ	۳۱	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	دسہرہ۔ گنگا جنم	

ستاروں کی چال

دن	مئی	بیساکھ سمبت ۱۹۷۴ تتھ	گ	پ	نچھتر نام	گ	پ	جوگ نام	گ	پ	دنمان گ	پ	بھدرا ابتدا	انتہا	چندرمان راس	گ	پ	ستاروں کی چال
منگل	۱	۱۰	۵۵	۴۲	مگھا	۳۰	۲۱	بردھ	۹	۳۰	۳۲	۲۹						
بدھ	۲	۱۱	۶۰	۰	پوربا پھالگنی	۳۶	۳۰	دھرو	۱۰	۲۵	۳۲	۳۳	[illegible]		کنیا	۵۲	۴۸	
جمعرات	۳	۱۱	۰	۵	اترا پھالگنی	۴۲	۴۰	بیاگھات	۱۱	۱۰	۳۲	۳۵		[illegible]				
جمعہ	۴	۱۲	۳	۲۹	ہست	۴۵	۵۴	ہرکھن	۱۱	۱۱	۳۲	۳۸						
ہفتہ	۵	۱۳	۵	۴۳	چترا	۴۸	۵۹	بجر	۱۰	۱۵	۳۲	۴۳			تلا	۱۶	۲۷	
اتوار	۶	۱۴	۶	۵۴	سواتی	۵۰	۴۵	سدھ	۸	۲۳	۳۲	۴۵	[illegible]	[illegible]				بدھ بکری ہوا ۲۲+۱۵- کرتکا (۱) کے سکر ۴۵+۳۲-
پیر	۷	۱۵	۶	۳۰	بساکھا	۵۱	۱۹	بتی پات	۵	۴۹	۳۲	۴۷			برچھک	۳۶	۱۰	
منگل	۸	[illegible]	۵	۰	انرادھا	۵۰	۴۵	بریان	۱	۴۸	۳۲	۴۹						
بدھ	۹	۲ / ۳	۳ / ۵۶	۱۹ / ۲۲	جیسٹھا	۴۸	۵۶	شیو	۵۱	۳۱	۳۲	۵۱	[illegible]	[illegible]	دھن	۴۸	۵۶	کرتکا (۲) پر برکھ کے سکر ۲۶+۳۷- بدھ پچھم سے طلوع ہوا ۴۲+۱-
جمعرات	۱۰	۴	۵۲	۰	مول	۴۶	۲۷	سدھ	۴۵	۱۶	۳۲	۵۴						کرتکا (۱) کے سورج ۲۸+۵۲-
جمعہ	۱۱	۵	۴۸	۱۴	پورباکھاد	۴۳	۱۱	سادھ	۳۸	۲۹	۳۲	۵۰			مکر	۵۷	۱۶	
ہفتہ	۱۲	۶	۴۳	۵۱	اتراکھاد	۳۹	۳۱	سبھ	۳۱	۱۹	۳۲	۱	[illegible]					کرتکا (۱) کے برہسپت ۱+۵۴- بھرنی (۱) کے منگل ۲۳+۱۹-
اتوار	۱۳	۷	۳۶	۵۴	سرون	۳۵	۲۶	شوکل	۲۳	۴۹	۳۳	۴		[illegible]				کرتکا (۲) پر برکھ کے سورج ۵۸+۱۵- مہورت ۳۰-
پیر	۱۴	۸	۳۰	۵۱	دھنشٹا	۳۱	۲۷	براہم	۱۶	۷	۳۳	۷			کمبھ	۲	۲۷	
منگل	۱۵	۹	۲۴	۵۶	ست بکھا	۲۷	۳۰	ایندر	۸	۴۰	۳۳	۱۰	[illegible]					پوکھ (۲) کے سنیچر ۱۶+۵۶-
بدھ	۱۶	۱۰	۱۹	۱۳	پوربا بھادرپد	۲۳	۳۷	بیدھرت	۱	۱۵	۳۳	۱۳		[illegible]	مین	۹	۳۳	
جمعرات	۱۷	۱۱	۱۴	۰	اترا بھادرپد	۲۰	۴۵	پریت	۴۷	۴۲	۳۳	۱۷						روہنی (۱) کے سکر ۳۰-۴۵-
جمعہ	۱۸	۱۲	۹	۲۵	ریوتی	۱۷	۵۴	ایوکھان	۴۱	۴۹	۳۳	۲۰			میکھ	۱۷	۵۴	
ہفتہ	۱۹	۱۳	۵	۴۵	اسونی	۱۶	۱۶	سوبھاگ	۳۶	۴۴	۳۳	۲۳	[illegible]	[illegible]				
اتوار	۲۰	۱۴	۲	۱	بھرنی	۱۵	۳۷	شوبھن	۳۲	۳۰	۳۳	۲۶			برکھ	۳۰	۴۶	کرتکا (۱) پر میکھ کے بکری بدھ ۸+۴۱-
پیر	۲۱	۳۰	۱	۳۰	کرتکا	۱۶	۱۱	اتگنڈ	۲۵	۱۳	۳۳	۲۹						
منگل	۲۲	اماوس	۱	۱۶	روہنی	۱۷	۵۳	سوکرم	۲۶	۵۴	۳۳	۳۲			متھن	۴۹	۲۲	پورباکھاد (۲) کے راہ- آردرا (۴) کے کیت ۴۲+۴۰
بدھ	۲۳	۲	۲	۸	مرگسرا	۲۰	۵۱	دھرت	۲۵	۳۸	۳۳	۳۵						
جمعرات	۲۴	۳	۴	۲۰	آردرا	۲۵	۱۱	شول	۲۵	۱۷	۳۳	۳۷	[illegible]					روہنی (۱) کے سورج ۲۲+۲۸-
جمعہ	۲۵	۴	۷	۴۵	پورنبس	۳۰	۱۹	گنڈ	۲۵	۲۴	۳۳	۳۹		[illegible]	کرک	۱۴	۲	کرتکا (۲) پر برکھ کے برہسپت ۳۳+۸- بدھ پورب سے طلوع ہوا ۴۳+۲۵
ہفتہ	۲۶	۵	۱۲	۳	پوکھ	۳۶	۱۷	بردھ	۲۶	۵۳	۳۳	۴۰						
اتوار	۲۷	۶	۱۶	۴۷	اشلیکھا	۴۲	۳۹	دھرو	۲۸	۱۹	۳۳	۴۱			سنگھ	۴۲	۳۹	منگل پورب سے طلوع ہوا ۴۶+۲-
پیر	۲۸	۷	۲۱	۴۳	مگھا	۴۹	۷	بیاگھات	۲۹	۵۳	۳۳	۴۳	[illegible]	[illegible]				برہسپت پورب سے طلوع ہوا ۲+۳۱- مرگسرا (۱) کے سکر ۱۶+۰-
منگل	۲۹	۸	۲۶	۲۸	پوربا پھالگنی	۵۵	۱۲	ہرکھن	۳۱	۱۱	۳۳	۴۴						بدھ مارگی ہوا ۳+۲۵-
بدھ	۳۰	۹	۳۰	۴۳	اترا پھالگنی	۶۰	۰	بجر	۳۲	۷	۳۳	۴۵			کنیا	۱۱	۳۱	سکر پچھم سے طلوع ہوا ۵- کرتکا (۱) کے منگل ۱۴+۳-
جمعرات	۳۱	۱۰	۳۴	۳	اترا پھالگنی	۰	۲۹	سدھ	۲۲	۲۱	۳۳	۴۷						

تقویم کواکب متعلقہ ماہ مئی سنہ ۱۹۱۷ء

وقت	گرہ	راس	انش	کلا	بکلا	گت	بگت
نمبر (۱۷) بتاریخ ۷ مئی وقت صبح	سورج	میکھ	۲۲	۱۷	۷	۵۷	۵۵
	منگل	میکھ	۹	۱۶	۴	۳۸	۲
	بدھ	برکھ	۷	۴۷	۴۶	۱۵	۵۶
	برہسپت	میکھ	۲۵	۲۳	۱۳	۱۳	۳۶
	سکر	میکھ	۲۶	۵۸	۵۸	۴۸	۲۶
	سنیچر	کرک	۴	۳۵	۲۲	۳	۲۸
	[illegible]	دھن	۲۱	۲	۲۷	۳	۱۱
نمبر (۱۸) بتاریخ ۱۴ مئی وقت صبح	سورج	برکھ	۰	۱	۲۹	۵۷	۴۳
	منگل	میکھ	۱۴	۳۴	۳۰	۴۶	۱۴
	بدھ	برکھ	۵	۲۲	۳۴	۳۰	۱
	برہسپت	میکھ	۲۶	۷	۸	۱۳	۳۶
	سکر	برکھ	۵	۳۸	۵۱	۴۸	۲۹
	سنیچر	کرک	۵	۴	۸	۴	۴۰
	[illegible]	دھن	۲۰	۳۰	۱۱	۳	۱۱
نمبر (۱۹) بتاریخ ۲۱ مئی وقت صبح	سورج	برکھ	۶	۴۴	۲۳	۵۷	۳۲
	منگل	میکھ	۱۹	۴۶	۳۶	۴۶	۱۴
	بدھ	برکھ	۲۹	۲۵	۳۹	۳۹	۵۸
	برہسپت	میکھ	۲۰	۵۰	۰	۱۳	۴۶
	سکر	برکھ	۱۴	۱۹	۴۶	۴۸	۲۹
	سنیچر	کرک	۵	۳۷	۰	۴	۴
	[illegible]	دھن	۳۰	۱۶	۵۵	۳	۱۱
نمبر (۲۰) بتاریخ ۲۹ مئی وقت صبح	سورج	برکھ	۱۴	۲۳	۲۹	۵۷	۲۲
	منگل	میکھ	۲۵	۳۲	۵۶	۳۶	۱۴
	بدھ	میکھ	۲۶	۲۶	۲	۱۵	۵۶
	برہسپت	میکھ	۰	۴۷	۲۸	۱۳	۳۶
	سکر	برکھ	۲۴	۱۳	۳۰	۴۸	۵
	سنیچر	کرک	۶	۱۶	۴۹	۵	۵۲
	[illegible]	دھن	۱۹	۵۲	۲۹	۳	۱۱

آثار پھل اور اسباب حفظ صحت

آثار جیٹھ

کرانہ گران رہے۔ غلہ ایندھن اور کوئلہ بافراط مہیا ہو۔ ماریپٹ اور دیگر جرائم بیہودہ مین عدالتون کا وقت زیادہ ضائع ہو کپڑے کا نرخ ارزان رہے۔

پھل اور ترکاریان

انگور لیموں بقلت آلو خربزہ تربوز بکثرت املی اور شہتوت کی ابتدا انبہ پختہ کم اور باقی مثل اپریل

استعمال

تڑکے اٹھنا۔ آگ سے علیحدگی۔ ترش اشیا اور فصلی فواکہات کھانا۔ دوپہر کو بعد غذا سونا آفتاب کے طلوع سے پیشتر نہانا مفید ہے۔

پرہیز

باسی غذا کھانا۔ قبل غذا پانی پینا زیادہ استعمال برف باریک کپڑے پہننا۔ دھوپ کے وقت مہین ٹوپی پہننا وغیرہ مضر ہے۔

ایام	جون ۱۹۱۷ عیسوی	شعبان ۱۳۳۵ ہجری	جیٹھ/اساڑھ	جیٹھ/اساڑھ	جیٹھ/اساڑھ	جیٹھ/اساڑھ	جیٹھ/اساڑھ	طلوع آفتاب	غروب آفتاب	جدول منازل ماہ	ادراد و ہجری	تاریخ سعد و نحس	تہوار	یادداشت
جمعہ	۱	۱۰	۲۷	۲۵	۱۸	۱۹	۱۱	۵ ۱۲	۶ ۴۲			سعد	نرجلا اکادسی	
شنبہ	۲	۱۱	۲۸	۲۶	۱۹	۲۰	۱۲	۱۲	۴۲			سعد		
یکشنبہ	۳	۱۲	۲۹	۲۷	۲۰	۲۱	۱۳	۱۲	۴۲			سعد	باون ویں سالگرہ حضور قیصر ہند	
دوشنبہ	۴	۱۳	۳۰	۲۸	۲۱	۲۲	۱۴	۱۲	۴۲			نحس		
سہ شنبہ	۵	۱۴	۳۱	۲۹	۲۲	۲۳	۱۵	۱۲	۴۲			نحس	شب برات (لیلۃ القدر)	
چہارشنبہ	۶	۱۵	اوّل اساڑھ	اساڑھ ۱	۲۳	۲۴	اساڑھ ۱	۱۱	۴۳			سعد		
پنجشنبہ	۷	۱۶	۲	۲	۲۴	۲۵	۲	۱۱	۴۳			نحس		
جمعہ	۸	۱۷	۳	۳	۲۵	۲۶	۳	۱۱	۴۳			سعد		
شنبہ	۹	۱۸	۴	۴	۲۶	۲۷	۴	۱۱	۴۳			سعد	گنیش چوتھ	
یکشنبہ	۱۰	۱۹	۵	۵	۲۷	۲۸	۵	۱۱	۴۳			سعد	عرس بندگی شاہ حسین ح	
دوشنبہ	۱۱	۲۰	۶	۶	۲۸	۲۹	۶	۱۰	۵۰			نحس		
سہ شنبہ	۱۲	۲۱	۷	۷	۲۹	۳۰	۷	۱۰	۵۰			نحس		
چہارشنبہ	۱۳	۲۲	۸	۸	۳۰	۳۱	۹	۱۰	۵۰			سعد		
پنجشنبہ	۱۴	۲۳	۹	۹	۳۱	۳۲	۱۰	۱۰	۵۰			سعد	متھن کی سنکرانت	
جمعہ	۱۵	۲۴	۱۰	۱۰	اساڑھ ۱	۲	۱۱	۱۰	۵۰			نحس	جوگنی اکادسی	
شنبہ	۱۶	۲۵	۱۱	۱۱	۲	۳	۱۲	۹	۵۱			نحس		
یکشنبہ	۱۷	۲۶	۱۲	۱۲	۳	۴	۱۳	۹	۵۱			نحس		
دوشنبہ	۱۸	۲۷	۱۳	۱۳	۴	۵	۱۴	۹	۵۱			سعد		
سہ شنبہ	۱۹	۲۸	۱۴	۱۴	۵	۶	۱۵	۹	۵۱			سعد	ہریالی ۳۰	
چہارشنبہ	۲۰	۲۹	۱۵	۱۵	۶	۷	اساڑھ ۱	۹	۵۱			سعد	رویت ہلال مشکوک آغاز تراویح۔ رتھ جاترا	
پنجشنبہ	۲۱	رمضان	۱۶	۱۶	۷	۸	۲	۹	۵۱			سعد	آغاز صیام	
جمعہ	۲۲	۲	۱۷	۱۷	۸	۹	۳	۹	۵۱			سعد		
شنبہ	۲۳	۳	۱۸	۱۸	۹	۱۰	۴	۹	۵۱			نحس		
یکشنبہ	۲۴	۴	۱۹	۱۹	۱۰	۱۱	۵	۹	۵۱			سعد		
دوشنبہ	۲۵	۵	۲۰	۲۰	۱۱	۱۲	۶	۱۰	۵۰			نحس		
سہ شنبہ	۲۶	۶	۲۱	۲۱	۱۲	۱۳	۷	۱۰	۵۰			سعد		
چہارشنبہ	۲۷	۷	۲۲	۲۲	۱۳	۱۴	۸	۱۰	۵۰			سعد	درگا اشٹمی	
پنجشنبہ	۲۸	۸	۲۳	۲۳	۱۴	۱۵	۸	۱۰	۵۰			سعد	بھڑلیا نومی	
جمعہ	۲۹	۹	۲۴	۲۴	۱۵	۱۶	۹	۱۰	۵۰			سعد		
شنبہ	۳۰	۱۰	۲۵	۲۵	۱۶	۱۷	۱۰	۵ ۱۰	۴ ۵۰			نحس		

سیاروں کی چال

دن	تاریخ جون	جیٹھ سمبت ۱۹۷۴ تتھ	گ	پ	پچھتر نام	گ	پ	جوگ نام	گ	پ	دنمان گ	پ	بھدرا ابتدا	انتہا	چندرمان راس	گ	پ	سیاروں کی چال
جمعہ	۱	۱۱	۳۶	۱۷	ہست	۴	۵۸	بتی پات	۳۱	۴۴	۳۲	۴۸	[illegible]	[illegible]	تلا	۳۶	۴۰	
ہفتہ	۲	۱۲	۲۷	۱۹	چترا	۸	۲۱	بریان	۳۰	۵	۳۳	۴۹						مرگسرا (۳) پر متھن کے سکر ۳۹ + ۳۳
اتوار	۳	۱۳	۳۷	۳	سواتی	۱۰	۳۲	پرگھ	۲۷	۳۴	۳۲	۵۰			برچھک	۵۶	۰	کرتکا (۲) پر برکھ کے منگل ۴۹ + ۳۰
پیر	۴	۱۴	۳۵	۳۲	بساکھا	۱۱	۱۳	شیو	۲۳	۵۶	۳۳	۵۱		[illegible]				کرتکا (۲) پر برکھ کے بدھ ۵۳ [illegible]
منگل	۵	۱۵	۳۲	۴۷	انرادھا	۱۰	۵۸	سدھ	۱۹	۲۲	۳۲	۵۲	[illegible]					
بدھ	۶	اماوس	۲۹	۵	جیسٹھا	۹	۲۳	سادھ	۱۴	۰	۳۳	۵۳			دھن	۹	۲۳	
جمعرات	۷	۲	۲۴	۲۹	مول	۷	۰	شبھ	۷	۵۴	۳۳	۵۵		[illegible]				مرگسرا (۱) کے سورج ۲۱ + ۸
جمعہ	۸	۳	۱۹	۴۷	پوربا کھاد	۳	۵۲	سوکل	۱	۳	۳۲	۵۶	[illegible]		مکر	۱۰	۱۰	آردرا (۱) کے سکر ۳ + ۳۱
ہفتہ	۹	۴	۱۳	۲۴	اترا کھاد	۱	۵	اندر	۲۶	۴۱	۳۳	۵۷						کرتکا (۳) کے برہسپت ۵۴ + ۵۹
اتوار	۱۰	۵	۷	۱۳	دھنشٹا	۵۲	۱۷	بیدھرت	۳۹	۱۰	۳۳	۵۹			کمبھ	۲۴	۱۹	
پیر	۱۱	۶ / ۷	۴ / ۵۳	۱۷ / ۵۷	ست بکھا	۴۸	۱۵	بسکمبھ	۲۱	۳۹	۳۴	۰	[illegible]	[illegible]				روہنی (۱) کے بدھ ۱۴ + ۱۹
منگل	۱۲	۸	۴۹	۲۵	پوربا بھادرپد	۴۴	۲۸	پریت	۲۲	۱۷	۳۴	۱			مین	۳۰	۳۵	
بدھ	۱۳	۹	۴۴	۶	اترا بھادرپد	۴۱	۶	ایوکھمان	۱۷	۱۲	۳۴	۲						
جمعرات	۱۴	۱۰	۳۹	۲۸	ریوتی	۳۰	۲۳	سوبھاگ	۱۰	۳۳	۳۴	۵	[illegible]	[illegible]	میکھ	۳۸	۲۲	مرگسرا (۳) پر متھن کے سورج ۲۲ + ۳۵ - مہورت ۳۰
جمعہ	۱۵	۱۱	۳۵	۴۰	اسونی	۳۶	۲۷	شوبھن	۴	۲۹	۳۴	۶						
ہفتہ	۱۶	۱۲	۳۲	۴۷	بھرنی	۳۵	۳۲	سوکرم	۵۴	۴۷	۳۴	۷			برکھ	۵۰	۳۷	
اتوار	۱۷	۱۳	۳۱	۳	کرتکا	۴۵	۵۱	دھرت	۵۱	۲۲	۳۴	۸		[illegible]				روہنی (۱) کے منگل ۴۵ + ۴۶
پیر	۱۸	۱۴	۳۰	۳۶	روہنی	۳۷	۲۶	شول	۴۸	۵۳	۳۴	۹	[illegible]					پوکھ (۳) کے سنیچر ۵ + ۵۴
منگل	۱۹	۳۰	۳۱	۳۰	مرگسرا	۴۰	۲	گنڈ	۴۷	۲۵	۳۴	۱۰			متھن	۰	۲۹	پونربس (۱) کے سکر ۳ + ۵۴
بدھ	۲۰	بدی	۳۳	۲۵	آردرا	۴۳	۵۸	بردھ	۴۶	۵۵	۳۴	۱۱						
جمعرات	۲۱	۲	۳۶	۵۱	پونربس	۴۸	۵۵	دھرو	۴۷	۲۸	۳۴	۱۲			کرک	۳۲	۴۱	آردرا (۱) کے سورج ۲۳ + ۲۸
جمعہ	۲۲	۳	۴۱	۰	پوکھ	۵۴	۴۴	بیاگھات	۴۸	۲۹	۳۴	۱۳						
ہفتہ	۲۳	۴	۴۵	۴۰	اشلیکھا	۶۰	۰	ہرکھن	۴۹	۵۴	۳۴	۱۵	[illegible]	[illegible]				مرگسرا (۱) کے بدھ ۶ + ۱۶
اتوار	۲۴	۵	۵۰	۳۵	اشلیکھا	۲	۴	بجر	۵۱	۳۲	۳۴	۱۴			سنگھ	۱	۲	
پیر	۲۵	۶	۵۵	۲۰	مگھا	۷	۳۰	سدھ	۵۲	۵۴	۳۴	۱۳						کرتکا (۴) کے برہسپت ۲۶ + ۳۱
منگل	۲۶	۷	۵۵	۳۵	پوربا پھاگنی	۱۲	۳۷	بتی پات	۵۴	۳	۳۴	۱۲			کنیا	۲۹	۵۱	
بدھ	۲۷	۸	۶۰	۰	اترا پھاگنی	۱۸	۳۲	بریان	۵۴	۲۳	۳۴	۱۱		[illegible]				پونربس (۴) پر کرک کے سکر ۲۰ + ۵۰ مرگسرا (۳) پر متھن کے بدھ ۲ + ۵
جمعرات	۲۸	۸	۲	۵۹	ہست	۲۴	۸	پرگھ	۵۲	۴۸	۳۴	۱۰			تلا	۵۵	۵۱	
جمعہ	۲۹	۹	۵	۱۵	چترا	۲۷	۳۴	شیو	۵۲	۳۲	۳۴	۹						بدھ پورب مین غروب ہوا ۱۹ + ۲۴ - آردرا (۱) کے بدھ ۲ + ۷
ہفتہ	۳۰	۱۰	۶	۲۵	سواتی	۲۹	۵۱	سدھ	۵۰	۱۳	۳۴	۸		[illegible]				پوکھ (۱) کے شکر ۸ + ۹

تقویم کواکب متعلقہ ماہ جون ۱۹۱۷ع

	گرہ	راس	انش	کلا	وکلا	گت	بکت
نمبر (۲۱) بتاریخ ۵ جون وقت صبح	سورج	برکھ	۲	۴	۴	۵۷	۱۵
	منگل	برکھ	۰	۵۳	۴۵	۴۵	۵۰
	بدھ	برکھ	۰	۴	۵۲	۴۳	۳۲
	برہسپت	برکھ	۲	۲۲	۴۶	۱۳	۴۶
	سکر	متھن	۲	۵۳	۴۳	۷۴	۵
	سنیچر	کرک	۳	۵۹	۱	۵	۵۲
	ر ۱۵	دھن	۱۹	۳۰	۱۳	۳	۱۱
نمبر (۲۲) بتاریخ ۱۲ جون وقت صبح	سورج	برکھ	۲۶	۲۲	۴۲	۵۷	۰
	منگل	برکھ	۵	۵۴	۲۵	۴۴	۲
	بدھ	برکھ	۶	۱۶	۲۲	۷۸	۴۴
	برہسپت	برکھ	۳	۵۶	۵۴	۱۲	۳۶
	سکر	متھن	۱۱	۲۷	۵	۴۲	۸
	سنیچر	کرک	۷	۴۰	۵۸	۶	۳۰
	ر ۱۵	دھن	۱۹	۷	۵۶	۳	۱۱
نمبر (۲۳) بتاریخ ۱۹ جون وقت صبح	سورج	متھن	۴	۲۲	۳۶	۵۷	۲
	منگل	برکھ	۱۰	۵۴	۲۹	۴۴	۲
	بدھ	برکھ	۱۲	۵۸	۲۱	۸۷	۵۶
	برہسپت	برکھ	۵	۳۱	۲۲	۱۲	۲۴
	سکر	متھن	۱۹	۵۵	۱۸	۴۲	۸
	سنیچر	کرک	۸	۲۷	۵۱	۶	۴۰
	ر ۱۵	دھن	۱۸	۴۵	۴۶	۳	۱۱
نمبر (۲۴) بتاریخ ۲۶ جون وقت صبح	سورج	متھن	۱۱	۵۴	۴۷	۵۶	۵۶
	منگل	برکھ	۱۴	۳۰	۱۹	۴۴	۲
	بدھ	متھن	۰	۵۶	۲۵	۱۰۱	۳۲
	برہسپت	برکھ	۷	۲۹	۵۵	۱۲	۲۴
	سکر	کرک	۰	۴۶	۵۰	۷۱	۴۴
	سنیچر	کرک	۵	۲۸	۵۰	۷	۲۸
	ر ۱۵	دھن	۱۸	۱۷	۴	۳	۱۱

آثار پھل و اسباب حفظ صحت

آثار اساڑھ

سونے کا نرخ گران ہو اور چاندی ارزان رہے غلے کا نرخ اوسط مین رہے۔ جابجا فساد ہون مدراس احاطہ مین خفیف بارش ہو۔

پھل اور ترکاریان

موافق ماہ مئی کے انبہ پختہ بافراط۔ کھرنی۔ انجیر پیاز تازہ۔ ٹرہل۔ تردنی وغیرہ بخوبی دستیاب ہو سکتے ہین۔

استعمال

دریا کا نہانا کچا دودھ پینا۔ دھوپ کے وقت سر پر عمامہ باندھنا۔ رات کو سفر کرنا۔ لون کے وقت ہلکے دوپٹے کا کان اور گردن سے لپیٹے رہنا مفید ہے۔

پرہیز

زیادہ ورزش کرنا۔ پانی زیادہ پینا بدن کا برہنہ رکھنا۔ سیاہ کپڑے پہننا۔ سفر مین کنوئین اور دریا کا ایک دفعہ پانی پینا۔ کسی گاڑی مین جہان بہت آدمی ہون دفعتہً گھس کے بیٹھ جانا مضر ہے۔

ایام	جولائی ۱۹۱۷ عیسوی	رمضان المبارک ۱۳۳۵ ہجری	امرداد ۱۲۸۶ یزدجردی	اساڑھ ۱۳۲۴ فصلی	اساڑھ ۱۳۲۴ بنگلہ	ہاڑ ۱۹۷۴ بکرمی	اساڑھ ۱۸۳۹ شاکا	جدول آفتاب طلوع	جدول آفتاب غروب	تاریخ سدی بدی	تہوار	یادداشت
یکشنبہ	۱	۱۱	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	دیوشینی اکادسی	
دوشنبہ	۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
سہ شنبہ	۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	پورن پرچھیا	
چہارشنبہ	۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	بیاس پوجا۔ اساڑھی چندر گرہن کامل۔	
پنجشنبہ	۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ولادت امام حسنؑ	
جمعہ	۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
شنبہ	۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
یکشنبہ	۸	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	گنیش چوتھ	
دوشنبہ	۹	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	پردوش	
سہ شنبہ	۱۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
چہارشنبہ	۱۱	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	شہادت حیدر کرارؓ	
پنجشنبہ	۱۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
جمعہ	۱۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	جمعۃ الوداع	
شنبہ	۱۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	کامکا اکادسی	
یکشنبہ	۱۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
دوشنبہ	۱۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	کرک کی سنکرانت لیلۃ القدر	
سہ شنبہ	۱۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
چہارشنبہ	۱۸	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
پنجشنبہ	۱۹	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	اختتام تراویح	
جمعہ	۲۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	انجام صیام۔ رویت ہلال	
شنبہ	۲۱	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	عید الفطر	
یکشنبہ	۲۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ہریالی تیج	
دوشنبہ	۲۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
سہ شنبہ	۲۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ناگ پنچمی	
چہارشنبہ	۲۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
پنجشنبہ	۲۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
جمعہ	۲۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	کلکی اشٹک	
شنبہ	۲۸	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
یکشنبہ	۲۹	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
دوشنبہ	۳۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	پترا اکادشی	
سہ شنبہ	۳۱	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	پترا دوادشی	

تقویم کواکب متعلقہ ماہ جولائی سنہ ۱۹۱۷ع

گرہ	سورج	منگل	بدھ	برہسپت	سکر	سنیچر	راہو
نمبر (۲۵) بتاریخ ۴ جولائی وقت صبح							
راس	متھن	برکھ	متھن	برکھ	متھن	کرک	دھن
انس	۱۸	۲۱	۱۱	۹	۹	۱۰	۱۶
کلا	۲۵	۳۰	۵۷	۴۵	۱	۱۳	۵۶
بکلا	۵۷	۲۸	۴	۳۸	۹	۵۱	۵۹
گت	۵۶	۴۱	۱۰۵	۱۱	۶۱	۷	۳
بگت	۵۳	۳۰	۸	۴	۴۴	۲۸	۱۱
نمبر (۲۶) بتاریخ ۱۲ جولائی وقت صبح							
راس	متھن	برکھ	متھن	برکھ	کرک	کرک	دھن
انس	۲۶	۲۶	۲۶	۱۰	۱۶	۱۱	۱۶
کلا	۱۰	۵۵	۳۷	۱۹	۲۹	۱۷	۲۲
بکلا	۵۸	۸	۲	۰	۵۱	۵	۲۲
گت	۵۶	۳۱	۱۱۰	۱۱	۶۱	۷	۳
بگت	۵۸	۲	۳۰	۴	۴۴	۲۸	۱۱
نمبر (۲۷) بتاریخ ۱۹ جولائی وقت صبح							
راس	کرک	متھن	کرک	برکھ	کرک	کرک	دھن
انس	۲	۱	۹	۱۱	۲۶	۱۲	۱۶
کلا	۲۹	۳۸	۳۷	۳۰	۶	۱۱	۱۰
بکلا	۳۲	۳۶	۲۰	۲۱	۱۳	۹	۱۷
گت	۵۷	۳۱	۱۰۹	۱۹	۶۱	۰	۳
بگت	۳	۲	۸	۴۴	۴۴	۱۲	۱۱
نمبر (۲۸) بتاریخ ۲۷ جولائی وقت صبح							
راس	کرک	متھن	کرک	برکھ	سنگھ	کرک	دھن
انس	۱۰	۶	۲۳	۲	۵	۱۳	۱۶
کلا	۲۵	۵۹	۶	۲	۴۴	۱۷	۴۴
بکلا	۵۱	۲۵	۸	۵	۳	۳۵	۵۰
گت	۵۷	۲۹	۱۰۳	۹	۶۱	۸	۳
بگت	۱۰	۱۴	۴۴	۴۴	۸	۱۲	۱۱

آثار بچھل و اسباب حفظ صحت

آثار ساون

برسات بنگال سے پنجاب تک کافی ہو مگر ملک متوسطہ اور سنٹرل انڈیا میں کمی کے ساتھ ہو غلہ کا نرخ کچھ گران ہو - خون کی دوا میں زیادتی ہو - علاقوں کو ایک تقسیم میں وقت ہو -

پھل اور ترکاریاں

انگوریاں ، ناشپاتی خربوزہ تربوز کم - آلو بدمزہ نکٹر کچھل اننناس بڑھ جاوے اسط انبہ جامن بکثرت دستیاب ہوں -

استعمال

ورزش بکثرت کرنا - بدن پر تبنا ملنا گرم پانی سے نہانا لیموں کھانا پرند صحرائی کا گوشت کھانا - اور بدلی میں صرف پسینہ لانیوالی ورزش کرنا

پرہیز

پورا ہوا کا بدن میں لگنا گرم کھانا کھانا - زیادہ طاقت زائل کرنیوالی ورزش کرنا - دریا کے کنارے ٹہلنا - تنگ کر جسم کا تر رکھنا نہایت مضر ہے -

سیاروں کی چال

دن	جولائی	اساڑھ سمبت ۱۹۷۴ تتھ	گ	پ	نچھتر نام	گ	پ	جوگ نام	گ	پ	دنمان گ	پ	بھدرا ابتدا	انتہا	چندرمان راس	گ	پ	سیاروں کی چال
اتوار	۱	۱۱	۶	۱۳	بساکھا	۳۰	۵۷	سادھ	۴۶	۳۸	۳۴	۷		[illegible]	برچھیک	۱۵	۴۰	
پیر	۲	۱۲	۴	۴۲	انرادھا	۳۱	۶	شبھ	۴۲	۲۶	۳۴	۵						
منگل	۳	۱۳ / ۱۴	۲ / ۵۹	۱۹	جیشٹھا	۲۹	۳۶	شوکل	۳۷	۱۳	۳۴	۳	[illegible]		دھن	۲۵	۳۰	
بدھ	۴	۱۵	۵۳	۴۷	مول	۲۷	۲۲	برہم	۳۶	۲۲	۳۴	۲		[illegible]				پونربس (۱) کے بدھ ۶ + ۱۱
جمعرات	۵	ساون	۴۸	۳۰	پورباکھاڈ	۲۴	۲۸	اینڈر	۲۴	۴۰	۳۴	۱			مکر	۳۰	۲۵	پونربس (۱) کے سورج ۲۷ + ۳۸
جمعہ	۶	۲	۴۸	۴۸	اتراکھاڈ	۲۰	۵۷	بیدھرت	۱۷	۳۷	۳۴	۰						مرگسرا (۱) کے منگل ۳۷ + ۵۱
ہفتہ	۷	۳	۲۶	۴۷	سرون	۱۷	۱	بسکمبھ	۱۰	۱۲	۳۳	۵۸	[illegible]	[illegible]	کمبھ	۲۵	۱	
اتوار	۸	۴	۲۰	۲۶	دھنشٹا	۱۳	۰	پریت	۲	۳۷	۳۳	۵۷						
پیر	۹	۵	۲۲	۲۳	ست بکھا	۸	۵۰	سوبھاگ	۴۷	۳۵	۳۳	۵۶			مین	۵۰	۵۷	روہنی (۱) کے برہسپت ۱۷ + ۰
منگل	۱۰	۶	۱۸	۲۹	پوربابھادرپد	۴	۵۸	شوبھن	۴۰	۲۶	۳۳	۵۵	[illegible]	[illegible]				
بدھ	۱۱	۷	۱۳	۱۵	اترابھادرپد	۱	۳۱	اگنڈ	۳۳	۴۰	۳۳	۵۴			میکھ	۵۸	۲۵	اشلیکھا (۱) کے سکر ۹ + ۵۰ - سنیچر پچھم میں غروب ہوا - ۱۸ + ۱۶
جمعرات	۱۲	۸	۸	۳۰	اسونی	۵۶	۲۷	سوکرم	۲۷	۳۳	۳۳	۵۳						
جمعہ	۱۳	۹	۴	۳۶	بھرنی	۵۵	۱۹	دھرت	۲۲	۵	۳۳	۵۲		[illegible]				پونربس (۴) پر کرک کے بدھ ۵۰ + ۲۲
ہفتہ	۱۴	۱۰ / ۱۱	۱ / ۵۸	۴۱ / ۱۱	کرتکا	۵۵	۲۱	شول	۱۷	۳۳	۳۳	۵۱	[illegible]		برکھ	۱۰	۳۰	پوکھ (۱) کے بدھ ۱۰ + ۱۵
اتوار	۱۵	۱۲	۵۹	۱۹	روہنی	۵۷	۱۴	گنڈ	۱۳	۵۴	۳۳	۴۹						
پیر	۱۶	۱۳	۴۰	۰	مرگسرا	۵۸	۵۲	بردھ	۱۱	۱۵	۳۳	۴۸			متھن	۲۸	۳	پونربس (۴) پر کرک کے سورج ۰ + ۳۲ - جہوت ۳۰ - مرگسرا (۲) ۵۰ + ۵۰
منگل	۱۷	۱۴	۰	۹	اردرا	۶۰	۰	دھرو	۹	۳۶	۳۳	۴۷	[illegible]	[illegible]				
بدھ	۱۸	۱۴	۲	۶	اردرا	۲	۳۱	بیاگھات	۸	۵۵	۳۳	۴۵			کرک	۵۱	۳	پوکھ (۲) کے سنیچر ۱۰ + ۲۳
جمعرات	۱۹	۳۰	۵	۱۶	پونربس	۷	۲۳	ہرکھن	۹	۱۶	۳۳	۴۴						پوکھ (۱) کے سورج ۳۱ + ۲۵
جمعہ	۲۰	سدی	۹	۱۹	پوکھ	۱۲	۵۳	بجر	۱۰	۳	۳۳	۴۳						
ہفتہ	۲۱	۲	۱۳	۵۹	اشلیکھا	۱۹	۶	سدھ	۱۱	۲۰	۳۳	۴۲			سنگھ	۱۹	۷	اشلیکھا (۱) کے بدھ ۱۰ + ۱۵
اتوار	۲۲	۳	۱۸	۵۱	مگھا	۲۵	۳۲	بتی پات	۱۲	۵۹	۳۳	۴۰	[illegible]	[illegible]				مگھا (۱) پر سنگھ کے سکر ۱۵ + ۲۱
پیر	۲۳	۴	۲۳	۳۹	پورباپھالگنی	۳۱	۴۷	بریان	۱۴	۱	۳۳	۳۹			کنیا	۴۰	۳۴	
منگل	۲۴	۵	۲۷	۵۶	اترابھالگنی	۳۷	۳۳	پریگھ	۱۵	۳۷	۳۳	۳۸						پورباکھاڈ (۱) کے راہو - آردرا (۳) کے کیت ۴۶ + ۵۱
بدھ	۲۵	۶	۳۱	۲۷	ہست	۴۲	۲۵	شیو	۱۶	۸	۳۳	۳۷						
جمعرات	۲۶	۷	۳۴	۱۵	چترا	۴۶	۱۷	سدھ	۱۵	۵۶	۳۳	۳۵		[illegible]	تلا	۱۴	۲۱	آردرا (۱) کے منگل ۳۰ + ۴
جمعہ	۲۷	۸	۳۴	۵۷	سواتی	۴۸	۵۵	سادھ	۱۴	۴۳	۳۳	۳۲	[illegible]					
ہفتہ	۲۸	۹	۳۴	۵۵	بساکھا	۵۰	۱۹	شبھ	۱۲	۴۲	۳۳	۳۰			برچھیک	۳۴	۵۸	
اتوار	۲۹	۱۰	۳۲	۲۸	انرادھا	۵۰	۲۹	سوکل	۹	۲۱	۳۳	۲۷						
پیر	۳۰	۱۱	۳۰	۵۱	جیشٹھا	۴۹	۲۴	برہم	۵	۹	۳۳	۲۴	[illegible]	[illegible]	دھن	۴۹	۲۴	مگھا (۱) پر سنگھ کے بدھ ۲۵ + ۳۱
منگل	۳۱	۱۲	۲۷	۱۷	مول	۴۷	۲۳	اینڈر	۰	۶	۳۳	۲۰						بدھ پچھم سے طلوع ہوا ۴۶ + ۲۵

اسماء ایام	اگست ۱۹۱۷ عیسوی	شوال ۱۳۳۵ ہجری	[illegible]	[illegible] فصلی	[illegible]	[illegible]	[illegible] بکرمی	جدول آفتاب طلوع	جدول آفتاب غروب	جدول ماہتاب	اوقات ...	تاریخ سعد و نحس	تفصیل	یادداشت
چہارشنبہ	۱	۱۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
پنجشنبہ	۲	۱۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس		
جمعہ	۳	۱۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	سلونو	
شنبہ	۴	۱۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
یکشنبہ	۵	۱۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس	کجلی تیج	
دوشنبہ	۶	۱۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	گنیش چوتھ	
سہ شنبہ	۷	۱۸	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
چہارشنبہ	۸	۱۹	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	ہل چھٹھ	
پنجشنبہ	۹	۲۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
جمعہ	۱۰	۲۱	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس	جنم اشٹمی	
شنبہ	۱۱	۲۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	گندھرب نومی	
یکشنبہ	۱۲	۲۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
دوشنبہ	۱۳	۲۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس	اجا اکادسی	
سہ شنبہ	۱۴	۲۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس	اوگ دوادسی	
چہارشنبہ	۱۵	۲۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
پنجشنبہ	۱۶	۲۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	سنگھ کی سنکرانت	
جمعہ	۱۷	۲۸	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	کُش گراہنی اماوس	
شنبہ	۱۸	۲۹	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	ابتدائے لوند	
یکشنبہ	۱۹	۳۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	رویت ہلال	
دوشنبہ	۲۰	ذیقعدہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس		
سہ شنبہ	۲۱	۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
چہارشنبہ	۲۲	۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس	نکاح سیدہ خاتون جنت	
پنجشنبہ	۲۳	۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
جمعہ	۲۴	۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس		
شنبہ	۲۵	۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			نحس		
یکشنبہ	۲۶	۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
دوشنبہ	۲۷	۸	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
سہ شنبہ	۲۸	۹	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	عرس شاہ متقی سنبھلی کملا اکادسی	
چہارشنبہ	۲۹	۱۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		
پنجشنبہ	۳۰	۱۱	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد	ولادت امام علی رضا	
جمعہ	۳۱	۱۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			سعد		

ستّاروں کی چال

روز	تاریخ	ساون سمبت ۱۹۷۴ تتھ	گ	پ	نچھتر نام	گ	پ	جوگ نام	گ	پ	دتمان گ	پ	بھدرا ابتدا	انتہا	چندرمان راس	گ	پ	ستّاروں کی چال
بدھ	۱	۱۳	۱۲	۴۷	پوربا کھاد	۴۴	۴۳	بیسکمبھ	۴۷	۴۲	۳۳	۱۴			مکر	۵۸	۵۰	
جمعرات	۲	۱۴	۱۷	۲۵	اترا کھاد	۴۱	۱۱	پریت	۴۰	۴۰	۳۳	۱۴	[illegible]	[illegible]				پوربا پھالگنی (۱) کے سکر ۲+۴۳ - اشلیکھا (۱) کے سورج ۳۳+۴۳
جمعہ	۳	۱۵	۱۱	۵۵	سرون	۳۷	۲۲	ایوشمان	۳۳	۱۶	۳۳	۱۱						
ہفتہ	۴	پڑوا ۱	۵۳	۵۵	دھنشٹا	۳۳	۱۶	سوبھاگ	۲۵	۴۳	۳۳	۷			کمبھ	۵	۱۹	
اتوار	۵	۲	۵۳	۴۸	ست بکھا	۲۹	۸	شوبھن	۱۸	۷	۳۳	۴	[illegible]	[illegible]				
پیر	۶	۴	۴۷	۵۲	پوربا بھادرپد	۲۵	۱۰	اگنڈ	۱۰	۳۵	۳۳	۱			مین	۱۱	۹	روہنی (۲) کے برہسپت ۴۹+۵۶
منگل	۷	۵	۴۲	۲۴	اترا بھادرپد	۲۱	۳۵	سوکرم	۳	۱۲	۳۲	۵۸						
بدھ	۸	۶	۳۷	۳۷	ریوتی	۱۸	۳۲	شول	۵۰	۰	۳۲	۵۵		[illegible]	میکھ	۱۸	۳۲	
جمعرات	۹	۷	۳۲	۳۸	اسونی	۱۶	۳۰	گنڈ	۴۴	۱۸	۳۲	۵۱	[illegible]					پوربا پھالگنی (۱) کے بدھ ۲۶+۳۱
جمعہ	۱۰	۸	۳۰	۴۰	بھرنی	۱۴	۴۷	بردھ	۳۹	۲۸	۳۲	۴۴			برکھ	۲۹	۴۳	
ہفتہ	۱۱	۹	۲۸	۵۰	کرتکا	۱۴	۳۱	دھرو	۳۴	۳۸	۳۲	۴۵		[illegible]				
اتوار	۱۲	۱۰	۲۸	۱۶	روہنی	۱۵	۲۲	بیاگھات	۳۲	۴۳	۳۲	۴۲	[illegible]		متھن	۴۶	۲۶	
پیر	۱۳	۱۱	۲۹	۰	مرگسرا	۱۷	۲۹	ہرکھن	۳۰	۴۶	۳۲	۳۹						اترا پھالگنی (۱) کے سکر ۲۵+۱۳
منگل	۱۴	۱۲	۳۰	۵۲	آردرا	۲۰	۵۲	بجر	۲۹	۵۲	۳۲	۳۵						
بدھ	۱۵	۱۳	۴۴	۳	پونربس	۲۵	۲۴	سدھ	۳۰	۳	۳۲	۳۳		[illegible]	کرک	۹	۱۶	اترا پھالگنی (۲) پر کنیا کے سکر ۹+۴۴
جمعرات	۱۶	۱۴	۳۸	۳	پکھ	۳۰	۵۵	بتی پات	۳۰	۳۹	۳۲	۲۹	[illegible]					مگھا (۱) پر سنگھ کے سورج ۲۹+۲۲، مہوت ۳، پونربس (۱) کے منگل ۰+۱۴
جمعہ	۱۷	۳۰	۴۲	۴۲	اشلیکھا	۳۷	۰	بریان	۳۱	۲۰	۳۲	۲۶			سنگھ	۳۷	۰	
ہفتہ	۱۸	سدی	۴۷	۳۰	مگھا	۴۳	۳۵	پرگھ	۳۱	۳۲	۳۲	۲۳						اترا پھالگنی (۱) کے بدھ ۱۰+۱۵
اتوار	۱۹	۲	۵۲	۲۸	پوربا پھالگنی	۴۹	۳۱	شیو	۳۵	۱	۳۲	۱۹						اترا پھالگنی (۲) پر کنیا کے بدھ ۵۷+۱۴
پیر	۲۰	۳	۵۶	۴۵	اترا پھالگنی	۵۵	۳۷	سدھ	۳۶	۳۴	۳۲	۱۶			کنیا	۶	۳	
منگل	۲۱	۴	۶۰	۰	ہست	۶۰	۰	سادھ	۳۶	۲۹	۳۲	۱۳		[illegible]				اشلیکھا (۱) کے سنیچر ۵+۲۱
بدھ	۲۲	۴	۰	۲۳	ہست	۰	۲۳	شبھ	۳۶	۴۴	۳۲	۱۰	[illegible]		تلا	۳۲	۳۸	
جمعرات	۲۳	۵	۲	۵۲	چترا	۴	۴۳	سوکل	۲۵	۴۳	۳۲	۷						
جمعہ	۲۴	۶	۴	۱۴	سواتی	۷	۲۸	برہم	۳۳	۳۹	۳۲	۴			برچھیک	۵۳	۵۲	ہست (۱) کے سکر ۳۲+۱۸
ہفتہ	۲۵	۷	۴	۱۷	بساکھا	۹	۱۵	ایندر	۳۰	۴۱	۳۲	۰	[illegible]	[illegible]				
اتوار	۲۶	۸	۲	۰	انرادھا	۹	۴۱	بیدھرت	۲۶	۳۶	۳۱	۵۶						
پیر	۲۷	۹ / ۱۰	۲ / ۵۶	۲۷ / ۲۲	جیشٹھا	۸	۵۶	بسکمبھ	۲۱	۳۵	۳۱	۵۲			دھن	۸	۵۶	
منگل	۲۸	۱۱	۵۲	۳۸	مول	۷	۳	پریت	۱۵	۵۰	۳۱	۴۸	[illegible]	[illegible]				
بدھ	۲۹	۱۲	۴۷	۳۳	پوربا کھاد	۴	۲۵	ایوشمان	۹	۲۱	۳۱	۴۴			مکر	۱۰	۴۰	
جمعرات	۳۰	۱۳	۴۱	۵۰	اترا کھاد	۱	۹	سوبھاگ	۲	۲۰	۳۱	۴۰						پوربا پھالگنی (۱) کے سورج ۲۰+۴۴
جمعہ	۳۱	۱۴	۳۵	۵۲	دھنشٹا	۵۳	۱۹	اگنڈ	۴۷	۱۹	۳۱	۳۶		[illegible]	کمبھ	۲۵	۲۰	بدھ بکری ہوا ۲۰+۳۴

تقویم کواکب متعلقہ ماہ اگست سنہ ۱۹۱۷ع

	گرہ	راس	انس	کلا	بکلا	گت	بھگت
نمبر (۲۹) بتاریخ ۳ اگست وقت صبح	سورج	کرک	۱۴	۶	۱	۵۷	۱۴
	منگل	متھن	۱۱	۲۲	-	۳۹	۱۴
	بدھ	سنگھ	۴	۸	۱	۹۹	۸
	برہسپت	برکھ	۱۴	۱۳	۲۶	۹	۴۴
	سکر	سنگھ	۱۴	۷	۹	۶۳	۳۰
	سنیچر	کرک	۱۳	۱۵	۳۱	۴۰	۱۳
	۲/۱۵	دھن	۱۶	۲۲	۲۵	۳	۱۱
نمبر (۳۰) بتاریخ ۱۰ اگست وقت صبح	سورج	کرک	۲۳	۴۷	۱۲	۵۶	۲۶
	منگل	متھن	۱۶	۳	۳۵	۳۸	۳۸
	بدھ	سنگھ	۱۶	۵۸	۲۶	۴۳	۵۲
	برہسپت	برکھ	۱۴	۱۴	۳۶	۸	۷
	سکر	سنگھ	۲۲	۳۲	۵۴	۶۲	۳۰
	سنیچر	کرک	۱۵	۱۳	۵۴	۸	۱۲
	۲/۱۵	دھن	۱۶	۰	۱۹	۳	۱۱
نمبر (۳۱) بتاریخ ۱۷ اگست وقت صبح	سورج	سنگھ	۰	۲۵	۲۶	۵۷	۳۶
	منگل	متھن	۳۰	۳۳	۳	۳۳	۳۸
	بدھ	سنگھ	۲۶	۱۳	۳۹	۶۳	۲۸
	برہسپت	برکھ	۳	۱۳	۶	۸	۸
	سکر	کنیا	۰	۵۹	۳۹	۶۱	۴۴
	سنیچر	کرک	۱۶	۹	۲۸	۷	۲۸
	۲/۱۵	دھن	۱۵	۳۸	۲	۳	۱۱
نمبر (۳۲) بتاریخ ۲۴ اگست وقت صبح	سورج	سنگھ	۵	۰	۳۴	۵۷	۴۳
	منگل	متھن	۲۶	۹	۳۲	۳۶	۵۰
	بدھ	کنیا	۸	۴۴	۴۳	۳۷	۳۸
	برہسپت	برکھ	۱۷	۱۴	۲۸	۶	۴
	سکر	کنیا	۱۱	۴۴	۵۱	۷۱	۴۴
	سنیچر	کرک	۱۴	۱۴	۱۱	۷	۳۸
	۲/۱۵	دھن	۲۵	۹	۲۶	۳	۱۱

آثار پھل و اسباب حفظ صحت

آثار پہلا بھادون

غلّے اور کرانے کا نرخ اوسط رہے۔ چھوٹے دوکانداروں کو ہر قسم کی تجارت میں نقصان رہے۔ زمینداروں اور کاشتکاروں میں تنازعین زیادہ ہوں۔

پھل اور ترکاریاں

انبہ۔ جامن۔ کیباب مولی شلغم۔ کرم کلا۔ اوسط درجے پر اور ناشپاتی کی ابتدا اور بھٹے بہت ہوں۔

استعمال

تازہ پانی سے نہانا۔ اچار کھانا باغوں کی سیر کرنا جلد کپڑے بدلنا مکان پر رہنا۔ غذا زود ہضم کھانا مفید ہے۔

پرہیز

نم زمین پر لیٹنا۔ رات کو جاگنا۔ فصد کھلوانا فاقہ کرنا۔ دن کو لیٹنا ننگے بدن سونا مضر ہے۔

ایام	ستمبر ۱۹۱۷ عیسوی	ذیقعدہ ۱۳۳۵ ہجری	[illegible]	[illegible]	بھادوں ۱۳۲۴ بنگلہ	بھادوں ۱۹۶۷ [illegible]	بھادوں و اسوج ۱۹۷۴ سمت بکرمی	جدول آفتاب طلوع	جدول آفتاب غروب	جدول اجتماع ماہتاب	ادوار عروج ماہتاب	تاریخ سعد و نحس	تہوار	یادداشت
شنبہ	۱	۱۳	۲۴	۲۹	۱۶	۱۶	۱۵	۵ ۲۳	۶ ۱۶			نحس		
یکشنبہ	۲	۱۴	۲۶	۲۶	۱۷	۱۷	۱۶	۵ ۲۳	۶ ۱۵			سعد		
دوشنبہ	۳	۱۵	۲۶	۲	۱۸	۱۹	۲	۵ ۲۴	۶ ۱۴			سعد	عرس گلبرگہ شریف	
سہ شنبہ	۴	۱۶	۲۹	۳	۱۹	۲۰	۳	۵ ۲۴	۶ ۱۳			نحس		
چہارشنبہ	۵	۱۷	۳۰	۴	۲۰	۲۱	۴	۵ ۲۵	۶ ۱۲			سعد		
پنجشنبہ	۶	۱۸	۱	۵	۲۱	۲۲	۵	۵ ۲۵	۶ ۱۱			سعد		
جمعہ	۷	۱۹	۲	۶	۲۲	۲۳	۶	۵ ۲۶	۶ ۱۰			سعد		
شنبہ	۸	۲۰	۳	۷	۲۳	۲۴	۷	۵ ۲۶	۶ ۹			سعد		
یکشنبہ	۹	۲۱	۴	۸	۲۴	۲۵	۸	۵ ۲۷	۶ ۸			نحس		
دوشنبہ	۱۰	۲۲	۵	۹	۲۵	۲۶	۱۰	۵ ۰	۱۰			نحس		
سہ شنبہ	۱۱	۲۳	۶	۱۰	۲۶	۲۷	۱۰	۵ ۱	۶			سعد		
چہارشنبہ	۱۲	۲۴	۷	۱۱	۲۷	۲۸	۱۱	۵ ۱	۶			سعد	سمارتا اکادشی	
پنجشنبہ	۱۳	۲۵	۸	۱۲	۲۸	۲۹	۱۲	۵ ۲	۷			نحس		
جمعہ	۱۴	۲۶	۹	۱۳	۲۹	۳۰	۱۳	۵ ۲	۴			سعد		
شنبہ	۱۵	۲۷	۱۰	۱۴	۳۰	۳۱	۱۴	۵ ۲	۳			سعد		
یکشنبہ	۱۶	۲۸	۱۱	۱۵	۳۱	۱	۳۰	۵ ۳	۲			سعد	کنیا کی سنکرانت انتہائے لوند	
دوشنبہ	۱۷	۲۹	۱۲	۱۶	۱	۲	۱	۵ ۵	۵			نحس	روئیت ہلال مشکوک	
سہ شنبہ	۱۸	۱	۱۳	۱۷	۲	۳	۲	۵ ۴	۲			سعد		
چہارشنبہ	۱۹	۲	۱۴	۱۸	۳	۴	۳	۵ ۶	۲			سعد	ہرتالکا تیج	
پنجشنبہ	۲۰	۳	۱۵	۱۹	۴	۵	۴	۵ ۷	۲			نحس	پتھر چوتھ	
جمعہ	۲۱	۴	۱۶	۲۰	۵	۶	۵	۵ ۶	۱			سعد	رکھ پنچمی	
شنبہ	۲۲	۵	۱۷	۲۱	۶	۷	۶	۵۰	۵۰			نحس	بلدیو چھٹ	
یکشنبہ	۲۳	۶	۱۸	۲۲	۷	۸	۷	۱	۵ ۹			سعد		
دوشنبہ	۲۴	۷	۱۹	۲۳	۸	۹	۸	۲	۵ ۷			نحس	وفات امام باقر	
سہ شنبہ	۲۵	۸	۲۰	۲۴	۹	۱۰	۹	۲	۵ ۷			نحس		
چہارشنبہ	۲۶	۹	۲۱	۲۵	۱۰	۱۱	۱۰	۳	۵ ۶			نحس	یوم حج	
پنجشنبہ	۲۷	۱۰	۲۲	۲۶	۱۱	۱۲	۱۱	۳	۵ ۶			سعد	عید الضحیٰ ۔ پدما اکادشی	
جمعہ	۲۸	۱۱	۲۳	۲۷	۱۲	۱۳	۱۲	۳	۵ ۴			سعد		
شنبہ	۲۹	۱۲	۲۴	۲۸	۱۳	۱۴	۱۳	۴	۵ ۴			سعد	انت چودس	
یکشنبہ	۳۰	۱۳	۲۵	۲۹	۱۴	۱۵	۱۴	۴	۵ ۵			نحس	پتر پکش	

ستاروں کی چال

ن	تاریخ	تتھ	گ	پ	نچھتر نام	گ	پ	جوگ نام	گ	پ	دنمان گ	پ	بھدرا ابتدا	انتہا	چندرمان راس	گ	پ	ستاروں کی چال
ہفتہ	۱	۱۵	۲۹	۵۲	ست بھکھا	۲۹	۹	سوکرم	۳۹	۴۳	۳۱	۳۲	[illegible]					پونربس (۴) پر کرک کے منگل ۱۲+۵۵-
اتوار	۲	۱	۲۲	۵۲	پوربا بھادرپد	۴۵	۹	دھرت	۲۲	۸	۳۱	۲۸			مین	۳۱	۹	
پیر	۳	۲	۱۸	۳	اترا بھادرپد	۴۱	۲۲	سول	۲۴	۴۳	۳۱	۲۴	[illegible]					بدھ پچھم میں غروب ہوا-۴۰+۴۴ چترا (۱) کے سکر ۴۲+۲-
منگل	۴	۳	۱۲	۳۴	ریوتی	۳۸	۱۶	گنڈ	۱۷	۲۴	۳۱	۲۰	[illegible]		میکھ	۳۸	۱۶	
بدھ	۵	۴	۷	۴۵	اسونی	۳۵	۴۶	بردھ	۱۰	۵۶	۳۱	۱۶						
جمعرات	۶	۵	۳	۵۰	بھرنی	۳۴	۷	دھرو	۵	۲۴	۳۱	۱۲			برکھ	۴۹	۵۸	
جمعہ	۷	۶	۵۸	۵۹	کرتکا	۳۳	۳۲	بیاگھات	۰	۲۰	۳۱	۸	[illegible]	[illegible]				پوکھ (۱) کے منگل ۴۵+۴۲-
ہفتہ	۸	۷	۵۸	۲۲	روہنی	۳۴	۱	ہرکھن	۵۲	۴۳	۳۱	۴						
اتوار	۹	۸	۵۹	۱۸	مرگسرا	۳۶	۳	سدھ	۵۰	۴۲	۳۱	۰			متھن	۵	۲	
پیر	۱۰	۹	۱۰	۰	آردرا	۳۹	۰	بتی پات	۴۹	۳۰	۳۰	۵۶	[illegible]					چترا (۲) پر تلا کے سکر ۱۶+۳۶-
منگل	۱۱	۱۰	۱	۱۸	پونربس	۴۳	۱۸	بریان	۴۹	۱۴	۳۰	۵۲	[illegible]		کرک	۲۷	۱۴	
بدھ	۱۲	۱۱	۴	۱۶	پوکھ	۴۸	۳۸	پرکھ	۴۹	۵۰	۳۰	۴۸						اترا بھاگنی (۱) پر سنگھ کے بکری بدھ ۱۸+۲۳-
جمعرات	۱۳	۱۲	۸	۲۲	اشلیکھا	۵۳	۲۹	شیو	۵۰	۵۳	۳۰	۴۴			سنگھ	۵۴	۱۹	اترا بھاگنی (۱) کے سورج ۴۵+۳۹-
جمعہ	۱۴	۱۳	۱۳	۹	مگھا	۶۰	۰	سدھ	۵۲	۱۶	۳۰	۴۰	[illegible]	[illegible]				
ہفتہ	۱۵	۱۴	۱۸	۴	مگھا	۰	۴۹	سادھ	۵۳	۵۹	۳۰	۳۶						سواتی (۱) کے سکر ۵۸+۲۷
اتوار	۱۶	۳۰	۲۳	۳	پوربا بھاگنی	۶	۵۳	شبھ	۵۴	۵۹	۳۰	۳۲			کنیا	۲۳	۲۸	اترا بھاگنی (۲) پر کنیا کے سورج ۲۳+۴۹-مہورت ۴۵-
پیر	۱۷	۱	۲۷	۳۰	اترا بھاگنی	۱۳	۱۱	سوکل	۵۵	۴۳	۳۰	۲۸						
منگل	۱۸	۲	۳۱	۰	ہست	۱۸	۲۵	برہم	۵۵	۳۹	۳۰	۲۰			تلا	۵۰	۳۷	
بدھ	۱۹	۳	۳۳	۴۶	چترا	۲۲	۴۸	اندر	۵۴	۴۶	۳۰	۱۹						بدھ پورب سے طلوع ہوا-۴۷+۵۸-
جمعرات	۲۰	۴	۳۵	۱۲	سواتی	۲۵	۵۸	بیدھرت	۵۲	۵۳	۳۰	۱۴	[illegible]	[illegible]				
جمعہ	۲۱	۵	۳۵	۳۰	بساکھا	۲۷	۵۸	بکھمبھ	۵۰	۶	۳۰	۸			برچھک	۱۲	۲۵	
ہفتہ	۲۲	۶	۳۴	۵	انرادھا	۲۸	۴۴	پریت	۴۶	۱۸	۳۰	۴						بدھ مارگی ہوا ۲۹+۵۵-
اتوار	۲۳	۷	۳۱	۴۴	جیسٹھا	۲۸	۱	آیوشمان	۴۱	۲۴	۳۰	۰	[illegible]		دھن	۲۸	۱۰	
پیر	۲۴	۸	۲۸	۱۹	مول	۲۶	۴۸	سوبھاگ	۳۵	۴۵	۲۹	۵۶	[illegible]					
منگل	۲۵	۹	۲۴	۳۰	پوربا اکھاڑ	۲۳	۳۶	شوبھن	۲۹	۱۸	۲۹	۵۲			مکر	۳۸	۲	
بدھ	۲۶	۱۰	۱۹	۴۹	اترا اکھاڑ	۲۰	۴۸	اتگنڈ	۲۲	۳۰	۲۹	۴۸	[illegible]					ہست (۱) کے سورج ۴۳+۳۶-
جمعرات	۲۷	۱۱	۱۳	۱۲	سرون	۱۹	۴۹	سوکرم	۱۵	۴	۲۹	۴۴	[illegible]	[illegible]	کمبھ	۴۵	۹	بساکھا (۱) کے سکر ۲۲+۵۳-
جمعہ	۲۸	۱۲	۱۲	۴۶	دھنشٹا	۱۳	۵۴	دھرت	۷	۲۴	۲۹	۴۴						
ہفتہ	۲۹	۱۳	۴۲	۵۳	ست بھکھا	۹	۰	سول	۵۱	۲۹	۲۹	۴۰	[illegible]		مین	۵۰	۵۸	برہسپت بکری ہوا ۱۵+۲۰-اشلیکھا (۱) کے منگل ۱۰+۵۵-سول (۲)
اتوار	۳۰	۱۴	۱۵	۵۵	پوربا بھادرپد	۳	۵۷	بردھ	۴۴	۲۶	۲۹	۳۶	[illegible]					[illegible] + ۵۸-

تقویم کواکب متعلقہ ماہ ستمبر ۱۹۱۷ء

نمبر	گرہ	راس	درجہ	دقیقہ	ثانیہ	گت	بکری
نمبر (۳۳) بتاریخ یکم ستمبر وقت صبح	سورج	سنگھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	منگل	متھن	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	بدھ	کنیا	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	برہسپت	برکھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	سکر	کنیا	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	سنیچر	کرک	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	۲۱۵	دھن	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
نمبر (۳۴) بتاریخ ۸ ستمبر وقت صبح	سورج	سنگھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	منگل	کرک	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	بدھ	کنیا	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	برہسپت	برکھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	سکر	کنیا	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	سنیچر	کرک	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	۲۱۵	دھن	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
نمبر (۳۵) بتاریخ ۱۵ ستمبر وقت صبح	سورج	سنگھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	منگل	کرک	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	بدھ	سنگھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	برہسپت	برکھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	سکر	تلا	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	سنیچر	کرک	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	۲۱۵	دھن	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
نمبر (۳۶) بتاریخ ۲۲ ستمبر وقت صبح	سورج	کنیا	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	منگل	کرک	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	بدھ	سنگھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	برہسپت	برکھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	سکر	تلا	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	سنیچر	کرک	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	۲۱۵	دھن	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

آثار پھل اور اسباب حفظ صحت

آثار دوسرا بھادون

تجارت سست رہے۔ رعایا میں فساد ہوں۔ بارش کافی طور سے ہو۔

پھل اور ترکاریاں

لیموں، لوکی، شلغم، پرول، تروئی، بھنڈی، گھیا، کھیرا، بھٹے، انار، سیب، سنگھاڑے بافراط مل سکتے ہیں۔

استعمال

علی الصباح اٹھنا، تالاب کی سیر کرنا، دریا میں نہانا، ہلکی غذا کھانا، ککڑیاں، چوسنا، سر میں مٹی لگانا مفید ہے۔

پرہیز

پان بغیر عادت کے کھانا، دن کا سونا، زیادہ حقہ پینا، دھوپ میں پھرنا، زیادہ تر محنت کرنا، چارپائی کا کپڑا مضر ہے۔

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
.	[illegible]						

ایام ہفتہ	اکتوبر سنہ ۱۹۱۷ عیسوی	ذی الحجہ سنہ ۱۳۳۵ ہجری	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	جدول آفتاب طلوع	جدول آفتاب غروب	جدول ماہتاب	اوقات طلوع و غروب قمر	ساعات سعد و نحس	[illegible]	یادداشت
دوشنبہ	۱	۱۴	۲۴	[illegible]	۱۵	۱۶	[illegible]	۶	۵ ۵۴			سعد	سنہ ۱۳۲۵ فصلی	
سہ شنبہ	۲	۱۵	۲۵	۲	۱۶	۱۷	۲	۶	۵ ۵۴			سعد		
چہارشنبہ	۳	۱۶	۲۶	۳	۱۷	۱۸	۳	۷	۵ ۵۳			نحس	شہادت عثمان ذی النورین رض	
پنجشنبہ	۴	۱۷	۲۷	۴	۱۸	۱۹	۴	۹	۵ ۵۱			سعد	گنیش چوتھ	
جمعہ	۵	۱۸	۲۰	۵	۱۹	۲۰	۵	۹	۵ ۵۱			سعد		
شنبہ	۶	۱۹	[illegible]	۶	۲۰	۲۱	۶	۱۰	۵ ۵۰			سعد	سنہ ۱۳۲۷ ف الٰہی	
یکشنبہ	۷	۲۰	۲	۷	۲۱	۲۲	۷	۱۱	۵ ۴۹			نحس		
دوشنبہ	۸	۲۱	۳	۸	۲۲	۲۳	۸	۱۱	۵ ۴۹			نحس	لچھمی اشٹک	
سہ شنبہ	۹	۲۲	۴	۹	۲۳	۲۴	۹	۱۲	۵ ۴۸			سعد		
چہارشنبہ	۱۰	۲۳	۵	۱۰	۲۴	۲۵	۱۰	۱۳	۵ ۴۷			سعد		
پنجشنبہ	۱۱	۲۴	۶	۱۱	۲۵	۲۶	۱۱	۱۳	۵ ۴۶			سعد	اینڈرا اکادسی	
جمعہ	۱۲	۲۵	۷	۱۲	۲۶	۲۷	۱۲	۱۵	۵ ۴۵			نحس		
شنبہ	۱۳	۲۶	۸	۱۳	۲۷	۲۸	۱۳	۱۶	۵ ۴۴			سعد	شہادت فاروق اعظم رض	
یکشنبہ	۱۴	۲۷	۹	۱۴	۲۸	۲۹	۱۴	۱۶	۵ ۴۳			سعد	عرس شیخ مصلح الدین اکبرآبادی	
دوشنبہ	۱۵	۲۸	۱۰	۱۵	۲۹	۳۰	۱۴	۱۷	۵ ۴۲			نحس		
سہ شنبہ	۱۶	۲۹	۱۱	۱۶	۳۰	۳۱	۲۰	۱۹	۵ ۴۱			نحس	تلا کی سنکرانت، شب سنبادشمی ۳	
چہارشنبہ	۱۷	۳۰	۱۲	۱۷	۳۱	[illegible]	[illegible]	۱۹	۵ ۴۱			سعد	رویت ہلال	
پنجشنبہ	۱۸	[illegible]	۱۳	۱۸	[illegible]	۱	۱	۲۰	۵ ۴۰			سعد	سنہ ۱۳۳۶ ہجری کا آغاز ۔ نو درگا	
جمعہ	۱۹	۲	۱۴	۱۹	۲	۲	۲	۲۱	۵ ۳۹			سعد		
شنبہ	۲۰	۳	۱۵	۲۰	۳	۳	۳	۲۱	۵ ۳۹			نحس		
یکشنبہ	۲۱	۴	۱۶	۲۱	۴	۴	۵	۲۲	۵ ۳۸			نحس		
دوشنبہ	۲۲	۵	۱۷	۲۲	۵	۶	۶	۲۳	۵ ۳۷			سعد	عرس بابا فرید شکر گنج رح	
سہ شنبہ	۲۳	۶	۱۸	۲۳	۶	۷	۷	۲۴	۵ ۳۶			سعد	درگا اشٹمی	
چہارشنبہ	۲۴	۷	۱۹	۲۴	۷	۸	۸	۲۵	۵ ۳۵			سعد	مہانومی	
پنجشنبہ	۲۵	۸	۲۰	۲۵	۸	۹	۱۰	۲۵	۵ ۳۵			سعد	بجے دسمی	
جمعہ	۲۶	۹	۲۱	۲۶	۹	۱۰	۱۱	۲۶	۵ ۳۴			۔	شب شہادت ۔ پاپانکشا اکادسی	
شنبہ	۲۷	۱۰	۲۲	۲۷	۱۰	۱۱	۱۲	۲۷	۵ ۳۳			۔	یوم عاشوراء	
یکشنبہ	۲۸	۱۱	۲۳	۲۸	۱۱	۱۲	۱۳	۲۸	۵ ۳۳			نحس		
دوشنبہ	۲۹	۱۲	۲۴	۲۹	۱۲	۱۳	۱۴	۲۸	۵ ۳۲			سعد	سوم شہدائے کربلا	
سہ شنبہ	۳۰	۱۳	۲۵	۳۰	۱۳	۱۴	۱۵	۲۹	۵ ۳۲			نحس	سرد پونو	
چہارشنبہ	۳۱	[illegible]	۲۶	۳۱	۱۴	۱۵	[illegible]	۲۹	۵ ۳۱			نحس		

ستاروں کی چال

ع	تاریخ	کنوار سمبت ۱۹۷۴ تتھ	گ	پ	نچھتر نام	گ	پ	جوگ نام	گ	پ	دنمان گ	دنمان پ	بھدرا ابتدا	بھدرا انتہا	چندرمان راس	گ	پ	ستاروں کی چال
پیر	۱	کنوار	۲۴	۲۳	اترابھادرپد	۱	۱۲	دھرو	۳۷	۱۶	۲۹	۳۲			میکھ	۵۷	۵۰	
منگل	۲	۲	۲۹	۴۸	اسونی	۵۵	۱۹	بیاگھات	۳۰	۳۳	۲۹	۲۹						
بدھ	۳	۳	۳۵	۵۰	بھرنی	۵۳	۲۱	ہرکھن	۲۳	۲۷	۲۹	۲۶	[illegible]	[illegible]				اترابھاگنی (۲) پرکنیا کے بدھ ۲۳ + ۴۲
جمعرات	۴	۴	۳۳	۴	کرتکا	۵۲	۲۷	بجر	۱۹	۳	۲۹	۲۳			برکھ	۸	۸	
جمعہ	۵	۵	۴۱	۱۹	روہنی	۵۲	۴۵	سدھ	۱۳	۳۶	۲۹	۱۹						نباکھا (۴) پر برچھیک کے سکر ۱۵ + ۵۸
ہفتہ	۶	۶	۴۰	۵۰	مرگسرا	۵۳	۵۷	بیتی پات	۱۱	۴	۲۹	۱۴	[illegible]		متھن	۲۳	۲۳	
اتوار	۷	۷	۳۱	۴۱	آردرا	۵۷	۷	بریان	۸	۳۲	۲۹	۱۲		[illegible]				
پیر	۸	۸	۳۲	۴۱	پونربس	۶۰	۰	پرگھ	۶	۵۹	۲۹	۸			کرک	۴۵	۷	اترادھاڈا (۱) کے سکر ۳۴ + ۴۰
منگل	۹	۹	۳۶	۴۵	پونربس	۱	۷	شیو	۶	۲۳	۲۹	۴						
بدھ	۱۰	۱۰	۴۱	۳	پوکھ	۶	۹	سدھ	۶	۲۹	۲۹	۲	[illegible]	[illegible]				چترا (۱) کے سورج ۱۴ + ۳۳
جمعرات	۱۱	۱۱	۴۵	۱۶	اشلیکھا	۱۱	۵۰	سادھ	۷	۳۲	۲۸	۵۹			سنگھ	۱۱	۵۰	
جمعہ	۱۲	۱۲	۵۰	۵۳	مگھا	۱۸	۱۴	شبھ	۸	۴۴	۲۸	۵۶						
ہفتہ	۱۳	۱۳	۵۵	۵۷	پورباپھالگنی	۲۴	۳۸	سوکل	۱۰	۱۳	۲۸	۵۲	[illegible]		کنیا	۴۱	۱۰	ہست (۱) کے بدھ ۳۰ + ۳۵
اتوار	۱۴	۱۴	۶۰	۰	اتراپھالگنی	۳۰	۴۴	برہم	۱۱	۲۵	۲۸	۴۸		[illegible]				
پیر	۱۵	۱۴	۰	۳۰	ہست	۳۶	۳۰	اینددر	۱۲	۲۵	۲۸	۴۴						اشلیکھا (۲) کے سنیچر ۱۲ + ۲۴
منگل	۱۶	۳۰	۴	۱۳	چترا	۴۰	۴۹	بیدھرت	۱۲	۲۱	۲۸	۴۰			تلا	۸	۳۴	چترا (۳) پرتلا کے سورج ۵۷ + ۲۶ - مہورت ۱۵
بدھ	۱۷	[illegible]	۲	۵۲	سواتی	۴۴	۴۷	بشکمبھ	۱۱	۴۰	۲۸	۳۶						
جمعرات	۱۸	۲	۰	۴۷	بساکھا	۴۶	۲۵	پریت	۹	۵۹	۲۸	۳۲			برچھیک	۳۰	۵۵	
جمعہ	۱۹	۳	۸	۴۹	انورادھا	۴۷	۲۵	ایوکھان	۷	۴۴	۲۸	۲۸	[illegible]					
ہفتہ	۲۰	۴	۶	۴۱	جیسٹھا	۴۷	۱۸	سوبھاگ	۳	۴۱	۲۸	۲۲		[illegible]	دھن	۴۷	۱۸	جیسٹھا (۱) کے سکر ۱۰ + ۰۲
اتوار	۲۱	۵	۵	۱۱	مول	۴۵	۴۲	اتگنڈ	۵۳	۳۳	۲۸	۲۰						چترا (۱) کے بدھ ۳۲ + ۲۷
پیر	۲۲	۶/۷	۱/۵۵	۵۱/۵۰	پورباکھاڑ	۴۳	۲۴	سوکرم	۴۶	۱۶	۲۸	۱۶	[illegible]		مکر	۵۷	۴۱	گھا (۱) پرسنگھ کے منگل ۴۰ + ۶
منگل	۲۳	۸	۵۲	۴۵	اتراکھاڑ	۴۰	۳۳	دھرت	۴۰	۲۵	۲۸	۱۲		[illegible]				بدھ پورب میں غروب ہوا ۱ + ۵۳ سواتی (۱) کے سورج ۳۰ + ۱۴
بدھ	۲۴	۹	۴۷	۱۵	سرون	۳۶	۵۷	شول	۳۳	۹	۲۸	۸						چترا (۲) پرتلا کے بدھ ۴۴ + ۵۵
جمعرات	۲۵	۱۰	۴۱	۲۸	دھنشٹا	۳۲	۵۰	گنڈ	۲۵	۲۶	۲۸	۴			کمبھ	۴	۵۷	
جمعہ	۲۶	۱۱	۳۵	۳۲	ست بھکھا	۲۸	۵۳	بردھ	۱۸	۴۱	۲۸	۰	[illegible]	[illegible]				
ہفتہ	۲۷	۱۲	۲۹	۳۵	پوربابھادرپد	۲۴	۴۷	دھرو	۹	۴۶	۲۷	۵۷			مین	۱۰	۴۹	
اتوار	۲۸	۱۳	۲۳	۵۷	اترابھادرپد	۲۰	۵۵	بیاگھات	۲	۱۷	۲۷	۵۴						کرتکا (۴) کے برہسپت ۱۸ + ۲۳
پیر	۲۹	۱۴	۱۸	۴۰	ریوتی	۱۷	۲۸	بجر	۳۷	۵۵	۲۷	۵۱	[illegible]	[illegible]	میکھ	۱۷	۲۸	
منگل	۳۰	۱۵	۱۴	۲	اسونی	۱۴	۳۵	سدھ	۴۱	۳۲	۲۷	۴۷						
بدھ	۳۱	کاتک	۱۰	۱۵	بھرنی	۲	۲۹	بیتی پات	۳۵	۵۳	۲۷	۴۳			برکھ	۲۷	۱۲	مول (۱) پردھن کے سکر ۵۵ + ۴۱

تقویم کواکب متعلقہ ماہ اکتوبر ۱۹۱۷ء

	گرہ	راس	انس	کلا	بکلا	گت	گتی
نمبر (۳۸) بتاریخ ۸ اکتوبر وقت صبح	سورج	کنیا	۲۱	۶	۵۱	۵۹	۲۲
	منگل	کرک	۲۱	۳۵	۲۰	۳۳	۵۰
	بدھ	کنیا	۵	۳۳	۵۷	۲۷	۴۴
	برہسپت	برکھ	۱۵	۲۹	۵۰	۱	۴
	سکر	برچھیک	۲	۲۶	۲۷	۳۸	۳۸
	سنیچر	کرک	۲۱	۳۸	۴۲	۴	۳۰
	[illegible]	دھن	۱۳	۵۲	۴۴	۳	۱۱
نمبر (۳۹) بتاریخ ۱۶ اکتوبر وقت صبح	سورج	کنیا	۲۹	۳	۶	۵۹	۳۸
	منگل	کرک	۲۶	۷	۲۱	۳۲	۵۰
	بدھ	کنیا	۱۲	۱۸	۱۹	۳۵	۵۶
	برہسپت	برکھ	۱۹	۲۵	۱	۲	۱۲
	سکر	برچھیک	۱۱	۳۰	۳۰	۴۵	۲
	سنیچر	کرک	۲۲	۱۶	۵۰	۴	۳۰
	[illegible]	دھن	۱۳	۲۷	۱۲	۳	۱۱
نمبر (۴۰) بتاریخ ۲۳ اکتوبر وقت صبح	سورج	تلا	۱۲	۱	۴۷	۵۹	۵۴
	منگل	سنگھ	۱	۶	۳۲	۳۳	۵۸
	بدھ	کنیا	۲۷	۱۳	۳۸	۹۵	۸
	برہسپت	برکھ	۱۸	۳۹	۵۲	۷	۱۴
	سکر	برچھیک	۱۹	۲۵	۴۳	۶۵	۲
	سنیچر	کرک	۲۲	۴۳	۹	۳	۲۸
	[illegible]	دھن	۲۰	۵	۰	۳	۱۱
نمبر (۴۱) بتاریخ ۳۰ اکتوبر وقت صبح	سورج	تلا	۱۳	۲	۱۵	۴۰	۸
	منگل	سنگھ	۲۱	۵۱	۴۷	۲۱	۲۷
	بدھ	تلا	۸	۵۱	۲۶	۱۳	۲۳
	برہسپت	برکھ	۱۸	۳۴	[illegible]	۴	۳۰
	سکر	برچھیک	۲۹	۳۳	۵۰	۶۵	۲
	سنیچر	کرک	۲۳	۷	۱۸	۳	۳۸
	[illegible]	دھن	۱۱	۴۲	۵۵	۳	۱

آثار پھل اور اسباب حفظ صحت

آثار کنوار

جا بجا دھان کے کھیت تباہ ہوں۔ تمام ملک میں بارش کا اوسط قریب ایک ہفتہ کے ہو۔ بعض مقامات پر فساد ہوں۔ اور متعصب لوگوں میں کشت وخون کی نوبت ہو جوار مکا باجرا قریب اوسط کے ہوں۔

پھل اور ترکاریاں

سیب اور سنگھاڑہ اروی۔ نارنگی خام آلو خرد

گول کدو۔ شریفہ۔ وغیرہ مل سکتا ہے۔

استعمال

نہار منہ کسی قدر پانی پینا۔ پلاؤ کھانا۔ جلاب لینا۔ کڑوی غذا کھانا۔ صبح کو چہل قدمی کرنا اور قدرتی چشمے سے نہانا۔ باغوں کی سیر کرنا صاف کپڑے پہننا مفید ہے۔

پرہیز

دہی کھانا۔ دھوپ میں رہنا۔ شب بیداری کرنا شبنم میں سونا گوشت کھانا۔ شراب پینا۔ گرم غذا کا استعمال۔ کھٹی چیز کھانا مضر ہے۔

یادداشت	تہوار	تاریخ	ایام ہفتہ
		1	پنجشنبہ
	کروا چوتھ	2	جمعہ
		3	شنبہ
		4	یکشنبہ
	عرس شیخ عبداللہ بھکاری گوالیاری رح	5	دوشنبہ
		6	سہ شنبہ
	اہوئی اسٹمک	7	چہارشنبہ
		8	پنجشنبہ
		9	جمعہ
	اما اکادسی	10	شنبہ
		11	یکشنبہ
	دھن تیرس	12	دوشنبہ
	روپ چودس	13	سہ شنبہ
	دیوالی	14	چہارشنبہ
	برچھیک سنکرانت ۔ گوبردھن پڑوا	15	پنجشنبہ
	رویت ہلال ۔ جم دوج	16	جمعہ
		17	شنبہ
		18	یکشنبہ
	ولادت امام محمد باقر رض	19	دوشنبہ
	سوامی کاتک چھٹھ	20	سہ شنبہ
		21	چہارشنبہ
	گوپا اسٹمی	22	پنجشنبہ
	وفات امام زین العابدین ۔ کنس لیلا	23	جمعہ
	دیو اٹھانی اکادشی	24	شنبہ
		25	یکشنبہ
		26	دوشنبہ
	بیکنٹھ چودس	27	سہ شنبہ
	گنگا اشنان ۔	28	چہارشنبہ
		29	پنجشنبہ
		30	جمعہ

دن	تاریخ	تتھ	گ	پ	نچھتر نام	گ	پ	جوگ نام	گ	پ	دنمان گ	پ	بھدرا ابتدا	انتہا	چندرمان راس	گ	پ	سیاروں کی چال
جمعرات	۱	۲	۷	۳۱	کرتکا	۱۲	۲۱	ہریان	۳۱	۸	۲۷	۴۱	[illegible]					
جمعہ	۲	۳	۵	۵۱	روہنی	۱۱	۲۷	پرکھ	۲۷	۱۵	۲۷	۳۸		[illegible]	متھن	۴۲	۰	
ہفتہ	۳	۴	۵	۲۹	مرگسرا	۱۲	۳۳	شیو	۲۴	۲۵	۲۷	۳۵						
اتوار	۴	۵	۶	۲۹	آردرا	۱۵	۱۱	سدھ	۲۲	۳۰	۲۷	۳۱						بساکھا (۱) کے بدھ ۳۱ + ۴۳ -
پیر	۵	۶	۸	۲۳	پونربس	۱۹	۱	سادھ	۲۱	۳۷	۲۷	۲۷	[illegible]	[illegible]	کرک	۳	۳	بساکھا (۱) کے سورج ۵۶ + ۲۹ -
منگل	۶	۷	۱۱	۵۵	پکھ	۲۳	۴۴	سبھ	۲۴	۳۸	۲۷	۲۵						
بدھ	۷	۸	۱۱	۱۲	اشلیکھا	۲۹	۲۴	سوکل	۱۴	۱۶	۲۷	۲۲			سنگھ	۲۹	۲۴	
جمعرات	۸	۹	۲۱	۵	مگھا	۳۵	۳۹	برہم	۲۳	۱۸	۲۷	۱۶	[illegible]					
جمعہ	۹	۱۰	۲۶	۱۵	پوربا پھالگنی	۴۳	۲	ایندر	۲۴	۴۰	۲۷	۱۵		[illegible]	کنیا	۵۸	۳۸	
ہفتہ	۱۰	۱۱	۳۶	۲۲	اترا پھالگنی	۴۸	۲۴	بیدھرت	۲۵	۵۸	۲۷	۱۲						
اتوار	۱۱	۱۲	۳۵	۵۴	ہست	۵۳	۵۵	بشکمبھ	۲۶	۵۲	۲۷	۹						بساکھا (۴) پر برچھیک کے بدھ ۰ + ۴۷ -
پیر	۱۲	۱۳	۲۹	۴۷	چترا	۵۸	۴۳	پریت	۲۷	۷	۲۶	۶	[illegible]		تلا	۲۶	۱۹	
منگل	۱۳	۱۴	۲۳	۲۷	سواتی	۶۰	۰	آیوشمان	۲۶	۳۳	۳۶	۳		[illegible]				پوربا کھاد (۱) کے سکر ۲۶ + ۲۱
بدھ	۱۴	۳۰	۴۴	۱	سواتی	۲	۴۷	سوبھاگ	۲۳	۵۶	۲۶	۵۹			برچھیک	۴۹	۱۷	انرادھا (۱) کے بدھ ۴۸ + ۴۸ -
جمعرات	۱۵	سدی	۴۴	۱۶	بساکھا	۴	۵۴	شوبھن	۲۲	۴۷	۲۶	۵۶						بساکھا (۴) پر برچھیک کے سورج ۵۲ + ۶ مہورت ۳۰ -
جمعہ	۱۶	۲	۳۴	۹	انرادھا	۶	۱۲	اتگنڈ	۱۹	۲۱	۲۶	۵۳						
ہفتہ	۱۷	۳	۴۰	۴۷	جیشٹھا	۶	۱۷	سوکرم	۱۴	۵۳	۲۶	۵۰			دھن	۶	۱۷	پوربا پھالگنی (۱) کے منگل ۱۱ + ۲۵ -
اتوار	۱۸	۴	۳۷	۳۰	مول	۵	۴	دھرت	۹	۳۰	۲۶	۴۶	[illegible]	[illegible]				
پیر	۱۹	۵	۳۳	۱۰	پوربا کھاد	۳	۱	شول	۳	۲۲	۲۶	۴۷			مکر	۱۷	۱۹	انرادھا (۱) کے سورج ۸ + ۴۱ -
منگل	۲۰	۶	۲۸	۲۲	اترا کھاد	۰	۱۱	بردھ	۴۸	۴۸	۲۶	۴۱						
بدھ	۲۱	۷	۲۲	۵۶	دھنشٹا	۵۲	۴۴	دھرو	۴۱	۴۲	۳۶	۳۷	[illegible]	[illegible]	کمبھ	۲۴	۴۱	
جمعرات	۲۲	۸	۱۴	۱۵	ست بکھا	۴۹	۴۲	بیاگھات	۳۳	۵۷	۲۶	۳۴						جیشٹھا (۱) کے بدھ ۵۳ + ۶۰ -
جمعہ	۲۳	۹	۱۱	۲۴	پوربا بھادرپد	۴۴	۳۲	ہرکھن	۲۶	۱۶	۲۶	۳۱			مین	۳	۴۹	بدھ پچھم سے طلوع ہوا - ۱۶ + ۳۲ -
ہفتہ	۲۴	۱۰ / ۱۱	۵ / ۵۴	۲۲ / ۴۵	اترا بھادرپد	۴۰	۳۲	بجر	۱۸	۲۲	۲۶	۲۷	[illegible]	[illegible]				
اتوار	۲۵	۱۲	۱۴	۵۲	ریوتی	۳۴	۱	سدھ	۱۰	۴۹	۲۶	۲۴			میکھ	۳۷	۱	سنیچر بکری ہوا - ۵۹ + ۵۶ -
پیر	۲۶	۱۳	۵۰	۱۷	اسونی	۲۴	۰	بتی پات	۳	۴۰	۲۶	۲۳						اترا کھاد (۱) کے سکر ۱۲ + ۳۱ -
منگل	۲۷	۱۴	۴۶	۴۰	بھرنی	۳۱	۴۳	پریگھ	۵۱	۵	۲۶	۲۱	[illegible]		برکھ	۴۶	۲۳	
بدھ	۲۸	۱۵	۴۴	۱	کرتکا	۳۰	۲۷	شیو	۴۶	۱۰	۲۶	۲۰		[illegible]				
جمعرات	۲۹	اگھن	۴۲	۲۸	روہنی	۳۰	۱۰	سدھ	۴۱	۴۷	۲۶	۱۹						مول (۱) پر دھن کے بدھ ۲۲ + ۴۴ - اترا کھاد ... کے سکر ۴۴ + ۲۴
جمعہ	۳۰	۲	۴۲	۱۶	مرگسرا	۳۰	۸	سادھ	۳۸	۲۴	۲۶	۱۸			متھن	۰	۲۹	

تقویم کواکب متعلقہ ماہ نومبر ۱۹۱۵ء

وقت	سیارہ	راس	انس	کلا	بکلا	گت	بگت
نمبر ۴۴ بتاریخ ۶ نومبر وقت صبح	سورج	تلا	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	منگل	سنگھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	بدھ	تلا	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	برہسپتی	برکھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	سکر	دھن	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	سنیچر	کرک	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	دھن	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
نمبر بتاریخ ۱۴ نومبر وقت صبح	سورج	تلا	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	منگل	سنگھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	بدھ	برچھیک	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	برہسپتی	برکھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	سکر	دھن	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	سنیچر	کرک	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	دھن	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
نمبر بتاریخ ۲۲ نومبر وقت صبح	سورج	برچھیک	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	منگل	سنگھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	بدھ	برچھیک	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	برہسپتی	برکھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	سکر	دھن	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	سنیچر	کرک	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	دھن	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
نمبر بتاریخ ۳۰ نومبر وقت صبح	سورج	برچھیک	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	منگل	سنگھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	بدھ	برچھیک	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	برہسپتی	برکھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	سکر	دھن	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	سنیچر	کرک	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	دھن	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

آثار پھل و اسباب حفظ صحت

آثار کاتک

کرانہ غلہ کپڑے اور چمڑے کی تجارت مین فائدہ ہے۔ فصل خریف اوسط درجے پر طیار ہو۔ مفسدین کو عدالت سے کافی سزائین ملین۔

پھل و ترکاریان

ترکاریان مطابق ماہ اکتوبر کے آلو بکثرت مولی حقندر لیمون شلغم بدرجہ اوسط اور شریفہ نارنگی بافراط مل سکتے ہین۔

استعمال

ترکے اٹھنا۔ ورزش کرنا پنڈلیون کے بال منڈوانا۔ چاء مع دودھ کے استعمال کرنا بھینس کا دودھ گرم کرکے پینا۔ ریشمی کپڑے حتی المقدور پہننا سرد پانی سے نہانا مفید ہے۔

پرہیز

آفتاب نکلنے تک سوتے رہنا۔ غذاے مرغن سرد کرکے کھانا اور انگریزی کپڑے مثل زین وشکن کے پہننا مضر ہے۔

نحس و سعد	یادداشت
نحس	
نحس	گنیش چوتھ
نحس	ولادت امام موسیٰ کاظم ع وفات امام علی رضا ع
سعد	
سعد	
نحس	چہلم شہدائے کربلا
نحس	
سعد	عرس حضرت شاہ مینا لکھنوی
سعد	
نحس	اودپتنا اکادسی
نحس	
سعد	آخری چہارشنبہ
نحس	
نحس	شہادت امام حسن
سعد	دکھن کی سنکرانت رویت ہلال ربیع
سعد	
نحس	
نحس	
نحس	
نحس	
سعد	عرس خواجہ قطب الدین رح
سعد	درگا اشٹمی
نحس	وفات امام حسن عسکری ع
سعد	موکشدا اکادشی
نحس	بڑا دن ۔ بیجنو وادشی
سعد	
نحس	ولادت آنحضرت خاتم النبیین خلافت صدیق اکبر رض
نحس	عرس پیران کلیر بدیع الدین شاہ مداری
سعد	
سعد	
نحس	

دن	دسمبر ۱۹۱۷	اگھن سمبت ۱۹۷۴ تتھ	گ	پ	نچھتر نام	گ	پ	جوگ نام	گ	پ	دنمان گ	پ	بھدرا ابتدا	انتہا	چندرمان راس	گ	پ	سیاروں کی چال
ہفتہ	۱	۳	۴۲	۲۶	اردرا	۳۳	۲۹	سبھ	۳۶	۱۷	۲۶	۱۶	[illegible]					
اتوار	۲	۴	۴۵	۵۰	پنرنس	۳۹	۴۸	سوکل	۴۴	۵۷	۲۶	۱۴			کرک	۲۰	۵۵	جیسٹھا(۱) کے سورج ۱۶+۱۶-
پیر	۳	۵	۴۹	۱۲	پوکھ	۴۱	۳۶	برہم	۴۴	۴۰	۲۶	۱۲						
منگل	۴	۶	۵۴	۳۷	اشلیکھا	۴۸	۵۸	ایندر	۴۵	۱۰	۲۶	۱۰	[illegible]		سنگھ	۳۹	۵۰	
بدھ	۵	۷	۵۸	۳۷	مگھا	۵۳	۶	بیدھرت	۳۶	۴	۲۶	۸		[illegible]				مول(۳) کو راہو آردرا(۲) کے گپت ۳۴+۳۹
جمعرات	۶	۸	۶۰	۰	پوروا پھاگنی	۵۹	۲۵	بسکمبھ	۳۷	۱۹	۲۶	۶						
جمعہ	۷	۸	۰	۵۲	اترا پھاگنی	۶۰	۰	پریت	۳۸	۳۶	۲۶	۵			کنیا	۱۶	۰	
ہفتہ	۸	۹	۸	۵۳	اترا پھاگنی	۵	۴۶	آیوشمان	۳۹	۳۵	۲۶	۳	[illegible]					
اتوار	۹	۱۰	۱۲	۲۴	ہست	۱۱	۲۰	سوبھاگ	۴۰	۷	۲۶	۲		[illegible]	تلا	۴۴	۰	
پیر	۱۰	۱۱	۱۴	۱۹	چترا	۱۶	۲۶	شوبھن	۳۹	۴۹	۲۶	۱						سردن(۱) کے سکر ۱۸+۱۵-
منگل	۱۱	۱۲	۱۳	۳۰	سواتی	۲۰	۳۷	اتگنڈ	۳۸	۳۶	۲۶	۰						
بدھ	۱۲	۱۳	۱۱	۳۳	بساکھا	۲۲	۲۶	سوکرم	۳۶	۲۸	۲۵	۵۹	[illegible]	[illegible]	برچھیک	۷	۴۴	
جمعرات	۱۳	۱۴	۷	۴۴	انرادھا	۲۴	۵۸	دھرت	۳۳	۲۰	۲۵	۵۸						
جمعہ	۱۴	۳۰	۲	۳۵	جیسٹھا	۲۵	۱۸	شول	۲۹	۹	۲۵	۵۷			دھن	۲۵	۲۰	
ہفتہ	۱۵	سدی	۱۸	۱۳	مول	۲۲	۴۴	گنڈ	۲۴	۱	۲۵	۵۶						مول(۱) پر دھن کے سورج ۲۰+۲۱ مہورت ۳۰-
اتوار	۱۶	۲	۱۴	۵۳	پوروا کھاڈ	۲۲	۲۰	بردھ	۱۸	۱۱	۲۵	۵۵			مکر	۳۶	۴۷	اترا پھاگنی(۱) کے منگل ۳۳+۲۳-
پیر	۱۷	۳	۱۰	۴۳	اترا کھاڈ	۱۹	۴۵	دھرو	۱۱	۳۶	۲۵	۵۳	[illegible]					
منگل	۱۸	۴	۵	۴۵	سرون	۱۶	۲۹	بیاگھات	۴	۳۱	۲۵	۵۲		[illegible]	کمبھ	۴۴	۳۵	
بدھ	۱۹	۵ / ۶	۰ / ۵۴	۴۴ / ۱۶	دھنشٹا	۱۲	۴۱	بجر	۴۹	۱۷	۲۵	۵۱						
جمعرات	۲۰	۷	۴۸	۴۸	ست بکھا	۸	۴۰	سدھ	۴۱	۴۷	۲۵	۴۹	[illegible]		مین	۵۰	۳۴	اشلیکھا(۱) کے سنیچر ۵۲+۵۹-
جمعہ	۲۱	۸	۴۲	۰	پوروا بھادرپد	۴	۲۲	بیتی پات	۳۲	۲۹	۲۵	۴۸		[illegible]				
ہفتہ	۲۲	۹	۳۶	۲۰	اترا بھادرپد	۰	۲۸	بریان	۲۵	۵۷	۲۵	۴۵			میکھ	۵۶	۵۰	
اتوار	۲۳	۱۰	۲۲	۳۶	اسونی	۵۳	۲۸	پرگھ	۱۸	۴۲	۲۵	۴۴						
پیر	۲۴	۱۱	۲۸	۶	بھرنی	۵۱	۱۵	شیو	۱۱	۵۱	۲۵	۴۴	[illegible]	[illegible]				بدھ بکری ہوا ۱۹+۳۴-
منگل	۲۵	۱۲	۲۳	۲۲	کرتکا	۴۹	۳۸	سدھ	۵	۳۶	۲۵	۴۵	۰		برکھ	۵	۵۱	
بدھ	۲۶	۱۳	۲۲	۳	روہنی	۴۹	۱۰	سادھ	۰	۱۱	۲۵	۴۶						بدھ پچھم مین غروب ہوا ۲۲+۲۳-
جمعرات	۲۷	۱۴	۲۰	۲۹	مرگسرا	۴۹	۵۱	سوکل	۵۲	۱۱	۲۵	۴۸	[illegible]	[illegible]	متھن	۱۵	۲۱	اترا پھاگنی(۲) پر کنیا کے منگل ۲۹+۱۷-
جمعہ	۲۸	۱۵	۲۰	۲۶	اردرا	۵۱	۴۵	برہم	۴۹	۳۱	۲۵	۴۹						پوروا بھادرپد(۱) کے سورج ۲۲+۲۹، دھنشٹا(۱) کے شکر ۳۸+۱۵
ہفتہ	۲۹	پوس	۲۱	۴۸	پنرنس	۵۴	۵۸	ایندر	۴۷	۵۱	۲۵	۵۱			کرک	۲۹	۹	
اتوار	۳۰	۲	۲۴	۱۷	پوکھ	۵۹	۲۲	بیدھرت	۴۷	۱۴	۲۵	۵۲	[illegible]					
پیر	۳۱	۳	۲۷	۵۲	اشلیکھا	۶۰	۰	بسکمبھ	۴۷	۲۶	۲۵	۵۳		[illegible]				

تقویم کواکب متعلقہ ماہ دسمبر ۱۹۱۷ع

نمبر / تاریخ	گرہ	راس	انش	کلا	بکلا	گت	بگت
نمبر (۲۶) بتاریخ ۷ دسمبر وقت صبح	سورج	برچھیک	۲۱	۲۹	۵۸	۶۱	۴
	منگل	سنگھ	۲۲	۲۳	۱۰	۴۷	۲
	بدھ	دھن	۱۰	۲۶	۱۵	۴۱	۵۶
	برہسپت	برکھ	۱۳	۳۹	۰	۶	۳۶
	شکر	کمبھ	۶	۵۲	۵۲	۵۶	۳۸
	سنیچر	کرک	۲۲	۵۶	۴۱	۰	۵۹
	ر ۱۵	دھن	۹	۴۱	۵۴	۳	۱۱
نمبر (۲۷) بتاریخ ۱۴ دسمبر وقت صبح	سورج	برچھیک	۲۸	۲۰	۳۹	۶۱	۱۰
	منگل	سنگھ	۲۵	۳۰	۵۴	۲۷	۲
	بدھ	دھن	۱۶	۵۲	۵۵	۵۶	۲۰
	برہسپت	برکھ	۱۲	۴۲	۱۸	۶	۲۶
	شکر	مکر	۱۳	۳۳	۳۶	۵۷	۲
	سنیچر	کرک	۲۳	۵۰	۵۳	۰	۵۹
	ر ۱۵	دھن	۹	۱۹	۳۵	۳	۱۱
نمبر (۲۸) بتاریخ ۲۱ دسمبر وقت صبح	سورج	دھن	۵	۴۷	۴۳	۶۱	۱۶
	منگل	سنگھ	۲۷	۵۷	۱۵	۱۹	۱۴
	بدھ	دھن	۲۲	۳	۲۵	۹	۸
	برہسپت	برکھ	۱۱	۵۷	۱۱	۸	۳۶
	شکر	مکر	۱۹	۵	۱۱	۲۲	۱۷
	سنیچر	کرک	۲۳	۴۰	۹	۲	۳۵
	ر ۱۵	دھن	۸	۵۷	۲۳	۳	۱۱
نمبر (۲۹) بتاریخ ۲۸ دسمبر وقت صبح	سورج	دھن	۱۲	۱۶	۱۸	۶۱	۲۱
	منگل	کنیا	۰	۹	۵۱	۱۵	۱۴
	بدھ	دھن	۲۱	۱۹	۵	۲۲	۴
	برہسپت	برکھ	۱۱	۱۹	۳	۴	۳۶
	شکر	مکر	۲۲	۵۹	۲۵	۲۲	۱۷
	سنیچر	کرک	۲۳	۲۱	۵۰	۲	۲۵
	ر ۱۵	دھن	۸	۳۵	۰	۳	۱۱

آثار پھل اور اسباب حفظ صحت

آثار اگھن

غلہ اور کرانہ ارزان ہو۔ گڑ اور شکر کا نرخ اوسط مین رہے۔ دودھ، دہی، گھی بافراط ہو۔ ایندھن اور کوئلہ گران ہو۔ کپڑے کی تجارت مین فائدہ رہے۔

پھل اور ترکاریان

ترکاریان مطابق ماہ نومبر کے آلو، شکرقند، سیم، گاجر بکثرت سبز مٹر، ننی پیاز، گوبھی، شلغم، کرم کلہ بقلت دستیاب ہون۔



استعمال

گلے اور کانون کو ہوا سے حفاظت مین رکھنا غذا لے گرم کھانا، چٹنی، پلاؤ کا استعمال، تازہ پانی پینا۔ چاء بادودھ کی پینا۔ زیادہ روئی کے کپڑے جس سے بدن مین گرمی قائم رہے پہننا مفید ہے۔

پرہیز

زیادہ گرم پانی سے نہانا، دھوئین دار کوئلون سے مکان گرم کرنا یا تاپنا، ایک یا کئی شخصون کا ایک ہی لحاف مین منہ بند کرکے سونا مضر ہے۔

تعطیلات ممالک متحدہ آگرہ و اودھ بابت سنہ ۱۹۱۷ع جنمین بعض تعطیلات پنجاب بھی شامل ہین۔

نام تعطیل	عدالت دیوانی: تاریخ تعطیل	عدالت دیوانی: نام یوم	عدالت دیوانی: تعداد	عدالت کلکٹری: تاریخ تعطیل	عدالت کلکٹری: نام یوم	عدالت کلکٹری: تعداد	کیفیت
نیو ایرس ڈے	یکم جنوری	دوشنبہ	۱	یکم جنوری	دوشنبہ	۱	
ولادت خاتم النبیین	۷ جنوری	یکشنبہ	۱	۷ جنوری	یکشنبہ	۱	
کھچڑاہی	۱۳- جنوری	شنبہ	۱	۰	۰	۰	
مونی اماوس	۲۳- جنوری	سہ شنبہ	۱	۰	۰	۰	
بسنت پنچمی	۲۷- جنوری	شنبہ	۱	۲۷- جنوری	شنبہ	۱	
گیارھوین شریف	۴- فروری	یکشنبہ	۱	۰	۰	۰	ضلع بہرائچ (اودھ) کے لیے۔
شیوراتری	۱۹ و ۲۰ فروری	دوشنبہ و سہ شنبہ	۲	۲۰ فروری	سہ شنبہ	۱	
ایش ویڈنس ڈے	۲۱ فروری	چہارشنبہ	۱	۰	۰	۰	اودھ اور پنجاب کے لیے۔
ہولی	۹ و ۱۰ مارچ	جمعہ و شنبہ	۲	۹ و ۱۰ مارچ	جمعہ و شنبہ	۲	
اکھون کا میلہ	۱۶ مارچ	جمعہ	۱	۰	۰	۰	لکھنؤ فیض آباد سیتاپور رائے بریلی مین
درگا اشٹمی	۳۰ مارچ	جمعہ	۱	۰	۰	۰	اودھ اور پنجاب کے لیے
رام نومی	۳۱ مارچ	شنبہ	۱	۳۱ مارچ	شنبہ	۱	
گوڈ فرائے ڈے	۶- اپریل	جمعہ	۱	۶- اپریل	جمعہ	۱	
ایسٹر	۷ تا ۹- اپریل	شنبہ تا دوشنبہ	۳	۷ تا ۹- اپریل	شنبہ تا دوشنبہ	۳	
ولادت حیدر کرار	۳- مئی	پنجشنبہ	۱	۰	۰	۰	اودھ کے لیے
مہابیر کا میلہ	۱۵ مئی	سہ شنبہ	۱	۰	۰	۰	لکھنؤ اور فیض آباد کے لیے
میلہ بھدر کالی	۱۷ مئی	پنجشنبہ	۱	۰	۰	۰	پنجاب کے لیے
سوموار اماوس	۲۱ مئی	دوشنبہ	۱	۲۱- مئی	دوشنبہ	۱	
وکٹوریہ ڈے	۲۴ مئی	پنجشنبہ	۱	۲۴ مئی	پنجشنبہ	۱	
نرجلا اکادشی	یکم جون	جمعہ	۱	۰	۰	۰	پنجاب کے لیے
سالگرہ حضور قیصر ہند	۳ جون	یکشنبہ	۱	۳ جون	یکشنبہ	۱	
شب برات	۵ جون	سہ شنبہ	۱	۵ جون	سہ شنبہ	۱	
چندر گرہن	۴ جولائی	چارشنبہ	۱	۴ جولائی	چہارشنبہ	۱	تعطیل بیاس پوجا شامل ہے
جمعۃ الوداع	۱۳ جولائی	جمعہ	۱	۱۳ جولائی	جمعہ	۱	
عید الفطر	۲۱ و ۲۲ جولائی	شنبہ و یکشنبہ	۲	۲۱ جولائی	شنبہ	۱	
ناگ پنچمی	۲۴ جولائی	سہ شنبہ	۱	۰	۰	۰	
سلونو	۳- اگست	جمعہ	۱	۳- اگست	جمعہ	۱	
جنم اشٹمی	۹ و ۱۰- اگست	پنجشنبہ و جمعہ	۲	۱۰ اگست	جمعہ	۱	
عید الضحیٰ	۲۷ و ۲۸ ستمبر	پنجشنبہ و جمعہ	۲	۲۷ ستمبر	پنجشنبہ	۱	
اننت چودس	۲۹ ستمبر	شنبہ	۱	۲۹ ستمبر	شنبہ	۱	
مہالیا اماوس	۱۶- اکتوبر	سہ شنبہ	۱	۱۶- اکتوبر	سہ شنبہ	۱	
تعطیل کلان	۲۱- اکتوبر تا ۱۹ نومبر	جمعہ تا دوشنبہ	۳۰	۰	۰	۰	ممالک متحدہ کے لیے
[illegible]							
دسہرہ	۰	۰	۰	۲۲- تا ۲۵- اکتوبر	دوشنبہ تا پنجشنبہ	۴	
محرم	۰	۰	۰	۲۵- تا ۲۷- اکتوبر	پنجشنبہ تا شنبہ	۳	یوم اول شامل تعطیل دسہرہ
دیوالی	۰	۰	۰	۱۴ و ۱۵ نومبر	چارشنبہ و پنجشنبہ	۲	
کاتکی اشنان	۲۸ نومبر	چارشنبہ	۱	۲۸ نومبر	چارشنبہ	۱	
چہلم	۶- دسمبر	پنجشنبہ	۱	۶ دسمبر	پنجشنبہ	۱	
آخری چہارشنبہ	۱۲- دسمبر	چارشنبہ	۱	۰	۰	۰	پنجاب کے لیے
بڑا دن	۲۴ تا ۳۱- دسمبر	دوشنبہ تا دوشنبہ	۸	۲۴ تا ۳۱ دسمبر	دوشنبہ تا دوشنبہ	۸	

نوٹ

ہر یکشنبہ کو جو سال حال کے اندر واقع ہو تعطیل ہوگی اہل اسلام کی تعطیلین بسبب فرق رویت کے ایکدن آگے پیچھے ہوسکتی ہین علاوہ ایام مندرجہ بالا کے جب کبھی سورج گرہن ہو تو اسی دن اور جب کبھی چاند گرہن ہو تو اسکے دوسرے دن تعطیل متصور ہوگی۔ مزید بران وہ ایام واقع تعطیل دسہرہ کے جنکو مال اور دیگر صیغوں مین جو عاملانہ کارروائی کرتے ہین تعطیلات مندرجہ گزٹ ہو تو عدالتہائے جج و سشن جج مین ایام تعطیل متصور ہوگی،

تنبیہ ضلع دیرہ دون کی عدالتہائے دیوانی مین تعطیل دسہرہ کے عوض ایک مہینے کی تعطیل من ابتداے ۱۶ دسمبر سنہ ۱۹۱۷ع لغایت ۱۵ جنوری سنہ ۱۹۱۸ع ہوگی۔ جب صاحب جج ضلع سہارنپور کا اجلاس بمقام دیرہ دون ہو تو انکی عدالت اس استثنا متعلقہ قاعدہ عام مین داخل ہوگی، ہر مہینے کے آخر ہفتہ کو عدالتہائے مال مین تعطیل ہوسکتی ہے،

جنتری برآورد تنخواہ ایک روز ہر مہینے کا ایک روپے سے دس ہزار روپے تک

تنخواہ	۲۸ یوم روپیہ	۲۸ یوم آنہ	۲۸ یوم پائی	۳۰ یوم روپیہ	۳۰ یوم آنہ	۳۰ یوم پائی	۳۱ یوم روپیہ	۳۱ یوم آنہ	۳۱ یوم پائی
عہ	۰	۰	۷	۰	۰	۶	۰	۰	۶
عگار	۰	۱	۲	۰	۱	۱	۰	۱	۰
سے	۰	۱	۹	۰	۱	۷	۰	۱	۷
للعہ	۰	۲	۳	۰	۲	۲	۰	۲	۱
صہ	۰	۲	۱۰	۰	۲	۸	۰	۲	۷
سکہ	۰	۳	۵	۰	۳	۲	۰	۲	۱
معہ	۰	۴	۰	۰	۳	۹	۰	۳	۷
سے	۰	۴	۷	۰	۴	۳	۰	۴	۲
لعہ	۰	۵	۲	۰	۴	۱۰	۰	۴	۸
عہ	۰	۵	۹	۰	۵	۴	۰	۵	۲
لعہ	۰	۶	۳	۰	۵	۱۰	۰	۵	۸
عہ	۰	۶	۱۰	۰	۶	۵	۰	۶	۲
	۰	۷	۵	۰	۶	۱۱	۰	۶	۹
	۰	۸	۰	۰	۷	۶	۰	۷	۳
	۰	۸	۷	۰	۸	۰		۷	۹
	۰	۹	۲	۰	۸	۶	۰	۸	۳
	۰	۹	۹	۰	۹	۱	۰	۸	۹
	۰	۱۰	۳	۰	۹	۷	۰	۹	۳
	۰	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۲	۰	۹	۱۰
	۰	۱۱	۵	۰	۱۰	۸	۰	۱۰	۴
	۰	۱۲	۰	۰	۱۱	۲	۰	۱۰	۱۰
	۰	۱۲	۷	۰	۱۱	۹	۰	۱۱	۴
	۰	۱۳	۲	۰	۱۲	۳	۰	۱۱	۱۰
	۰	۱۳	۹	۰	۱۲	۱۰	۰	۱۲	۵
	۰	۱۴	۳	۰	۱۳	۴	۰	۱۲	۱۱
	۰	۱۴	۱۰	۰	۱۳	۱۰	۰	۱۳	۵
	۰	۱۵	۵	۰	۱۴	۵	۰	۱۳	۱۱
	عہ	۰	۰	۰	۱۴	۱۱	۰	۱۴	۵
	عہ	۰	۷	۰	۱۵	۶	۰	۱۵	۰
سہ	عہ	۱	۲	عہ	۰	۰	۰	۱۵	۶
	عہ	۱	۹	عہ	۰	۶	عہ	۰	۰
	عہ	۲	۳	عہ	۱	۱	عہ	۰	۶
	عہ	۲	۱۰	عہ	۱	۷	عہ	۱	۱
	عہ	۳	۵	عہ	۲	۲	عہ	۱	۷
	عہ	۴	۰	عہ	۲	۸	عہ	۲	۱
	عہ	۴	۷	عہ	۳	۲	عہ	۲	۷
	عہ	۵	۲	عہ	۳	۹	عہ	۳	۱
	عہ	۵	۹	عہ	۴	۳	عہ	۳	۷
	عہ	۶	۳	عہ	۴	۱۰	عہ	۴	۲

تنخواہ	۲۸ یوم روپیہ	۲۸ یوم آنہ	۲۸ یوم پائی	۳۰ یوم روپیہ	۳۰ یوم آنہ	۳۰ یوم پائی	۳۱ یوم روپیہ	۳۱ یوم آنہ	۳۱ یوم پائی
للعہ	عہ	۶	۱۰	عہ	۵	۴	عہ	۴	۸
	عہ	۷	۵	عہ	۵	۱۰	عہ	۵	۴
	عہ	۸	۰	عہ	۶	۵	عہ	۵	۸
	عہ	۸	۷	عہ	۶	۱۱	عہ	۶	۴
	عہ	۹	۲	عہ	۷	۶	عہ	۶	۹
	عہ	۹	۹	عہ	۸	۰	عہ	۷	۳
	عہ	۱۰	۱	عہ	۸	۶	عہ	۷	۹
	عہ	۱۰	۱۰	عہ	۹	۱	عہ	۸	۳
	عہ	۱۱	۵	عہ	۹	۷	عہ	۸	۹
	عہ	۱۲	۰	عہ	۱۰	۲	عہ	۹	۳
صہ	عہ	۱۲	۷	عہ	۱۰	۹	عہ	۹	۱۰
	عہ	۱۵	۵	عہ	۱۳	۴	عہ	۱۲	۵
سہ	عگار	۲	۳	عگار	۰	۰	عہ	۱۵	۰
	عگار	۵	۲	عگار	۲	۸	عگار	۱	۶
معہ	عگار	۸	۰	عگار	۵	۴	عگار	۴	۲
	عگار	۱۰	۱۰	عگار	۸	۰	عگار	۶	۹
لہ	عگار	۱۳	۹	عگار	۱۰	۸	عگار	۹	۳
	سے	۰	۷	عگار	۱۳	۴	عگار	۱۱	۱۰
لعہ	سے	۳	۵	سے	۰	۰	عگار	۱۴	۵
	سے	۶	۳	سے	۲	۸	عگار	۱۵	۱۰
مار	سے	۹	۲	سے	۵	۴	سے	۳	۰
مار	معہ	۲	۳	سے	۱۰	۸	ے	۷	۳
سار	عہ	۱۱	۵	عہ	۰	۰	لعہ	۱۰	۱۰
اکار	للعہ	۱۴	۷	عہ	۵	۸	عہ	۱۴	۵
صار	عہ	۱۳	۹	عہ	۱۰	۵	عہ	۲	۱
سار	عہ	۶	۱۰	عہ	۰	۸	عہ	۵	۰
لیار	عہ	۰	۰	عہ	۵	۴	عہ	۹	۳
لہار	عہ	۹	۲	عہ	۱۰	۸	عہ	۱۲	۱۰
کار	عہ	۲	۳	سار	۰	۰	عہ	۰	۶
الستہ	عہ	۱۱	۵	عہ	۵	۴	عہ	۴	۳
	عہ	۶	۱۰	عہ	۱۰	۸	عہ	۸	۴
	امعہ	۲	۳	مار	۰	۰	عہ	۱۲	۵
		۱۳	۹		۵	۴		۰	۶
		۹	۲		۱۰	۸		۴	۸
		۴	۰	مار	۰	۰		۸	۹
		۰	۰		۵	۴		۱۲	۱۱
		۱۱	۵		۱۰	۸		۱	۰
		۶	۱۰	سار	۰	۰		۵	۲
		۲	۳		۵	۴		۹	۳

علم قیافہ

گذشتہ اشاعت سے آگے

جولیا ڈومنا

جولیا ڈومنا جس کی تصویر درج ذیل ہے جزیرہ کیوبا کی باشندہ ہے جو ایک مستند سر اور موزون چہرہ رکھتی ہے۔ اسکی صورت مین ہر ایک ادا ایسی ہے جس کی نسبت ہر دیکھنے والے کا خیال اچھا پیدا ہوتا ہے جیسا سر ویسا ہی چہرہ ہے۔ اور دونون مین موزون طریقے کی مطابقت ہے۔ اور اسی طرح اس کے جسم کے ہر حصے مین تمام اعضا کو ایک دوسرے سے مناسبت ہے۔

جولیا ڈومنا۔

مگر اس کے بعد ایک دوسری تصویر ہے۔ جو مسماۃ پالی لوڈین کی ہے۔ اور جس کی عادتین اور خصلتین جولیا ڈومنا سے قریب قریب بر عکس ہین۔ یہ مقام فلی ڈلفیا مین پیدا ہوئی اور اپنی عمر مین مختلف مقامات کی سیر کرتی رہی اور جا بجا بود و باش بھی کرتی رہی۔ اسکا قیافہ ناظرین کی نکتہ چینی کے لیے بہت کچھ سامان موجود رکھتا ہو۔ اسکا سر کان سے اوپر اور گدی کی جانب جو خودداری اور ثابت قدمی کے مقامات ہین بظاہر ٹھیک بنا ہوا ہے۔ مگر چندیا کا درمیانی حصہ دھسا ہوا ہے تمام سر مین ایک خط بھی ایسا نہین رہا جو اپنی حیثیت اور اپنی موزونیت مین درست معلوم ہوتا ہے۔ ہر چند کہ اسمین حکومت اور طاقت کے چند علامات نمایا ہین۔ مگر وہ غرور، ضد، جوش، اور غضب کی صورت مین ہمیشہ ظاہر ہوتے رہتے ہین۔ کافی سمجھ اور کچھ ... بری کی قابلیت بھی پائی جاتی ہو گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اُسکا مصرف ہمیشہ خودغرضی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اصلی خوبی زائل ہو جاتی ہے۔ اگر ہونٹون پر ہر وقت خشکی نہ رہتی ہوتی اور اُسکی کھال دانتون سے نوچی ہوئی نہ ہوتی تو اُس کا دہانہ شائد قابل محبت ہوتا۔ مگر موجودہ حالت مین غیر مانوس اور نا قابل پسند ہے۔ ناک جو لمبی اور ستوان ہے وہ ذلت اور حقارت کا نمونہ ہونے کی وجہ سے چوڑے سر اور اونچی چندیا سمیت ناموزون اور قابل نفرت معلوم ہوتی ہے۔

مدت ہوئی کہ یہ عورت جزیرہ اسٹاٹن مین بود و باش رکھتی تھی اور ایک مرد کا اس سے تعلق تھا۔ دوران دوستی مین اس عورت پر اُس مرد کے قتل کا الزام لگایا گیا اور یہ عورت سپرد عدالت ہوئی۔ مگر بہ سبب اپنی انتہائی چالاکی اور اعلی درجہ کی ذہانت کے رہا ہو گئی۔

یہ عورت اپنے سر اور چہرہ کی بناوٹ کی وجہ سے جس شخص پر تیز نظر ڈالتی ہے اُسکے حلیہ کی تمام خاص باتون کو تاڑ لیتی ہے۔ جب اُس کا گذر کسی آباد اور گنجان سڑک سے ہوتا ہے۔ تو وہ ایک طرف اُن لوگون پر نظر ڈالتی جاتی ہے۔ جو الھڑپنے سے اپنی جسمانی آرائش کی کوئی فکر نہین کرتے اور دوسری طرف اُن لوگون کو علیحدہ نظر سے دیکھتی جاتی ہے۔ جو مغرور، شوقین، خوش لباس، اور اپنے آپ کو سنوارنے والے ہین۔

پالی لوڈین

اب ہم آگے چلکر ایک ایسے شخص کا خاکہ درج کرتے ہین۔ جس سے زمانہ کسی وقت مین موافق رہا ہے۔ اگرچہ اب وہ ادبار کے قریب پہنچ گیا ہے۔ مگر یہ شخص دوبارہ اقبال مند ہونے کی اُمید رکھتا ہے۔ اُس کا چہرہ اچھا خاصہ ہے اور کسی زمانہ مین اس سے زیادہ عمدہ تھا۔ وہ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ مدتون اُس کی تجارت اور اُسکا کاروبار اعلیٰ حیثیت سے چلتا رہا۔ اور وہ غور، توجہ اور مستعدی سے اپنے کام کو چلاتا رہا۔ زمانہ تعلیم سے لیکر اس وقت تک اخبار بینی کا شوق رکھتا تھا۔ وہ امریکہ کی ریپبلک حکومت کے مسائل کو بڑے غور سے پڑھتا تھا۔ وہ فرانس اور جرمن کی جنگ کے واقعات کو نہایت دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ وہ روم اور روس کی لڑائی کے نتائج پر طویل بحث کرکے اپنا اور اپنے دوستون کا دل خوش کیا کرتا تھا۔ یہان تک کہ وہ رفتہ رفتہ ہر ایک پالی ٹیکس مین دخل دینے لگا۔ اور اس فیشن کے لوگ اسکے گرد اگرد زیادہ جمع ہونے لگے۔ کاروبار مین تفرق پڑنے لگا غفلت اور لاپرواہی بڑھنے لگی محنت سے جی چرانے لگا۔ اب یا تو اُسکو پالی ٹیکس سے تعلق رہتا تھا یا اس خیال سے فارغ ہونیکے بعد لہو لعب اور سامان عیاشی مین مشغول ہوجاتا تھا۔ لہذا وہ ترقی سے تنزل کی تاریک راہ مین آگیا۔ اب اُس کے تجارتی تعلقات قطع ہوتے جاتے ہین اور کاروبار مین ابتری بڑھتی جاتی ہے۔ اب ہم اُس کو بجائے ایک بڑے آفس مین نشست کرنے کے شراب خانے کے دروازہ پر چند اوباش دوستون کے ساتھ ریپبلک حکومت کی ممبری اور اپنے حلقے کے کسی اُمیدوار کے انتخاب پر لاطائل بحث کرتا ہوا پاتے ہین۔

اُس کا سر لمبا ہے اور پیشانی سے گُدّی کی جانب پتلا پن ہے۔ نیز کوئی بات اُسمین ایسی نہین ہے جس سے اُس کے اندرونی چال چلن کا پتہ چل سکتا ہو۔ سر اُس کا پیشانی کے قریب کسی قدر چوڑا ہے۔ مگر دونون کانون کے درمیان تک آتے آتے تنگ ہوگیا ہے یہی سبب ہے کہ اُس کی ٹوپی اوپر سے چپٹی ہوگئی ہے۔

کثرت عیاشی اور عادت مے خواری نے اُسکے چہرے مین کوئی نمایان زیبائش باقی نہین رکھی۔ مگر تاہم اُس مین بعض ایسی باتین موجود ہین جس سے اُس کی پچھلی خوش حالی اور گذشتہ فارغ البالی کا کچھ کچھ پتہ چلتا ہے۔

اُس کے متردد اور متفکر چہرے سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُس کا کوئی سخت دشمن اُس کے تعاقب مین ہے۔ اور یہ وہ دشمن ہے جس سے ابھی تھوڑی دیر ہوئی وہ شغل کر رہا تھا۔ "یعنی شراب" اگر اس شخص مین صحبت بد اور عادت مے خواری نہ تی تو وہ ایک شریف آدمی ہوتا اور کامیاب زندگی حاصل کرتا۔

ایک پولیٹیشن

اب اس کے بعد ہم ایک دوسرے شخص کی تصویر صفحہ آئندہ پر درج کرتے ہین۔ جو خود آرائی خودنمائی کا پتلا اور سر سے پیر تک ایک بانکا اور چھیلا نظر آتا ہے۔ محبت، غرور، احتیاط، اور خود رائی کے سبب اُس نے اپنی حالت کو زیادہ موزون بنا رکھا ہے۔ اُس کی پست پیشانی پر جو بالون کا جھنڈ دکھائی دیتا ہے۔ ضرورت تھی کہ وہ بہت بدنما نظر آتا۔ مگر مسٹر ٹریڈراپ اُس کو بڑی احتیاط کے ساتھ ہر وقت سنوارے اور بنائے رکھتا ہے۔ ممکن نہین کہ اُس مین کسی وقت ژولیدگی اور اُلجھاؤ پیدا ہو جائے۔ اُس کے سر اور پیشانی سے ظاہری اور فوری کارروائی کی عقل کا مادّہ پایا جاتا ہے۔ اور مزید بران چندیہ کا بالائی حصّہ اور سر کا پورا ہونا فوقیت پر فوقیت رکھتا ہے۔

اُسکی جسمانی پوشش سراپا موزون ہے۔ گلے کا کالر جانی اُو

سامان ناموزون۔ خوبصورت بٹنون سے سجا ہوا کوٹ۔ گیٹیس دار پتلون۔ گھڑی کی بھاری زنجیر۔ اِن سب سامان کے ساتھ اُس کا ایک خوبصورت انداز سے اُن ہاتھون کا ہلانا جس مین وہ ایک ایڈریس کا مسودہ کسی افسر کی خدمت مین دینے کو لیئے جاتا ہے دیکھنے والون کو نہایت پسندیدہ نظر آتا ہے۔ اُس کا حلیہ سر سے پاؤن تک ظاہر کرتا ہے۔ کہ وہ خوش رفتار اور خوش گفتار اور اپنے زمانے کا خوش وضع بھی ہے۔

مسٹر ٹروٹیڈراپ جو عزت نمائی کا مشتاق اور طرز و فیشن کا موجد ہے۔ اُس کی زندگی محبت کا ایک خواب ہے۔ وہ اگرچہ نرم مزاج مہذب ہے نیز زندگی کے لطف کا خواہش مند بھی ہے۔ مگر بے فیضی اور بے رحمی اور ظاہری نمائش کے ساتھ۔

جیسا مسٹر ٹروٹیڈراپ ہے اس طبیعت کے لوگ اگر روپے والے ہو جائین اور عادات عیاشی سے بچ جائین تو کوئی تعجب کی بات نہین ہے کیونکہ اُنکی زندگی بھر خود غرضی اور خود پسندی کا عنصر اُن کے ہر کام مین رہنما رہتا ہے۔ کیا عجب کہ ایسے لوگ دوسرون کے لیے قابل رشک نہون۔ مگر یہ ضرور ہے کہ وہ طعن و تشنیع خلائق کا شکار ہونے سے نہ بچ سکین گے۔

اب اس کے بعد ہم صفحہ آئندہ پر دو تصویرین آگے پیچھے درج کرتے ہین۔ جن مین ایک ذی علم اور مہذب کی۔ اور دوسری جاہل اور نامہذب کی ہے۔ پہلا شخص ذہانت، تہذیب، اخلاق، اور اونچی تعلیم کا نتیجہ ہے جسمانی ورزش اور محنت کے کامون سے (جو اگرچہ سادہ ہین مگر انسان کی زندگی کے لیئے بطور نعمت کے ہین) بے پرواہ ہے۔ البتہ تہذیب نفس مین اس قدر ترقی کر گیا ہے کہ روزانہ زندگی کے کام کا نرہا۔

دوسرا شخص اخلاق، ذہانت، اور نیکی سے بالکل بے بہرہ ہے۔ وحشت اور دیگر حرکات رذیلہ اُس مین بہت کچھ اثر کیئے ہوے ہین۔ دونون مین غور کرنے کا مادّہ ہے۔ مگر ایک مین اچھی باتون پر دوسرے مین بُری باتون پر۔ دو چیزین انسان کی ترکیب اعضا پر اپنا بڑا اثر ڈالتی ہین۔ ایک لباس اور دوسری تندرستی۔ اور ہر قیافہ شناس کو ان دونون تصویرون سے اِن دونون باتون مین مدد مل سکے گی۔

مسٹر ٹروٹیڈراپ

پہلے شخص کا چال چلن بتلاتا ہے کہ اُس کا تعلق درسگاہون سے ہے۔ وہ پالیٹیشن نہین ہے مگر نکات علمی کا سوچنے والا ہے۔ وہ ہر وقت مسائل علمی کی اُدھیڑ بُن مین رہتا ہے۔ وہ جب راہ مین چلتا ہے تو اپنے ہاتھ پشت کی جانب ایک دوسرے پر رکھ لیتا ہے۔ اُسکا راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر جس خیال مین وہ ڈوبا ہوتا ہے وہ ہنوز ختم نہین ہوتا۔ استقلال اور خودداری وغیرہ مین کمی پائی جاتی ہے کیونکہ سر آگے کو کسی قدر جُھکا ہوا ہے۔ جوش اور محسوسات بھی کمزور ہین۔ دماغ آگے کی جانب اور سر کے اعلیٰ حصّے مین ہے۔ اِس قسم کا شخص بے ضرر ہوتا ہے۔ بسا اوقات دیکھنے مین آیا ہے۔ کہ ایسا شخص تنہائی پسند اور سوچنے والا اور غیر متوجہ، اور کھویا ہوا سا

رہتا ہے۔ وہ راستہ چلتا ہے اور یہ نہین جانتا کہ کدھر جا رہا ہے۔ وہ اپنے علمی خیالات مین اِس قدر محو رہتا ہے۔ کہ بعض اوقات بھٹک جاتا ہے اور وقت بھول جاتا ہے۔ اور اپنے ملاقاتیون کو پہچاننے مین دھوکا کھا جاتا ہے۔ اُس کے قریب مختلف باتین ہوتی ہین۔ اور اُسکے گرد و پیش ہر طرح کے کام ہوتے ہین۔ مگر نہ وہ کسی بات کو خیال مین لاتا ہے اور نہ کسی بات پر ذہن لڑاتا ہے۔ اُس کی صورت خواب آلودہ اور دماغ ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ دیکھو اُس مین اور اُس کے بعد والے شخص مین (جو پیچھے کھڑا ہے) کتنا بڑا فرق ہے۔

اِس دوسرے شخص مین بدتمیزی بدنمائی، اور بھدّے پن کے تمام آثار ہویدا ہین۔ اُس کے پیرون، ٹانگون، رانون، بازوٗن جسم، کاندھون گردن، سر، چہرے وغیرہ مین کوئی ایک بات بھی ایسی نہین ہے۔ جسمین سادگی آسانی، اور پسندیدگی ہو۔ سر جسم کے تناسب سے چھوٹا ہے۔ اُس کا دماغ پستی کی جانب ہے۔ حالانکہ پہلے شخص کا دماغ بلندی کی طرف مائل ہے۔ پچھلا شخص پہلے کی ضد ہے۔ اُس کا چہرہ بُری ساخت کا بے ترتیب اور بدنما ہے۔ اُس کا دماغ وحشیانہ ہے۔ ذہانت، اخلاق، اور شان و شوکت کچھ نہین ہے قدرے قلیل عقل رکھتا ہے تو اُس کو اپنے حظ نفس کے لیئے سامان مہیا کرنے مین صرف کرتا ہے۔ ایسا آدمی بُرے افعال مین گرفتار ہوجاتا ہے۔ سوسائٹی اور قدرت کے خلاف پے در پے جرائم کرنے کے بعد ایک بار انصاف کے شکنجے مین دبایا جاتا ہے۔ لالچ، چوری، طمع، مکر، فریب، بے رحمی وغیرہ کا مجموعہ ہے۔ قرم ساقی اور ذلیل عیاشی اُسکا شیوہ ہے۔ اُس کے اعضا کی ساخت جس قسم کی واقع ہے یہ اُن لوگون مین پائی جاتی ہے۔ جن مین مفلسی، جہالت، اور سفاکی کئی پشت سے چلی آتی ہے۔

ایک مہذب فلسفی

ایک جاہل قرمساق

اِن دونون تصاویر مین اگلا شخص جو تفکرات و تصورات علمی مین ہر وقت محو رہنے والا ہے۔ یہ امریکہ کے ایک بڑے کالج کا پروفیسر ہے۔ اِسکی مثال کا ایک شاعر ہندوستان مین گذرا ہے۔ جو دلی کے آخری بادشاہ یعنے شاہ ظفر کا اُستاد تھا۔ نام شیخ ابراہیم اور تخلص ذوق تھا۔ اُسکے نسبت یہ نقل مشہور ہے کہ ایک مرتبہ قلعہ معلّےٰ مین کسی تخلیہ کے مقام پر استنجا کر رہا تھا۔ اور اُس کے دماغ مین کوئی شعر بھی ترتیب پا رہا تھا۔ لہذا وہ استنجے کی حالت مین محل شاہی کے اندر زنانہ درجے مین بے تکلف گھُسا چلا گیا۔ بیگمات شاہی نے اندر بھاگنا چاہا مگر بادشاہ نے یہ کہکر "کہ میرے اُستاد اِس وقت استغراق اور محویت مین ہین" سب کو بھاگنے سے روک دیا۔

اَب آئندہ صفحہ کے تین دائرون مین تین تصویرین ہین۔ پہلے اور

دوسرے دائرے میں دو ایسے دوستوں کے چہرے دکھلائے گئے ہیں۔ جو ابتدا میں اسکول سے کالج تک ساتھ پڑھتے رہے اور جنکے چہرون میں بہت مشابہت تھی۔ مگر اسی حالت میں دونوں کو دو زمانے ملنے سے، اور ذاتی طرزِ عمل اور چال چلن میں فرق آنے سے، نیز دماغ سے جُدا جُدا کام لیئے جانے سے، چالیس برس کی عمر میں پہونچنے تک دونون کے ظاہر میں اسقدر تغیر ہوگیا ہے کہ اب دونون کو ہمسر سمجھنا دشوار ہے۔

ایک غریب اور محنتی

پہلا چہرہ عمدہ، تندرست اور موزون معلوم ہوتا ہے۔ ذہانت اور ہنرمندی کا اُس پر اثر ہے۔ وہ جب اسکول میں تھا تو اپنے والدین کی مفلسی کے باعث ذاتی اخراجات کے واسطے اُس کو خود محنت کرنی پڑتی تھی۔ ہمسایہ میں ایک متوسط درجے کے حکیم کا خاندان آباد تھا۔ جس کے یہان دو گھوڑے اور ایک گائے اور چند ایکڑ زمین تھی۔ وہ حکیم اس کے مفلس خاندان کو اپنی زمین پر مُفت جگہ دیئے تھا اور متکفل بھی تھا۔ اس کے شکریہ میں یہ اُس کے گھر کا کام کاج کرتا تھا۔ اور اُسکے گھوڑے اور گائے کا خبرگیران رہتا تھا۔ جس سے اُسکی جسمانی ورزش ہوجایا کرتی تھی اور اُسکے خیالات میں مفید مضامین کے سوائے ناقص جذبات نہیں آنے پاتے تھے۔ مثلاً

ایک متوسط ذہین

اُس کو یہ فکر نہ تھی کہ کسی کسان کے آلوچے کے درخت توڑیئے۔ یا تربوز کی کیاریوں کو برباد کیجیئے۔ دوسرے نوجوانون کی طرح وقت کو برباد کیجیئے۔ یا یہ کہ کسی چاردیواری کے پھاٹک کے پٹ اُڑ کسی ترتیب سے اور سکین تو نکال لیجائیے۔ خاموشی کے وقت کسی گرجا کا گھنٹہ اُتار لائیے۔ یا گھنٹہ بجتے وقت اُسکی کوٹھ میں کسی کی بکری کا بچہ کھول لائیے۔ بہرحال وہ خیالات فاسدہ سے پاک تھا۔ نہ عمدہ کھانا کھانے کی چاٹ تھی نہ شراب کا عادی تھا۔ دن بھر کا تھکا ماندہ ہوتا تھا وقت پر سو رہتا تھا اور وقت سے پھر جاگ اُٹھتا تھا۔ اُس کو خاصی بھوک لگتی تھی اور کھانا ہضم ہوجاتا تھا۔ اسکول کی گھنٹی بجتے ہی حاضری کیلیئے تیار ہوجاتا تھا۔

ایک مغرور امیرزادہ

اب دوسری تصویر اُسکے برعکس ہے اسکے والدین کافی سرمایہ رکھتے تھے۔ اسکو بہت روپیہ خرچ کرکے پڑھاتے تھے۔ اسکول اور کالج کی تعلیم ایک طرف حاصل کرتا تھا اور مختلف تعلیم دینے والے گھر پر پڑھا جاتے تھے۔ طبیعت بہ نسبت تعلیم کے عیش و عشرت کی طرف مائل تھی۔ تاہم وہ طوعاً و کرہاً گریجویٹ ہوگیا تھا۔ خاندان امیر ہونے کی وجہ سے سرکش اور مغرور تھا۔ وہ اُن غریب اور محنتی طلبا کو جو اپنی کوشش اور محنت سے تعلیم حاصل کرکے علمی ڈگریان حاصل کرتے تھے حقیر اور ذلیل سمجھتا تھا۔ اور اپنے کو اُن سے افضل مانتا تھا۔ بچپن ہی سے آوارگی کے آثار پیدا ہوگئے تھے۔ اگرچہ اُسوقت تک دس برس کے لڑکون کو تباہ کرنیوالے سگرٹ بازارون میں جاری نہیں ہوئے تھے۔ تاہم وہ ہر قسم کے سگار بکثرت پینے کا مشتاق ہوچکا تھا کمسنی سے تھیٹرون، گھوڑدوڑون، اور کشتی کے دنگلون کا شائق ہوگیا تھا۔ والدین کے مرجانے سے تمام دولت کا مالک ہوا۔ ناتجربہ کار ہونے کی وجہ سے پہلے عیاشی میں اُسکے بعد مصیبت میں گرفتار ہوگیا۔ اُسکی مے نوشی بھیک کے پیسون پر آرہی۔ وہ ہر وقت متمنی رہنے لگا۔

کہ اگر کہین سے خیرات کی روٹی ملجائے تو اُس سے اپنے بیکار جسم اور ناپاک روح کو ایک ساتھ رکھ سکے۔ وہ شراب کے خالی پیپون کو نچوڑ کر اپنی مے نوشی کا خمیازہ بھگتا کرتا۔ اور زمین پر پڑے ہوئے سگار کی جھلسی ہوئی تمباکو نکال اور اپنے پائپ مین بھر کر خواہش پوری کرتا۔ کسی کوڑے کے ڈھیر پر کوئی پھٹی پرانی ٹوپی پڑی ہوئی مل جاتی تو اُسکو ادب سے سر پر رکھ لیتا اب اسوقت اُسکا چہرہ اُسکے پہلے والے چہرے سے مقابلہ کرنے کے قابل ہے دونون قریب قریب ہم عمر ہین۔ مگر انقلاب زمانہ سے بُعد المشرقین ہو گیا ہے۔ اگر اس ذلیل شخص کی کوئی غور اور پرداخت کرے۔ اور رہنے کو عمدہ جگھ اور کھانے کو نفیس غذا ملے۔ تو اسکا سن ابھی ایسا ہے کہ بدن تر و تازگی دکھانے لگے۔ آنکھون مین جو حلقے پڑے ہین زائل ہو جائین۔ سر کا طرز بدل جائے چہرے مین اُبھار پیدا ہو جائے۔ با این ہمہ ایک غور سے نظر ڈالنے والا اُسکی پیشانی کی شکنون، اُس کے رخسارو نکی تاریکی، اُسکے چہرے کی بے رونقی کو معلوم کرلیگا جو منحوس عیاشی کے سبب باقی رہ گئی ہین۔

علم قیافہ کے مسائل بہت باریک ہین۔ جن پر غور اور خوض کرنیکے واسطے اُسکے طالب علم کو ایک مدت درکار ہوتی ہے۔ مگر اُسی علم قیافہ مین بعض مسائل ایسے سہل اور بدیہی ہین جنکو ہر کس و ناکس فوراً جان لیتا ہے مثلاً ایک مغلوب الغضب اور قہر آلود چہرہ کسی شخص کا ہو۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے ایسے شخص کے پاس جانے سے گریز کرینگے۔ اور بجائے اُسکے کسی ایسے شخص سے زیادہ اُلفت اور محبت کرینگے جسکے چہرے مین حلم اور متانت ہو گی حالانکہ وہ بچے نہ مغلوب الغضب اور قہر آلود کے معنی سمجھتے ہین اور نہ حلم اور متانت کی تعریف سے آشنا ہین۔ علی ہذا القیاس بہت سے ایسے لوگونکو جرم سے بری کر دیتے ہین جن کے جُرم کا کافی ثبوت فراہم نہ ہو سکا ہو۔ مگر حاکم مجوز باوجود انکی بریت یا رہائی کے صاف جانتا ہے کہ اُسکا چہرہ مجرمانہ ہے۔

عورت ہو یا مرد چاہے وہ حسن ظاہری نہ رکھتا ہو۔ مگر اُسکا نیک چہرہ اپنی روشنی دکھائیگا۔ اور اگر وہ بد ہے تو اگرچہ کتنا ہی حسین ہو مگر بدی کی تاریکی اُسکے چہرے سے نمایان ہو گی۔ اور یہ علم قیافہ کے ایسے بدیہی مسائل ہین جنکا اثر چھوٹے اور بڑے سب پر پڑتا ہے جس شخص کی تصویر صفحہ گذشتہ کے دوسرے دائرے مین درج ہوئی ہے۔ وہ کوئی جرائم پیشہ نہین ہے مگر غرور کا شکار ہو گیا ہے۔ جسکی بدولت اُس سے کوئی محنت اور مشقت کا کام نہ ہو سکا۔ کاہلی اور تن پروری نے اُسکو ایسے عادات مین پھانس لیا جس سے اُسکے جسم کے اعضا اپنی ضروری حرکات سے نکمّے ہو گئے۔ اور اُسکی زندگی اُس کے لیے بلائے بے درمان ہو گئی۔

یہ ایک رئیس اور با عزت باپ کا بیٹا ہے۔ مگر ضرورت سے زیادہ لاڈ اور پیار مین پالا گیا۔ جس نے اُسکو دُنیاوی اور ضروری کامون سے نکمّا کر دیا اور بوجہ عیش پسندی کے نکمّے غرور کے ہاتھ تباہ ہو گیا۔

اب گذشتہ صفحہ کے تیسرے دائرے پر نظر ڈالنا چاہیئے۔ اس تصویر کا چہرہ لمبا، ٹھڈی بھاری بیرونی حصہ شاندار مگر کانون مین کسی قدر گہراؤ، اور ناک آگے کچھ کچھ بڑھی ہوئی ہے۔ اُسکی ذہانت ہر دعوے کے لیئے دلیل پیدا کرنے مین ایک خاص مہارت رکھتی ہے۔ وہ مہربان، نیک، اور صاف دل ہے جس قسم کی ٹھڈی رکھتا ہے اُسمین محبت کے آثار پائے جاتے ہین۔ مستعد اور طاقتور ہے اُسکا دل گھڑی کے پنڈلم کی طرح زور سے حرکت کرتا ہے۔ نہ وہ کسی کام مین جلدی کرتا ہے اور نہ وہ سُستی۔

(باقی آئندہ)

ہندوستان کی تجارت کن ممالک سے ہوتی ہے

نام مُلک	ہندوستان سے کیا جاتا ہے	وہان سے کیا آتا ہے۔
انگلستان	افیون کے سوا سب سے زیادہ تجارت ہندوستان کی	انگلستان کے ساتھ ہے۔
چین	افیون۔ روئی۔	ریشم۔ چائے۔
فرانس	روئی۔ قہوہ۔ نیل کے بیج۔ ریشم نیل	کپڑے۔ شراب۔ ادویہ۔
اٹلی	روئی۔ نیل	عمدہ ریشمی کپڑے۔
امریکہ	نیل۔ سن۔ چمڑہ۔ نیل کے بیج۔	مٹی کا تیل۔ ادویہ وغیرہ۔
آسٹریا	روئی۔ تیل۔ چمڑہ	کاغذ۔ ترکی ٹوپی۔ بساط خانہ وغیرہ
سیلون	چاول۔ جانور	مصالحہ۔ لکڑی۔ موتی۔
اسٹریٹ سیٹلمنٹ	روئی۔ افیون۔	مصالحہ۔ ریشم۔ ٹین
ماریشس	گیہون	شکر۔
ایران	کپڑا۔ چاول۔ نیل قہوہ۔	گھوڑے۔ میوہ جات۔ موتی۔ روئی۔ ریشم۔

قواعد ڈاک وتار برقی

	پوسٹ کارڈ		خط ملفوف تحریرات قلمی		نمونجات بغرض فروخت نمونہ	اخبارات رجسٹری شدہ	پارسل — پارسل کی جسامت وضع قطع اور بندش ایسی ہونا چاہئے کہ اسکا ڈاک مین جانا خالی از تکلف و اندیشہ نقصان ہو محصول پارسل وفیس رجسٹری پیشگی دینا لازم ہے۔
ہندوستان مع سیلون	اکہرا [illegible]	جوابی [illegible]	[illegible]	[illegible]	ہر ۱۰ تولہ یا جزو کیلئے (۲۰ تولہ سے زیادہ نہو)	[illegible]	رجسٹری غیر ضروری: ۴۰ تولہ تک، ہر ۴۰ تولہ یا جزو پر ۔ رجسٹری ضروری: ۴۰ تولہ سے ۴۸۰ تولہ تک؛ ۴۸۰ تولہ سے ۸۰۰ تولہ تک، ہر ۴۰ تولہ یا جزو پر
محصول	-/۳	-/۶	۱/ ، ۱/ ، /۰	/۰	/۰	/۰ ، /۰ ، -/۳	۲/ ، -/۵ ، ۴/

					اخبارات بشرح مطبوعات — کاروباری کاغذات یعنی قانونی و تجارتی دستاویزات وغیرہ	پارسل
ممالک غیر	اکہرا	جوابی	[illegible]	[illegible]	فی ۲ آونس / ۱۰ آونس زیادتی پر فی ۲ آونس	۱ آونس = ۲ تولہ ۵ ماشہ ۱/۲ رتی۔ ۱ پاونڈ = ۳۸ تولہ ۱۰ ماسہ ۵ ۱/۲ رتی۔ ۱۱ پاونڈ تک: براہ جبرالبر، براہ خشکی۔ ۵۰ پاونڈ تک: بذریعہ جہاز پی اینڈ او کمپنی فی پاونڈ
محصول	۱/	۲/	۱/ ، /۰۲ ، /۰	۱/ ، /۰	/۰۲ ، /۰	۱۲/ ، [illegible] ، -/۵ ، /۸

رجسٹری۔ جو شے ڈاکخانہ کے ذریعے سے روانہ کی جائے اسکی رجسٹری ۲/ ادا کرنے پر ہوسکتی ہے۔ اور ۳/ ادا کرنے پر رسید مرسل الیہ بھی آسکتی ہے۔

بیمہ۔ رجسٹری شدہ خطوط، ویلیو پی ایبل پارسل، برانچ پوسٹ آفسون مین صہ تک اور بڑے ڈاکخانون مین امعہ تک بیمہ کیے جاسکتے ہین۔

فیس بیمہ۔ ہر ۔ یا اسکی کسر پر۔ بیمہ ویلیو پی ایبلین ضروری نہین کہ اسی رقم کا بیمہ کیا جائے جو ویلیو مین ظاہر کیگئی ہے بلکہ اصلی قیمت مال کا بیمہ ہوسکتا ہے۔

ویلیو پی ایبل۔ بکمپیکٹ پارسل خطوط رجسٹری شدہ کا ویلیو الصہ تک ہوسکتا ہے۔

شرح فیس منی آرڈر

ہندوستان		ممالک غیر						
۱۰ تک فی صہ یا جزو پر	ہر صہ یا اسکی کسر پر اگر رقم صہ سے زائد ہو	۱ پونڈ تک	۲	۳	۴	۵	۵ پونڈ سے ۔۔ پونڈ تک	
۱/	۴/	۳/	۵/	۸/	۱۰/	۱۲/	۱۲/	

ایک منی آرڈر ساریا ۴۰ پونڈ تک ہوسکتا ہے۔ تار کے ذریعہ منی آرڈر بھیجنے مین علاوہ فیس منی آرڈر کے، تار کے الفاظ کا پورا محصول دینا ہوگا۔ دونون مین سے کسی قسم کا ہوسکتا ہے۔

شرح محصول تار برقی

ہندوستان و برما کے کسی دو مقام کے درمیان			
اکسپرس	۱۲ لفظ	۱۰	ہر مزید لفظ پر ۲/
معمولی	۱۲ لفظ	۶/	ہر مزید لفظ پر ۱/

باستثنائے اُس مقام کے نام کے جہان سے تار روانہ کیا جائے ہر طرح کے تار پر پتے کے جملہ الفاظ کا محصول عائد ہوگا خواہ تار اندرون ملک کا ہو یا بیرون ملک کا معمولی تار صبح ۶ بجے سے ۹ بجے رات تک تقسیم ہونگے۔

ممالک غیر — نام ملک	فی لفظ
سیلون	[illegible]
افغانستان و بلوچستان	[illegible]
کوچین و اراکان و [illegible]	[illegible]
جاپان	[illegible]
عدن	[illegible]
ترکی ایشیا	[illegible]
فارس [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
مصر	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

کانپور کی بڑی جنتری کا تاجرانہ نرخ

ان تاجران کتب اور ان خریداروں پر جو متعدد دوست احباب کی فرمایشات جمع کرکے یکجائی جنتریاں طلب کرتے ہیں مخفی نرہے کہ ہمنے جنتری ہذا کے نرخ میں تعداد خریداری کے ساتھہ پر بہت زیادہ کمی کردی ہے تاکہ ہر صاحب کثرت خریداری کے ساتھہ حسب حیثیت فائدہ حاصل کرسکیں چنانچہ اس کا نرخ حسب ذیل درج ہے۔

جنتری درجہ اول کا نرخ

ایک جلد کے خریدار کو ... فی جلد ... ۱۴؍
پانچ جلد کے خریدار کو ... فی جلد ... ۱۴؍
دس جلد کے خریدار کو ... فی جلد ... ۱۲؍

جنتری درجہ دوم کا نرخ

ایک جلد کے خریدار کو فی جلد ۸؍
پانچ جلد کے خریدار کو فی جلد ۷؍
دس جلد کے خریدار کو فی جلد ۶؍

جنتری درجہ چہارم کا نرخ

ایک جلد کے خریدار کو ... فی جلد ... ۲؍
دس جلد کی ... قیمت ... عہ
پچیس جلد کی ... قیمت ... ۱۲؍
پچاس جلد کی ... قیمت ... للعہ
سو جلد کی ... قیمت ... ۱۲؍
ڈھائی سو جلد کی ... قیمت ... ۱۵؍
پانسو جلد کی ... قیمت ... للعہ

محصول ریل یا ڈاک ہر حالت میں ذمہ خریدار ہے نرخ مندرجہ بالا میں کسی قسم کی کمی بیشی ناممکن اس لیے ہر تاجر و خریدار کو اسی نرخ کا پابند ہونا پڑیگا پچھلے سنوں کی جنتریاں منگانے والے احباب اس بات کا خیال رکھیں کہ دونی قیمت لیجاویگی اور جس درجہ کی جنتری موجود ہوگی وہ روانہ کی جاویگی۔ لہذا جس قدر جلد ممکن ہو فرمایش بھیجکر منگوا لیجیے ممکن ہے کہ پھر نہ رہیں۔

المشتہر
محمد رحمت اللہ رعد نامی پریس کانپور

کھانیکے بہترین تمباکو کا معتبر اور مشہور کارخانہ جسمیں اقسام ذیل کا خوشبودار عمدہ نفیس خوش ذایقہ تمباکو ہر وقت تیار رہتا ہے

اعلیٰ تمباکو مشکی و زعفرانی

درجہ اول مشکی فی سیر ۱۲؍ — درجہ چہارم مشکی فی سیر للعہ
درجہ دوم 〃 ۱۲؍ — درجہ پنجم زعفرانی 〃 ۶؍
درجہ سوم 〃 ۱۰؍ — درجہ ششم 〃 ۱۲؍

قوام تمباکو مشکی و زعفرانی

درجہ اول مشکی فی تولہ عہ — درجہ چہارم زعفرانی فی تولہ ۲؍
درجہ دوم 〃 〃 ۸؍ — درجہ پنجم 〃 〃 ۲؍
درجہ سوم 〃 〃 ۶؍ — درجہ ششم 〃 〃 ۱؍

گولی تمباکو مشکی و زعفرانی

درجہ اول مشکی طلائی فی تولہ ۱۲؍ — درجہ چہارم مشکی نقرئی فی تولہ ۲؍
درجہ دوم 〃 〃 ۱۰؍ — درجہ پنجم 〃 〃 ۴؍
درجہ سوم 〃 〃 ۸؍ — درجہ ششم 〃 〃 ۲؍

کترہ خوشبودار فی سیر ۶؍ و ۸؍

نوٹ اسکے علاوہ جملہ قسم کی اشیاء ساخت لکھنؤ مثل چکن و کامدانی خوشبو و دلدار اشیاء وغیرہ فرمایش آنے پر بکفایت جلد روانہ کیجاتی ہیں تفصیل فرمایش نقد وی پی فرما کر بذریعہ ویلیو پی ایبل ہوگی صاحبان اپنا نام اور پورا پتہ مع ڈاکخانہ و ضلع صاف لکھیں محصول ذمہ خریدار ہوگا

المشتہر
سید محمد احمد تاجران بہترین تمباکو خوردنی دہلی دروازہ۔ لکھنؤ

بڑی جنتری ۱۹۱۶ع میں اشتہارات چھپوانے کا نرخ

پورے صفحہ کے لیے .... ۵۰ ؍
نصف صفحہ کے لیے .... ۳۰ ؍
ایک کالم کے لیے .... ۲۰ ؍
نصف کالم کے لیے .... ۱۵ ؍

اگر اشتہار میں کوئی نقشہ یا تصویر ہوگی اسکی اجرت مناسب علیحدہ دینا ہوگی اگر اشتہار نصف کالم سے کم کا ہوگا تو بھی اجرت نصف کالم کی لیجاویگی ہر صفحے میں تین کالم اور ہر کالم میں عموماً ۴۴ سطریں ہونگی اگر آپ اس جنتری میں اپنا کوئی اشتہار دینا چاہیں تو زر اجرت جلد پیشگی روانہ کردیں۔

آیندہ جنتری کیلیے ہر اشتہار آخر جولائی ۱۹۱۶ع تک لیا جاویگا پھر اسکے بعد فضول ہوگا۔

ادویہ کے اشتہارات میں نامہذب الفاظ ہرگز نہ ہونے پاوینگے

العبد
محمد رحمت اللہ رعد نامی پریس کانپور

کاپی لکھنے کی روشنائی

اس روشنائی کی یہ تعریف ہے کہ جس ہزار دانتک پتھر پر حروف کو بگڑنے نہیں دیتی ہے لکھتے وقت نہایت روان چلتی ہے۔ اگرچہ ایکدن کی کھلی ہوئی روشنائی سے دوسرے دن لکھنا منع ہے تاہم اگر کسی وقت ضرورت ہو اور کتاب معمولی ہو تو یہ روشنائی بے تکلف دوسرے تیسرے روز لکھنے کا کام بخوبی دیسکتی ہے۔

قیمت ... ۵ تولہ ... عہ
قیمت ... ۱۰ تولہ ... ۱۲؍
قیمت ... ۲۰ تولہ ... ۱۲؍
قیمت نصف تار ... صہ قیمت فی تار ... عہ

منیجر نامی پریس کانپور

اخبار البشیر اٹاوہ

مسلمانوں کا قومی آرگن مسلمانوں کی ترقی تعلیم میں سب اخباروں سے زیادہ پرجوش مسلمانان ہند کے پولیٹیکل حقوق کا حامی اخبار البشیر ہے جو ۱۲ صفحہ پر ہفتہ وار چھپکر شہر اٹاوہ سے شایع ہوتا ہے کاغذ سفید اور چھپائی صاف۔ قیمت سالانہ مع محصولڈاک چار روپیہ ہے۔ للعہ نقد قیمت پیشگی بھیجیے یا ویلیو طلب فرمانے پر روانہ ہوگا۔ پتہ یہ ہے۔

دفتر البشیر اٹاوہ

اخبار ذوالقرنین بدایون

پولیٹیکل سوشل اور مارل مضامین پر بحث کرنیوالا نامہ نگاروں کے مضامین مع رائے کے درج کرنیوالا اور تمام روئے زمین کی خبروں کا شایع کرنیوالا اخبار ذوالقرنین ہے جو ہر مہینے میں چار بار چھپتا ہے قیمت سالانہ تین روپیہ ہے (۳ للعہ) پتہ یہ ہے

دفتر اخبار ذوالقرنین بدایون

جملہ فرمایشات مرزا سجاد حسین عطار محلہ جھوائی ٹولہ لکھنؤ کے نام سے آنا چاہئین

طلاءاعجاز مسیحی

تمام خرابیان دو عارضے جو بیہودہ افعال سے بعض نوجوانون کو (مثل سستی و کمزوری وغیرہ) لاحق ہوتے ہین اور وہ شرم سے اسکا اظہار نہین کرتے اور رفتہ رفتہ لطف زندگی کی دولت کھو کر بصد حسرت کف افسوس ملتے ملتے فنا ہو جاتے ہین انکے لیے یہ طلاءاعجاز کا کام دیتا ہے ایک تولہ کے استعمال سے قوت رفتہ عود کر آئیگی آبلہ و سوزش سے بالکل مبرا ہر موسم مین ہر شخص بے تکلف لوگ بلا کراہت استعمال کر سکتے ہین سن رسیدہ حضرات کو بھی اسکے استعمال سے نوجوانی کا لطف حاصل ہوگا۔ قیمت فی تولہ تین ۳ روپیہ ہے

تمباکو خوردنی مشکی

تمباکو کے تمام ضرر او نقصانات طبی ترکیب سے دفع کر کے مشک و زعفران و دیگر مفرح قلب و مقوی دماغ اجزا شامل کیے جاتے ہین جسکے کھانے سے پان نہایت لذیذ ہو جاتا ہی خوبی یہ ہے کہ جبتک پان منہ مین رہتا ہے مشک اور زعفران کی خوشبو اور تمباکو کا ذایقہ بھی باقی رہتا ہے

زردہ مشکی	قوام مشکی	گولی مشکی
نمبر ا فی تار ۱۶/	نمبر ا فی تولہ عہ	نمبر ا طلائی فی تولہ ۴/
نمبر ۲ ۱۲/	نمبر ۲ ″ ۸/	نمبر ۲ نقرہ ″ ۱۰/
نمبر ۳ ۸/	نمبر ۳ ″ ۶/	نمبر ۳ ″ ۸/
نمبر ۴ ۴/	نمبر ۴ ″ ۴/	نمبر ۴ ″ ۶/
نمبر ۵ ۲/	نمبر ۵ ″ ۲/	نمبر ۵ ″ ۴/

سفوف مسیحا دافع جریان وضعف و مقوی اعصاب

چونکہ عوام جریان سے ناواقف ہوتے ہین اس لیے ہمکو یہ بتانا ضرور ہے کہ جریان کیا چیز ہے اور اس سے کیا نتایج پیدا ہوتے ہین تاکہ جن حضرات کو یہ مرض بد ہو ایک بکس سفوف مسیحا طلب کر کے استعمال کرین۔ جریان کو عربی مین سیلان اور ہندی مین پرمیہ پرسوت اور دھات بہنا کہتے ہین۔ اور دھات ایک جوہر لطیف ہے۔ جب اعضا مین غذا تقسیم ہو جاتی ہے تو اس کا فضلہ عرق سے ٹپک کر تیار ہو جاتا ہے جسکو انسان کا جوہر درست رکھنا زیبا ہے کیونکہ یہی تمام طاقتون کا بادشاہ دماغ کا صحت اور زندگی دینے والا ہے۔ علامات جریان حسب ذیل ہے بعد پیشاب اور کبھی قبل پیشاب اور کبھی پیشاب کے ساتھ یا حالت قبض مین دھات کا خارج ہونا۔ دھات کا پتلا ہو جانا اور کبھی کبھی احتلام مگر جب خواہش نفسانی سے حرکات بیہودہ مثل مُشت زنی وغیرہ کی نوبت آتی ہے تو اول مثانے کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ یعنی حالت بول مین گرمی اور چنک کا معلوم ہونا۔ پیشاب مین سوزش۔ بار بار پیشاب کا ہونا۔ کمی لذت۔ خواہش ہو کر ٹھہر کر زایل ہو جانا۔ درد کمر۔ ہتھیلیون اور تلون کا جلنا۔ اولاد نہونا۔ یا کمزور پیدا ہونا۔ پنڈلیون کا اینٹھنا۔ دوران سر۔ سستی کاہلی۔ نیند کی کمی غرضکہ بڑھتے بڑھتے سخت امراض مثل مرگی۔ لقوہ۔ فالج۔ گٹھیا۔ تپ شدید وغیرہ لاحق ہو کر جان پر بنجاتی ہے ہمنے بغرض رفاہ عام یہ سفوف صرف ہندوستانی بوٹیون سے تیار کیا ہے۔ معدنیات سے بالکل پاک ہے جس سے بجز فائدہ کچھ اندیشہ نقصان نہین یہ سفوف جریان کے لیے اکسیر کا حکم رکھتا ہے اس سفوف کا کام گردون کو درست کرنا۔ گندہ خون کو صاف کرنا۔ کمزور معدہ کو طاقتور بنا دینا۔ تمام اعضائے رئیسہ کی خرابیون کو دفع کرنا اور مقوی بنانا اور اپنے منصبی کام کے لیے آمادہ کر دینا۔ نامردی۔ ضعف۔ ضعف مثانہ۔ ضعف اعصاب۔ ضعف دماغ و جگر و معدہ۔ ذیابیطس اور اصلاح قلب کے لیے بمنزلہ تریاق ہے آٹھ یوم مین قوت مردی بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور طاقت جوانی پیدا کرنیکے لیے اکسیر ہے۔ یہ سفوف حلق سے اترتے ہی مثانے کی راہ سے عضو کی رگون کی قوت بڑھاتا ہے اور ہر قسم کے جریان کا قاطع ہے لطف یہ کہ اسکے استعمال کیلیئے نہ تو کسی موسم کی قید نہ زیادہ پرہیز کی ضرورت قیمت فی بکس ۲ خوراک ۲۰ عدد

حضرات یہ دواخانہ سنہ ۱۸۹۲ء سے اسوقت تک جسکو عرصہ تقریباً پچیس سال کا ہوتا ہے نہایت نیکنامی کے ساتھ ملک کی خدمت کرتا چلا آرہا ہے یہ وہی دواخانہ ہے کہ جسکو عالیجناب حاجی مولوی حکیم محمد عبدالعزیز صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ کی سرپرستی کا شرف حاصل تھا۔ اور اب انکے برادر حقیقی عالیجناب مولوی حکیم محمد عبدالحفیظ صاحب قبلہ و عالیجناب رئیس و ممبر میونسپل بورڈ و سکریٹری تکمیل الطب حکیم محمد عبدالرشید صاحب قبلہ خلف اکبر جناب حکیم صاحب علیہ الرحمۃ و عالیجناب حکیم محمد عبدالحمید صاحب قبلہ کی سرپرستی کا اعزاز حاصل ہے۔ اس دواخانہ مین آپکے مطب کے بالخصوص اور تمام اطبائے لکھنؤ کے بالعموم نسخہ جات بندھے و تیار ہوتے ہین۔ ہر مرکبات مین مشک و عنبر وغیرہ کیسی ہی قیمتی ادویہ کیون نہ ہون سب ٹھیک وزن سے اعلی قسم کی ڈالی جاتی ہین۔

المشتہر مرزا سجاد حسین عطار مالک کارخانہ معین العلاج متعلقہ ادویہ یونانی و جنرل کمیشن ایجنٹ محلہ جھوائی ٹولہ لکھنؤ

ایک لاوارث بیوہ کی موت اور یتیموں کی دردناک حالت

منقول از اخبار عالم تصویر مطبوعہ ۱۱- فروری ۱۸۸۶ء



آپکو یاد ہوگا کہ وہ محتاج عورت جو کچھ دنوں پہلے بازار بازار بھیک مانگتی
پھرتی تھی اور جس کے ساتھ تین معصوم بچے تھے ابھی دو مہینے کا زمانہ ہوا
کہ بیمار ہوکر گنگلے ہسپتال میں گئی اور وہاں تین روز کے بعد مرگئی- ایک
چھوٹا بچہ جو گود میں لیے رہتی تھی چھ مہینے کا تھا اُسکا باپ اُس کے
پیدا ہونے سے سات مہینے پہلے دو معصوم لڑکیاں چھوڑ کر مرگیا
تھا- اس وقت بڑی لڑکی کا سن ۵ برس کا ہے اور چھوٹی ۴ برس کی ہے
جب یہ بیوہ عورت بچوں کو ساتھ لیکر بھیک مانگنے نکلتی تھی تو وہ بڑی لڑکی
اس کے ساتھ اپنے پیروں چلتی تھی اور چھوٹی لڑکی کو گود میں لیے رہا
کرتی تھی- مگر جس روز سے یہ لڑکا پیدا ہوا- تو اب اسکو گود میں لینا اور
لڑکی کو پیدل چلانیکا عادی کرنا پڑا- چونکہ لڑکی کے پاؤں ابھی اسقدر
مضبوط نہیں ہونے پائے تھے کہ سارا سارا دن ماں کے ساتھ پیدل
گھوم سکے-
لہذا وہ چلتی تھی اور جب ماں بہ سبب چھوٹے بچے کے اسکو گود
میں نہ لے سکتی تھی تو وہ راہ میں چلتے چلتے کہیں بیٹھ جاتی تھی اور
کہیں مچلکر لوٹ جاتی تھی- الغرض عورت کو اس مصیبت میں بھیک مانگنا
دشوار ہوگیا- فاقے کرتے کرتے بیمار پڑی اور بیماری کے چند ہی
روز بعد مرگئی-

جرنیلی میں ایک سوداگر نارائن رہتا تھا جسکی تجارت میں ایک
مولوی صاحب بھی شریک تھے- ایک روز مولوی صاحب کو
کسی علالت کیوجہ سے نارائن کے ہمراہ ہسپتال آنا پڑا جیسے ہی پھاٹک
کے اندر قدم رکھا- دیکھا کہ ایک محتاج اور بیکس عورت ہسپتال کے میدان
میں ایک جانب پڑی دم توڑ رہی ہے اور تین معصوم بچے اُسکے ساتھ ہیں

جسمین ایک بالکل بے زبان اور شیر خوار ہے - فار اسٹنا اس حال کو دیکھکر دم بخود ہو گیا اور مولوی صاحب سے مخاطب ہو کر بولا کہ یہ عبرتناک منظر تصویر لینے کے قابل ہے فوراً وہان سے رخصت ہو کر جھٹ پٹ اپنی گاڑی پر سوار ہو آناً فاناً آفس مین گیا - اور تمام تصویر کشی کا سامان لیکر آموجود ہوا لیکن آنیسے پیشتر عورت مرچکی تھی - خیر اس نے اُس لاشۂ بیجان کی تصویر لینی چاہی مگر تصویر ٹھہری ہوئی چیز کی لیجاتی ہے اور یہان تین بچے حرکت کر رہے تھے اسلیے اُسکو بڑی دقت پیش آئی - بڑی لڑکی جو پانچ برس کی تھی اور جسکو اپنے باپ کا مرنا یاد تھا مان کے مرنے پر بے اختیار رونے اور کھڑی ہو کر گر پڑنے لگی - دوسری لڑکی جو تین برس کی تھی اُسکو مان کے مرنے کا تو کچھ خیال نہ تھا مگر بہن کو پچھاڑین کھاتے دیکھکر وہ بھی رونے لگی - تیسرا شیر خوار بچہ تھا جسکو دنیا مین آئے ابھی پورے چھ ماہ بھی نہ گذرے تھے اور اسکو نہ انکے مرنے کا غم اور نہ بہنون کے رونے کا افسوس وہ صرف اپنے پیٹ کی فکر مین مان کی چھاتی سے لگا ہوا اور اوندھا پڑا ہوا بڑی رہ کر دودھ پینے کی کوشش کرتا تھا - کبھی وہ مان کو لپٹ جاتا اور کبھی اُسکا کمبل کھینچتا اور کسی وقت اُسکی پھٹی ہوئی کرتی کھسکا کر چھاتی منھ مین رکھ لیتا مگر جب زور بھر کھینچتا اور دودھ نہ نکلتا تھا بالآخر وہ بھی مچلکر لوٹ جاتا اور رونے لگتا تھا - مگر آہ مردہ مان کو ننھے بچے کے بلکنے کی کچھ خبر نہ تھی اور نہ اُسمین قدرت تھی کہ چھاتی سے لپٹا کر دودھ دیتی - ان وجوہ سے تصویر لینے مین دقت ہوئی - مگر مولوی صاحب نے دلاسہ دیکر بڑی لڑکی کو سنبھالا جسکی وجہ سے چھوٹی لڑکی کو بھی سکوت ہوا کہ وہ تصویر کھینچ گئی جو آج کے عالم تصویر مین ہدیہ ناظرین ہے -

دوسرے روز میّت کا کوئی وارث نہونے پر اُس کی لاش میڈیکل اسکول آگرہ مین طالب علمون کی ڈاکٹری مشق کے لیے بھیجدی گئی اور چونکہ مسلمانون کے بچون کی پرورش کا مسلمانون مین کوئی انتظام نہ تھا لہذا وہ تینون لاوارث بچے عیسائی محتاج خانہ مین دیدیے گئے -

یتیم خانہ اسلامیہ کانپور کا آغاز

اسی زمانہ مین میرے والد ماجد نے جن کا نام حاجی حسینی تھا لوگون کی ترغیب سے ایک عربی مدرسہ قائم کرنا چاہا تھا جس کے مصارف کے لیے کچھ جائداد وقف کرنے کا ارادہ کرچکے تھے وقفنامہ کا مسودہ ترتیب دیا جارہا تھا کہ والد مرحوم کو اُن کے ایک دوست نے اخبار عالم تصویر کا پرچہ مطبوعہ ۱۱ فروری ۱۸۹۹ء کو دکھلایا - مردہ عورت اور اسکے یتیم بچونکی تصویر پر نظر پڑتے ہی اور اسکے متعلق جو مضمون لکھا گیا تھا اُسکو سنتے ہی والد مرحوم کی طبیعت پر ایک خاص اثر پڑ گیا انھون نے پہلا خیال مدرسہ عربی جاری کرنے کا تبدیل کرکے اُسیوقت یتیم خانہ جاری کرنیکا عزم بالجزم کرلیا اور دوسرا وقف نامہ ترتیب دیکر یتیم خانہ کو ندوۃ العلما کی سرپرستی مین دیدیا جب سے آجتک بفضلہ تعالی یہ کار خیر جاری ہے -

والد مرحوم نے جسقدر جائداد غیر منقولہ یتیم خانے کے نام وقف کی اُسکا اسوقت تخمینہ مبلغ سات ہزار روپیہ کیا جاتا ہے جس سے مبلغ ۵۰ ماہوار کی آمدنی یتیم خانے مین صرف ہوتی ہے مبلغ دس روپیہ ماہوار ندوۃ العلما سے عطا ہوتا ہے باقی روسائے شہر اور بیرونجات کی امداد سے کام چلتا ہے -

والد مرحوم کے انتقال کے بعد یتیم خانہ کے نظم و نسق مین ضرورتاً بعض تغیرات واقع ہوئے ندوۃ العلما اور روسائے شہر نے حافظ محمد حلیم صاحب سوداگر چرم و آنریری مجسٹریٹ کانپور کو یتیم خانہ کی کمیٹی کا صدر انجمن قرار دیا - جب سے انتظام یتیم خانہ خوبی کیساتھ چلنے لگا ہے -

اسوقت مبلغ [illegible] ماہوار کا اوسطاً خرچ ہوتا ہے اور اب ستائیس بچے سر دست اُسمین پرورش پا رہے ہین گورنمنٹ یا ضلع کے مجسٹریٹ کو جو بچہ مسلمان کا لاوارث ملجاتا ہے وہ بھروسہ کے ساتھ کانپور کے یتیم خانہ اسلامیہ مین بھیجدیا جاتا ہے - وقتاً فوقتاً صاحب مجسٹریٹ و سول سرجن وغیرہ معائنہ کو تشریف لاتے ہین اور یتیمونکی تندرستی اور بود و باش پر اپنا اطمینان ظاہر کرتے ہین یتیم خانہ مین جسقدر بچے پرورش پاتے ہین اُنمین کچھ پڑھتے ہین - کچھ مختلف دستکاریان سیکھتے ہین جنکے حالات ماہواری رپورٹ کے ذریعہ سے جسمین ماہواری جمع خرچ شامل ہوتا ہے شایع ہوا کرتے ہین وہ رپورٹ عام طور پر تقسیم ہوتی ہے اور کسی صاحب کے طلب فرمانے پر خاص طور سے مفت بھی روانہ ہوتی ہے پس جن صاحب کو کوئی لاوارث اور یتیم بچہ کہین ملجایا کرے تو فوراً یتیم خانہ اسلامیہ کانپور مین بھیجدیا کرین تاکہ آوارہ اور نالایق ہونیسے بچ جائے -

چونکہ صدقہ اور خیرات زکوۃ کا اس سے بہتر کوئی دوسرا مصرف نہین ہے اسلیے جو صاحب شہر یا بیرونجات سے جس قدر امداد فرماتے ہین وہ بذریعہ چک یا نوٹ یا منی آرڈر کے بنام **حافظ محمد حلیم صاحب سوداگر چرم و آنریری مجسٹریٹ کانپور** کے بھیجکر رسید باضابطہ اور ثواب دارین حاصل کرتے ہین -

کسی ناصح کا قول ہے کہ

یتیمونکی مدد کرو تاکہ جب تمھاری اولاد یتیم ہو تو خدا اُسکی مدد کرے

محمد شفیع آنریری سکرٹری یتیم خانہ اسلامیہ کانپور

چلتا جادو:۔ یعنی ایک نہایت مفید اور پُر اسرار کتاب جس میں تسخیر کے عمل۔ ہمزاد کو قابو میں لانا۔ علم مقناطیسی یعنی مسمریزم کے ابتدائی حالات۔ اور اس کے ذریعہ سے امراض کا معالجہ سہل طریقوں میں بتلایا ہے۔ کارآمد کتاب ہے۔ قیمت صرف آٹھ آنے۔ (۸ر)

بنگال کا جادو:۔ اسمیں اوّل سے آخر تک عملیات جنتر۔ منتر۔ تنتر۔ سحر و طلسم وغیرہ درج ہیں۔ جو ایک بھی خطا نہیں کرتے جس سے ہر ایک آدمی دلی تمنا پوری کر سکتا ہے۔ دشمن سے اپنا کام نکالنا اور بدلا لینا اور کنا م دور دراز کے آدمی کو بھی اپنی اطاعت میں کر سکتا ہے۔ ہر ایک کام بخوبی انجام ہونے کی شرط۔ قیمت۔ (۱۰ر)

فارس کا جادو:۔ یہ کتاب مصنف صاحب سید اکرام حسین صاحب کے اپنے مجرب نسخہ تعویزات و عملیات کا مجموعہ ہے جو آزمائیگا۔ مجرب پائیگا۔ مصنف موصوف کے بزرگوں کے اپنے وقت کی ایک پرانی فارسی کتاب کو بعد تجربہ اردو میں کیا ہے۔ بذریعہ عملیات دوسرے کو قابو میں لانا۔ و صدہا امراض کا علاج۔ فال نامہ۔ سیارہ نحس و نظر بد جن۔ دیو۔ پری۔ خبیث۔ شیطان وغیرہ وغیرہ اندر روئے حدیث درج ہیں۔ قیمت۔ آٹھ آنے۔ (۸ر)

مصر کا جادو:۔ اس میں ہر قسم عملیات۔ تسخیر آفتاب و مریض کو تندرست کر کے راضی کرنا۔ آسمان میں اڑنا۔ دُنیا کی سیر کرنا۔ دیگر شکل تبدیل کرنا۔ ہر شخص کو فریفتہ کرنا۔ دشمن کو قابو میں کرنا۔ اپنی خواہش پوری کرنا۔ رزق و دولت بڑھانا۔ رتبہ پانا درج ہے۔ قیمت (عہ) ناگری (عہ)

ہندوستان کا جادو:۔ یعنی جادو دے ہند۔ اسمیں علم تسخیر۔ جادو۔ کشش حیوانی و روحانی۔ تسخیر جنات و شیاطین تسخیر ارواح وغیرہ وغیرہ درج ہیں۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ آپ چند دن کی معمولی محنت سے ایک ایسی قوت کو پہنچا لینگے جس سے لوگ آپ کے کرشموں اور قوت کو نگاہ حیرت سے دیکھیں گے۔ قیمت۔ (عہ)

مقفل راز حب:۔ اس رسالہ میں حب کے سربستہ رازوں کا مشرح طور پر انکشاف کیا گیا ہے۔ جو فقیروں۔ مہاتماؤں کے دلوں میں مقفل تھے۔ جس سے ہر اہل فرقہ اپنی دلی تمنا کو پورا کر سکتا ہے۔ اسکے عامل ہونے سے ہر ایک انسان کو اپنا مطیع و حلقہ بگوش بنا سکتا ہے۔ قیمت صرف۔ (۸ر)

ہمزاد کو قبضہ میں لانیوالی کتاب:۔ (تسخیر ہمزاد) ہمزاد کسی۔ دیو۔ جن۔ بھوت۔ پریت کا نام نہیں ہے۔ جو انسان کو اذیت پہنچا سکے۔ بلکہ اسکو قبضہ میں لانے سے انسان ہر خطرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ یہ کتاب ضرور منگا کر ہمزاد کو قابو میں لا کر مشکل کام انجام دیجئے۔ ہر ایک کے دل کے حالات دریافت کیجئے۔ جسکو چاہیے مطیع کیجئے اور ساتھ ہی مسمریزم کے بھی ماہر بنجائیے۔ قیمت۔ (۸ر)

جوہر آدم:۔ اسمیں حالات بابا آدم و طریق جنس دم اور سحر و طلسم۔ عملیات۔ جنتر منتر تنتر وغیرہ درج ہیں۔ ایک حصہ کوک شاستر کا نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ تسخیر کے خواہشمندوں کے واسطے نایاب کتاب ہے۔ قیمت صرف آٹھ آنے۔ (۸ر)

حلوائی:۔ اسمیں ہر قسم کی مٹھائیاں بنانیکا طریقہ درج ہے قیمت (عہ)

باورچی:۔ اس میں اہل اسلام کے طریق پر جملہ اقسام کے کھانے بنانے کا طریقہ درج ہے۔ قیمت۔ (عہ)

رسوئیا:۔ اس میں اہل ہنود کے طریق پر جملہ اقسام کے کھانے تبلائے گئے ہیں۔ قیمت۔ (عہ)

تسخیر عملی

مسمریزم

منتر جنتر

موذوقیہ

چین و برہما کا جادو

اب اسکی تعریف کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ کتاب کئی ایڈیشن چھپکر فروخت ہوچکی ہے۔ یہ وہ تسخیر عملی ہے۔ جسکی بدولت زمانہ سابق کے بزرگ لوگ کشف و کرامات کا بھنڈار سینے ہوئے تھے۔ انہیں لکھا گیا ہے۔ وہ بھی متن و مطابق تحریر کے عمل کرکے گھر بیٹھے ہی کشمیر کے سیب۔ کابلی انگور۔ قندھار کے انار و دیگر مقامات کے تحفہ جات منگوانا ہزار انسان کی خوراک ایک چھوٹے سے برتن سے بہم پہنچانا۔ ہر ایک انسان کو اپنا مطیع و فریفتہ اور حلقہ بگوش بنانا معشوق کو از خود رفتہ فریفتہ کر کے اپنے پر شیدا کرنا۔ دور دراز مقامات سے اپنے پاس بلانا ہر زمانہ کی بات جاننا۔ دفینہ کا دریافت کرنا۔ ذرا سی راکھ و دیگر تمام امراض کا قلع و قمع کرنا۔ ہزار کوس کی مسافت چند منٹ میں طے کرنا۔ تمام مخلوق کو دیکھنا۔ اور خود کسی کو نظر نہ آنا وغیرہ وغیرہ۔ قیمت حصہ اردو (عہ) ناگری (عہ)

انگلش ٹیچر

مصنفہ لالہ سالگرام سابق ایڈیٹر پنچ میل لاہور۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے۔ کہ ایک اردو داں کو تھوڑے ہی عرصہ میں بغیر کسی اُستاد کی مدد کے انگریزی زبان سکھلا دیتی ہے۔ انگریزی کے حروف خوبصورت ٹائپ کے حروف ہیں۔ انکے تلفظ اور معنے خوشخط اردو میں ہیں۔ جنکو پڑھتے ہوئے دل خوش ہوتا ہے۔ اور آگے پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ ہر پانچ چھ سبقوں کے بعد صرف نحو کا ایک سبق دیا گیا ہے۔ جو انگریزی زبان کے صحیح فقرے لکھنا بولنا سکھلاتے ہیں چٹھی لکھنے کا ڈھنگ آسانی سے لکھا گیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ کتاب ایک مبتدی کو تھوڑے عرصہ میں ہی ضرور انگریزی سکھلا دیتی ہے۔ قیمت (عہ) ناگری (عہ)

جدید مجموعہ ضابطہ دیوانی

یعنی ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۹۰۸ء جو نواب لفٹنٹ گورنر جنرل بہادر ہند باجلاس کونسل کی پیشگاہ سے منظور ہو کر شائع ہوا محکمہ دیوانی کے تمام ضروری قوانین کا مفصل حال جنسے سب کو کام پڑتا ہے۔ کتاب کا سائز بڑا صفحے ۲۰۰۔ ڈبل کاغذ قیمت (۱۲ر) مجموعہ فوجداری۔ قیمت۔ (۱۲ر) تعزیرات ہند۔ قیمت صرف بارہ آنے (۱۲ر)

مردہ روحوں سے ملاقات:۔ اگر آپ مُردہ روحوں سے ملاقات کر کے انکے حالات دریافت کرنا چاہیں۔ تو ہماری کتاب اسرار مسمریزم منگوا کر دیکھو۔ جو ایک عامل کو بلا کسی تکلیف کے پورے طور پر مسمریزم سکھلا سکتی ہے۔ اسمیں گذشتہ و آئندہ کے حال دریافت کرنا ہر ایک سوال کا جواب باصواب دینا معشوق کو مطیع و فریفتہ کرنا۔ دور دراز مقامات سے پاس بلانا کھائی ہوئی چیز بتا دینا۔ صندوق یا جیب کے اندر کی چیز بتا دینا دوسرے کے دل کا بھید جاننا۔ چھڑی کا سانپ اور آلو کا آم بنانا و عیب بتا دینا۔ ہر ایک مرض کا علاج کرنا وغیرہ وغیرہ کئی قسم کی باتیں درج ہیں۔ قیمت۔ (عہ)

ایک سو روپیہ نقد انعام

مصنف صاحب اس شخص کو دینگے جو اس کتاب

تحفہ لقمان

کی کوئی نسخہ غلط ثابت کردیں۔ اسمیں اندرونی بیماریوں کے متعلق تمام کتاب کی ضروری و مفید ہدایات اور ضروری تشریح۔ مردوں۔ عورتوں کی تمام پوشیدہ و خاص بیماریوں (جنکا اظہار کرنا مانع ہے) کی تعریف علاج کے مخفی راز۔ ہر قسم کی کمزوری دور۔ اور طاقت بڑھانے و حفاظت حمل و ستا سانی پیدائش نیز سر سے لیکر پاؤں تک کی موروثی موذی بیماریوں کے لئے آسانی و کم لاگت اور مجرب نسخہ جات۔ خضاب۔ بال اڑانیکا پوڈر۔ عرق و صابن اور بلا چربی و آگ دیسی صابن تیار کرنا۔ پارہ کی گولی چالیس بیماریوں کی ایک دوا معہ مرچہ ترکیب استعمال۔ ہر قسم کے کشتہ جات بنانے اور انکے استعمال کرنے کا طریقہ وغیرہ وغیرہ درج ہیں۔ اس کتاب سے ہر ایک انسان خفیہ طور سے اپنا علاج کر سکتا ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ۔ (عہ)

بوٹی پرکاش:۔ ہر قسم کی بوٹیوں کی تصویریں اور ان کی شناخت۔ خواص۔ رنگ و فائدے اور استعمال کے طریقے درج ہیں۔ قیمت۔ (۱۲ر)

جراحی پرکاش:۔ سر سے پاؤں تک کے تمام قسم کے پھوڑے۔ پھنسیوں کا حال۔ اور ان پر عمل جراحی کرنے کا طریقہ۔ خام و پختہ ہونے کی علامات مرہم بنانے کی ترکیبیں فصد کھولنے کے قواعد۔ طبیبوں۔ جراحوں کی رہنما کتاب ہے۔ قیمت صرف بارہ آنے۔ (۱۲ر)

اصلی کوک شاستر:۔ (باتصویر) اسکی تعریف کی ضرورت نہیں۔ چاروں قسم کے مرد اور پدمنی۔ چترنی۔ ہستنی۔ سنکھنی۔ چاروں قسم کی عورتوں کے حالات و دیگر وہ حالات جنکا تحریر کرنا مانع ہے۔ مفصل طور سے درج ہیں۔ قیمت ایک روپیہ چار آنے۔ (عہ) ناگری۔ (عہ) یہ کتاب شاستری گورمکھی میں بھی موجود ہے۔

اتالیق فوٹو گرافی:۔ اس کتاب کے ذریعہ سے انسان بلا مدد استاد فوٹو اتارنے کا کام سیکھ سکتا ہے۔ تمام گر متعلقہ فوٹو گرافی نہایت آسان طریقے سے درج ہیں۔ قیمت صرف آٹھ آنے۔ (۸ر)

مجربات پیرس:۔ بال اڑانیکا صابن۔ عرق و پوڈر بنانا۔ بال عمر بھر پیدا نہ ہونیکا مجرب نسخہ۔ ۵ منٹ میں بال سیاہ کرنیکا خضاب۔ دو روپیہ روز کمانے کا عجیب ہنر۔ انگریزی و دیسی صابن۔ موم بتی۔ پنسل۔ ربڑ کی مہریں بنانا وغیرہ وغیرہ کئی ہنر درج ہیں۔ قیمت۔ (۴ر)

مہا بھارت قیمت (صہ) ناٹک راجستان۔ قیمت (صہ) سری بھاگوت۔ قیمت (عہ) بالمیکی رامائن قیمت (عہ)

ملنے کا پتہ: منیجر بھارت کمپنی۔ شاہ عالمی دروازہ لاہور

مکمل فہرست کتب۔ ۱ ٹکٹ بھیجکر مفت طلب فرماویں۔ ...ی ہے جو تمام تاجران کتب سے مل سکتی ہے ؛

(۱۲)

دو آنہ میں ایک روپیہ (عہ)

ایسا نادر موقعہ پھر ہاتھ نہیں آئیگا | ایک روپیہ (عہ) کی کتابیں صرف دو آنے میں | آپ خریدیں اور اپنے دوستوں کو خریدنے پر مجبور کریں

جو صاحب پانچ روپیہ کی کتب طلب فرمائینگے۔ انکو ایک عمدہ انڈی پینڈنٹ قلم۔ ایک روپیہ کے خریدار کو ایک نفیس رومال۔ دو روپیہ کے خریدار کو دو رومال۔ تین روپیہ کے خریدار کو تین رومال۔ چار روپیہ کے خریدار کو چار رومال انعام دئے جائیں گے۔ ایک ... سے کم کے خریدار کو انعام نہیں ملیگا۔ ہر ایک انعامی اشیاء پارسل کے ہمراہ روانہ کی جائیں گی۔ محصولڈاک بذمہ خریدار ہوگا ؛

فہرست کتاب

پُراسرار قتل
آہ مظلوم
گردش تقدیر
مرنے کے بعد کیا ہوگا
ہری سنگھ نلوا
منوہر لتا
آغاز عالم
سیواجی مرہٹہ
تاریخ میواڑ
مسٹریز آف انڈیا
دریائی بلبل
مسٹریز آف دہلی
ہفت عجائبات عالم
آسمان کے عجائبات
آسمان کی سیر
کٹورہ بھر خون
اسرار حسن
بیصبر عورت
خوبصورت مالن
افسانہ نکات قدرت
جیسی کرنی ویسی بھرنی
قارون کا خزانہ
چالاک مرد
گلدستہ پارسائی
نتیجہ عشق
گمشدہ انگوٹھی
عورت کا قاتل
عاشق صادق
میرا کھیل
ناول دلسوز
ناول دلنواز
احمد خان کابلی
یورپ کے شعبدے
ناول فرہاد
کشتہ محبت
راز محبت
رنج و ملال
فوائد والدین
خیابان اخلاق

نام کتاب

سوانح عمری سوامی دیانند سرسوتی
شری گورو دیو تیغ بہادر
ستی دھرم نل دمینتی
شیر دل راجکماری
تحفہ چراغان
دولتمندی کے راز
موتیوں کی لڑی
موتیوں کی مالا
خزانہ کی کنجی
بیماریاں کے خیالی اسباب
گرجا گھر
ناٹک دار الفناہ
،، مہکشا جنازہ
،، مرد بیوفا
حقیقت آئینہ دھرمی
رنگین سخن
معلومات پیراکی
شادی خانہ بربادی
بامراد عاشق
انمول ہیرا
آئینہ عشق
یوسف زلیخا
شکوک پولیس
فریب محبت
نظارہ عبرت
انگلستان کا کچا چٹھا
ایک انوکھی عورت
کرنیل کی بیٹی
بارہ مصالح کی چاٹ
پُراسرار سوسائیٹی
انجام عشق
انجام محبت
انجام الفت
گلشن بہار
افریقہ کا غلام
رحین علیا
ریشمی ٹھگ
خون عاشق

فہرست کتاب

اسرار جہازات
دنیا بیٹس شکریلی
نزاکت حسن
میوہ جات ہندوستان
پتی برتا استری کولال
سفید ڈاکو
حیات ملکہ چین
کیمیاگر
عمر پاشا
سائیکلو پیڈیا حصہ اوّل
سائیکلو پیڈیا حصہ دوم
عزیزہ بابو
مسعود جمیلہ
نقلی بابو
سنہری چڑیا
بنگالی جنٹلمین
ہیرا کا ہار بطرز ناول
گل بکاؤلی بطرز ناول
جنت الفردوس
بائیسکل کا شوقین
جفائے ستمگر
چوں چوں کا مربہ
شعرا کی نازک خیالیاں
ارشاد الکاملین
سپاہی کی دلہن
عشرت نزاکت
انگلستان کا سفید غلام
وفادار عورت
بیزار خاوند
آفت نصیب
مہابھارت بطرز ناول
انجام ستم
میرے خاوند کا راز
قطب الدین بختیار
سچی قربانی
رسالہ تپ
خوفناک قتل

نام کتاب

بدقسمت [illegible]
شہنشاہ [illegible]
بدشاہ [illegible]
نائیکہ [illegible]
[illegible]
[illegible] درشن
بھارت کی مشہور دیویاں
رسالہ علم غیب
قتل شہباز
تقدیر کا چکر
روح لیلیٰ
خون مظلوم
شاد کام
دو جورو کا شوہر
قہر الٰہی یا سیلاب کشمیر
شادی و غم
عیار قلندر
شہنشاہ جہانگیر
شہید ادا
الو اور الو کا پٹھا
انجنا کماری
شہید وفا
بندوق باز بابو
حکیم صاحب
شیخ ابو الفضل
مسٹریز آف سمرقند
حضرت ابو بکر صدیق
حضرت عثمان رض
گور غریباں
محبوبہ گریشن
شعبدات فرنگ
گلرو زرینہ
مسٹریز آف خانگی
اردو ڈرامہ دوم

فہرست کتاب

[illegible] ہنس راج
[illegible] معراج
اسیت محمود غزنوی
[illegible] کماری مجنوں
انتقام ہر دو حصہ
[illegible]
[illegible] شراب کی [illegible]
[illegible]
[illegible] درد [illegible]
[illegible] درموہنا
زیاد و حقایق ہر دو حصہ
نظارہ کشمیر
پیسے کا غلام
انارکلی
جان اسیر
جادوگر
فاتح بنگال
کنیز فاطمہ
شمسہ ہر دو حصہ
خون ناحق
مسٹریز آف پولیس
ایک عورت چار خاوند
قزاق کی بیٹی
مایوس دلہن
انتخاب دلہن
لنگڑا قاتل
آئینہ سکندری
جوانہ مرگ
کامیاب عاشق
شالامار باغ کی سیر
چالاک عورت
رسم و رواج
جمیل و شکیلہ
دنیا کی سیر
بچھڑی ہوئی دلہن
تانتیا بھیل
حیات اورنگ زیب
دلچسپ ہر دو حصہ
دلکش ہر سہ حصہ

نام کتاب

نیم حکیم خطرہ جان
مریم
گودڑی میں لعل
نیرنگ دنیا
بہادر سنگھ کی تلوار
نتیجہ بدی
تاریخ جاپان
شوہر کی بیٹی
پدمنی
جواہرات کا ڈبہ
سچی تو بلی
رانی اودے پور
چنچل کماری
آئینہ عصمت
مہاراجہ امر سنگھ
تاریخ ملتان
من موہنی
وہ عورت جس نے کرکے دکھایا
ملک عدم کی خبریں
کامل عیار
بدر النساء
حیات حیدر
ستارہ گردش
کوکلا کماری
چھاتی کا چھرا
آئینہ تماشبینی
خواتین اسلام
قانون الاغذیہ
امیرانہ و غریبانہ زندگی
گمشدہ جواہرات
سری کرشن
راجہ چندر جی
شیر پنجاب
سکندر اعظم
زیب النساء
بکرماجیت
حالات تان سین
مہاتما بدھ

فہرست کتاب

نور جہاں جہانگیر
مہارانا پرتاپ
مہارانا پرتاپ سنگھ
رانا سانگا
ملاوہ و پیادہ
راجہ بیر بل
حیات نور [illegible]
کولمبس
نپولین بوناپارٹ
حیات ٹیپو سلطان
سوانح [illegible]
رانی چتوڑ
ارگل کی رانی
تارا منی سیوا
اسیر حرص
مفلسی کے اسباب
خون دلربا
بھول بھلیاں
راجہ بھرتری
کنک تارا
رسالہ خضاب
[illegible]
[illegible]
جادو کا پتلا
عطر سائنس
آئینہ رسائین
جوانی [illegible]
اسرار [illegible]
پرورش [illegible]
[illegible]

ایڈیشن اوّل پچھتر ہزار

ملنے کا پتہ۔ کے۔ آر۔ مہرہ۔ برادرس۔ شاہ عالمی گیٹ

هوالشافی
تندرستی ہزار نعمت ہے

ادویات مجربہ اسرار سنیاسی
نامی دواخانہ نقشبندی

هوالشافی
تندرستی ہزار نعمت ہے

چونکہ اشتہار بازی کی رسم ملک میں پھیل رہی ہے لہذا کوئی اشتہار دیکھتے ہی لوگ اس سے بدظن ہو کر مشتہر کی نسبت چہ میگوئیاں کرنے لگتے ہیں اور ایسا کرنے کا انہیں حق بھی ہے کیونکہ اکثر لوگوں نے اشتہاروں کو ٹھگنے کا ذریعہ قرار دے لیا ہے خدا ایسے [illegible] داروں کو غارت کرے اور اپنی قدرت سے بیماروں کو شفا دیوے۔ آمین ثم آمین [illegible] نہیں بنا بریں اشتہار دینا بھی قیمتی چیز کا وقت کھونا [illegible] یقین فرمالیں کہ خیال ایسی چال بازیوں سے پاک ہے کیونکہ مفید ادویات خود ہی مجسم اشتہار ہو جاتے ہیں اشتہار صرف اسواسطے [illegible] گزارش کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ایکبار کی فرمائش سے اس بیان کی صداقت آپ پر بخوبی واضح ہوگی۔ راستی موجب [illegible] کہ گم شد از رہ راست۔ محصول ہر چیز کا ذمہ خریدار ہوگا۔

عنبر سرمہ جوہری [illegible] غبار نزول الماء سرخی دھند وغیرہ آنکھوں کی اکثر بیماریوں کو انشاء اللہ فائدہ اکسیر ہے صبح شام کو سرمہ سلائی لگانے سے معلوم ہوگی کہ آنکھوں کو فائدہ پہونچا نہیں اس سے عمدہ کوئی چیز نہیں آنکھوں میں ٹھنڈک اور تراوٹ پیدا کرتا ہے اگر اس سرمہ کا استعمال ہمیشہ کیا جاوے تو زندگی بھر بینائی بفضل خدا خراب نہیں ہوگی قیمت فی تولہ صرف دو روپیہ

جریان جیسی بیماری جریان ہے کمی طاقت کمزوری کرادر کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں سرعت کمزوری احتلام وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان گولیوں کے استعمال سے انشاء اللہ پھر قوت پیدا ہو جاتی ہے اور اصلاح جریان ہو کر سب کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں صبح دو گولیاں ہمراہ دودھ کے خوراک ہے غذا مرغن ہو چالیس گولیاں ہیں انکی قیمت صرف دو روپیہ

ضیق النفس دمہ اسکی مجرب دوائی ہے ایک [illegible] دانہ برگ پان میں لپیٹ کر بطریق پان کھانی چاہیے اور ایک تولہ خشک گاؤزبان الگ پانی میں بھگو کر چھوڑ دیں اور اسکو خوراک دوائی کے ایک گھنٹہ بعد چھانکر ہمراہ مصری پینا چاہیے ضیق اور کھانسی وغیرہ کو انشاء اللہ فائدہ اکسیر ہو جاتا ہے پرہیز تیل ترش وغیرہ قیمت دوا صرف دو روپیہ

خنازیر یہ بیماری بہت تنگ کرتی ہے [illegible] دو گولیاں ہمراہ گھی چاول کے خوراک ہے اور [illegible] گولیاں [illegible] ہیں چند روز ایسا کریں انشاء اللہ فائدہ [illegible] غذا مرغن ایک سو گولیاں قیمت دو روپیہ

[illegible] وبادی وغیرہ [illegible] مرض ہے۔ قیمت صرف [illegible]

حلوائی [illegible] ہر قسم کی سوئیات ہر بیماری کیواسطے لاثانی ہوتی ہیں

باورچی اس میں [illegible]

[illegible] کسی قسم کی بواسیر کیوں نہ ہو [illegible] انشاء اللہ صحت ہو کر پھر شکایت نہیں ہوگی [illegible] دو گولیاں ہمراہ [illegible] کھانی خوراک ہے اور غذا مرغن ہونی چاہیے۔ کابلی ہڑ گولیاں صرف دو روپیہ

سوزاک [illegible] بتانا [illegible] لوگ واقف ہیں کہ اسکے مریض [illegible] پہنچانا [illegible] مایوس ہو جاتے ہیں لیکن اس [illegible] روزانہ دو گولیاں ہمراہ [illegible] سے کھالیا کریں انشاء اللہ اکسیر کا حکم رکھتی ہیں غذا مرغن قیمت فی گولی دو روپیہ

کیمیائے بدن عورتوں کو قریباً کل پوشیدہ بیماریوں کے واسطے اکسیر دوائی ہے مثلاً رحم کا درد حیض بے قاعدہ ہونا۔ بار بار آنا۔ بعض کو بالکل نہ آنا۔ یا درد سے آنا۔ اور سیلان رحم میں مبتلا رہنا وغیرہ اس دوائی کے استعمال سے عورتیں انشاء اللہ اولاد اور صحت کی حقدار ہو جاتی ہیں صبح ایک خوراک ہمراہ دودھ کے ہونی چاہیے ایک ورد دوائی ہمراہ روانہ ہوگی [illegible] کریں سات خوراک ہمہ دوائی صافہ دو روپیہ

ہاضمہ بچوں کا ہاضمہ خراب ہو کر اکثر وہ بیمار رہا کرتے ہیں دوسرے روز بچوں کو ایک گولی ہمراہ پانی کے کھلا دیا جاوے اس سے بچوں کو گرمی وغیرہ وغیرہ بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے اور جو صاحب بعد غذا [illegible] گولی ہمراہ پانی کھالیں گے انکو انشاء اللہ کبھی شکایت درد پیٹ وغیرہ کی نہ رہیگی ایک بکس منگا کر ضرور اپنے ہاں رکھنا چاہیے معلوم نہیں کہ کس وقت کیسا موقع آلے ایک سو گولی قیمت ایک روپیہ

پھولا چشم۔ بغیر چیچک کے خواہ کسی قسم کا پھولا ہو شام کو چند روز بطور سرمہ کے دو مرتبہ لگانے سے انشاء اللہ پھولا بالکل صاف ہو جاتا ہے قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ

درد گردہ جن لوگوں کو یہ عارضہ ہو فوراً یہ فقیرانہ دوائی ہمراہ پانی اور قدرے نمک و کالی مرچ کے خوب کوٹ چھانکر نوش کریں انشاء اللہ بہت جلد صحت کلی ہو جائیگی اور پھر شکایت نہ ہوگی قیمت دو خوراک کی صرف ایک روپیہ

نامردی سستی۔۔۔ **وغیرہ**۔ ان بیماری کے دعوائے علاج پر اشتہاروں میں مبالغہ تسلی بہت بیان ہوتا ہے مگر آجتک کسی نے اسکی مجرب اور تیر بہدف دوا کا نقشہ نہیں دکھایا فقیر کو کامل نسخہ حاصل ہے مبلغ ایک سو روپیہ وصول ہونے پر نسخہ دوائی معہ ترکیب بنانے اور خوراک وغیرہ کے انکو روانہ ہو سکتا ہے بخیلی سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر صرف دوائی کی ضرورت ہے تو قیمت پیشگی وصول ہونے پر روانہ ہو سکتی ہے پرچہ ترکیب ہمراہ خوراک کے روانہ ہوگا قیمت صرف دوا پانچ روپیہ

نوٹ۔ تمام مصارف محصول ڈاک وغیرہ ذمہ خریدار ہونگے اپنا نام مقام۔ ڈاکخانہ ضلع خوشخط تحریر فرماویں۔ ادویات کی قیمت بہت کم رکھی گئی ہے تاکہ سب صاحبان سچائی کا امتحان کرکے صحت بدنی بخوبی حاصل کریں علاوہ انکے ہر قسم کی دوائیں ہمارے یہاں تیار رہتی ہیں اور اطلاع ملنے پر تیار ہو سکتی ہیں قیمت بذریعہ خط طے ہو جاوے گی۔ غریب و مفلس مریضوں کو دوا مفت تقسیم کی جاتی ہے۔ ایکدفعہ منگا کر آزمائش کریں۔

ملنے کا پتہ منیجر دولت خان حنفی نقشبندی مقام بٹالہ کوٹھی دارہ ضلع گورداسپور پنجاب

اطلاع مشہور عالم تتھہ پتر کا بحروف ناگری و گورمکھی اٹھارہ سال سے چھپتی ہے جو تمام تاجران کتب سے مل سکتی ہے ؛

بفضل ایزد منادار زمین ہی زمین و آسمان خلاق نجوم و آفتاب تقویم نادنا سیال بابت پیشگوئی کال البابت یعنی

جمشید کا تو جام فقط تھا جہاں نما
ساغر ہمارا ہے کون و مکاں نما

۱۹۲۷
مشہور عالم جنتری



حرکات فلکی کا پیمانہ اقلیم ہندوستان کا ہاتھ جارہا ہے

پنڈت گرہاری لعل منجم دکھنار سیالکوٹی
مشہور عالم جنتری لاہور
جوتشی

مشہور عالم پریس لاہور بیرون دروازہ شیر انوالہ میں باہتمام خود چھپوا کر کارخانہ مشہور عالم جنتری سے شائع کی

رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۳

ایڈیشن اول چھبیس ہزار

منیجر شرمن اینڈ کو نمبر 15 لودیانہ پنجاب سے طلب کرو

فہرست تعطیلات عدالت دیوانی پنجاب بابت سنہ ۱۹۲۴ء

نام تیوہار	تاریخ انگریزی	تاریخ ہندی	نام یوم	ایام تعطیل
نیو ایر سڈے	یکم جنوری	۸ پوہ	منگلوار	۱ یوم
لوہڑی	۱۳ جنوری	۳۰ پوہ	اتوار	۱ یوم
سوبادتی آدونش	۴ فروری	۲۲ ماگھ	سوموار	۱ یوم
بسنت پنچمی	۹ فروری	۲۷ ماگھ	سنیچروار	۱ یوم
چاند گرہن	۲۰ فروری	۱۰ پھاگن	بدھوار	۱ یوم
شیوراتری	۴ مارچ	۲۲ پھاگن	منگلوار	۱ یوم
ہولی	۱۹ تا ۲۱ مارچ	۷ تا ۹ چیت	بدھ تا شکروار	۳ یوم
شب برات	۲۲ مارچ	۱۰ چیت	سنیچروار	۱ یوم
بیساکھی و درگا اشٹمی	۱۲-۱۳ اپریل	یکم بیساکھ	سنیچروار	۱ یوم
ایسٹر ہالیڈیز	.	.	.	
جمعۃ الوداع	۲ مئی	۲۱ بیساکھ	شکروار	۱ یوم
عید الفطر	۶ مئی	۲۵ بیساکھ	منگلوار	۱ یوم
ایمپائر ڈے	۲۴ مئی	۱۲ جیٹھ	سنیچروار	۱ یوم
سوبادتی آدونش	۲ جون	۲۱ جیٹھ	سوموار	۱ یوم
سالگرہ شہنشاہ ہند	۳ جون	۲۲ جیٹھ	منگلوار	۱ یوم
نرجلا ایکادشی	۱۳ جون	۳۲ جیٹھ	شکروار	۱ یوم
عید الضحیٰ	۱۳ جولائی	۳۰ ہاڑ	اتوار	۱ یوم
بیاس پوجا	۱۶ جولائی	۲ ساون	بدھوار	۱ یوم
محرم الحرام	۱۰ تا ۱۲ اگست	۲۶ تا ۲۸ ساون	اتوار تا منگلوار	۳ یوم
رکھڑی	۱۴ اگست	۳۰ ساون	ویروار	۱ یوم
چاند گرہن	۱۵ اگست	۳۱ ساون	شکروار	۱ یوم
جنم اشٹمی	۲۲ اگست	۷ بھادوں	شکروار	۱ یوم
اننت چودش	۱۲ ستمبر	۲۸ بھادوں	شکروار	۱ یوم
آخری چہار شنبہ	۲۴ ستمبر	۹ اسوج	بدھوار	۱ یوم
درگا اشٹمی	۶ اکتوبر	۲۱ اسوج	سوموار	۱ یوم
دسہرہ	۷ اکتوبر	۲۲ اسوج	منگلوار	۱ یوم
بارہ وفات	۱۲ اکتوبر	۲۷ اسوج	اتوار	۱ یوم
دیوالی	۲۷ اکتوبر	۱۲ کاتک	سوموار	۱ یوم
بھیا دوج	۳۰ اکتوبر	۱۵ کاتک	ویروار	۱ یوم
دیو اٹھان	۷ نومبر	۲۳ کاتک	شکروار	۱ یوم
گلکڑی	۱۱ نومبر	۲۷ کاتک	منگلوار	۱ یوم
کرسمس ڈے	۲۵ تا ۳۱ دسمبر	۱۱ تا ۱۷ پوہ	ویروار تا بدھوار	۷ یوم
مقامی تعطیلات در لاہور				
عرس داتا گنج بخش	۲۲ فروری	۱۱ پھاگن	شکروار	۱ یوم
میلہ	۲۲ مارچ	۱۰ چیت	سنیچروار	۱ یوم
بھدر کالی	۲۹ مئی	۱۶ جیٹھ	ویروار	۱ یوم
میلہ چوہڑ	۶ جون	۲۵ جیٹھ	شکروار	۱ یوم

(نوٹ) ہر اتوار کے علاوہ ہر ماہ کے آخری سنیچر کو بھی تعطیل ہوتی ہے (۲) عدالت ہائے دیوانی ستمبر کے مہینہ میں بند رہتی ہیں مگر پہاڑی مقامات اس سے مستثنیٰ ہیں (۳) ہائیکورٹ پنجاب دیوالی کی رو بکار کے لئے ۱۴ جولائی سے ۲۳ اکتوبر تک بند رہتا ہے۔ گو بعض اوقات برضی حکام تاریخیں پس و پیش ہو جاتی ہیں (۴) جس مقام میں کوئی خاص میلہ ہو اس کی تعطیل مرضی حکام ہوتی ہے (۵) اہل اسلام کے تیوہاروں کی تعطیل بلحاظ رویت قمر پس و پیش ہو جاتی ہیں (۶) چونکہ جنتری کی تیاری کے وقت سرکاری گزٹ کی تعطیلیں شائع نہیں ہوئی ہیں اس لئے بلحاظ تیوہاروں کے تعطیلات فہرست میں درج کر دی گئی ہیں۔

فہرست تعطیلات عدالتہائے ممالک متحدہ آگرہ و اودھ سنہ ۱۹۲۴ء

نام تیوہار	تاریخ انگریزی	نام یوم	ایام تعطیل
نیو ایر سڈے	یکم جنوری	سہ شنبہ	۱ یوم
سنکرانت مکر	۱۴ جنوری	دوشنبہ	۱ یوم
سوبادتی موانی آرادش	۴ فروری	دوشنبہ	۱ یوم
بسنت پنچمی	۹ فروری	شنبہ	۱ یوم
ولادت علی مرتضیٰ	۱۸ فروری	دوشنبہ	۱ یوم
چاند گرہن	۲۱ فروری	پنجشنبہ	۱ یوم
شیوراتری و شب معراج	۴ مارچ	سہ شنبہ	۱ یوم
ہولی	۱۹ تا ۲۱ مارچ	چہارشنبہ تا جمعہ	۳ یوم
شب برات	۲۲ مارچ	شنبہ	۱ یوم
[illegible] میلہ	۲۸ مارچ	جمعہ	۱ یوم
ایسٹر ہالیڈیز			بحکم گورنمنٹ
رام نومی	۱۳ اپریل	یکشنبہ	۱ یوم
جمعۃ الوداع	۲ مئی	جمعہ	۱ یوم
عید الفطر	۶ مئی	سہ شنبہ	۱ یوم
میلہ مہابیر	۲۲ مئی	پنجشنبہ	۱ یوم
ایمپائر ڈے	۲۴ مئی	شنبہ	۱ یوم
سوبادتی آدونش	۲ جون	دوشنبہ	۱ یوم
سالگرہ شہنشاہ ہند	۳ جون	سہ شنبہ	۱ یوم
عید الضحیٰ	۱۳ جولائی	یکشنبہ	۱ یوم
بیاس پوجا	۱۶ جولائی	چہارشنبہ	۱ یوم
ناگ پنچمی	۵ اگست	سہ شنبہ	۱ یوم
محرم الحرام	۱۰ تا ۱۲ اگست	یکشنبہ تا سہ شنبہ	۳ یوم
سلونو	۱۴ اگست	پنجشنبہ	۱ یوم
چاند گرہن	۱۵ اگست	جمعہ	۱ یوم
کرشن جنم اشٹمی	۲۲ اگست	جمعہ	۱ یوم
اننت چتردشی	۱۲ ستمبر	جمعہ	۱ یوم
جہلم	۲۱ ستمبر	یکشنبہ	۱ یوم
آخری چہار شنبہ	۲۴ ستمبر	چہارشنبہ	۱ یوم
تعطیل کلاں	۲۵ ستمبر تا ۲۵ اکتوبر	پنجشنبہ تا شنبہ	ایک ماہ
تعطیل کلاں	۱۶ ستمبر تا ۱۶ اکتوبر	سہ شنبہ تا پنجشنبہ	ایک ماہ
مہالیہ آماوس	۲۸ ستمبر	یکشنبہ	۱ یوم
دسہرہ	۷ اکتوبر	سہ شنبہ	۱ یوم
بارہ وفات	۱۳ اکتوبر	یکشنبہ	۱ یوم
دیپ مالا	۲۷ اکتوبر	دوشنبہ	۱ یوم
دیو اٹھان	۷ نومبر	جمعہ	۱ یوم
گنگا اشنان	۱۱ نومبر	سہ شنبہ	۱ یوم
کرسمس ڈے	۲۵ تا ۳۱ دسمبر	پنجشنبہ تا چہارشنبہ	۷ یوم

(نوٹ) (۱) ہر ایک شنبہ کو عام طور پر تعطیل ہوتی ہے (۲) ہر ماہ کے آخری شنبہ کو بھی عدالت دیوانی بند رہتی ہیں (۳) اہل اسلام کے تیوہاروں کی تعطیلیں بحساب رویت قمر ایک یوم پس و پیش ہو جاتی ہیں (۴) چونکہ جنتری چھپنے کے وقت تک سرکاری گزٹ کی تعطیلات شائع نہیں ہوئیں۔ اس لئے بلحاظ تیوہاروں کے تعطیل فہرست میں درج کی جاتی ہیں (۵) دیگر تعطیلات برضی حکام ہو سکتی ہیں۔

قابل ملاحظہ — غور سے پڑھ لو

زن و مرد کو یکساں مفید — مایوس لوگوں کو مژدہ

مفید ہونے کی نسبت روزانہ بیشمار سرٹیفکیٹ موصول ہوتے ہیں

(۱) موٹر روکنا (۲) زنجیر توڑنا (۳) درخت چیرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے اگر آپ بجلی کی حیرت انگیز پیٹی کا استعمال کریں۔ حیرت انگیز بجلی کی پیٹی کے ذریعہ سے پوشیدہ یعنی خفیہ بیماریوں کا علاج شرطیہ ہو جاتا ہے۔ اور کسی دوا کی ضرورت نہیں رہتی۔ پوشیدہ بیماریاں جن کو آپ ظاہر کرنے میں شرم کھاتے مثلاً جریان سستی۔ کمزوری۔ دبلا پن۔ رگوں پٹھوں کی کمزوری۔ دل کی دھڑکن۔ چہرہ زرد وغیرہ وغیرہ وغیر مشہور تمام خفیہ بیماریوں کے لئے یہ پیٹی کمر کے ساتھ باندھنے کی دیر ہے فوراً دور ہو جاتی ہیں۔ اور انسان از سر نو نوجوان پہلوان بنجاتا ہے اگر تندرست انسان اس پیٹی کا استعمال شوقیہ رکھے تو اپنے مطلوب کو ایسا قابو میں لا سکتا ہے جیسے لوہے کو چمک پتھر قانون اجازت نہیں دیتا کہ ہم کھلے طور پر اس پیٹی کے صفات درج کر سکیں صرف اتنا بتلا سکتے ہیں کہ خفیہ امراض کو دور کرنے میں اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ خط و کتابت پرائیویٹ رکھی جاتی ہے۔ چونکہ یہ پیٹی سائنٹیفک اصول سے تیار ہوتی ہے۔ اس لئے اور امراض کے لئے بھی ازحد مفید ہے۔ مثلاً درد گردہ۔ درد پیچ ہر قسم امراض خبیثہ۔ بواسیر خونی و بادی ہر قسم اور ہر رنگ فالج۔ رعشہ۔ ہاتھ پاؤں کا کانپنا۔ اور بھولنا۔ ہر قسم کا درد۔ گٹھیا۔ ہڈی کے اندر کا درد۔ نل کا اکڑ جانا اوپر کی جانب زیادہ چڑھنا ہیڈروسیل۔ فوطوں میں پانی کا بھر جانا یا خراب رطوبت سے بڑھ جانا ایلیفنٹ ٹائسس یعنی فیل پا رسولی۔ گلینڈ۔ غدود وگلٹیاں ہر ایک مرض کا پرچہ ترکیب علیحدہ ہوگا۔ علاوہ ازیں بہت سی بیماریوں کو مفید ہے ایک کو استعمال کرنے سے پیٹی خراب نہیں ہوتی۔ خود استعمال کر کے دوسرے غریب لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ بجلی میں وہ طاقت ہے جو دوسری ادویات میں نہیں ہے۔ اس کی زیادہ تعریف فضول ہے۔ قیمت اس کی بغرض رفاہ عام نہایت کم رکھی گئی ہے۔ قیمت فی پیٹی پانچ روپے بارہ آنے محصول ڈاک علاوہ ہوگا (صرف ۱۲؍ ۵ محصول علاوہ)

ملنے کا پتہ یہ ہے

منیجر شرمن اینڈ کو نمبر 13 لودیانہ پنجاب

(کھڑیوں سے متعلق دیکھو صفحہ ۹۵ طاقت کی گولیاں۔ مہاراجہ خضاب دیکھو صفحہ ۹۶ - دفتر مہاراجہ خضاب لودیانہ سے خریدو)

مشہور عالم جنتری کی اشاعت کا انتیسواں سال

پیارے ناظرین! مشہور عالم جنتری کو چھپتے ہوئے یہ انتیسواں سال ہے پرماتما کی کرپا درشٹی ہے اس کے نادر مضامین کی مقناطیسی طاقت نے ہندوستان ہی نہیں بلکہ غیر ممالک میں بھی اپنے قدردان پیدا کرلئے ہیں۔ اور وہ مقبولیت اور عالمگیر شہرت حاصل کی ہے۔ کہ شاید ہی کسی جنتری کو اس سے پیشتر حاصل ہوئی ہو۔ اس کے مقبول عام مضامین نے اس کے نام کو آفتاب نصف النہار کی طرح روشن کردیا ہے۔ ہر مذہب وملت کے لوگ اس کی خریداری کے شائق ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ ہم بھی نہایت محنت اور کوشش سے اس کو آئینہ سکندری بنا دیتے ہیں۔ اور اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے پھر بھی اگر کسی صاحب کو کوئی کمی معلوم ہو۔ تو بڑی خوشی سے ہمیں اطلاع دے۔ تاکہ آئندہ سال میں وہ کمی پوری کردی جاوے ۔

مشہور عالم جنتری کی اشاعت

مشہور عالم جنتری بڑی بھاری تعداد میں ہرسال چھپ کر قدردان ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہے۔ پچھلے سال ۵۰۰۰۰ جلد چھپائی گئی تھی۔ جوکہ ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوگئی۔ اور آخر میں ہمیں اپنے کئی مہربان تاجران کتب کی درخواستیں واپس کرنی پڑیں۔ اس سال سردست پہلا ایڈیشن ۵۰۰۰۰ چھپایا گیا ہے۔ اور یہ انتظام کردیا گیا ہے۔ جس قدر اور ضرورت پڑے فوراً چھپ کر تیار ہوجاوے امید ہے کہ اس سال ہمارے مہربان مایوس نہ ہونگے۔ قیمت اس سال بدستور مطابق سال گذشتہ کے ہے ۔

مشہور عالم پریس

یہ تو ناظرین کو معلوم ہی ہے کہ مشہور عالم جنتری کی خاطر ہم نے سال گذشتہ سے مشہور عالم پریس بھی جاری کردیا ہوا ہے جس میں لکھائی اور چھپائی کا نہایت اعلےٰ انتظام کیا گیا ہے علاوہ مشہور عالم جنتری کے پبلک کا کام بھی عام تجارتی اصول پر چھاپا جاتا ہے۔ اگر کسی صاحب کو اپنا کوئی کام نہایت نفیس سیاہ یا رنگدار چھپوانا ہو۔ تو بڑی خوشی سے ہم سے خط و کتابت کرکے فیصلہ کرلیں ۔

مشہور عالم جنتری کے مضامین کا حل

سب سے اول بلحاظ تیوہاروں کے فہرست تعطیلات درج ہے مگر بعض اوقات بمرضی حکام تعطیل پیش ہوجاتی ہیں۔ دوم اوقات نوروز اور جسنہ سنیچرہ کے بعد بیاہ شادی کے سہالگ اور نایاب کارڈ کے بعد بارہ مہینوں کی جدولیں اور راج الوقت سنین کی تاریخیں اور ہر تاریخ کے لحاظ میں ... کی ابتدائی گھڑی دل درج ہیں جو طلوع آفتاب سے شمار کرنی چاہئیں۔ اور بعدازاں چندرماں کی راشی تبدیل کرنے کا انتہائی وقت گھڑی پل درج ہیں۔ بعدہ ناقص گھڑیوں کی ابتدا وانتہا درج ہے۔ زمان لاہور کا زمان بمعہ گھڑی پل پریوم کا درج کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو ملاکر گھڑی سے دیکھنا چاہیں۔ تو طلوع وغروب مندرجہ جنتری کے ٹائم کی ۲۴ منٹ اور اضافہ کرلیں تو مطابق جیب گھڑی ہوگا۔ چاندنی اور اندھیرے کی جدولیں سفید روشنی اور سیاہ اندھیرے کی علامت ہے۔ طلوع وغروب وبکری دمارگی اور داخلہ سیارگان کی گھڑی و پل اور اہل ہنود و اہل اسلام کے تیوہار درج ہیں۔ بعدازاں اس صفحہ کے مقابل رفتار کواکب بزرجمہر نمائے مختصر وتقویم سیارگان بمعہ اوقات اور درجہ و دقیقہ درج کی گئی ہیں باقی مضامین جنتری صفحہ ۵۲ تک عام فہم ہیں۔ جو درج نہیں کئے گئے۔ اس کے بعد اشتہارات درج ہیں۔ اور ہر ایک اشتہار کے نیچے مشتہر کا نام درج ہے۔ بوقت طلبی اشیاء مشتہران اشتہارات کے نام خط وکتابت کریں۔ اگر اشیاء منگوانے کے بعد اس کی نسبت کسی قسم کی شکایت ہو۔ تو براہ راست اسی کارخانہ سے خط وکتابت کرنی چاہئے۔ کیونکہ ہم مشتہرانکے ذمہ وار نہیں ۔

بیاہ شادی کے سہالگ بابت ۱۹۰۲ء

اہل ہنود بیاہ میں دس دوشوں کا بچاؤ کرتے ہیں۔ مگر بات۔ ویدھ۔ بدھ۔ یُجک سنکرانتی۔ وغیرہ یہ پانچ دوش زیادہ آشبھ پھل دائک ہیں۔ اسلئے کوئی ساہا ان دوشوں کا درج نہیں کیا گیا۔ جو لوگ دوشوں کی پرواہ نہیں کرتے صرف ساہا کے پچھتر پر اکتفا کرنا چاہیں۔ یا دوش کی توجہ کراکر کاج سدھ کرنا چاہیں۔ وہ ہمارے مشہور عالم جنتری کا سمبت ۱۹۵۸ کرم خود دیکھ لیں۔ جس میں تمام سال شبھ و آشبھ ساہا نکال کر درج کئے گئے ہیں۔ اس جنتری میں صرف شدھ ساہا درج ہیں۔ شدھ کے نشان (۱) اور دوش کے نشان مشکل ...سے درج ہے ۔

تاریخ بکرمی	تاریخ انگریزی	نچھتر	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	لگن	کیفیت
۱۲ ماگھ	۲۵ جنوری	اترابھادر	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ا	ا	دھن	شکر ۳
۱۳ ماگھ	۲۶ جنوری	اتراپھاگنی	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ا	ا	ا	مین	چندرماں ۷
۱۴ ماگھ	۲۷ جنوری	ہست		ا	ا	ا	ا	ا	ے	ا	ا	ا	مین	چندرماں ۷
۲۹ پھاگن	۱۱ مارچ	روہنی	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ا	ا	ا	مکر	
۲۵ بیساکھ	۶ مئی	مرگشر	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	مین	
۳ جیٹھ	۱۵ مئی	ہست	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ا	ا	ا	مین	۱ گھڑی تک شبھ
۸ جیٹھ	۲۰ مئی	مولا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ا	ا	ا	مین	
۲۹ جیٹھ	۱۰ جون	اتراپھاگنی	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ا	ا	ا	مین	چندرماں ۷
۲ ہاڑ	۱۵ جون	اترادھا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ا	ا	ا	کنیا مین	
۲۴ ہاڑ	۷ جولائی	اتراپھاگنی	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	برکھ	برہسپت ۵
۲۵ ہاڑ	۸ جولائی	ہست	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ے	ا	ا	برکھ	برہسپت ۵
۲۹ ہاڑ	۱۲ جولائی	اترادھا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ا	ا	ا	برکھ	برہسپت چندرماں
۳۰ ہاڑ	۱۳ جولائی	اترادھا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ا	ا	ا	کنیا	بدھ ست
۹ ساون	۲۲ جولائی	ریوتی	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ا	ا	ا	برکھ متھن	برہسپت ۵ سنیچر ۸
۱۳ ساون	۲۶ جولائی	روہنی		ا	ا	ا	ا	ا	ے	ے	ا	ا	مین	کودھا ۵
۱۴ ساون	۲۷ جولائی	روہنی		ا	ا	ا	ا	ا	ے	ا	ا	ا	کنیا	
۲۱ ساون	۴ اگست	اتراپھاگنی	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	کنیا برکھ	برہسپت ۷
۲۴ ساون	۷ اگست	سواتی	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	کنیا	
۱ بھادوں	۱۵ اگست	اترابھادر	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	برکھ متھن	برہسپت ۸ سنیچر ۸
۴ بھادوں	۱۸ اگست	اترابھادرپد	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	کنیا	چندرماں ۷
۸ بھادوں	۲۲ اگست	روہنی	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ے	ا	ا	متھن	سنیچر ۵
۹ بھادوں	۲۳ اگست	روہنی	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ے	ا	ا	کنیا مین	
۱۸ بھادوں	۱ ستمبر	ہست	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ا	ا	ا	مین	چندرماں ۷
۲۰ بھادوں	۴ ستمبر	سواتی	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ے	ا	ا	کنیا	بدھ ست
۲۳ بھادوں	۷ ستمبر	مولا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ا	ا	ا	کنیا برچھک مین	بدھ ست
۲۵ بھادوں	۹ ستمبر	اترااکھاڑھا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	مین	
۲۰ اسوج	۵ اکتوبر	مولا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ا	ا	برچھک	۲ گھڑی ...
۲۱ اسوج	۶ اکتوبر	اترااکھاڑھا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ا	ا	برچھک	سورج ۵
۲۷ اسوج	۱۲ اکتوبر	ریوتی	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ے	ا	ا	دھن برچھک	سورج ۵ برہسپت ۷
۹ مگھر	۲۳ نومبر	ہست	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ے	ا	ا	دھن	
۱۴ مگھر	۲۸ نومبر	مولا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	دھن	کیت ۵
۲۰ مگھر	۴ دسمبر	اترابھادرپد	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	کمبھ	کیت ۵

نوروز عالم افروز افق لاہور ۲۰ مارچ ۱۹۲۴ء بروز بدھوار بوقت ۵۸ گھڑی ۱۱ پل بعد طلوع آفتاب

وقت بلحاظ دھوپ گھڑی ۵ بجکر ۶ منٹ ۴۴ سیکنڈ بعد نصف
سٹینڈرڈ ۵ بجکر ۴۹ منٹ ۴۴ سیکنڈ بعد نصف

نوروز عالم افروز

نوروز کے معنے شروع سال کے پہلے دن کے ہیں۔ مختلف مذاہب والے اپنے اپنے طریقہ پر نوروز کا دن مناتے ہیں۔ انگریز لوگ یکم جنوری کو اہل اسلام یکم محرم اور اہل ہنود چیت شدی ایکم اور بیساکھی کے روز اپنے اپنے سالوں کا آرنبھ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آفتاب اپنے محور پر گردش کرتا ہوا نقطۂ اعتدال کے عین مشرق میں پہنچکر حمل میں داخل ہوتا ہے۔ اس وقت اہل روما اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ جس کو کہ وہ نوروز عالم افروز کہتے ہیں جو ہمیشہ ۸ یا ۹ چیت کو واقع ہوتا ہے۔ اس وقت دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں۔ فصل ربیع کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہوا خوشگوار اور پھول رنگ برنگ کھلتے ہیں طبیعتوں میں خوشی اور فرحت پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ یہ وقت نہایت مبارک ہوتا ہے۔ اور اس وقت عموماً لوگ یاد الہٰی میں مشغول ہوتے ہیں۔ ایسے وقت کی ہر ایک دعا بارگاہ الہٰی میں مقبول اور منظور ہو کر صاحب حاجت کی مراد پوری ہوتی ہے۔ تمام لوگ اس وقت کا نہایت شوق سے انتظار کرتے ہیں۔ پس اس سال بفضل کردگار ۲۰ مارچ ۱۹۲۴ء بروز بدھوار یعنی پنجشنبہ مطابق ۸ چیت سمت ۱۹۸۱ بکرم ۱۳ شعبان ۱۳۴۲ھ ہجری تتھ پھاگن شدی چتردشی کے روز بوقت ۵۸ گھڑی ۱۱ پل بعد طلوع آفتاب وقت بلحاظ دھوپ گھڑی ۵ بجکر ۶ منٹ ۴۴ سیکنڈ اور بلحاظ جیب گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ۵ بجکر ۴۹ منٹ ۴۴ سیکنڈ بعد نصف اللیل نوروز عالم افروز کا ظہور ہوگا۔ اس وقت طالع وقت برج دلو یعنے کنبھ لگن اور ساعت مریخ کی ہوگی۔ بادشاہ سال مشتری یعنی برسپت ہے۔ چونکہ چوہے پر اسوار لباس برنگ زرد زیب تن کئے سر پر ہما کے پروں کی مرصع کلغی لگائے کندھوں پر دوشالہ زرد اوڑھے پاؤں میں پاپوش برنگ زعفرانی ڈالے کمر میں کٹار باندھے ایک ہاتھ میں سنگترہ اور دوسرے میں مٹھائی برنگ زعفرانی لئے ہوئے تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوگا۔ زائچہ ولادت نوروز حسب ذیل ہے:

سواری نوروز

زائچہ نوروز عالم افروز



احکام نوروز

چونکہ بادشاہ سال مشتری زائچہ ولادت کے خانہ یازدہم میں زحل و مریخ کے درمیان میں پڑا ہے۔ رعد و برق کی مہیب آوازیں بہت ہونگی فصل کی پیداوار کم۔ حشرات ارض۔ چوہے دمکڑی سے نقصان ہوگا۔ خصوصاً کپاس کی فصل بالکل خراب ہو جاوے۔ صاحب طالع یعنی زحل خانہ دہم میں پڑا ہے۔ بارش کی سخت قلت۔ آسمان پر سرخی زیادہ گرد و غبار بہت اڑیگا۔ بعض پہاڑی مقامات پر زلزلہ سے نقصان ہوگا۔ کوہ آتش فشاں آگ برسائیں گے آسمان سے ستارے بہت ٹوٹینگے۔ جو لڑکے سال کے حصہ اول میں پیدا ہونگے وہ دانا و عقلمند و مہربان ہونگے اور آخر سال میں دروغگو فریبی ہونگے۔

ہندوستان کے مختلف شہروں میں اوقات تحویل آفتاب

چونکہ بوجہ رفتار آفتاب ہر ایک شہر میں وقت کا تفاوت ہو جاتا ہے۔ لاہور میں تحویل کا وقت ۵ بجکر ۱۶ منٹ ۴۴ سیکنڈ ہے۔ مندرجہ ذیل نقشہ میں چند ایک شہروں کا وقت تحویل درج کیا جاتا ہے۔ جن شہروں کے گرد لکیر ہے ان میں ۲۱ تاریخ صبح کو تحویل آفتاب ہوگی۔

نام شہر	گھنٹہ	منٹ	سیکنڈ	نام شہر	گھنٹے	منٹ	سیکنڈ	نام شہر	گھنٹہ	منٹ	سیکنڈ
اجمیر شریف	۵	۱۷	۱۲	قنوج	۵	۳۸	۱۶	پٹنہ	۵	۵۹	۲۰
امرتسر	۵	۱۷	۲۰	مدراس	۵	۳۹	۴۴	بردوان †	۶	۱۰	۱۲
جے پور	۵	۲۲	۰	باندہ	۵	۳۹	۵۲	مرشد آباد †	۶	۱۱	۲۸
انبالہ	۵	۲۵	۳۶	کانپور	۵	۴۰	۰	کلکتہ †	۶	۱۲	۸
جھیلم	۵	۲۶	۵۲	سیتاپور	۵	۴۱	۲۶	ڈھاکہ †	۶	۲۴	۳۶
دہلی	۵	۲۷	۳۲	فتح پور	۵	۴۱	۲۶	آسام †	۶	۳۴	۳۳
آگرہ	۵	۳۰	۴۴	لکھنؤ	۵	۴۲	۱۲	رنگون †	۶	۴۲	۲۰
حیدرآباد دکن	۵	۳۲	۲۸	بارہ بنکی	۵	۴۴	۴۰	ملتان	۵	۴	۲۰
اٹاوہ	۵	۳۴	۳۶	فیض آباد	۵	۴۳	۱۰	بمبئی	۵	۹	۱۲
رامپور	۵	۳۴	۴۰	ہردوئی	۵	۴۳	۲۸	کابل	۴	۵۵	۲۰
ناگپور	۵	۳۵	۰	بہرائچ	۵	۴۴	۴۳	بڑودہ	۵	۱۱	۱۱
بانس بریلی	۵	۳۶	۱۲	الہ آباد	۵	۴۹	۱	کراچی	۴	۴۶	۲۰
نینی تال	۵	۳۶	۲۰	مرزاپور	۵	۴۸	۴۴	بخارا	۴	۲۵	۰
فرخ آباد	۵	۳۷	۰	بنارس	۵	۵۰	۳۶	بصرہ	۳	۲۸	۵۲
جبلپور	۵	۳۸	۸	نیپال	۵	۵۹	۲۰	بغداد	۳	۱۲	۰

شناخت اوقات تحویل آفتاب

جو احباب تحویل آفتاب کا عملی وقت دیکھنا چاہیں۔ ان کو چاہئے کہ وقت مقررہ سے ایک گھنٹہ پیشتر ایک کمرہ صفائی کر کے خوشبویات مثل صندل و لوبان کا بخور کر کے ایک گھڑا نیا بازار سے لا کر اس کے پیچ درمیان میں سوئی کے برابر ایک باریک سوراخ کر دیں۔ اور اس کو پانی سے بھر کر معلق باندھ دیں۔ تاکہ پانی کی دھار اس سوراخ سے جاری رہے۔ اور جس قدر آدمی اس جگہ موجود ہوں۔ سب مصفا لباس پہنے اور خاموش ہو کر یاد الہٰی میں مشغول ہوں۔



پس جس وقت تحویل ہوگی۔ چلتی ہوئی پانی کی دھار بند ہو جائیگی۔ چونکہ یہ ایک اشارہ ہی ہوتا ہے اس لئے خوب غور اور توجہ سے اسکو دیکھنا چاہئے۔

عمل بروقت تحویل آفتاب

اس مبارک وقت میں ہر ایک دعا مستجاب الدعوات ہوتی ہے۔ پس چاہئے کہ وقت تحویل سے ایک گھنٹہ پیشتر لباس مصفا زیب تن کریں۔ اور ایک علیحدہ مصفا جگہ میں بیٹھ کر یاد الہٰی میں مشغول ہوں۔ اور بخور زعفران۔ ناگرموتھہ۔ صندل سرخ و سفید کا روشن کریں۔ اور بروقت تحویل مندرجہ ذیل طلسم کو کسی عمدہ مصفا کاغذ یا کپڑے پر زعفران سے لکھ کر پاس رکھیں۔ پس اس کی برکت سے تمام سال کشایش رزق ترقی روزگار اور بلندی مراتب ہوگی۔

نقشہ جات خمسہ متحیرہ یعنی پانچ سیارے جو اپنے محور پر سیدھی و الٹی رفتار سے گردش کرینگے بابت سنہ ۱۹۲۴ء

واضح ہے کہ سورج و چاند ہمیشہ اپنے محور پر سیدھی رفتار سے گردش کرتے ہیں۔ مگر پانچ سیارے یعنی منگل۔ بدھ۔ برہسپت۔ شکر اور سنیچر یہ پانچوں کبھی سیدھی اور کبھی الٹی رفتار سے چلتے ہیں۔ اہل ہنود سیدھی رفتار کو مارگی اور الٹی رفتار کو بکری بولتے ہیں۔ جن کی اوقات جنتری میں درج ہے۔ ذیل میں ان پانچوں سیاروں کی سیدھی و الٹی چال کے نقشے دکھلائے گئے ہیں جیس صاحب کو بکری و مارگی ہونے کا ٹھیک وقت دیکھنا ہو۔ وہ جنتری میں دیکھ لیں۔ مثلاً بدھ شروع فروری میں نقشہ میں مارگی دکھلایا گیا ہے۔ جب ماہ فروری دیکھا۔ تو ۱۰ فروری کو ۵ گھڑی ۱۴ پل پر بدھ مارگی ہونا لکھا ہے۔ جو کہ درست ہے ❖



اوقات لگن

دن رات کی ۶۰ گھڑیوں میں بارہ لگن گذر جاتے ہیں جس راشی میں سورج ہوتا ہے وہی لگن طلوع آفتاب کے وقت ہوتا ہے۔ مگر جب طرح سورج اس راشی کو طے کرتا جاتا ہے۔ اس طرح وہ لگن طلوع سے پہلے گذر جاتا ہے۔ لہذا اول میں لگنوں کی مقررہ گھڑیاں نقشہ میں درج کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے زیر ہر ایک لگن کی روزانہ گتی بھی درج ہے۔

نام لگن	میکھ	برکھ	متھن	کرک	سنگھ	کنیا	تلا	برچھک	دھن	مکر	کنبھ	مین
مقررہ گھڑی پل	۳ ۲۳	۳ ۵۵	۴ ۵۸	۵ ۴۸	۵ ۴۹	۵ ۵۳	۵ ۵۳	۵ ۵۵	۵ ۴۹	۴ ۵۸	۳ ۵۹	۳ ۲۳
روزانہ گتی	۶ ۴۰	۷ ۵۵	۶ ۵۴	۱۱ ۴۷	۱۱ ۵۰	۱۱ ۴۶	۱۱ ۴۷	۱۱ ۵۹	۵ ۳۴	۹ ۵۶	۷ ۵۸	۶ ۴۰

چونکہ میکھ لگن ۳ گھڑی ۲۳ پل کا ہے اس کی روزانہ گتی ۶ پل ۴۰ بپل کی ہے پس میکھ راشی میں سورج ہونے پر میکھ لگن ۶ پل ۴۰ بپل روزانہ کم ہو جائیگا اور طلوع آفتاب سے پہلے گذر جائیگا۔ باقی برین قیاس۔

طریقہ دیکھنے موافقت زن و شوہر

اول بروقت شادی دلہن اور دولہا کی راسوں کی باہم موافقت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تاکہ دونوں میں محبت قلبی رہے۔ پس مرد کی راس سے عورت کی راس چوتھی چھٹی۔ آٹھویں۔ بارھویں نہ ہو۔ اسی طرح عورت کی راس سے مرد کی راس بھی شش میں۔ اگر ایک ہو تو شوہر کا نام راس کے مطابق تبدیل کر دینا چاہئے۔

نادرونایاب دائمی کیلنڈر

جس سے سنہ عیسوی کے ہر ایک مہینہ کی پہلی تاریخ کا یوم آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے

مشہور عالم جنتری کے ناظرین! اگر آپ کو سنہ عیسوی کے کسی مہینا کی پہلی تاریخ کا یوم معلوم کرنا ہو۔ تو اس آسان طریقہ سے معلوم کریں۔ کہ سنہ مطلوبہ (جس سنہ کے پہلے مہینے کی تاریخ معلوم کرنی ہو) کو ۲۸ پر تقسیم کر دو۔ جو باقی بچے۔ اس میں سے ایک عدد کم کر کے باقی کو نقشہ میں دیکھو جس جگہ باقی اعداد لکھیں۔ اس کے زیر میں جو یوم لکھا ہے۔ اس کے مقابل جو مہینا لکھا ہے۔ اس مہینا کی پہلی تاریخ وہی یوم ہے چونکہ ہم نے ہندی زبان میں یوموں کے نام لکھے ہیں۔ اس لئے بتلایا جاتا ہے کہ اتوار کو یکشنبہ اور سوموار کو دوشنبہ اور منگلوار کو سہ شنبہ اور بدھوار کو چہار شنبہ اور ویروار کو پنجشنبہ یا جمعرات اور شکروار کو جمعہ اور سنیچر وار کو شنبہ فارسی زبان میں کہتے ہیں۔ پس اس نقشہ سے آپ ہر ایک سنہ عیسوی خواہ وہ ماضی ہو یا مستقبل یا حال اس کے ہر مہینہ کی پہلی تاریخ کا یوم معلوم کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس مہینا کی جس تاریخ کا یوم معلوم کرنا چاہو پھلاوٹ سے کر لو۔ احتیاط۔ چونکہ ماہران علم ہیئت نے ہر سال کی کسرات کے لحاظ سے سنہ ۱۹۰۰ء پوری صدی میں جبکہ حساب سے فروری ۲۹ یوم کا ہونا چاہیے تھا۔ جو کسرات کو پورا کرنے کے لئے ۲۸ یوم کا قرار دیا تھا۔ اس لئے اس نقشہ سے ۱۸۹۹ء تک تو مندرجہ بالا طریق پر یوم درست نکلیں گے۔ مگر سنہ ۱۹۰۰ء اور اس کے بعد میں خیال رہے۔ کہ جو اعداد حسب قاعدہ مذکورہ بالا باقی رہیں۔ ان میں سے دو عدد کم کر کے باقی کو نقشہ میں دیکھ لو۔ یوم درست نکلیگا

مثال۔ سنہ ۱۸۹۹ء میں جنوری کی پہلی تاریخ کا یوم معلوم کرنا ہے۔ پس ۱۸۹۹ کو ۲۸ پر تقسیم کیا۔ جو باقی ۲۲۔ ان میں سے ایک کو کم کیا۔ تو باقی ۲۱ نقشہ میں دیکھا۔ نمبر ۲۱ کے زیر میں جنوری کے مقابل سنیچر وار لکھا ہے۔ درست ہے۔ دوسری مثال سنہ ۱۹۱۴ء میں مارچ کی پہلی تاریخ کا یوم دیکھنا ہے۔ پس کے لئے ۱۹۱۴ کو ۲۸ پر تقسیم کیا۔ تو باقی ۱۰۔ چونکہ یہ خیال انیس سو سے زیادہ ہے۔ اس لئے اس میں سے ۲ کم کئے تو باقی رہے آٹھ۔ نقشہ میں آٹھ کے زیر میں ماہ مارچ کے مقابلہ پر اتوار لکھا ہے۔ نکال کر دیکھو درست ہے۔

نام مہینا	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸
جنوری	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
فروری	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
مارچ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
اپریل	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
مئی	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
جون	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
جولائی	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
اگست	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ستمبر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
اکتوبر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
نومبر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
دسمبر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

قاعدہ سنہ نامعلوم کو معلوم کرنا

رائج الوقت سمت بکرم سے ۵۷ کم کرنے پر سنہ عیسوی نکل آتا ہے۔ اور سمت بکرم سے ۱۳۵ کم کرنے پر سمت شاکا اور رومی نکل آتا ہے۔ اور سمت بکرم سے ۶۳۹ کو کم کرنے پر سنہ ہجری معلوم ہوتا ہے۔ اور سمت بکرم سے ۶۴۹ کم کرنے پر سمت فصلی نکل آتا ہے اور سمت بکرم سے ۶۵۰ کم کرنے پر سنہ بنگالہ معلوم ہوتا ہے۔ اور سمت بکرم سے ۶۴۷ کم کرنے پر سنہ الہی نکل آتا ہے چونکہ رائج الوقت سنین میں سے سمت بکرم شنکرانتی بیساکھ سے اور سمت شاکا یکم حمل سے اور سنہ ہجری یکم محرم سے اور سمت فصلی اسوج سے اور سنہ بنگلہ یکم بیساکھ سے سنہ الہی یکم آذر سے شروع ہوتے ہیں۔ اور سمت بکرم پر ۳۰۴۴ عدد زیادہ کریں تو سمت کلجگ نکل آئیگا۔ اور اگر سمت بکرم پر ۲۸۹۱ عدد زیادہ کریں۔ تو سید آتش نوح کے سال نکل آئینگے۔ اگر سمت بکرم پر ۲۲۹۲ عدد زیادہ کریں تو زمانہ طوفان نوح کے برس نکل آئینگے۔ اگر سمت بکرم پر ۵۱۷ عدد زیادہ کریں۔ تو سمت بدھ کا معلوم ہوگا۔ اگر سمت بکرم پر ۲۹ عدد زیادہ کریں تو اس سے سمت سکندری معلوم ہوتا ہے۔ (نوٹ) لیپ سالی کے سوا ہر ایک سال کے یوم درست معلوم ہونگے۔ لیکن لیپ کے سال میں جنوری اور فروری کے یوم تو درست ہونگے۔ مگر اس کے بعد مارچ سے لیکر اگلے سال کی فروری تک ہر ماہ کی پہلی تاریخ میں ایک یوم کا فرق پڑیگا۔ پس ناظرین لیپ کے سال میں اس بات کا خیال رکھیں۔ کہ جو یوم نقشہ سے معلوم ہو۔ اس سے اگلا دن جانیں۔ مثلاً سنہ ۱۹۱۶ء جو لیپ کا سال ہے اس کو ۲۸ پر تقسیم کیا۔ تو ۱۲ باقی رہے۔ مگر ۲ کم کئے تو دس رہے۔ نقشہ میں اس کے زیر میں جنوری اور فروری کا پہلا یوم تو درست ہے لیکن مارچ کے مقابل میں منگل لکھا ہے۔ لیکن اس سے اگلے دن بدھ کی پہلی ہوگی۔ اور فروری سنہ ۱۹۱۷ء تک اسی طرح ایک یوم کا فرق پڑیگا۔ اسی طرح ہر لیپ کے سال میں دیکھ لو۔

ایام ہفتہ	جنوری ۱۹۲۴ء	سمت بکرمی	سنہ ہجری	فصلی	بنگالی
منگلوار	۱	۲۳	۱۰	۹	۱۸
بدھوار	۲	۲۴	۱۱	۱۰	۱۹
برسپت وار	۳	۲۵	۱۲	۱۱	۲۰
شکروار	۴	۲۶	۱۳	۱۲	۲۱
شنیچروار	۵	۲۷	۱۴	۱۳	۲۲
اتوار	۶	۲۸	۱۵	۱۴	۲۳
سوموار	۷	۲۹	۱۶	۱۵	۲۴
منگلوار	۸	۳۰	۱۷	۱۶	۲۵
بدھوار	۹	[illegible]	۱۸	۱۷	۲۶
برسپت وار	۱۰	۲	۱۹	۱۸	۲۷
شکروار	۱۱	۳	۲۰	۱۹	۲۸
شنیچروار	۱۲	۴	۲۱	۲۰	۲۹
اتوار	۱۳	۵	۲۲	۲۱	۳۰
سوموار	۱۴	۶	۲۳	۲۲	ماگھ
منگلوار	۱۵	۷	۲۴	۲۳	۲
بدھوار	۱۶	۸	۲۵	۲۴	۳
برسپت وار	۱۷	۹	۲۶	۲۵	۴
شکروار	۱۸	۱۰	۲۷	۲۶	۵
شنیچروار	۱۹	۱۱	۲۸	۲۷	۶
اتوار	۲۰	۱۲	۲۹	۲۸	۷
سوموار	۲۱	۱۳	دلو	۲۹	۸
منگلوار	۲۲	۱۴	۲	ماگھ	۹
بدھوار	۲۳	۱۵	۳	۲	۱۰
برسپت وار	۲۴	۱۶	۴	۳	۱۱
شکروار	۲۵	۱۷	۵	۴	۱۲
شنیچروار	۲۶	۱۸	۶	۵	۱۳
اتوار	۲۷	۱۹	۷	۶	۱۴
سوموار	۲۸	۲۰	۸	۷	۱۵
منگلوار	۲۹	۱	۹	۸	۱۶
بدھوار	۳۰	۲۲	۱۰	۹	۱۷
برسپت وار	۳۱	۲۳	۱۱	۱۰	۱۸

آسمانی علامات اور آئندہ کے وقعات

اگر یکم جنوری کو پورب دشا میں بادل کی گرج سنائی دیوے تو فصل کا غلہ خراب ہو جانے کی علامت ہوگی۔ اگر ۲ جنوری کو پورب میں بادل گرجا۔ تو فصل کے لئے ناقص اگر دکھن کی ہوا چلی۔ بادل گرجا بجلی چمکی۔ تو قحط سالی کی علامت ہوگی۔ اگر ۴ جنوری کو بارش ہوئی تو پھر بھادوں شکل پکش میں بارش خوب ہوگی۔ اگر ۶ جنوری کو پورب میں بجلی چمکی بارش ہوگی۔ تو سرخ رنگ کی تمام اشیاء اور غلہ ارزاں ہونے کی علامت ہوگی۔ اگر ۸ جنوری کو بادل کی گرج اور چمک ہوئی۔ تو فصل کی پیداوار کے لئے مفید ہوگی۔ اگر ۱۰ جنوری کو بجلی کوندتی ہوئی نظر آوے۔ تو بارش کی قلت جاننا۔ اگر ۱۲ جنوری کو بادل ہوا تو بارش عمدہ ہو۔ اگر ۲ جنوری کو بجلی چمکی۔ تو ماہ اساڑھ کرشن پکش کی چودش کے دن بارش ہوگی۔ اگر ۱۳ جنوری رات کو بادل کی گرج یا بارش ہو تو ماہ ساون و اسوج میں بارش کی قلت ہوگی۔

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت کرتی ۔ وقت

زائچہ سیارگان جنتری

ماہ جنوری ۱۹۲۰ء

تاریخ	
۱	سورج پورباکھاڈ کے (۲) ...
۲	
۳	
۴	سورج پورباکھاڈ کے (۳) ۲۳-۱۱ شکر ... کے (۱) ۴-۵۰
۵	منگل انتاکھا کے (۳) ۱۵-۲۰
۶	
۷	سورج پورباکھاڈ کے (۴) ۸-۳۴ بدھ اتراکھاڈ کے (۱) شکر دھنشٹا کے (۱)
۸	
۹	
۱۰	سورج اتراکھاڈ کے (۱) منگل انتاکھا کے (۴) ۳۲-۲ شکر دھنشٹا کے (۲) ۴-۴۲
۱۱	بدھ پورباکھاڈ کے (۴) ۴-۵۰
۱۲	شکر دھنشٹا کے (۳) ۳۴-۲۷
۱۳	
۱۴	سورج اتراکھاڈ کے (۲) ۹-۴۲
۱۵	منگل انرادھا کے (۱) ۴-۵۰ بدھ پورباکھاڈ کے (۳) شکر دھنشٹا کے (۴) ۲۷-۳۲
۱۶	
۱۷	سورج اتراکھاڈ کے (۳) ۲۵-۱۳ برہسپت جنشٹا کے (۳) ۲۹-۷
۱۸	شکر ست بکھا کے (۱) ۸-۲۷
۱۹	سنیچر سواتی کے (۲) ۵۹-۴۵
۲۰	سورج اتراکھاڈ کے (۴) بدھ پورباکھاڈ کے (۲) شکر ست بکھا کے (۲) ۵۲-۵
۲۱	منگل انرادھا کے (۲) ۷-۳۲
۲۲	
۲۳	سورج شردن کے (۱) ۵۷-۱۲ شکر ست بکھا کے (۳) ۳۴-۴۰
۲۴	
۲۵	
۲۶	منگل انرادھا کے (۳) ۲۴-۴۰ شکر ست بکھا کے (۴) ۳۵-۵۰
۲۷	سورج شردن کے (۲) ۱۳-۳۱
۲۸	
۲۹	بدھ پورباکھاڈ کے (۳) ۲۶-۲ شکر پوربابھادرپد کے (۱) ۲۳-۳۴
۳۰	سورج شردن کے (۳) ۲۹-۴۰
۳۱	منگل انرادھا کے (۴) ۳۹-۵۸

تقویم سیارگان

پیشینگوئی بابت ماہ ماگھ
ابتدائے ۱۴ جنوری لغایت ۱۱ فروری ۱۹۲۰ء

کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز سوموار اتھنی نچھتر میں پرولیش ہوئی ہے۔ جو گذشتہ سنکرانت کے نچھتر سے شمار میں تیسرا ہے۔ اور ۳۰ مہورتی ہے۔ اس لئے اس ماہ میں غلہ گندم و نخود کا بھاؤ بہ نسبت ماہ گذشتہ کچھ ارزانی پر رہیگا۔ اناج خورد جوار۔ مٹر۔ باجرہ۔ موٹھ۔ مونگ۔ اڑد۔ کا بھاؤ یکساں برابر رہیگا۔ گھی گاہے گراں۔ گاہے ارزاں ہوتا رہیگا۔ روغن زرد تل۔ و تیل۔ مونگا۔ موتی ارزاں ہونگے۔ چونکہ منگل برچھک راشی میں ہے۔ اس لئے دھاتیں گراں رہینگی۔ سرخ رنگ کی تمام اشیاء کا بھاؤ بھی اس ماہ میں گراں رہیگا۔ روئی۔ کپاس۔ سن۔ سوت۔ پٹ سن ارزاں۔ تارا میرا۔ سرسوں۔ السی۔ تمباکو لکڑی۔ کوئلہ کا بھاؤ مدہم رہیگا۔ پنساری کی چیزیں۔ سونٹھ۔ نمک۔ مرچ سیاہ وغیرہ ارزاں رہینگی۔ گوڑ۔ شکر۔ کھانڈ۔ چاول کا بھاؤ سم رہیگا +

موسم۔ اچھا رہیگا۔ لوگوں کی صحت عمدہ رہیگی۔ لوگ کپڑے گرم زیادہ کریں۔ سردی زیادہ پڑے گی +

کرۂ فلک

اس ماہ میں آسمان گرد آلود زیادہ رہے گا۔ ہوا تیز چلیگی۔ ژالہ باری سے فصل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ ماہ جنوری کی ۱۴-۱۷-۲۰ تاریخ کو آسمان ابر محیط ۲۳-۲۴ تاریخ کو بارش ہو۔ ۲۹ جنوری کو بادل و بارش۔ ۳۰ و ۳۱ تاریخ کو آسمان پر بادل ماہ فروری کی ۵ و ۶ و ۷ تاریخ کو آسمان پر بادل۔ بوندا باندی۔ ۱۰ و ۱۱ فروری کو بادل کی کڑک۔ بجلی کی چمک اور بارش کے ساتھ ژالہ باری ہونے کا یوگ ہے +

۱۵ جنوری

[illegible]

روز	تاریخ				تتھی	گھڑی پل	نچھتر	گھڑی پل	جوگ	گھڑی پل	راس	گھڑی پل	انتہا	انتہا	گھڑی پل	طلوع	غروب	واقعات
شکروار	۱	۲۴	۱۳	۱۱	۱۹	[illegible]	۱۶/۲۳	[illegible]	۱۴/۳۳	[illegible]	۳۳/۴۰	دھن	۱۴/۲۲			۲۶/۱۶	۶/۴۵	۵/۱۵	[illegible] ایکادشی
سنیچروار	۲	۲۵	۱۴	۱۲	۲۰	[illegible]	۱۱/۲۱	[illegible]	۱۰/۳۴	[illegible]	۲۶/۳۵					۲۶/۲۰	۶/۴۴	۵/۱۶	
اتوار	۳	۲۶	۱۴	۱۳	۲۱	[illegible]	۷/۲۹	[illegible]	۷/۴۴	[illegible]	۱۹/۴۷	[illegible]	۲۱/۱۱	۷/۲۹	۳۵/۴	۲۶/۲۴	۶/۴۳	۵/۱۷	
سوموار	۴	۲۷	۱۵	۱۴	۲۲	[illegible]	۳۰-۲ / ۲۹-[illegible]	[illegible]	۵/۳۳	[illegible]	۱۳/۴۳					۲۶/۲۸	۶/۴۲	۵/۱۸	سوموتی اموس آماوشی
منگلوار	۵	۲۸	۱۶	۱۵	۲۳	[illegible]	۵۱/۳۴	[illegible]	۴/۱۱	[illegible]	۹/۴	[illegible]	۳۴/۳			۲۶/۳۲	۶/۴۱	۵/۱۹	پنچک [illegible] سے شروع
بدھوار	۶	۲۹	۱۷	۱۶	۲۴	[illegible]	۵۶/۵۲	[illegible]	۳/۳۴	[illegible]	۳/۵۷					۲۶/۳۶	۶/۴۰	۵/۲۰	شکر مین میں [illegible] پر آیا
برہسپت وار	۷	رجب	۱۸	۱۷	۲۵	[illegible]	۵۷/۲۸	[illegible]	۴/۴۹	[illegible]	۳۹-۱ / ۵۵-۵۹	[illegible]	۵۱/۲۸			۲۶/۴۰	۶/۳۹	۵/۲۱	
شکروار	۸	۲	۱۹	۱۸	۲۶	[illegible]	۵۹/۲۹	[illegible]	۷/۱	[illegible]	۵۶/۳۵			۲۸/۲۹	۵۹/۲۵	۲۶/۴۴	۶/۳۸	۵/۲۲	
سنیچروار	۹	۳	۲۰	۱۹	۲۷	[illegible]	۶۰/۰	[illegible]	۱۰/۳۴	[illegible]	۵۵/۵۹					۲۶/۴۸	۶/۳۸	۵/۲۳	بدھ کمبھ میں [illegible] پر آیا۔ بسنت پنچمی
اتوار	۱۰	۴	۲۱	۲۰	۲۸	[illegible]	۲/۳۴	[illegible]	۱۵/۶	[illegible]	۵۶/۱۷	[illegible]	۱۵/۶			۲۶/۵۲	۶/۳۷	۵/۲۴	پنچک [illegible] پر ختم
سوموار	۱۱	۵	۲۲	۲۱	۲۹	[illegible]	۶/۴۰	[illegible]	۲۰/۰	[illegible]	۵۸/۳					۲۶/۵۶	۶/۳۶	۵/۲۴	
منگلوار	۱۲	۶	۲۳	۲۲	[illegible]	[illegible]	۱۱/[illegible]	[illegible]	۲۶/۵۳	[illegible]	۵۸/۲۶	[illegible]	۴۳/۴۴	۱۱/۳۰	۴۴/۱۶	۲۷/۰	۶/۳۵	۵/۲۵	سورج کمبھ میں [illegible] پر آیا
بدھوار	۱۳	۷	۲۴	۲۳	۲	[illegible]	۱۷/۱	[illegible]	۳۳/۵۸	[illegible]	۵۹/۵۶					۲۷/۴	۶/۳۴	۵/۲۶	اچلا سپتمی۔ بھیشم اشٹمی۔ شروع عرس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
برہسپت وار	۱۴	۸	۲۵	۲۴	۳	[illegible]	۲۲/۱۶	[illegible]	۳۹/۵۷	[illegible]	۶۰/۰					۲۷/۸	۶/۳۴	۵/۲۶	سنیچر [illegible] پر [illegible] ہوا
شکروار	۱۵	۹	۲۶	۲۵	۴	[illegible]	۲۷/۳۰	[illegible]	۴۵/۵۴	[illegible]	۱/۶	[illegible]	۱۲/۵۶	۵۹/۲۸		۲۷/۱۲	۶/۳۳	۵/۲۷	
سنیچروار	۱۶	۱۰	۲۷	۲۶	۵	[illegible]	۳۱/۳۶	[illegible]	۵۱/۱	[illegible]	۱/۵۰				۳۱/۳۱	۲۷/۱۶	۶/۳۲	۵/۲۷	[illegible] ایکادشی
اتوار	۱۷	۱۱	۲۸	۲۷	۶	[illegible]	۳۴/۲۴	[illegible]	۵۲/۲	[illegible]	۱/۵۱	[illegible]	۳۹/۲			۲۷/۲۰	۶/۳۲	۵/۲۸	
سوموار	۱۸	۱۲	۲۹	۲۸	۷	[illegible]	۳۶/۲۶	[illegible]	۵۷/۵۶	[illegible]	۰-۰ / ۵۹-۱۵					۲۷/۲۴	۶/۳۱	۵/۲۹	
منگلوار	۱۹	۱۳	۳۰	۲۹	۸	[illegible]	۳۶/۵۹	[illegible]	۵۹/۳۵	[illegible]	۵۶/۴۲	[illegible]	۵۹/۲۰	۳۶/۵۹		۲۷/۲۸	۶/۳۰	۵/۳۰	
بدھوار	۲۰	۱۴	[illegible]	۳۰	۹	[illegible]	۳۶/۸	[illegible]	۵۹/۴۴	[illegible]	۵۱/۲۳				۶/۳۹	۲۷/۳۲	۶/۲۹	۵/۳۱	ماگھ اشنان ختم۔ چاند گرہن
برہسپت وار	۲۱	۱۵	۲	[illegible]	۱۰	[illegible]	۳۴/۲۰	[illegible]	۵۶/۲۱	[illegible]	۴۷/۴۰					۲۷/۳۸	۶/۲۸	۵/۳۲	بدھ مشتری میں [illegible] پر [illegible]۔ عرس خواجہ معین الدین چشتی ختم
شکروار	۲۲	۱۶	۳	۲	۱۱	[illegible]	۳۱/۲۱	[illegible]	۵۷/۱۹	[illegible]	۴۲/۱۲	[illegible]	۱۱/۳۵	۵۹/۲۶		۲۷/۴۳	۶/۲۷	۵/۳۳	عرس [illegible] در لاہور
سنیچروار	۲۳	۱۷	۴	۳	۱۲	[illegible]	۲۷/۳۱	[illegible]	۵۴/۴	[illegible]	۳۵/۵۷				۲۷/۳۱	۲۷/۴۸	۶/۲۶	۵/۳۴	گنیش چوتھ۔ عرس [illegible] شاہ در لاہور
اتوار	۲۴	۱۸	۵	۴	۱۳	[illegible]	۲۲/۲۹	[illegible]	۵۲/۲	[illegible]	۲۹/۳	[illegible]	۲۳/۱			۲۷/۵۳	۶/۲۵	۵/۳۵	
سوموار	۲۵	۱۹	۶	۵	۱۴	[illegible]	۱۷/۳۵	[illegible]	۴۷/۴۲	[illegible]	۲۱/۳۰					۲۷/۵۸	۶/۲۴	۵/۳۶	
منگلوار	۲۶	۲۰	۷	۶	۱۵	[illegible]	۱۰/۳۸	[illegible]	۴۴/۱۹	[illegible]	۱۳/۵۹	[illegible]	۲۹/۲۳	۱۱/۳۸	۳۸/۴۴	۲۸/۳	۶/۲۳	۵/۳۷	
بدھوار	۲۷	۲۱	۸	۷	۱۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۹/۱۸	[illegible]	۱۰-۲ / ۲۲-۵۹					۲۸/۸	۶/۲۳	۵/۳۸	[illegible] میں [illegible] پر آیا۔ سیتا اشٹمی
برہسپت وار	۲۸	۲۲	۹	۸	۱۷	[illegible]	۵۲/۱۱	[illegible]	۳۵/۱۷	[illegible]	۵۰/۴۵	[illegible]	۳۵/۱۷			۲۸/۱۳	۶/۲۱	۵/۳۹	
شکروار	۲۹	۲۳	۱۰	۹	۱۸	[illegible]	۴۸/۴۷	[illegible]	۳۱/۳۶	[illegible]	۴۴/۴۲			۲۱/۴۱	۴۸/۴۷	۲۸/۱۸	۶/۲۰	۵/۴۰	

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۴ فروری کو بجلی چمکی ہو اچلی تو یہ علامت بارش کے لئے اچھی ہے۔ اگر ۴ فروری کو بادل ہوئے تو بھادوں میں بارش اچھی ہوگی۔ اگر اسی روز دن رات سرد ہوا چلتی رہی۔ تو ماہ بھادوں کی پورنماشی کو بارش کثرت سے ہوگی۔ اگر ۵ فروری کو گھٹا ٹوپ بادل ہوئے اور ہوا چلی۔ تو تمام خوشبودار چیزیں گراں ہو جاویں گی۔ اگر ۷ فروری کو مطلع صاف رہا تو ایک ماہ تک غلہ کا نرخ گراں ہوگا۔ اگر ۸ فروری کو بادل گرجا تو پان و نارل گراں ہونگے۔ اگر ۱۲ فروری کو مطلع صاف رہا۔ تو تمام سال گرانی غلہ کی علامت جاننا۔ اگر ۱۵ فروری کو بارش ہوئی۔ تو فصل اچھا ہوگا۔ اگر ۱۹ فروری کو پچھلے پہر تک بادل ہوں۔ تو پھر ہر ماہ کی چودش کو بارش ہو۔ اگر ۲۰ فروری کو بادل ہوئے۔ تو ہر چیز چھٹے ماہ میں گراں ہوگی ؎

پنچانگ — ماہ فروری ۱۹۲۷ء

فروری	
۱	شکر پورا بھادر پد کے (۳) ۳۳ ۔ ۳
۲	سورج شروان کے (۴) ۸ ۔ ۴۶ ۔ ۶۰ بدھ پورا بھاد پد کے (۲) ۳۸ ۔ ۳۵
۳	
۴	شکر پورا بھاد پد کے (۴) ۱۰ ۔ ۵
۵	بدھ اترا کھا ڈ کے (۱) ۴۱ ۔ ۱۶ ۔ ۱۰ دھنیشٹ دھنیشٹ کے (۳) ۱۸ ۔ ۵۵
۶	سورج دھنیشٹ کے (۱) ۴۲ ۔ ۳۴ منگل جیٹھ کے (۱) ۵۸ ۔ ۴۸ شکر پورا بھادر پد کے (۴) ۱۹ ۔ ۱۲
۷	
۸	
۹	سورج دھنیشٹ کے (۲) ۴۷ ۔ ۳۱ بدھ اترکھاڈ کے (۲) ۴۰ ۔ ۵۰
۱۰	شکر اترا بھادر پد کے (۱) ۹ ۔ ۳۰
۱۱	بدھ اترکھاڈ کے (۳) ۵۶ ۔ ۱۰ ۔ ۴۳ کھا (۳) کپتونت بکھا کے (۱) ۱۵ ۔ ۸
۱۲	
۱۳	
۱۴	بدھ اترکھاڈ کے (۴) ۱۱ ۔ ۵۲
۱۵	سورج دھنیشٹ کے (۳) ۴۵ ۔ ۹۰ شکر اترا بھادر پد کے (۲) ۴۲ ۔ ۵۰
۱۶	بدھ شروان کے (۱) ۲۷ ۔ ۱۳
۱۷	منگل جیٹھ کے (۳) بدھ شروان کے (۲) شکر اترا بھادر پد کے (۳) ۱۵
۱۸	
۱۹	سورج ست بکھا کے (۱) ۱۳ بدھ شروان کے (۳) ۳۵ ۔ ۲۵
۲۰	شکر ریوتی کے (۱) ۱۴ ۔ ۵
۲۱	منگل جیٹھ کے (۱) ۵۸ ۔ ۲ بدھ شروان کے (۴) ۲۶ ۔ ۴۵
۲۲	سورج ست بکھا کے (۲) ۳ ۔ ۵۹
۲۳	بدھ دھنیشٹ کے (۱) ۳۸ ۔ ۳۰ شکر ریوتی کے (۲) ۲ ۔ ۱۵
۲۴	
۲۵	سورج ست بکھا کے (۳) بدھ دھنیشٹ کے (۲) ۲ ۔ ۵ شکر ریوتی کے (۳) ۵۲
۲۶	
۲۷	منگل سرا کے (۱) بدھ دھنیشٹ کے (۳) ۲۴ ۔ ۱۳
۲۸	شکر ریوتی کے (۴) ۴۳ ۔ ۵ ۔ ۲ منگل جیٹھ کے (۱) ۵ ۔ ۲۵
۲۹	سورج ست بکھا کے (۴) ۸ ۔ ۵۰ بدھ دھنیشٹ کے (۴) ۱۸ ۔ ۴۲

تقویم سیارگان

[illegible]

طلوع و غروب سیارگان — ماہ فروری

[illegible]

زائچہ تحویل آفتاب سنکرانت کنبھ ہوتی ۔ بوقت ۳۴/۴۲

[illegible]

پیشنگوئی بابت ماہ پھاگن

ابتدائے ۱۲ فروری لغایت ۱۲ مارچ

کرۂ ارض

ماہ پھاگن سنکرانت بروز منگلوار کرتکا نچھتر میں پرویش ہوگی ۔ جو کہ ۳۰ مہورتی ہے ۔ اور بروز سنکرانت چندرمال آتشی نچھتر پر ہے ۔ جس کی نظر سے معلوم ہوتا ہے ۔ کہ غلہ گندم و نخود کے بھاؤ میں گرانی ہو جاوے گی ۔ اناج خورد ۔ جوار باجرہ ۔ مونگ ۔ ماش وغیرہ بہ نسبت ماہ گذشتہ ارزاں ہونگے ۔ گوڑ ۔ شکر ۔ تل ۔ تیل ۔ سرخ مرچ ۔ مسور ۔ لاکھ ۔ مجیٹھ ۔ اور دیگر سرخ رنگ کی اشیاء گراں ہونگی ۔ روغن زرد ۔ کپاس سوت سن ۔ چاول ۔ کھانڈ ۔ وغیرہ کا بھاؤ بھی تیز رہیگا ۔ سرسوں ۔ تارامیرا ۔ السی ۔ کوئلہ ۔ بھوسہ ۔ لکڑی وغیرہ ہم بھاؤ بکینگی ۔ ہر قسم کی دھاتیں گراں بکینگی ۔ چوپایہ جانور گراں رہینگے ۔ مرچ سیاہ زیرہ ۔ دھنیا ۔ انار دانہ ۔ انجیر ۔ ہلدی اور دیگر پنساری کی اشیاء اس ماہ میں کچھ ارزانی پر ہونگی ۔ سوتی کپڑا ارزاں رہیگا ۔

موسم ۔ امراض صفراوی سے لوگوں کو تکلیف ہوگی ۔ چوپایہ جانوروں میں بیماری پھیلے ۔ چوری و رہزنی کی وارداتیں زیادہ ہوں ۔

کرۂ فلک

اس ماہ میں ہوا تیز چلیگی ۔ فصل کو آگ سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے ۔ بارش کم ہوگی ۔ اکثر مقامات پر ژالہ باری سے بھی فصل خراب ہو جاویگا ۔ ماہ فروری ۱۵ و ۱۶ تاریخ کو بادل و بارش ۱۸ و ۱۹ کو آسمان ابر محیط ۲۳ و ۲۵ و ۲۷ و ۲۹ فروری کو آسمان پر بادل ۔ رعد و برق کی گرج ۔ بجلی کی چمک ۔ بارش اور بعض جگہ ژالہ باری ہو ۔ ماہ مارچ کی ۲ تاریخ کو آسمان ابر محیط ہوا تیز ۔ ۴ و ۵ و ۹ و ۱۰ تاریخ کو آسمان پر بادل خفیف بارش ۔ ژالہ باری ہو ۔

مارچ

روز	تاریخ					واقعات
سنیچروار	۱	۲۴	۱۱	۱۰	۱۹	بجیا ایکادشی
اتوار	۲	۲۵	۱۲	۱۱	۲۰	سنکرانت مین
سوموار	۳	۲۶	۱۳	۱۲	۲۱	برت ...
منگلوار	۴	۲۷	۱۴	۱۳	۲۲	شب معراج
بدھوار	۵	۲۸	۱۵	۱۴	۲۳	
برہسپت وار	۶	۲۹	۱۶	۱۵	۲۴	
شکروار	۷	۳۰	۱۷	۱۶	۲۵	
سنیچروار	۸	[illegible]	۱۸	۱۷	۲۶	پنچک ... ختم
اتوار	۹	۲	۱۹	۱۸	۲۷	
سوموار	۱۰	۳	۲۰	۱۹	۲۸	
منگلوار	۱۱	۴	۲۱	۲۰	۲۹	
بدھوار	۱۲	۵	۲۲	۲۱	۳۰	
برہسپت وار	۱۳	۶	۲۳	۲۲	[illegible]	سورج مین میں ... برابا ہولکا اشٹمی
شکروار	۱۴	۷	۲۴	۲۳	۲	
سنیچروار	۱۵	۸	۲۵	۲۴	۳	بدھ مین میں ...
اتوار	۱۶	[illegible]	۲۶	۲۵	۴	
سوموار	۱۷	۱۰	۲۷	۲۶	۵	آملا ایکادشی
منگلوار	۱۸	۱۱	۲۸	۲۷	۶	
بدھوار	۱۹	۱۲	۲۹	۲۸	۷	
برہسپت وار	۲۰	۱۳	۳۰	۲۹	۸	
شکروار	۲۱	۱۴	[illegible]	[illegible]	۹	ہولی پوجن ...
سنیچروار	۲۲	۱۵	۲	[illegible]	۱۰	ہولی ختم
اتوار	۲۳	۱۶	۳	۲	۱۱	ہولی، شب برات
سوموار	۲۴	۱۷	۴	۳	۱۲	
منگلوار	۲۵	۱۸	۵	۴	۱۳	گنگور ...
بدھوار	۲۶	۱۹	۶	۵	۱۴	
برہسپت وار	۲۷	۲۰	۷	۶	۱۵	
شکروار	۲۸	۲۱	۸	۷	۱۶	سیلا اشٹمی
سنیچروار	۲۹	۲۲	۹	۸	۱۷	
اتوار	۳۰	۲۳	۱۰	۹	۱۸	میلا شالامار باغ در لاہور
سوموار	۳۱	۲۴	۱۱	۱۰	۱۹	پاپ موچنی ایکادشی

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۵۔ مارچ کو بادل کی گرج ہوئی۔ تو لوگوں کو تکلیف ہو۔ اگر ۱۰ مارچ کو بارش ہو بجلی چمکے۔ تو پھر بیساکھ شدی ایکم کے دن بارش ضرور ہو۔ اگر ۱۲ مارچ کو بادل ہوئے۔ اور ہوا نہ چلی بجلی چمکی۔ تو گھاس و غلہ کی پیدا وار بہت ہو۔ اگر ۱۳ مارچ کو بارش ہوئی۔ تو لوگوں کو ہر طرح سے آرام ملے۔ اگر ۱۹ مارچ کو بارش ہوئی۔ تو لوگوں کو ہر طرح سے آرام ملے۔ اگر ۱۹۔ مارچ کو بارش ہوئی۔ تو لوگوں کی صحت عمدہ رہیگی۔ اگر ۲۱ مارچ کو بادل کی گرج ہوئی یا بارش ہوئی تو ماہ ساون بھادوں میں غلہ گراں اور بارش کی قلت جاننا۔ اگر ۲۲ مارچ کو بارش کی قلت ہوئی۔ اور ۲۳ مارچ کو بجلی چمکی۔ تو اس سال میں غلہ بہت پیدا ہوگا۔ اگر ۲۹ مارچ کو بادل ہوئے۔ ارزانی غلہ کی علامت جاننا۔ اگر ۲۸ مارچ کو بادل ہوئے۔ اور شمال کی ہوا چلی۔ تو آئندہ بارش ہونے کی علامت ہوگی ✤

دیکھیان ہکاسٹینہ پرچہ جنتری

مارچ ۱۹۲۶ء

شمس برج حمل ... ۱۳ مارچ

شوال و ذیقعد

زائچہ تحویل آفتاب سنکرانت میں ہوتی

تاریخ	واقعات
۱	بدھ ست کمبھ کے (۱) ۳۷ - ۱۹
۲	شکر اشنی کے (۱) ۶ - ۳ - ۵ منگل مولا کے (۲) ۹ - ۷ بدھ ست کمبھ کے (۲) ۵۹ - ۳۰
۳	سورج پوربابھادرپد کے (۱) ۲۴ - ۲۹ منگل مولا کے (۲) ۹ - بدھ ست کمبھ کے (۲) ۵۹ - ۳۰
۴	
۵	بدھ ست کمبھ کے (۳) ۴۵ - ۳۴ سورج اشنی کے (۲) ۲۶ - ۵۰
۶	سورج پوربابھادرپد کے (۲) ۴۸ - ۲۶
۷	بدھ ست کمبھ کے (۴) ۳۸ - ۵۶
۸	شکر اشنی کے (۳) ۱۷ - ۳۰
۹	منگل مولا کے (۳) ۲ - ۵۳ - بدھ پوربابھادر کے (۱) ۲۸ - ۲۸
۱۰	سورج پوربابھادر کے (۳) ۸ - ۱۹
۱۱	شکر اشنی کے (۴) ۴۳ - ۴۰
۱۲	بدھ پوربابھادرپد کے (۲) ۱۲ - ۲۴
۱۳	سورج پوربابھادرپد کے (۳) ۲۷ - ۴۸
۱۴	بدھ پوربابھادرپد کے (۳) ۱ - ۵۵
۱۵	منگل مولا کے (۴) ... بدھ پوربابھادرپد کے (۴) ... ۳۰ شکر بھرنی کے (۱) ... ۵۸
۱۶	سورج اترابھادرپد کے (۴) ۴۹ - ۳۸
۱۷	بدھ اترابھادرپد کے (۱) ۴۱ - ۲
۱۸	بدھ اترابھادرپد کے (۲) ۳۰ - ۲۸ شکر بھرنی کے (۲) ۲۶ - ۱۵
۱۹	منگل پوربا کھاڈ کے (۱) ۵۸ - ۴۵ شکر بھرنی کے (۳) ۵۷ - ۴۰
۲۰	سورج اترابھادرپد کے (۲) ۹ - ۲۴ - بدھ اترابھادرپد کے (۳) ۲۱ - ۱۹
۲۱	
۲۲	بدھ اترابھادرپد کے (۴) ۱۲ - ... شکر بھرنی کے (۴) ۵۵ - ۳۰
۲۳	سورج اترابھادرپد کے (۳) ۳۵ - ۲۳
۲۴	بدھ ریوتی کے (۱) ۵ - ۳۸
۲۵	منگل پوربا کھاڈ کے (۲) ۱۶ - ۴۲ بدھ ریوتی کے (۲) ۵۷ - ۶
۲۶	سورج اترابھادرپد کے (۳) ۳۵ - ۲۳
۲۷	بدھ ریوتی کے (۳) ۵۹ - ۱
۲۸	
۲۹	منگل پوربا کھاڈ کے (۳) ... - ۴۴ بدھ ریوتی کے (۴) ... - ۵۸
۳۰	سورج ریوتی کے (۱) ۱۵ - ۵۶
۳۱	بدھ اشنی کے (۱) ۵۹ - ۵۴

تقویم سیارگان

پیشنگوئی بابت ماہ چیت

ابتدائے ۱۳ مارچ لغایت ۱۱ اپریل

کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز و بردار مرگشر نچھتر میں پرویش ہوئی ہے۔ جس کا نندا نام ہے۔ ا ۳۰ جھورتی ہے۔ اس لئے غلہ گندم و نخود کا بھاؤ اس ماہ میں ایک حال پر نہیں رہیگا۔ لیکن اوسط ماہ میں گرانی پر نکلیگی۔ اناج خوردمثل جوار کلاں وخورد باجرہ۔ مکی۔ موٹھ۔ اور ڈونگنی وغیرہ بھی گراں رہینگے۔ تل۔ تیل۔ سرسوں تارامیرا کا بھاؤ تیزی پر رہیگا۔ سن۔ سوت۔ روئی۔ کپاس۔ بنوے گراں رہینگے۔ چاول۔ سفید۔ کپڑا۔ چاندی۔ دودھ دہی۔ کھانڈ وغیرہ ارزاں بکینگی۔ پھل وپھول وغیرہ کی پیداوار بہت ہوگی۔ سونا ارزاں۔ گوڑ۔ شکر۔ لال مرچ۔ لاکھ کپڑا مدہم رہیگا۔ ... بکینگے۔ چوپائے جانور ارزاں ہونگے۔ چارہ۔ لکڑی۔ تمباکو۔ کوئلہ کا بھاؤ تیزی پر ہوگا۔ ریشمی و اونی کپڑے کے بھاؤ میں ارزانی ہوگی۔

موسم۔ گرمی معمول سے زیادہ پڑے گی۔ اکثر جگہ بخار وغیرہ کی شکایت ہوگی۔ لوگوں کے خیالات عیاشی کی طرف زیادہ رہینگے۔

کرۂ فلک

اس ماہ میں آسمان پر سُرخی زیادہ رہیگی۔ بارش امید سے کم ہوگی۔ ہوا تیز چلیگی۔ ماہ مارچ کی ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ تاریخ کو آسمان ابرمحیط اور خفیف بارش۔ ۲۲ و ۲۳ تاریخ کو بادل ۲۹ سے ۳۱ تاریخ تک ابر و باراں۔ یکم اپریل کو بادل و بارش۔ ۵ و ۶ تاریخ کو آسمان پر ابر اور بادل کی گرج۔ اور ۱۱ اپریل کو بادل و بارش اور ہوا تیز چلنے کا یوگ ہے۔

نظر و قرآن سیارگان

ماہ مارچ

۵ مارچ ... نظر ... سدس

۹ مارچ ... نظر ... تربیع

۹ مارچ ... نظر ... سدس

۱۱ مارچ ... نظر ... قرآن

۱۳ مارچ ... نظر ... قرآن

۲۲ مارچ ... نظر ... سدس

۲۵ مارچ ... نظر ... سدس

۳۰ مارچ ... نظر ... تربیع

۳۱ مارچ ... نظر ... مقابل

اپریل

دن	عیسوی	رمضان	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	دن مان گھڑی پل	طلوع گھنٹہ منٹ	غروب گھنٹہ منٹ	تہوار
منگلوار	۱	۲۵	۱۲	۱۱	۲۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۰ ۵۵	۵ ۴۹	۶ ۱۱	[illegible]
بدھوار	۲	۲۶	۱۳	۱۲	۲۱	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۱ ۰۰	۵ ۴۸	۶ ۱۲	
برسپت وار	۳	۲۷	۱۴	۱۳	۲۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۱ ۴	۵ ۴۷	۶ ۱۳	چیت چودش، [illegible]
شکروار	۴	۲۸	۱۵	۱۴	۲۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۱ ۸	۵ ۴۶	۶ ۱۴	[illegible]
سنیچروار	۵	۲۹	۱۶	۱۵	۲۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۱ ۱۲	۵ ۴۵	۶ ۱۵	پہلا نوراتر سمت ۱۹۸۱ بکرم شروع
اتوار	۶	رمضان	۱۷	۱۶	۲۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۱ ۱۷	۵ ۴۴	۶ ۱۶	روزے شروع
سوموار	۷	۲	۱۸	۱۷	۲۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۱ ۲۲	۵ ۴۳	۶ ۱۷	منوادی، گوری برت
منگلوار	۸	۳	۱۹	۱۸	۲۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۱ ۲۷	۵ ۴۲	۶ ۱۸	
بدھوار	۹	۴	۲۰	۱۹	۲۸	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۱ ۳۲	۵ ۴۱	۶ ۱۹	سری پنچمی
برسپت وار	۱۰	۵	۲۱	۲۰	۲۹	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۱ ۳۷	۵ ۴۰	۶ ۲۰	سکند چھٹھ
شکروار	۱۱	۶	۲۲	۲۱	۳۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۱ ۴۲	۵ ۳۹	۶ ۲۱	گنگا سپتمی
سنیچروار	۱۲	۷	۲۳	۲۲	بیساکھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۱ ۴۷	۵ ۳۸	۶ ۲۲	سورج میکھ میں، درگا اشٹمی، میلہ بیساکھی
اتوار	۱۳	۸	۲۴	۲۳	۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۱ ۵۱	۵ ۳۷	۶ ۲۳	رام نومی
سوموار	۱۴	۹	۲۵	۲۴	۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۱ ۵۷	۵ ۳۶	۶ ۲۴	
منگلوار	۱۵	۱۰	۲۶	۲۵	۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۲ ۲	۵ ۳۵	۶ ۲۵	کامدا ایکادشی
بدھوار	۱۶	۱۱	۲۷	۲۶	۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۲ ۷	۵ ۳۴	۶ ۲۶	منگل [illegible]
برسپت وار	۱۷	۱۲	۲۸	۲۷	۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۲ ۱۲	۵ ۳۳	۶ ۲۷	
شکروار	۱۸	۱۳	۲۹	۲۸	۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۲ ۱۷	۵ ۳۲	۶ ۲۸	باراتی چودش، عرس [illegible] پانی پتی
سنیچروار	۱۹	۱۴	۳۰	۲۹	۸	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۲ ۲۲	۵ ۳۱	۶ ۲۹	ہنومان جنم دن
اتوار	۲۰	۱۵	۳۱	بیساکھ	۹	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۲ ۲۷	۵ ۳۰	۶ ۳۰	
سوموار	۲۱	۱۶	[illegible]	۲	۱۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۲ ۳۱	۵ ۲۹	۶ ۳۱	
منگلوار	۲۲	۱۷	۲	۳	۱۱	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۲ ۳۵	۵ ۲۸	۶ ۳۲	[illegible]
بدھوار	۲۳	۱۸	۳	۴	۱۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۲ ۴۰	۵ ۲۷	۶ ۳۳	
برسپت وار	۲۴	۱۹	۴	۵	۱۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۲ ۴۴	۵ ۲۶	۶ ۳۴	
شکروار	۲۵	۲۰	۵	۶	۱۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۲ ۴۸	۵ ۲۵	۶ ۳۵	
سنیچروار	۲۶	۲۱	۶	۷	۱۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۲ ۵۲	۵ ۲۴	۶ ۳۶	[illegible]
اتوار	۲۷	۲۲	۷	۸	۱۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۲ ۵۶	۵ ۲۳	۶ ۳۷	[illegible]
سوموار	۲۸	۲۳	۸	۹	۱۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۳ ۰۰	۵ ۲۳	۶ ۳۸	[illegible]
منگلوار	۲۹	۲۴	۹	۱۰	۱۸	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۳ ۴	۵ ۲۲	۶ ۳۸	بروتھنی ایکادشی
بدھوار	۳۰	۲۵	۱۰	۱۱	۱۹	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۳ ۷	۵ ۲۱	۶ ۳۹	

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۲۔ اپریل کو آسمان ابر محیط رہا۔ اور بجلی چمکی۔ تو آئندہ بارش کی قلت جاننا۔ اگر ۵۔ اپریل کو بارش ہوئی۔ تو ماہ اساڑھ میں خوب بارش ہوگی۔ اگر صرف بادل ہوئے۔ تو نرخ غلہ گراں ہوگا۔ اگر ۶۔ اپریل کو مطلع صاف رہا۔ تو ماہ ساون میں بارش کم ہوگی۔ اگر ۷۔ اپریل کو بادل اور بارش ہوئی۔ تو ماہ بھادوں میں بارش خوب ہو۔ اگر ۸۔ اپریل کو مطلع صاف رہا۔ تو اسوج میں بارش کی طرف سے جواب ہوگا۔ اگر ۹ و ۱۱۔ اپریل کو بارش ہوئی۔ تو پھر چوماسہ میں بارش نہیں ہوگی۔ اگر ۱۳۔ اپریل کو بادل اندھیری اور گرج ہو تو فصل کو سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا۔ اگر ۱۷۔ اپریل کو بارش ہوئی۔ تو اناج گراں۔ اگر ۲۰۔ اپریل کو سورج بادلوں سے طلوع ہوا۔ تو اس سال میں غلہ ارزاں رہے۔ اگر ۲۶۔ اپریل کو بادل گرجا۔ اور بجلی چمکی۔ تو یہ سال پیداوار غلہ کے لئے عمدہ جاننا۔

روز نامچہ بیسا کھ

ماہ اپریل ۱۹۲۴ء



زائچہ تحویل آفتاب یعنی شنکرانت بیسا کھ

تاریخ	کیفیت
۱	شکر کرتکا کے (۳) ۲-۵۳
۲	سورج ریوتی کے (۲) ۹-۳۹-۵۰
۳	بدھ اشنی کے (۲) ۸-۱۰
۴	شکر کرتکا کے (۴) ۱۰-۵۲
۵	منگل پوربا کھاڈ کے (۴) ۳۰-۲ بدھ اشنی کے (۳) ۱۵-۱۳
۶	سورج ریوتی کے (۳) ۲-۱۲
۷	بدھ اشنی کے (۴) ۲۹-۹ شکر روہنی کے (۱) ۱۸-۵۰
۸	
۹	سورج ریوتی کے (۴) ۲۶-۱۲ بدھ بھرنی کے (۱) ۴۳-۱۰
۱۰	منگل اترا کھاڈ کے
۱۱	
۱۲	سورج اشنی کے (۱) ۵۰-۱۴ بدھ بھرنی کے (۲) ۳۹-۲
۱۳	شکر روہنی کے (۳) ۴۹-۴
۱۴	
۱۵	بدھ بھرنی کے (۳) ۳۷-۳۰
۱۶	سورج اشنی کے (۲) ۱۴-۴۶ منگل اترا کھاڈ کے (۲) ۴۰-۵
۱۷	شکر روہنی کے (۴) ۷-۱۷
۱۸	راہو مگھا کے (۲) کیتو دھنشٹا کے (۴)
۱۹	سورج اشنی کے (۳) ۲۸-۵۹ بدھ بھرنی کے (۴) ۴۴-۵۸
۲۰	شکر مرگشر کے (۱) ۳۲-۴۵
۲۱	
۲۲	منگل اترا کھاڈ کے (۳) ۳۱-۳۰
۲۳	سورج اشنی کے (۴) ۵ سنیچر چترا کے (۲)
۲۴	شکر مرگشر کے (۲) ۱-۵۷
۲۵	
۲۶	سورج بھرنی کے (۱) ۳۱-۲۱
۲۷	شکر مرگشر کے (۳) ۴۸-۱۵
۲۸	منگل اترا کھاڈ کے (۴) ۲۰-۲۶
۲۹	سورج بھرنی کے (۲) ۵۷-۴۴
۳۰	

تقویم سیارگان

پیشینگوئی بابت ماہ بیساکھ

ابتدائے ۱۲ - اپریل لغایت ۱۲ - مئی

کرۂ ارض

اس ماہ کی شنکرانت بروز سنیچر وار پکھ پچھتر میں پرویش ہوتی ہے - جوکہ ۳۰ مہوتی ہے اور بیسا کھ بدی آماوش بروز سنیچر وار ہوتی ہے - اس لئے غلہ گندم و نخود کے لئے پھل دائک نہیں ہے - اناج کا بھاؤ گرانی پر رہیگا - اناج خورد مثل جوار - باجرہ - وغیرہ بھی ایک حال پر نہیں رہیگا - گاہے گراں - گاہے ارزاں - برہسپت اس ماہ میں بکری گت ہے - جوکہ اناج کو مہنگا کرنے والا ہے - روئی - کپاس سوت - روغن زرد - نمک - چاول - اور سفید رنگ کا کپڑا اس ماہ میں گراں ہونگے - گوڑ - شکر - کھانڈ کا بھاؤ بھی تیز رہیگا - سونے کا بھاؤ مدہم - چاندی گراں - تل - تیل - تارامیرا - السی - سرسوں - توریہ وغیرہ کا بھاؤ شروع میں گراں - آخر میں کچھ ارزاں ہوگا - چوپائے جانور گراں ملینگے - لاکھ - مسور - سرخ مرچ - چندن - ہلدی گراں - لکڑی کوئلہ ارزاں ملیگا ؏

موسم - گرمی زیادہ پڑیگی - لوگوں کی صحت بگڑی رہیگی - خاصکر عورتوں کے حمل زیادہ ساقط ہونگے - آتشزدگی سے نقصان زیادہ ہوگا ؏

کرۂ فلک

چونکہ بوقت شنکرانت چندرماں اشنی پچھتر پر ہے - اس لئے بارش کم ہوگی - آسمان گرد آلود زیادہ رہیگا - ماہ اپریل کی ۱۲ تاریخ کو ہوا تیز - ۱۶ و ۱۷ - اپریل کو بادل کی گرج و بارش ۲۲ و ۲۵ و ۲۸ - اپریل کو آسمان ابر محیط خفیف بارش - ماہ مئی کی ۳ و ۴ و ۶ تاریخ کو ہوا سرد و بادل اور ۸ و ۱۰ و ۱۱ تاریخ کو بادل اور ہوا تیز چلنے کا یوگ ہے ؏

۳۱ یوم مئی

وار	مئی	رمضان/شوال ہجری	[illegible]	[illegible]	[illegible]	تتھی	گھڑی پل	[illegible]	گھڑی پل	[illegible]	گھڑی پل	[illegible]	گھڑی پل	بھدرا ابتدا گھڑی پل	بھدرا انتہا گھڑی پل	دن مان گھڑی پل	طلوع گھنٹہ منٹ	غروب گھنٹہ منٹ	تہوار و میلے
جمعرات	۱	۲۶	۱۱	۱۲	۲۰	[illegible]	۴۵ ۴۸	[illegible]	۸ ۵۷	[illegible]	۴۹ ۱۲			۴۵ ۴۸		۳۳ ۱۰	۵ ۲۱	۶ ۳۹	
جمعہ	۲	۲۷	۱۲	۱۳	۲۱	[illegible]	۴۸ ۳۵	[illegible]	۱۱ ۱۷	[illegible]	۴۸ ۵۹	سنکھ	۱۱ ۱۷		۶ ۴۹	۳۳ ۱۴	۵ ۲۰	۶ ۴۰	پنچک ۱۱-۷ پر ختم جمعۃ الوداع
سنیچر	۳	۲۸	۱۳	۱۴	۲۲	[illegible]	۵۲ ۴۵	[illegible]	۱۷ ۴۷	[illegible]	۵۱ ۵۰					۳۳ ۱۸	۵ ۲۰	۶ ۴۰	
اتوار	۴	۲۹	۱۴	۱۵	۲۳	[illegible]	۵۷ ۲۳	[illegible]	۲۳ ۳۹	[illegible]	۵۲ ۲۵	[illegible]	۴۰ ۱۵			۳۳ ۲۲	۵ ۱۹	۶ ۴۱	
سوموار	۵	۳۰	۱۵	۱۶	۲۴	[illegible]	۶۰ ۰۰	[illegible]	۲۱ ۳	[illegible]	۵۴ ۸					۳۳ ۲۶	۵ ۱۸	۶ ۴۲	
منگل	۶	شوال	۱۶	۱۷	۲۵	[illegible]	۲ ۲۵	[illegible]	۳۶ ۴۲	[illegible]	۵۵ ۲۵					۳۳ ۳۰	۵ ۱۷	۶ ۴۳	عید الفطر
بدھوار	۷	۲	۱۷	۱۸	۲۶	[illegible]	۷ ۳۹	[illegible]	۳۴ ۲	[illegible]	۵۵ ۲۰	[illegible]	۹ ۵۲	۳۹ ۵۶		۳۳ ۳۴	۵ ۱۶	۶ ۴۳	اکھیا دوج
جمعرات	۸	۳	۱۸	۱۹	۲۷	[illegible]	۱۲ ۱۳	[illegible]	۴۸ ۴۲	[illegible]	۵۵ ۱				۱۲ ۱۳	۳۳ ۳۸	۵ ۱۶	۶ ۴۴	میلہ [illegible] حسین لاہور
جمعہ	۹	۴	۱۹	۲۰	۲۸	[illegible]	۱۶ ۱۴	[illegible]	۵۳ ۲۹	[illegible]	۵۵ ۳	[illegible]	۳۷ ۱۷			۳۳ ۴۲	۵ ۱۵	۶ ۴۵	
سنیچر	۱۰	۵	۲۰	۲۱	۲۹	[illegible]	۱۸ ۵۵	[illegible]	۵۷ ۰۰	[illegible]	۵۴ ۱۴					۳۳ ۴۶	۵ ۱۵	۶ ۴۶	عرس میاں وڈا در لاہور
اتوار	۱۱	۶	۲۱	۲۲	۳۰	[illegible]	۲۰ ۴۳	[illegible]	۵۹ ۳۵	[illegible]	۵۲ ۲۲	[illegible]	۵۹ ۳۵	۲۰ ۴۴	۵۰ ۴۲	۳۳ ۴۹	۵ ۱۴	۶ ۴۷	
سوموار	۱۲	۷	۲۲	۲۳	۳۱	[illegible]	۲۰ ۵۰	[illegible]	۶۰ ۰۰	[illegible]	۴۸ ۳۱					۳۳ ۵۳	۵ ۱۳	۶ ۴۷	
منگل	۱۳	۸	۲۳	۲۴	جیٹھ	[illegible]	۱۹ ۵۰	[illegible]	۰۰ ۴۱	[illegible]	۴۴ ۳۹					۳۳ ۵۷	۵ ۱۳	۶ ۴۷	سورج برکھ میں ۲۶/۴۷ پر آیا
بدھوار	۱۴	۹	۲۴	۲۵	۲	[illegible]	۱۷ ۴۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۴۰ ۵۴	[illegible]	۱۵ ۲۷	۴۸ ۵۶		۳۴ ۰۰	۵ ۱۲	۶ ۴۸	
جمعرات	۱۵	۱۰	۲۵	۲۶	۳	[illegible]	۱۴ ۱۹	[illegible]	۵۷ ۲۴	[illegible]	۳۵ ۲۰				۱۴ ۱۸	۳۴ ۴	۵ ۱۱	۶ ۴۹	بدھ مشرق میں طلوع تم موہنی ایکادشی
جمعہ	۱۶	۱۱	۲۶	۲۷	۴	[illegible]	۱۰ ۱۲	[illegible]	۵۴ ۲۷	[illegible]	۲۹ ۵	[illegible]	۴۵ ۵۵			۳۴ ۸	۵ ۱۱	۶ ۴۹	
سنیچر	۱۷	۱۲	۲۷	۲۸	۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵۰ ۵۶	[illegible]	۲۲ ۱۲			۵۹ ۳۵		۳۴ ۱۱	۵ ۱۰	۶ ۵۰	نرسنگھ چودس میلہ رنگھوجی
اتوار	۱۸	۱۳	۲۸	۲۹	۶	[illegible]	۱۳ ۲۱	[illegible]	۴۰ ۱	[illegible]	۱۴ ۵۷	[illegible]	۳۳ ۰۰		۲۶ ۳۰	۳۴ ۱۴	۵ ۹	۶ ۵۱	بدھ ۳۱-۳۰ پر مارگی ہوا - عرس امام علی شاہ نقشبندی
سوموار	۱۹	۱۴	۲۹	جیٹھ	۷	[illegible]	۴۷ ۲۹	[illegible]	۵۴ ۶	[illegible]	[illegible]					۳۴ ۱۷	۵ ۹	۶ ۵۱	
منگل	۲۰	۱۵	۳۰	۲	۸	[illegible]	۴۱ ۲۶	[illegible]	۳۹ ۳۵	[illegible]	۵۲ ۱۱	[illegible]	۳۸ ۳۷			۳۴ ۲۱	۵ ۸	۶ ۵۲	
بدھوار	۲۱	۱۶	۳۱	۳	۹	[illegible]	۳۵ ۲۵	[illegible]	۳۴ ۴۹	[illegible]	۴۴ ۴۷			۸ ۲۷	۳۵ ۲۵	۳۴ ۲۵	۵ ۷	۶ ۵۳	گنیش چوتھ
جمعرات	۲۲	۱۷	جوزا	۴	۱۰	[illegible]	۳۰ ۰۰	[illegible]	۳۱ ۲۰	[illegible]	۳۷ ۵۶	[illegible]	۴۵ ۳۶			۳۴ ۲۸	۵ ۶	۶ ۵۴	میلہ چھاہنیر
جمعہ	۲۳	۱۸	۲	۵	۱۱	[illegible]	۲۴ ۵۶	[illegible]	۲۸ ۲۵	[illegible]	۳۱ ۲۶					۳۴ ۳۰	۵ ۶	۶ ۵۴	عرس خواجہ امیر خسرو دہلوی
سنیچر	۲۴	۱۹	۳	۶	۱۲	[illegible]	۲ ۵۵	[illegible]	۲۶ ۱۰	[illegible]	۲۵ ۲۹	[illegible]	۵۵ ۴۵	۲۰ ۵۵	۴۹ ۲۶	۳۴ ۳۲	۵ ۵	۶ ۵۵	پنچک ۵۵-۴۵ پر شروع [illegible]
اتوار	۲۵	۲۰	۴	۷	۱۳	[illegible]	۱۷ ۴۴	[illegible]	۲۵ ۹	[illegible]	۲۰ ۳۲					۳۴ ۳۵	۵ ۵	۶ ۵۵	
سوموار	۲۶	۲۱	۵	۸	۱۴	[illegible]	۰ ۲۴	[illegible]	۲۵ ۵	[illegible]	۱۶ ۱۹					۳۴ ۳۸	۵ ۴	۶ ۵۶	
منگل	۲۷	۲۲	۶	۹	۱۵	[illegible]	۱۲ ۳۷	[illegible]	۲۶ ۱	[illegible]	۱۳ ۵	[illegible]	۱۰ ۴۷	۴۴ ۴۸		۳۴ ۴۰	۵ ۴	۶ ۵۶	
بدھوار	۲۸	۲۳	۷	۱۰	۱۶	[illegible]	۱۴ ۵۹	[illegible]	۲۸ ۳۴	[illegible]	۱۰ ۱۵				۱۴ ۵۹	۳۴ ۴۲	۵ ۴	۶ ۵۶	
جمعرات	۲۹	۲۴	۸	۱۱	۱۷	[illegible]	۱۳ ۴۱	[illegible]	۳۲ ۱۲	[illegible]	۹ ۴۲	[illegible]	۲۲ ۱۳			۳۴ ۴۴	۵ ۳	۶ ۵۷	بھدر کالی ایکادشی پنچک ۳۲-۱۳ پر ختم - میلہ بھدر کالی
جمعہ	۳۰	۲۵	۹	۱۲	۱۸	[illegible]	۹ ۲۱	[illegible]	۳۰ ۵	[illegible]	۹ ۲۱					۳۴ ۴۶	۵ ۳	۶ ۵۷	
سنیچر	۳۱	۲۶	۱۰	۱۳	۱۹	[illegible]	۲۳ ۲۳	[illegible]	۳۲ ۴۵	[illegible]	۹ ۴۵	[illegible]	۵۹ ۱۶	۲۳ ۲۳	۵۵ ۲۸	۳۴ ۴۸	۵ ۲	۶ ۵۸	

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۲ مئی کو آسمان ابر محیط رہا اور بارش ہوئی۔ تو اناج ارزاں ہو۔ اگر ۴ مئی کو بارش ہوئی۔ تو آئندہ مہینوں میں نرخ غلہ گراں ہوگا۔ اگر ۷ مئی کو بادل ہووے۔ تو جلد بارش ہو۔ مگر لوگ بیماری سے تکلیف اٹھاویں۔ اگر ۹ مئی کو بادل یا بارش ہوئی۔ تو ماہ بھادوں میں غلہ کی فروخت سے فائدہ ہوگا۔ اگر ۱۷ مئی کو بادل گرجا بجلی چمکی۔ تو نرخ غلہ ارزاں ہو۔ اگر ۱۸ مئی کو بارش ہوئی۔ تو ماہ بھادوں میں نرخ غلہ سخت گراں ہوگا۔ اگر ۲۶ مئی کو بارش ہوئی۔ تو ماہ بھادوں میں بارش بہت ہوگی۔ اگر ۲۸ مئی کو تمام رات چاند بادلوں میں چھپا رہا تو بارش بہت اور نرخ غلہ ارزاں ہونے کی علامت ہوگی۔ اگر ۲۹ مئی کو بجلی چمکی۔ بادل گرجا۔ تو آئندہ مہینوں میں بارش اچھی ہونے کی علامت ہوگی۔



تاریخ	
۱	شکر گرشر کے (۴) ۳۰-۵
۲	بدھ بھرنی کے (۳) ۱۵-۱۲
۳	سورج بھرنی کے (۳) ۲۴-۱۴
۴	منگل شروَن کے (۱) ۲۰-۴۵
۵	شکر آردرا کے (۱) ۳۶-۱۵
۶	سورج بھرنی کے (۴) ۵۲-۰۰
۷	بدھ بھرنی کے (۲) ۵۰-۳۵
۸	
۹	شکر آردرا کے (۲) ۴۸-۱۸
۱۰	سورج کرتکا کے (۱) ۱۹-۲۷ منگل شروَن کے (۲) ۵۰-۳۰ بدھ بھرنی کے (۱) ۴-۳۰
۱۱	
۱۲	
۱۳	سورج کرتکا کے (۲) ۴۷-۲۶
۱۴	شکر آردرا کے (۳) ۲۸-۱۸
۱۵	برہسپت جیشٹھا کے (۳) ۴۶-۵۱
۱۶	منگل شروَن کے (۳) ۵۷-۲۴
۱۷	سورج کرتکا کے (۳) ۱۵-۴۷
۱۸	
۱۹	
۲۰	سورج کرتکا کے (۴) ۴۴-۱۸
۲۱	
۲۲	شکر آردرا کے (۴) ۲۴-۴۴
۲۳	منگل شروَن کے (۴) ۲۹-۳۲
۲۴	سورج روہنی کے (۱) ۱۳-۱۷ بدھ بھرنی کے (۲) ۱۵-۳۵
۲۵	
۲۶	
۲۷	سورج روہنی کے (۲) ۴۲-۸ بدھ بھرنی کے (۳) ۵۳-۴۸ شکر پنرسں کے (۱) ۴۹-۳
۲۸	
۲۹	
۳۰	منگل دھنشٹا کے (۱) ۴۵-۷
۳۱	سورج روہنی کے (۳) ۱۲-۹ بدھ بھرنی کے (۴) ۵۳



تقویم سیارگان

پیشینگوئی بابت ماہ جیٹھ
ابتدائے ۱۳ مئی لغایت ۱۳ جون

کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز منگلوار بوربا بھاگنی نچھتر میں پرویش ہوئی ہے۔ جو ۳۰ ٭ ہوتی ہے۔ گذشتہ سنکرانت کے نچھتر سے چوتھے نچھتر میں ہے۔ اور جیٹھ شدی پنچ کے روز آردرا نچھتر ہے۔ ان سب لوگوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اناج کا بھاؤ گرانی پر رہیگا۔ البتہ غلہ خورد مثل جوار۔ باجرہ۔ مونگ۔ موٹھ۔ کنگنی وغیرہ کچھ ارزانی پر ہونگے۔ رسدار اشیاء مثل گھی۔ دودھ دہی وغیرہ گراں سرخ رنگ کی اشیاء گوڑ۔ شکر۔ لال مرچ مسور۔ لال کپڑا۔ لاکھ وغیرہ گرانی پر ہونگی۔ تل۔ تیل۔ تارامیرا۔ السی سرسوں توریہ۔ کودوں اور ارڈ سم بھاؤ بکینگے۔ سیاہ رنگ کی دھاتیں گراں۔ سونے کا بھاؤ مدہم۔ روئی۔ کپاس۔ چاندی۔ چاول۔ سفید کپڑا گراں بکینگے۔ عطاروں کی اشیاء گراں ہونگی۔ تمباکو۔ کوئلہ۔ لکڑی۔ بھوسہ۔ چارہ۔ گھاس وغیرہ ارزاں ملینگی ٭

موسم۔ بوجہ گرمی زیادہ پڑنے کے لوگوں کو صفراوی امراض سے تکلیف ہوگی۔ چوپایہ جانوروں میں بیماری اور موت زیادہ ہوگی۔ چوری کی وارداتیں کثرت سے ہونگی۔ جیٹھ شدی ۹ کم منگلوار ہے۔ اس لئے مرگ مفاجات کی کثرت ہو

کرۂ فلک

گرمی زیادہ پڑے گی۔ لو سخت گرم چلیگی گرد و غبار بہت اُڑیگا۔ آندھی تین مرتبہ سخت آئیگی۔ ماہ مئی کی ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ تاریخ کو ہوا تیز بادل اور بارش۔ ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ مئی کو آندھی۔ جھکڑ کے بعد بارش ۲۵۔ ۲۷ اور ۲۹ مئی کو بادل کی گرج و بارش۔ ماہ جون کی ۳ و ۴ کو ہوا تیز بادل اور ۵ و ۶ و ۱۰ جون کو بادل و بارش کا یوگ ہے +

مشہور عالم جنتری رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۳ ۱۶ سنہ ۱۹۲۴ء مطابق سمت ۱۹۸۱ بکرم

جون

روز	تاریخ انگریزی	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	طلوع و غروب آفتاب (گھڑی پل)	(گھنٹہ منٹ)	(گھنٹہ منٹ)	روزانہ یادداشت / تہوار
اتوار	۱	۲۷	۱۱	۱۳	۲۰	۳۴ ۵۰	۵ ۲	۶ ۵۸	
سوموار	۲	۲۸	۱۲	۱۵	۲۱	۳۴ ۵۲	۵ ۲	۶ ۵۸	سوماوتی اماوس
منگلوار	۳	۲۹	۱۳	۱۶	۲۲	۳۴ ۵۳	۵ ۱	۶ ۵۹	سالگرہ شہنشاہ ہند
بدھوار	۴	۳۰	۱۴	۱۷	۲۳	۳۴ ۵۵	۵ ۱	۶ ۵۹	
برہسپتوار	۵	ذیقعدہ	۱۵	۱۸	۲۴	۳۴ ۵۷	۵ ۱	۶ ۵۹	بدھ برکھ میں [illegible] پر آیا
شکروار	۶	۲	۱۶	۱۹	۲۵	۳۴ ۵۸	۵ ۱	۶ ۵۹	میلہ جوڑ میل در لاہور / [illegible]
سنیچروار	۷	۳	۱۷	۲۰	۲۶	۳۵ ۰	۵ ۰	۷ ۰	
اتوار	۸	۴	۱۸	۲۱	۲۷	۳۵ ۲	۵ ۰	۷ ۰	
سوموار	۹	۵	۱۹	۲۲	۲۸	۳۵ ۴	۴ ۵۹	۷ ۱	
منگلوار	۱۰	۶	۲۰	۲۳	۲۹	۳۵ ۶	۴ ۵۹	۷ ۱	
بدھوار	۱۱	۷	۲۱	۲۴	۳۰	۳۵ ۷	۴ ۵۹	۷ ۱	
برہسپتوار	۱۲	۸	۲۲	۲۵	۳۱	۳۵ ۹	۴ ۵۹	۷ ۱	گنگا جنم دسمی
شکروار	۱۳	۹	۲۳	۲۶	۳۲	۳۵ ۱۱	۴ ۵۸	۷ ۲	نرجلا ایکادشی
سنیچروار	۱۴	۱۰	۲۴	۲۷	ہاڑ	۳۵ ۱۲	۴ ۵۸	۷ ۲	سورج متھن میں [illegible] پر آیا
اتوار	۱۵	۱۱	۲۵	۲۸	۲	۳۵ ۱۳	۴ ۵۸	۷ ۲	منگل کنیہ میں [illegible] پر آیا
سوموار	۱۶	۱۲	۲۶	۲۹	۳	۳۵ ۱۴	۴ ۵۷	۷ ۳	
منگلوار	۱۷	۱۳	۲۷	۳۰	۴	۳۵ ۱۵	۴ ۵۷	۷ ۳	
بدھوار	۱۸	۱۴	۲۸	[illegible]	۵	۳۵ ۱۶	۴ ۵۷	۷ ۳	زہرہ شرق میں غروب [illegible] / عرس [illegible] در لاہور
برہسپتوار	۱۹	۱۵	۲۹	۲	۶	۳۵ ۱۷	۴ ۵۷	۷ ۳	
شکروار	۲۰	۱۶	۳۰	۳	۷	۳۵ ۱۸	۴ ۵۶	۷ ۴	گنیش چوتھ
سنیچروار	۲۱	۱۷	۳۱	۴	۸	۳۵ ۱۹	۴ ۵۶	۷ ۴	پنچک [illegible] پر شروع
اتوار	۲۲	۱۸	[illegible]	۵	۹	۳۵ ۲۰	۴ ۵۶	۷ ۴	[illegible] میں [illegible] پر آیا
سوموار	۲۳	۱۹	۲	۶	۱۰	۳۵ ۱۹	۴ ۵۶	۷ ۴	شارہ غرب میں غروب [illegible]
منگلوار	۲۴	۲۰	۳	۷	۱۱	۳۵ ۱۷	۴ ۵۷	۷ ۳	
بدھوار	۲۵	۲۱	۴	۸	۱۲	۳۵ ۱۵	۴ ۵۷	۷ ۳	پنچک [illegible] پر ختم
برہسپتوار	۲۶	۲۲	۵	۹	۱۳	۳۵ ۱۴	۴ ۵۷	۷ ۳	
شکروار	۲۷	۲۳	۶	۱۰	۱۴	۳۵ ۱۲	۴ ۵۸	۷ ۲	یوگنی ایکادشی
سنیچروار	۲۸	۲۴	۷	۱۱	۱۵	۳۵ ۱۱	۴ ۵۸	۷ ۲	
اتوار	۲۹	۲۵	۸	۱۲	۱۶	۳۵ ۵	۴ ۵۸	۷ ۲	[illegible] / [illegible] سلطان
سوموار	۳۰	۲۶	۹	۱۳	۱۷	۳۵ ۸	۴ ۵۸	۷ ۲	

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر یکم جون کو بارش ہوئی۔ تو ماہ بھادوں میں بارش اچھی ہوگی۔ اگر ۲ جون کو آسمان ابر محیط رہا اور پچھم کی ہوا چلی۔ تو آئندہ مہینوں میں بارش بالکل نہ ہوگی۔ اگر ۴ جون کو بادل گرجا۔ تو بارش جلد ہونے کی علامت ہوگی۔ اگر ۷ جون کو بارش ہوئی۔ تو نرخ غلہ ارزاں ہو۔ اگر صرف دکھن کی ہوا چلی۔ اور بادل گرجا۔ تو ماہ بھادوں میں بیل کا نرخ سخت گراں ہوگا۔ اگر ۱۰ سے ۱۳ جون تک برابر پورب کی ہوا چلتی رہی۔ تو ماہ ساون میں بارش اچھی ہوگی۔ اگر ۱۶ جون کو بارش ہوئی۔ تو ماہ بھادوں میں بارش خوب ہوگی۔ اگر ۲۰ جون کو تمام دن آسمان پر بادل چھائے رہے تو پھر تین ماہ تک بارش نہ ہوگی۔ اگر ۲۴ جون کو چاند بادلوں سے طلوع کرے تو نرخ غلہ نہایت ہو جاوے۔ اگر ۲۵ جون کو بوقت طلوع آفتاب مطلع صاف رہا۔ دوپہر کو بادل اور شام کو بارش ہو گئی۔ تو آئندہ بارش کی سخت قلت ہوگی۔

دیگر تحویل آفتاب یعنی سنکرانت

۲ بدھ — ۱۱ کیت — ۱ — ۱۲ — ۹ — ۱۰ منگل — ۸ برہسپت — ۵ راہ — ۳ سورج — ۴ — ۶

پیشنگوئی بابت ماہ ہاڑ

ابتدائے ۱۴ جون لغایت ۱۴ جولائی

کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بھی بروز سنیچروار بشاکھا نچھتر میں پرویش ہوتی ہے۔ چونکہ شمار میں گذشتہ سنکرانت کے نچھتر سے چھٹا ہے۔ اور ۱۵ مہورتی ہے۔ اور ہار سُدی ایکادشی سنیچروار کو ہے۔ اور شکر اس ماہ میں غروب ہو کر پھر طلوع ہوگا۔ دیو اچھیا سے یہ تمام یوگ کچھ بیسے منحوس واقع ہوئے ہیں۔ چونکہ غلہ کے سخت گراں ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ بانگ زیادہ ہوگی جس سے بھاؤ سخت گرانی پر چلا جاویگا۔ اناج خورد۔ جوار کلاں۔ باجرہ مونگ۔ ماش وغیرہ کا بھاؤ مدہم رہیگا۔ روئی۔ کپاس۔ سن۔ سوت۔ بنولے کا بھاؤ گرانی پر رہیگا۔ گھی۔ چاول۔ گند مول وغیرہ کا بھاؤ تیزی پر ہوگا۔ گوڑ شکر کھانڈ کا بھاؤ سم۔ سونا۔ چاندی۔ تانبہ اور دیگر دھاتیں گراں ہینگی۔ تیل و تل۔ سرسوں۔ تارا میرا کا بھی گراں بکتا ہے ارزاں مٹر۔ لوبیا۔ مسور کا بھاؤ مدہم۔ مویشیوں کا چارہ گھاس۔ لکڑی۔ تمباکو ارزاں اور دودھ دہی وغیرہ بھی ارزاں ہونگے چوپائے جانور گراں ہونگے۔ موسم ناخوشگوار رہیگا۔ لوگوں میں بیماری کی شکایت رہیگی۔ لوگوں کے خیالات منتشر۔ ملک میں اکثر کے لوگ گرانی غلہ سے سخت تنگ ہونگے افسردگی سے نقصان ہوگا ❖

کرۂ فلک

بوقت سنکرانت چندرماں کا آشنی نچھتر پر ہونا اور اساڑھ بدی ۲ کو روہنی نچھتر کا ہونا قلت بارش اور اندھیری چلنے پر دلالت کرتے ہیں جیسا کہ لکھا ہے

{ برس دن جو روہنی ایک گھڑی بھی ہو
گھنی اندھیری جھینی اور برکھا نہ ہو }

پس اس ماہ میں بارش کم اندھیری زیادہ اور آسمان سرخی مائل زیادہ رہیگا۔ ۱۵ و ۱۶ جون کو بادل کی گرج اور بجلی کی چمک ہوگی اور بعض جگہ خفیف بارش ہو۔ ۲۱-۲۲ و ۲۳ جون کو ہوا سخت اور گرج و چمک ۲۹ و ۳۰ جون کو رعد برق کی مہیب آواز و بارش ماہ جولائی کی ۲ و ۳ تاریخ کو ہوا تیز ۷ لغایت ۹ جولائی خفیف بارش اور ۱۳ جولائی کو ابر و باراں کا یوگ ہے ❖

چرن سیارگان

۱۹۲۴ء جون	
۱	
۲	بدھ کرتکا کے (۱) ۲۶-۲۶
۳	سورج روہنی کے (۴) ۲۱-۵۶
۴	
۵	بدھ کرتکا کے (۲) ۸-۵
۶	شکر میرگ سر کے (۱) ۳۳-۴۱ پر بکری ہوا
۷	سورج مرگشر کے (۱) ۳-۲۱ منگل دھنشٹا کے (۲) ۲۵-۳۰ بدھ کرتکا کے (۳) ۱۷-۱۱
۸	
۹	بدھ کرتکا کے (۴) ۴۲-۲۷
۱۰	سورج مرگشر کے (۲) ۳۳-۱۴ بر ... دھنشٹا کے (۳) ۵۴-۳۶
۱۱	بدھ روہنی کے (۱) ۲۰-۵۷
۱۲	سنیچر چترا کے (۳) ۴۳-۴۲
۱۳	بدھ روہنی کے (۲) ۳۲-۳۸
۱۴	سورج مرگشر کے (۳) ۱۳-۱۱
۱۵	منگل دھنشٹا کے (۴) ۵۶-۴۴ بدھ روہنی (۳) ۲۸-۵۸ شکر آردرا کے (۴) ۵-۳۶
۱۶	
۱۷	سورج مرگشر کے (۴) ۴۴-۲۶ بدھ روہنی کے (۴) ۲۲-۴۴
۱۸	
۱۹	بدھ مرگشر کے (۱) ۱۶-۱۷
۲۰	
۲۱	سورج آردرا کے (۱) ۱۵-۴۴ بدھ مرگشر کے (۲) ۹-۵۵ شکر آردرا کے (۳)
۲۲	بدھ مرگشر کے (۳) ۵۸-۴۲
۲۳	
۲۴	سورج آردرا کے (۱) ۶-۴۸ بدھ مرگشر کے (۴) ۴۵-۲۵
۲۵	راہو مگھا کے (۱) کیتو دھنشٹا کے (۳)
۲۶	منگل دھنشٹا کے (۴) ۵-۵۵ بدھ آردرا کے (۱) ... شکر آردرا کے (۲)
۲۷	
۲۸	سورج آردرا کے (۳) ۱۷-۲۵ بدھ آردرا کے (۲) ۱-۵۲
۲۹	سنیچر چترا کے (۳) ۱۱-۴۷ پر مارگی ہوا
۳۰	بدھ آردرا کے (۳) ۴-۴۷

تقویم سیارگان

ماہ جون

بیوپار مہورت

جولائی ۳۱ یوم

روز	جولائی عیسوی	ہجری	[illegible]	[illegible]	[illegible]	تتھ	گھڑی پل	نچھتر	گھڑی پل	جوگ	گھڑی پل	چندرما برج	گھڑی پل	بھدرا ابتدا	بھدرا انتہا	دن مان گھڑی پل	طلوع گھنٹہ منٹ	غروب گھنٹہ منٹ	تہوار و طلوع و غروب ستارگان	روزانہ یادداشت
منگلوار	۱	۲۷	۱۰	۱۴	۱۸	چودس	۶-۴۴	مرگسر	۲۰-۲۰	بردھ	۳۷-۳۰					۳۵-۶	۴-۵۹	۷-۱		
بدھوار	۲	۲۸	۱۱	۱۵	۱۹	اماوس	۱۱-۲۲	آردرا	۲۶-۱۲	دھرو	۳۸-۳۳					۳۵-۵	۴-۵۹	۷-۱	ہریالی اماوس۔ ستارہ شرق میں طلوع ہوا ۵-۳۵	
برہسپتوار	۳	۲۹	۱۲	۱۶	۲۰	پڑوا	۱۵-۱۳	پنربس	۳۱-۱۳	ویاگھات	۳۸-۵۷	سرک	۱۵-۲۲			۳۵-۳	۴-۵۹	۷-۱	رتھ یاترا۔ عرس حضرت [illegible]	
شکروار	۴	ذی الحجہ	۱۳	۱۷	۲۱	دوج	۱۷-۱۸	پکھ	۳۵-۳۸	ہرکھن	۳۸-۲۵					۳۵-۲	۴-۵۹	۷-۱		
سنیچروار	۵	۲	۱۴	۱۸	۲۲	تیج	۱۹-۴۳	اشلیکھا	۳۸-۳۵	بجر	۳۶-۵۰	سنگھ	۳۸-۳۵	۴۹-۴۷		۳۵-۰۰	۵-۰۰	۷-۰۰		
اتوار	۶	۳	۱۵	۱۹	۲۳	چوتھ	۱۹-۵۱	مگھا	۴۰-۱۵	سدھی	۳۴-۳۳				۱۹-۵۱	۳۴-۵۹	۵-۰۰	۷-۰۰		
سوموار	۷	۴	۱۶	۲۰	۲۴	پنچمی	۱۹-۳	پوربا پھاگن	۴۱-۴۰	ویتی پات	۳۱-۵	کنیا	۵۵-۳۰			۳۴-۵۸	۵-۱	۶-۵۹		
منگلوار	۸	۵	۱۷	۲۱	۲۵	چھٹھ	۱۷-۵۳	اترا پھاگن	۳۹-۵۳	وریان	۲۶-۴۰					۳۴-۵۶	۵-۱	۶-۵۹	بدھ کرک میں ۳۴-۵ پر آیا	
بدھوار	۹	۶	۱۸	۲۲	۲۶	ستمی	۱۳-۴۴	ہست	۳۸-۱	پریگھ	۲۱-۲۴			۱۳-۴۴	۴۱-۴۱	۳۴-۵۴	۵-۲	۶-۵۸		
برہسپتوار	۱۰	۷	۱۹	۲۳	۲۷	اشٹمی	۹-۲۸	چترا	۳۵-۳۶	شیو	۱۵-۲۵	تلا	۶-۴۸			۳۴-۵۲	۵-۲	۶-۵۸		
شکروار	۱۱	۸	۲۰	۲۴	۲۸	نومی / دسمی	۴-۵۹ / ۵-۵۹	سواتی	۳۲-۱۹	سدھ	۸-۲۷					۳۴-۵۰	۵-۲	۶-۵۸		
سنیچروار	۱۲	۹	۲۱	۲۵	۲۹	ایکادشی	۵۲-۵۶	وشاکھا	۲۸-۳۲	سادھ / شبھ	۱-۳۹ / ۵۵-۱۲	برچھک	۱۴-۲۹	۲۶-۰۰	۵۲-۵۶	۳۴-۴۹	۵-۲	۶-۵۸	دیو شینی ایکادشی	
اتوار	۱۳	۱۰	۲۲	۲۶	۳۰	دوادشی	۴۶-۵۱	انورادھا	۲۴-۲۷	شکل	۴۶-۳۲					۳۴-۴۷	۵-۳	۶-۵۷	منگل ۲۳ پر برکھی ہوا۔ عید الضحیٰ۔ عرس مخدوم [illegible]	
سوموار	۱۴	۱۱	۲۳	۲۷	۳۱	ترودشی	۴۳-۵۳	جیشٹھا	۲۰-۱۱	برہم	۳۸-۵۷	دھن	۲۰-۱۱			۳۴-۴۶	۵-۳	۶-۵۷		
منگلوار	۱۵	۱۲	۲۴	۲۸	ساون	پورنماشی	۳۴-۴۶	مول	۱۶-۲	اندر	۳۱-۲۹			۳۴-۴۶		۳۴-۴۴	۵-۳	۶-۵۷	سورج کرک میں ۴-۴۳ پر آیا	
بدھوار	۱۶	۱۳	۲۵	۲۹	۲	پڑوا	۲۸-۵۹	پوربا کھاڑا	۱۲-۲۴	بیدھرت	۲۴-۱۸	مکر	۲۶-۳۶		۵۳	۳۴-۴۲	۵-۴	۶-۵۶	بیاس پوجا، گرو پورنیما	
برہسپتوار	۱۷	۱۴	۲۶	ساون	۳	دوج	۲۳-۴۵	اترا کھاڑا	۹-۱۰	بشکنبھ	۱۷-۳۴					۳۴-۴۱	۵-۴	۶-۵۶	عرس حضرت فضل شاہ در بٹالہ	
شکروار	۱۸	۱۵	۲۷	۲	۴	تیج	۱۹-۳۲	سرون	۷-۴۰	پریت	۱۱-۳۰	کنبھ	۳۶-۲۰	۴۷-۴۹		۳۴-۳۹	۵-۴	۶-۵۶	[illegible] شروع	
سنیچروار	۱۹	۱۶	۲۸	۳	۵	چوتھ	۱۶-۸	دھنشٹھا	۵-۱۰	آیوشمان	۶-۷				۱۶-۸	۳۴-۳۶	۵-۴	۶-۵۶	گنیش چوتھ	
اتوار	۲۰	۱۷	۲۹	۴	۶	پنچمی	۱۳-۴۴	شتبھکا	۴-۲۱	سوبھاگ / شوبھن	۱-۳۴ / ۵۷-۴۵	مین	۴۹-۴۶			۳۴-۳۳	۵-۵	۶-۵۵		
سوموار	۲۱	۱۸	۳۰	۵	۷	چھٹھ	۱۲-۳۵	پوربا بھادرپد	۴-۵۵	اتی گنڈ	۵۵-۱۸					۳۴-۳۲	۵-۵	۶-۵۵	بدھ غروب پر طلوع ہوا	
منگلوار	۲۲	۱۹	۳۱	۶	۸	ستمی	۱۲-۴۰	اترا بھادرپد	۶-۴۲	سوکرما	۵۳-۴۶			۱۲-۴۰	۴۳-۲۷	۳۴-۳۰	۵-۵	۶-۵۵	شکر ۲۳ پر مارگی ہوا	
بدھوار	۲۳	۲۰	۳۲	۷	۹	اشٹمی	۱۴-۱۴	ریوتی	۹-۴۷	دھرت	۵۳-۳	میکھ	۹-۴۷			۳۴-۲۸	۵-۶	۶-۵۴	[illegible] ۹-۴۷ پر ختم	
برہسپتوار	۲۴	۲۱	اسد	۸	۱۰	نومی	۱۶-۴۲	اشونی	۱۳-۵	شول	۵۲-۵۵					۳۴-۲۵	۵-۶	۶-۵۴		
شکروار	۲۵	۲۲	۲	۹	۱۱	دسمی	۲۰-۳۴	بھرنی	۱۶-۱۶	گنڈ	۵۴-۱۱	برکھ	۳۵-۴۵	۵۳-۴۶		۳۴-۲۲	۵-۷	۶-۵۱	بدھ سنگھ پر ۱۰-۶۲ پر آیا	
سنیچروار	۲۶	۲۳	۳	۱۰	۱۲	ایکادشی	۲۴-۴۸	کرتکا	۲۵-۱۶	بردھ	۵۵-۳۷				۲۴-۵۸	۳۴-۱۹	۵-۷	۶-۵۳		
اتوار	۲۷	۲۴	۴	۱۱	۱۳	دوادشی	۲۶-۵۰	روہنی	۳۱-۴۵	دھرو	۵۷-۱۵					۳۴-۱۷	۵-۸	۶-۵۲	کامدا ایکادشی	
سوموار	۲۸	۲۵	۵	۱۲	۱۴	ترودشی	۳۵-۴	مرگسر	۳۷-۲۰	ویاگھات	۵۸-۴۵	متھن	۴-۳۲			۳۴-۱۴	۵-۹	۶-۵۱		
منگلوار	۲۹	۲۶	۶	۱۳	۱۵	چتردشی	۳۹-۳۲	آردرا	۴۴-۲۴	ہرکھن	۶۰-۰۰			۳۹-۳۶		۳۴-۱۱	۵-۹	۶-۵۱		
بدھوار	۳۰	۲۷	۷	۱۴	۱۶	چتردشی	۴۳-۲۹	پنربس	۴۹-۴۷	ہرکھن	۰۰-۵۲	کرک	۳۶-۲۶		۱۱-۳۳	۳۴-۸	۵-۱۰	۶-۵۰	عرس لالہ جاں حضرت محمد علی قادری منزل راولپنڈی	
برہسپتوار	۳۱	۲۸	۸	۱۵	۱۷	اماوس	۴۶-۴۸	پکھ	۵۴-۶	بجر / سدھی	۲۳-۰۰ / ۵۶-۵۶					۳۴	۵-۱۱	۶-۴۹	منو آدی اکادشی	

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۳ سے ۵ جولائی تک ۳ یوم برابر آسمان پر محیط رہے بارش ہو تو آئندہ مہینوں میں بارش عمدہ ہونے کی علامت جانو۔ اگر ۷ جولائی کو پچھم کی ہوا چلی۔ بادل گرجا۔ بارش ہوئی۔ اور بعد میں قوس و قزح نظر آیا۔ تو ماہ کارتک میں نرخ غلہ سخت گراں ہونے کی علامت ہوگی۔ اگر ۱۱ جولائی کو بارش ہوئی۔ تو نرخ غلہ ارزاں اگر ہوا چلی تو گراں ہوگا اگر ۶ اجولائی کو پہلے پہر میں بارش ہوئی۔ تو ایک ماہ تک نرخ غلہ گراں ہوگا۔ اگر ۲۰ جولائی کو تمام دن مطلع صاف ہو تو پھر ۱۸ یوم کے اندر اندر بارش خوب ہوگی۔ اگر اس روز بوقت طلوع آفتاب بادل ہوئے۔ تو پھر ۲۴ یوم کے اندر اندر خوب بارش ہوگی۔ اگر ۲۳ جولائی بوقت غروب آفتاب آسمان پر سرخی بہت ہوئی تو یہ علامت بیماری پڑنے کی ہوگی۔ اگر ۲۶ جولائی کو پورب کی ہوا چلی۔ تو بارش جلد آوے گی +

نقشہ سیارگان برجیسی

پیشینگوئی بابت ماہ ساون

ابتدائے ۱۵ جولائی لغایت ۵ اگست

کرۂ ارض

ساون کی سنکرانت بروز منگلوار پوربا بھادرپد نچھتر میں پرویش ہوئی ہے۔ جوکہ ۳۰ مہورتی ہے ساتھ ہی ساون بدی دوادشی کو سوموار اور اماوس کے روز پکھ نچھتر ہے بہ سبب لوگ اناج کے بھاؤ میں گڑبڑ ڈالنے والے ہیں۔ پس اس ماہ میں بھی غلہ گندم و نخود کا بھاؤ سخت گراں پر رہیگا۔ بلکہ بعض جگہ قحط سالی کا اندیشہ ہے۔ اناج خورد مثل مونگ۔ مٹر۔ جوار نخود وکلاں۔ باجرہ۔ ماش۔ موٹھ کا بھاؤ بھی تیزی پر رہیگا۔ تمام سرخ رنگ کی اجناس مثل گوڑ۔ شکر۔ مسور۔ لاکھ۔ سرخ مرچ تانبا۔ لال چندن سرخ کپڑہ وغیرہ گراں بلیں گے۔ سیاہ رنگ کی دھاتیں کپڑا اور مویشی۔ تمباکو۔ کوئلہ۔ سرسوں تارا میرا کچھ ارزانی پر ہونگے۔ تل۔ تیل گراں۔ گھی۔ دودھ۔ دہی کا بھاؤ چند روز کے لئے ارزانی پر ہوگا۔ بعد میں پھر گراں۔ نمک۔ چاندی۔ چاول رنگ سفید کپڑا گراں ہونگے۔ پنساری کی تمام چیزیں گراں ملینگی ۔

موسم۔ بوجہ گرمی کی زیادتی کے لوگوں کی طبیعت خراب رہینگی بعض مقامات میں بدہضمی کی تکلیف ہوگی۔ اور بعض جگہ سیلاب سے نقصان ہوگا ۔

کرۂ فلک

اس ماہ میں شکر و بدھ کے درمیان میں سورج رہیگا۔ اس لئے بارش امید سے کم ہوگی۔ گھنگھور گھٹا باد مخالف سے کافور ہو جاویگی۔ ستارے آسمان سے زیادہ ٹوٹینگے۔ چونکہ بوقت سنکرانت چندرماں آلی نچھتر پر ہے۔ اس لئے بعض بعض جگہ بارش اچھی ہو جاوے گی ماہ جولائی کی ۱۵ تاریخ کو بادل سیاہ رنگ و گرج۔ ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۳ جولائی کو گھنگھور گھٹا۔ چمک۔ گرج و بارش ۲۴ و ۲۵ تاریخ کو ہوا تیز و ابر محیط۔ ۲۸ و ۲۹ جولائی کو بارش۔ یکم لغایت ۵۔ اگست بادل اور بعض جگہ بوندا بوندی۔ ۱۰ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ اگست کو بوقت شب بادل و بارش کا یوگ ہے ۔

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت کرک جو وقتی ہو وقت

تاریخ جولائی	کیفیت
۱	سورج آردرا کے (۴) ... بدھ آردرا کے (۴) ... ۵۴-۱۱ شکر آردرا کے (۱) ۵۵-۲۵
۲	
۳	بدھ پنرلس کے (۱) ۳۹-۲۶
۴	
۵	سورج پنرلس کے (۱) ۲۰-۲۸ بدھ پنرلس کے (۲) ۲۷-۰
۶	
۷	بدھ پنرلس کے (۳) ۹-۰ شکر پنرلس کے (۲) ۴۲-۴۹
۸	سورج پنرلس کے (۲) ۵۱-۳۳ بدھ پنرلس کے (۴) ۵۷-۲۳ ... (۱) ۱۲-۱۵
۹	منگل رت کھا کے (۱) ۵۱-۳۲
۱۰	بدھ پکھ کے (۱) ۴۵-۴۴
۱۱	
۱۲	سورج پنرلس (۳) ۲۳-۲۱ بدھ پکھ کے (۲) ۰-۴۲
۱۳	
۱۴	بدھ پکھ کے (۳) ۲۰-۴
۱۵	سورج پنرلس (۴) ۵۱-۳۴
۱۶	منگل دھنشٹا کے (۴) ۲۲-۱۹ بدھ پکھ کے (۴) ... ۳
۱۷	
۱۸	بدھ اشلیکھا کے (۱) ۲-۴۷
۱۹	سورج پکھ کے (۱) ۲۲-۱۶ سپیچ چترا (۳) ۴۵-۹
۲۰	بدھ اشلیکھا کے (۲) ۵۳-۰۵
۲۱	بدھ اشلیکھا کے (۳) ۴۵-۲۶
۲۲	سورج پکھ کے (۲) ۵۲-۵۰
۲۳	بدھ اشلیکھا کے (۴) ۴۳-۳۱
۲۴	
۲۵	بدھ مگھا کے (۱) ۴۲-۵
۲۶	سورج پکھ کے (۳) ۲۲-۵۷
۲۷	بدھ مگھا کے (۲) ۳۲-۵۷
۲۸	
۲۹	سورج پکھ کے (۴) ۵۲-۵۸ بدھ مگھا کے (۳) ...
۳۰	
۳۱	شکر آردرا کے (۱) ۳۷-۲۸

[illegible]

تقویم سیارگان

ماہ جولائی

اوقات طلوع و غروب آفتاب

[illegible]

اگست

ایام	انگریزی				طلوع گھنٹہ منٹ	غروب گھنٹہ منٹ	دن گھڑی پل	تہوار و واقعات
شکروار	۱	۲۹	۹	۱۶ / ۱۸	۵ ۱۲	۶ ۴۸	۳۴ ۰	
سنیچروار	۲	۳۰	۱۰	۱۷ / ۱۹	۵ ۱۲	۶ ۴۷	۳۳ ۵۶	۱۳۶۷ ہجری ہریالی تیج محرم شروع سنہ ہجری کا آغاز
اتوار	۳	محرم	۱۱	۱۸ / ۲۰	۵ ۱۳	۶ ۴۷	۳۳ ۵۲	
سوموار	۴	۲	۱۲	۱۹ / ۲۱	۵ ۱۴	۶ ۴۶	۳۳ ۴۸	
منگلوار	۵	۳	۱۳	۲۰ / ۲۲	۵ ۱۵	۶ ۴۵	۳۳ ۴۴	ناگ پنچمی
بدھوار	۶	۴	۱۴	۲۱ / ۲۳	۵ ۱۶	۶ ۴۴	۳۳ ۴۰	
برہسپت وار	۷	۵	۱۵	۲۲ / ۲۴	۵ ۱۶	۶ ۴۴	۳۳ ۳۶	عرس بابا فریدالدین گنج شکر درپاک پٹن
شکروار	۸	۶	۱۶	۲۳ / ۲۵	۵ ۱۷	۶ ۴۳	۳۳ ۳۲	میلہ جیت پوری
سنیچروار	۹	۷	۱۷	۲۴ / ۲۶	۵ ۱۸	۶ ۴۲	۳۳ ۲۸	
اتوار	۱۰	۸	۱۸	۲۵ / ۲۷	۵ ۱۹	۶ ۴۱	۳۳ ۲۴	
سوموار	۱۱	۹	۱۹	۲۶ / ۲۸	۵ ۲۰	۶ ۴۰	۳۳ ۲۰	پوترا ایکادشی
منگلوار	۱۲	۱۰	۲۰	۲۷ / ۲۹	۵ ۲۱	۶ ۳۹	۳۳ ۱۶	برہسپت ... پر مارگی ہو / محرم ختم
بدھوار	۱۳	۱۱	۲۱	۲۸ / ۳۰	۵ ۲۲	۶ ۳۸	۳۳ ۱۲	
برہسپت وار	۱۴	۱۲	۲۲	۲۹ / ۳۱	۵ ۲۳	۶ ۳۷	۳۳ ۸	رکھڑی میلہ امرناتھ جی / پنچک ۵۵ پر شروع جانا
شکروار	۱۵	۱۳	۲۳	بھادوں / ۳۲	۵ ۲۴	۶ ۳۶	۳۳ ۴	
سنیچروار	۱۶	۱۴	۲۴	۲ / بھادوں	۵ ۲۴	۶ ۳۶	۳۳ ۰	بھادوں سورج سنکرانت ۱۹-۱۴ پر آیا
اتوار	۱۷	۱۵	۲۵	۳ / ۲	۵ ۲۵	۶ ۳۵	۳۲ ۵۶	
سوموار	۱۸	۱۶	۲۶	۴ / ۳	۵ ۲۶	۶ ۳۴	۳۲ ۵۲	گنیش چوتھ
منگلوار	۱۹	۱۷	۲۷	۵ / ۴	۵ ۲۶	۶ ۳۴	۳۲ ۴۹	پنچک ۲۸/۵۷ پر ختم
بدھوار	۲۰	۱۸	۲۸	۶ / ۵	۵ ۲۷	۶ ۳۳	۳۲ ۴۵	جشن چھٹ / عرس شیخ محمد طاہر درلاہور
برہسپت وار	۲۱	۱۹	۲۹	۷ / ۶	۵ ۲۸	۶ ۳۲	۳۲ ۴۲	سیتلا ستمی / بدھ ۵۷-۰-۱۳ پر کنیا کا ہو
شکروار	۲۲	۲۰	۳۰	۸ / ۷	۵ ۲۸	۶ ۳۲	۳۲ ۳۸	جنم اشٹمی
سنیچروار	۲۳	۲۱	۳۱	۹ / ۸	۵ ۲۹	۶ ۳۱	۳۲ ۳۴	گندھرب نومی
اتوار	۲۴	۲۲	ستمبر	۱۰ / ۹	۵ ۳۰	۶ ۳۰	۳۲ ۳۰	
سوموار	۲۵	۲۳	۲	۱۱ / ۱۰	۵ ۳۱	۶ ۲۹	۳۲ ۲۷	بدھ مغرب میں غروب ۲۵/۵۵
منگلوار	۲۶	۲۴	۳	۱۲ / ۱۱	۵ ۳۲	۶ ۲۸	۳۲ ۲۲	جیا ایکادشی / سنگھ میں حالت بکری ۵۵ پر آیا
بدھوار	۲۷	۲۵	۴	۱۳ / ۱۲	۵ ۳۳	۶ ۲۷	۳۲ ۱۷	گیوونسا دوادشی
برہسپت وار	۲۸	۲۶	۵	۱۴ / ۱۳	۵ ۳۴	۶ ۲۶	۳۲ ۱۲	
شکروار	۲۹	۲۷	۶	۵ / ۱۴	۵ ۳۵	۶ ۲۵	۳۲ ۷	
سنیچروار	۳۰	۲۸	۷	۱۶ / ۱۵	۵ ۳۶	۶ ۲۴	۳۲ ۲	کشا گرہنی اماوس
اتوار	۳۱	۲۹	۸	۱۷ / ۱۶	۵ ۳۷	۶ ۲۳	۳۱ ۵۷	

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۵ و ۶ اگست کو ۲ یوم برابر بارش ہوئی اور دکھن میں بجلی چمکی۔ تو قحط پڑنے کی علامت ہوگی۔ اگر ۷ اگست کو مطلع صاف رہا۔ تو نرخ غلہ گراں۔ اگر بارش ہوگئی تو ارزاں ہو اگر اس روز بعد غروب آفتاب بادل ہوئے۔ تو آئندہ مہینوں میں بارش کی قلت ہوگی۔ اگر ۱۲ و ۱۴ اگست کو بارش ہوگئی۔ تو ساونی کا فصل اچھا ہوگا۔ اور ہر قسم کا غلہ ارزاں ہوگا۔ اگر مطلع صاف رہا تو گرانی کی علامت جاننا۔ اگر ۱۶ اگست کو بارش ہوگئی۔ تو ماہ ماگھ میں نرخ غلہ گراں ہوگا۔ اگر ۲۹ اگست کو بارش ہوئی۔ تو خلق خدا میں سخت بیماری پھیلنے کی علامت ہوگی۔ اگر ۳۱ اگست کو بارش ہوئی۔ تو گھی وتیل کا نرخ گراں ہو جاوے گا۔

زائچہ تحویل آفتاب

پیشینگوئی بابت ماہ بھادوں

ابتدائے ۱۶ اگست لغایت ۱۵ ستمبر

کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز سنیچر دارست بکھا نچھتر میں پرویش ہوتی ہے۔ جو کہ ۵ امہورتی ہے جو گرانی غلہ پر دلالت کرتی ہے۔ پس اس ماہ میں بھی غلہ گندم و نخود کے بھاؤ میں زیادہ ارزانی ہونے کی امید نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بہ نسبت ماہ گذشتہ اناج کا بھاؤ ارزانی پر رہیگا۔ اناج خورد۔ جوار باجرہ مونگ موٹھ وغیرہ کا بھاؤ اس ماہ میں مدہم رہیگا چونکہ یہ سنکرانت چندرماں سورج سے ساتویں راشی پر ہے۔ اس لئے چاول اس ماہ میں خرید کر ۲ ماہ بعد فروخت کرنے سے کافی منافع ہوگا۔ منگل بکر راشی میں بحالت بکری داخل ہوگا جو کہ گھی کے نرخ میں کافی گرانی کرے گا۔ گوڑ۔ شکر۔ تل۔ تیل۔ لال مرچ کا بھاؤ بھی تیزی پر رہیگا۔ اجوائن۔ زیرہ ہلدی۔ انار دانہ۔ چندن۔ ہینگ وغیرہ گراں۔ سونا۔ تانبا۔ سرخ پتھر۔ لاکھ۔ مجیٹھ وغیرہ کا بھاؤ گراں۔ چاندی۔ سفید کپڑا۔ رانگ۔ دودھ۔ دہی۔ روئی۔ کپاس۔ کھانڈ کا بھاؤ ارزانی پر رہیگا۔ سرسوں۔ توریہ۔ تارا میرا کا بھاؤ سم۔ چارہ۔ بھوسہ لکڑی۔ کوئلہ۔ گراں ہونگے۔

موسم۔ لوگوں کی صحت کے لئے یہ ماہ ناقص ہے۔ بخار موسمی کی شکایت۔ عام طور پر رہیگی۔ بلکہ بعض شہروں میں پلیگ کا دورہ ہوگا۔ جس سے خلق خدا میں سخت تشویش پھیلیگی۔ چوری و رہزنی کی وارداتیں بکثرت ہونگی۔

کرۂ فلک

اس ماہ میں بارش کے یوگ اچھے ہیں۔ بادل بہت ہونگے۔ بارش بھی ہوگی۔ ۱۶-اگست کو آسمان پر بادل گھٹاٹوپ اور بارش۔ ۲۰-اگست کو ہوا تیز۔ بادل۔ ۲۵-۲۶-۲۷-اگست کو آسمان ابر محیط۔ بادل کی گرج اور بارش بھی ممکن ہے۔ کسی جگہ بجلی گر کر نقصان کرے۔ ۳۱-اگست کو ابر و باراں اور ماہ ستمبر کی ۷ و ۸ تاریخ کو بادل و بارش اور ۱۱ و ۱۲ تاریخ کو بادل اور بعض جگہ خفیف بارش کا یوگ ہے۔

پنچانگ

تقویم سیارگان

تاریخ	کیفیت
۱	سورج اشلیکھا کے (۱) ۲۲-۳-۴۳ بدھ مگھا کے (۴) ۵-۵۷
۲	منگل دھنیشٹا کے (۳) ۲۷-۱-۴۳
۳	بدھ پوربا پھالگنی کے (۱) ۲۲-۴۴
۴	
۵	سورج اشلیکھا کے (۲) ۵۲-۲۱ بدھ پوربا پھالگنی کے (۲) ۵-۵۹
۶	
۷	شکر آردرا کے (۲) ۲۶-۳۶
۸	بدھ پوربا پھالگنی کے (۳) ۷۵-۰
۹	سورج اشلیکھا کے (۳) ۲۱-۴۹
۱۰	
۱۱	برہسپت جیشٹھا کے (۱) مارگی ۰-۸
۱۲	سورج اشلیکھا کے (۴) ۵۷-۰ بدھ پوربا پھالگنی کے (۴) ۲۹-۵۳ [illegible] ۲۳-۰
۱۳	
۱۴	
۱۵	بدھ اترا پھالگنی کے (۱) ۰-۵-۵۷
۱۶	سورج مگھا کے (۱) ۱۹-۲۴
۱۷	شکر آردرا کے (۴) ۷-۳۸
۱۸	
۱۹	سورج مگھا کے (۲) ۴۸-۲۴
۲۰	
۲۱	
۲۲	شکر پنربس کے (۱) ۱-۵۷
۲۳	سورج مگھا کے (۳) ۱۵-۳۶
۲۴	
۲۵	شکر پنربس کے (۲) ۵۵-۲۶
۲۶	سورج مگھا کے (۴) ۲۳ منگل دھنیشٹا کے (۲) ۵۵-۳۰
۲۷	
۲۸	شکر پنربس کے (۳) ۵۵-۱۲
۲۹	
۳۰	سورج پوربا پھالگنی کے (۱) ۱۰-۳۰
۳۱	بدھ پوربا پھالگنی کے (۴) ۹-۳۳

[illegible]

ماہ اگست

مشہور عالم جنتری رجسٹرڈ دسمبر ۱۸۰۳ ۲۲

سنہ ۱۹۲۴ء مطابق سمت ۱۹۸۱ بکرم

ایام	عیسوی ۱۹۲۴ء	ماہ [illegible]	سمت ۱۹۸۱	فصلی [illegible]	…
سوموار	۱	مض	۹	۱۸	۱۷
منگلوار	۲	۲	۱۰	۱۹	۱۸
بدھوار	۳	۳	۱۱	۲۰	۱۹
برسپتوار	۴	۴	۱۲	۲۱	۲۰
شکروار	۵	۵	۱۳	۲۲	۲۱
سنیچروار	۶	۶	۱۴	۲۳	۲۲
اتوار	۷	۷	۱۵	۲۴	۲۳
سوموار	۸	۸	۱۶	۲۵	۲۴
منگلوار	۹	۹	۱۷	۲۶	۲۵
بدھوار	۱۰	۱۰	۱۸	۲۷	۲۶
برسپتوار	۱۱	۱۱	۱۹	۲۸	۲۷
شکروار	۱۲	۱۲	۲۰	۲۹	۲۸
سنیچروار	۱۳	۱۳	۲۱	۳۰	۲۹
اتوار	۱۴	۱۴	۲۲	[illegible]	۳۰
سوموار	۱۵	[illegible]	۲۳	۲	۳۱
منگلوار	۱۶	۱۶	۲۴	۳	[illegible]
بدھوار	۱۷	۱۷	۲۵	۴	۲
برسپتوار	۱۸	۱۸	۲۶	۵	۳
شکروار	۱۹	۱۹	۲۷	۶	۴
سنیچروار	۲۰	۲۰	۲۸	۷	۵
اتوار	۲۱	۲۱	۲۹	۸	۶
سوموار	۲۲	۲۲	۳۰	۹	۷
منگلوار	۲۳	۲۳	۳۱	۱۰	۸
بدھوار	۲۴	۲۴	[illegible]	۱۱	۹
برسپتوار	۲۵	۲۵	۲	۱۲	۱۰
شکروار	۲۶	۲۶	۳	۱۳	۱۱
سنیچروار	۲۷	۲۷	۴	۱۴	۱۲
اتوار	۲۸	۲۸	[illegible]	۱۵	۱۳
سوموار	۲۹	۲۹	۶	۱۶	۱۴
منگلوار	۳۰	۳۰	۷	۱۷	۱۵
تتھی / نچھتر / یوگ / کرن / طلوع و غروب آفتاب / چاند / تہوار و تواریخ	[illegible]				

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۲ ستمبر کو بادل ہوئے تو نرخ غلہ جلد گراں ہو جاویگا - اگر ۴ ستمبر کو مطلع صاف رہا - تو اناج کا بھاؤ جلد تیز ہو جاویگا - اگر ۵ ستمبر کو بادل نہ ہوئے - تو بارش کی طرف سے خشک جواب ہوگا - اور قحط پڑیگا - اگر ۷ ستمبر کو بارش ہوئی - تو نرخ غلہ گراں ہو جاوے گا - اگر ۹ ستمبر کو بارش ہوئی تو غلہ ارزاں ہو - اگر ۱۳ ستمبر کو گھٹا ٹوپ بادل ہوئے بجلی چمکی اور بارش ہوئی - تو نرخ غلہ جلد گراں ہونے کی علامت ہوگی - اگر ۱۴ ستمبر کو بادل ہوئے تو بارش جلد آنے کی علامت ہوگی - اگر ۲۱ - ستمبر کو بارش ہوئی - تو نرخ ارزاں - اگر ۲۳ ستمبر کو آسمان ابر محیط رہا - تو بارش جلد ہونے کا یوگ ہوگا ۔

ویدیا سنکرانتی

ستمبر ۱۹۲۳ء

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت کنیا مہورت ۳۰ وقت ۱۹

۸ برہسپت	منگل ۱۰ کیتو	۱۱
۷ سنیچر	۹	
۶	۱۲	
۵ سورج	۳	اچیہ ۱
۴ بدھ شکر راہو	۲	

تقویم سیارگان

تاریخ	واقعات
۱	شکر برس کے (۴) ۲۸-۳۵
۲	سورج پوربا پھالگنی کے (۲) ۳۶-۴۹
۳	
۴	بدھ پوربا پھالگنی کے (۳) ۳-۴۰ شکر کرکھ کے (۱) ۵۷-۵۵
۵	سنیچر سواتی کے ... ۴۳-۲۰
۶	سورج پوربا پھالگنی کے (۳) ۳-۲
۷	
۸	شکر پکھ کے (۲) ۱۵ راہو اشلیکھا کے (۴) کیتو دھنیشٹا کے (۲) ۵۵-۴۰
۹	سورج پوربا پھالگنی کے (۴) ۲۹-۳ بدھ پوربا پھالگنی ...
۱۰	
۱۱	برہسپت جیشٹا کے (۲) ۱۲-۴۸ شکر پکھ کے (۳) ۳۴-۵
۱۲	سورج اترا پھالگنی کے (۱) ۵۲-۲۳
۱۳	بدھ پوربا پھالگنی کے (۲) ۴-۱۰
۱۴	شکر پکھ کے (۴) ۵۰-۴
۱۵	
۱۶	سورج اترا پھالگنی کے (۲) ۱۹ ۱۹
۱۷	
۱۸	شکر اشلیکھا کے ... ۸
۱۹	سورج اترا پھالگنی کے (۳) ۴۳-۵۲
۲۰	
۲۱	بدھ پوربا پھالگنی کے (۴) ۲۵-۶ شکر اشلیکھا کے (۲) ۹-۷
۲۲	
۲۳	سورج اترا پھالگنی کے (۴) ۸-۱۰
۲۴	شکر اشلیکھا کے (۳) ۱۷-۷
۲۵	منگل دھنیشٹا کے (۲) ۱۴-۶ بدھ اترا پھالگنی کے (۱) ۳۰-۴
۲۶	سورج ہست کے (۱) ۳۱-۴۲
۲۷	بدھ اترا پھالگنی کے (۱) ۵۵-۵ شکر اشلیکھا کے (۴) ۱۸-۳۳
۲۸	
۲۹	سورج ہست کے (۲) ۵۵-۵
۳۰	بدھ اترا پھالگنی کے (۲) ۳۹-۴۴ شکر مگھا کے (۱) ۲۰-۵۵

[illegible]

پیشینگوئی بابت ماہ اسوج

ابتدائے ۱۶ ستمبر لغایت ۱۵ اکتوبر

کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز منگلوار اشنی نچھتر میں پرویش ہوئی ہے۔ جوکہ ۳۰ مہورتی ہے اور اسوج بدی ابجادشی بدھ وارکو ہے۔ جس کی تاثیر اناج کے بھاؤ میں گڑبڑ ڈالنے والی ہے اور اس ماہ میں اناج کا بھاؤ گاہے ارزاں گاہے گراں ہوتا رہیگا۔ اوسط آخر ماہ کی گرانی پر نکلیگی۔ اناج خورد مثلا موٹھ باجرہ جوار خورد و کلاں۔ مونگ۔ ماش۔ مٹر۔ لوبیا وغیرہ کا بھاؤ بھی ایک حال پر نہیں رہیگا۔ گھی۔ تل۔ تیل۔ ناریل۔ سرسوں۔ توریہ۔ السی وغیرہ کا بھاؤ گرانی پر رہیگا۔ سن سوت۔ روئی۔ کپاس۔ ریشمی کپڑا کا بھاؤ ارزاں ہوگا۔ سیاہ رنگ کی اشیاء۔ سیاہ کپڑے سیاہ رنگ کے مویشی گراں رہینگے۔ لوہا اور لوہے کا سامان اس ماہ میں ارزاں رہیگا۔ جوکہ اس ماہ میں لوہے کا سامان خرید کر ۶ ماہ بعد فروخت کرینگے۔ وہ کافی منافع اٹھا دینگے۔ گوڑ۔ شکر۔ کھانڈ۔ تماکو۔ سرخ مرچ۔ مسور۔ چندن وغیرہ گراں بکینگے۔ سرخ رنگ کے کپڑے و مویشی گراں۔ سونا۔ تانبا۔ گراں۔ چاندی و پارہ۔ رانگ ارزاں دودھ دہی کا بھاؤ سم رہیگا۔ مویشیوں کا چارہ گھاس مدہم بھاؤ رہینگے۔

موسم۔ اسوج سُدی دسمی منگلوار کو ہے جو ملک میں بیماری پھیلانے کی تاثیر رکھتی ہے۔ اس لئے صحت کے لئے یہ ماہ ناقص ہے۔ موسمی بخار کی شکایت بہت ہوگی۔ مرگ مفاجات کی کثرت ہوگی آتشزدگی کی وارداتیں بہت ہونگی۔

کرۂ فلک

چونکہ بوقت سنکرانت چندرماں بادی نچھتر پر ہے۔ اس لئے سطح گرد آلود زیادہ رہیگا ہوا زیادہ چلیگی۔ آسمان پر بادل ہونگے لیکن ہوا سے اڑ جاوینگے۔ ماہ ستمبر کی ۱۶ و ۱۷ کو بادل و بارش۔ ۲۱ و ۲۲ ستمبر کو آسمان ابر محیط اور بوندا باندی۔ ۲۶ لغایت ۲۹ ستمبر بادل کی گرج ہوا تیز اور ژالہ باری ۲ و ۳ اکتوبر کو بادل ۶ و ۷ اکتوبر آندھی ۹ سے ۱۱ اکتوبر تک بعض جگہ بارش بعض جگہ ابر محیط و ہوا تیز ۱۳ و ۱۴ اکتوبر کو ہوا سرد چلنے کا یوگ ہے۔

اکتوبر

وار	تاریخ انگریزی				طول دن گھڑی پل	طلوع آفتاب گھنٹہ منٹ	غروب آفتاب گھنٹہ منٹ	تہوار و میلے
بدھوار	۱		۸	۱۸	۱۶	۲۹ ۲۵	۶ ۷	۵ ۵۳	
ویروار	۲	۲	۹	۱۹	۱۷	۲۹ ۲۰	۶ ۸	۵ ۵۲	
شکروار	۳	۳	۱۰	۲۰	۱۸	۲۹ ۱۵	۶ ۹	۵ ۵۱	
سنیچروار	۴	۴	۱۱	۲۱	۱۹	۲۹ ۱۰	۶ ۱۰	۵ ۵۰	
اتوار	۵	۵	۱۲	۲۲	۲۰	۲۹ ۵	۶ ۱۱	۵ ۴۹	برسوتی نمی
سوموار	۶	۶	۱۳	۲۳	۲۱	۲۹ ۰	۶ ۱۲	۵ ۴۸	درگا نمی - میلہ
منگلوار	۷	۷	۱۴	۲۴	۲۲	۲۸ ۵۵	۶ ۱۳	۵ ۴۷	بجے دسمی - دسہرہ۔ عرس میاں میر صاحب
بدھوار	۸	۸	۱۵	۲۵	۲۳	۲۸ ۵۰	۶ ۱۴	۵ ۴۶	پاپانکشا ایکادشی۔ پنچک شروع
ویروار	۹	۹	۱۶	۲۶	۲۴	۲۸ ۴۵	۶ ۱۵	۵ ۴۵	
شکروار	۱۰	۱۰	۱۷	۲۷	۲۵	۲۸ ۴۰	۶ ۱۶	۵ ۴۴	سنیچر موب میں غروب
سنیچروار	۱۱	۱۱	۱۸	۲۸	۲۶	۲۸ ۳۵	۶ ۱۷	۵ ۴۳	عرس گھوڑے شاہ بخاری در لاہور
اتوار	۱۲	۱۲	۱۹	۲۹	۲۷	۲۸ ۳۰	۶ ۱۸	۵ ۴۲	شرد پورنماشی - اکاش دیوا۔ بارہ وفات
سوموار	۱۳	۱۳	۲۰	کاتک	۲۸	۲۸ ۲۴	۶ ۱۹	۵ ۴۱	پنچک ختم
منگلوار	۱۴	۱۴	۲۱	۲	۲۹	۲۸ ۱۹	۶ ۲۰	۵ ۴۰	عرس خواجہ قطب الدین در دہلی
بدھوار	۱۵	۱۵	۲۲	۳	۳۰	۲۸ ۱۴	۶ ۲۱	۵ ۳۹	عرس شاہ محمد غوث صاحب در لاہور
ویروار	۱۶	۱۶	۲۳	۴	کاتک	۲۸ ۸	۶ ۲۲	۵ ۳۸	سورج تلا میں آیا۔ برت کرواچوتھ
شکروار	۱۷	۱۷	۲۴	۵	۲	۲۸ ۲	۶ ۲۳	۵ ۳۷	
سنیچروار	۱۸	۱۸	۲۵	۶	۳	۲۷ ۵۴	۶ ۲۴	۵ ۳۶	عرس نظام الدین اولیا در دہلی
اتوار	۱۹	۱۹	۲۶	۷	۴	۲۷ ۴۹	۶ ۲۵	۵ ۳۵	بدھ تلا میں آیا
سوموار	۲۰	۲۰	۲۷	۸	۵	۲۷ ۴۴	۶ ۲۶	۵ ۳۴	آہوئی اشٹمی
منگلوار	۲۱	۲۱	۲۸	۹	۶	۲۷ ۳۹	۶ ۲۷	۵ ۳۳	
بدھوار	۲۲	۲۲	۲۹	۱۰	۷	۲۷ ۳۵	۶ ۲۸	۵ ۳۲	
ویروار	۲۳	۲۳	۳۰	۱۱	۸	۲۷ ۳۱	۶ ۲۹	۵ ۳۱	
شکروار	۲۴	۲۴	غروب	۱۲	۹	۲۷ ۲۶	۶ ۳۰	۵ ۳۰	رما ایکادشی
سنیچروار	۲۵	۲۵	۲	۱۳	۱۰	۲۷ ۲۲	۶ ۳۱	۵ ۲۹	
اتوار	۲۶	۲۶	۳	۱۴	۱۱	۲۷ ۱۸	۶ ۳۲	۵ ۲۸	دھن تیرس۔ شنی تلا میں آیا
سوموار	۲۷	۲۷	۴	۱۵	۱۲	۲۷ ۱۴	۶ ۳۳	۵ ۲۷	نرک چودش - دیوالی
منگلوار	۲۸	۲۸	۵	۱۶	۱۳	۲۷ ۱۰	۶ ۳۴	۵ ۲۶	
بدھوار	۲۹	۲۹	۶	۱۷	۱۴	۲۷ ۶	۶ ۳۵	۵ ۲۵	گوردھن پوجا
ویروار	۳۰		۷	۱۸	۱۵	۲۷ ۲	۶ ۳۶	۵ ۲۴	بھیا دوج
شکروار	۳۱	۲	۱	۱۹	۱۶	۲۶ ۵۸	۶ ۳۷	۵ ۲۳	

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۲۔ اکتوبر کو بوقت طلوع آفتاب بادل ہوئے تو جلد بارش آنے کی علامت ہوگی۔ اگر ۶۔ اکتوبر کو بارش ہوئی۔ تو نرخ غلہ ارزاں ہوگا۔ اگر ۷۔ اکتوبر کو بجلی چمکتی نظر آئی۔ تو فصل کا غلہ خراب ہو جاوے۔ اگر اس روز بارش ہوگئی۔ تو تیل و ماش فوراً گراں ہو جاوینگے۔ اگر ۹۔ اکتوبر کو رعد و برق کی مہیب آواز سنائی دیوے تو نرخ غلہ گراں ہو جاوے۔ اگر ۱۲۔ اکتوبر کو آسمان صاف رہا۔ تو نرخ غلہ میں ارزانی ہوگی۔ اگر ۱۴ و ۱۵۔ اکتوبر کو مطلع صاف رہا تو بارش کی قلت جاننا۔ اگر ۲۳۔ اکتوبر کو بارش ہوئی۔ تو گھی جلد گراں ہو جاویگا۔ اگر ۲۵۔ اکتوبر کو رات کے وقت بادل گرجے بارش ہوئی۔ تو ماہ ساون میں لوگ بارش کو ترسینگے۔ اگر ۲۹۔ اکتوبر کو سورج کے گرد ہالہ پڑا۔ تو تل و تیل گراں ہونگے۔ اگر ۳۰۔ اکتوبر کو بارش ہوئی۔ تو فصل عمدہ ہو۔

ذکر سیارگان برج عقرب

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت تلا سوتی ۲۵م دقیقہ ۴۶

ماہ ۱۹۲۴ء	واقعات سیارگان
۱	
۲	بدھ اترا پھالگنی کے (۳) ۵۹-۳۳
۳	سورج ہست کے (۳) ۱۷-۵م شکر گھا کے (۲) ۲۳-۵۷
۴	
۵	بدھ اترا پھالگنی کے (۴) برہسپت جیشٹھا کے (۳) ۳۴-۳
۶	سورج ہست کے (۴) ۳۰-۴ منگل دھنشٹا کے (۳) ۲۶-۱
۷	بدھ ہست کے (۱) ۳۳-۹ شکر مگھا کے (۳) ۲۲-۷
۸	سنیچر سواتی کے (۳) ۵-۴۶
۹	بدھ ہست کے (۲) ۴-۴ شکر مگھا کے (۴) ۲۳-۴۵
۱۰	سورج چترا کے (۱) ۵۹-۵۸
۱۱	بدھ ہست کے (۲) ۴۳-۳۷
۱۲	شکر پوروا پھالگنی کے (۱) ۱۶-۴۲
۱۳	سورج چترا کے (۲) ۲۲-۵۱ بدھ ہست کے (۴) ۳-۱۳
۱۴	
۱۵	بدھ چترا کے (۱) ۴۲-۴۸ شکر پوروا پھالگنی کے (۲) ۱-۳۶
۱۶	سورج چترا کے (۳) ۴۴-۳۶
۱۷	منگل دھنشٹا کے (۴) بدھ چترا کے (۲)
۱۸	شکر پوروا پھالگنی کے (۳) ۴-۱۷
۱۹	بدھ چترا کے (۳) ۴-۳
۲۰	سورج چترا کے (۴) شکر پوروا پھالگنی کے (۴) ۵۶-۳۴
۲۱	بدھ چترا کے (۴) ۲۳-۱۷
۲۲	
۲۳	سورج سواتی کے (۱) بدھ سواتی کے (۱) شکر اترا پھالگنی کے (۱) ۲۹-۱
۲۴	
۲۵	منگل ست بھکھا کے (۱) ۲۴-۹ بدھ سواتی کے (۲) ۳۰-۲۵ برہسپت جیشٹھا کے (۴)
۲۶	سورج سواتی کے (۲) ۴۵-۲۵ شکر اترا پھالگنی کے (۲) ۳۹-۵۵
۲۷	بدھ سواتی کے (۳) ۲-۳۰
۲۸	
۲۹	بدھ سواتی کے (۴) ۱-۳۵ شکر اترا پھالگنی کے (۳) ۲۹
۳۰	سورج سواتی کے (۳) ۵-۶
۳۱	بدھ وشاکھا کے (۱) ۱-۳۵

تقویم سیارگان

[illegible]

پیشینگوئی بابت ماہ کارتک

ابتدائے ۱۶ اکتوبر لغایت ۱۴ نومبر

کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز بدھ وار دھنی نچھتر میں پرویش ہوئی ہے جو ۴۵ مہور کی ہے جو کہ ارزانی غلہ پر دلالت کرتی ہے - لیکن ساتھ ہی کاتک سدی پورنماشی کے روز بھرنی نچھتر ہے - جو گرانی غلہ کا حکم رکھتا ہے - اس لئے ہر دو کی مساوات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے - کہ غلہ گندم و نخود کا بھاؤ اس ماہ کے شروع میں رو بہ ارزانی لیکن آخر ہفتہ میں گرانی پر چلا جائیگا - اناج خورد باجرہ - مونگ موٹھ - جوار - مٹر - لوبیا وغیرہ کا بھاؤ ارزاں ہوگا - چاولوں کا بھاؤ اس ماہ میں سخت گراں ہونے کے آثار ہیں - گوڑ - شکر کھانڈ کا بھاؤ تیزی پر رہیگا - تل - تیل - السی - تارامیرا - سرسوں کا بھاؤ گاہے گراں گاہے ارزاں - سونا - چاندی - تانبا وغیرہ ہر قسم کی دھاتیں گراں رہینگی - روئی - کپاس - سن - سوت - سوت وغیرہ کا بھاؤ ارزانی پر ہوگا - تمباکو - لکڑی - کوئلہ - سیاہ رنگ کے مویشی - چمڑہ - سیاہ کپڑا اس ماہ میں گراں رہینگی - دودھ دہی کا بھاؤ سم رہیگا - پنساری و عطاری کی چیزیں گراں رہینگی +

موسم - کارتک بدی اماوس منگلوار کو ہے اور اس روز سواتی نچھتر ہے جو کہ آتش پھیل دائک ہے - لوگوں کی طبیعتیں متفکر اور پژمردہ رہینگی - بیماری کا زور ہوگا - حشرات الارض کی پیدائش زیادہ - پھل - پھول کا ناش لوگوں کے درمیان جھگڑا فساد زیادہ ہونگے - چوری ڈاکہ کی وارداتیں بکثرت ہونگی +

کرۂ فلک

چونکہ بوقت سنکرانت چندرماں خاکی نچھتر پر ہے اسلئے گرد آلود زیادہ رہیگا - بادل ہوا سے اڑ جایا کرینگے ۱۵ اکتوبر کی ۷ لغایت ۱۹ تاریخ آسمان ابر محیط ۲۵ و ۲۷ و ۲۸ - اکتوبر کو بادل و بارش - ۴ و ۵ و ۶ نومبر کو بادل و خفیف ترشح - ۹ لغایت ۱۱ و ۱۲ نومبر کو ہوا تیز بادل اور بعض جگہ بوندا باندی اور ژالہ باری ہوگی +

۳۰ نومبر

یوم	نومبر	چاند	بکرمی	شکہ	واقعات
سنیچر	۱	۳	۹	۲۰	۱۷	
اتوار	۲	۴	۱۰	۲۱	۱۸	
سوموار	۳	۵	۱۱	۲۲	۱۹	
منگل	۴	۶	۱۲	۲۳	۲۰	کومل سپتمی پنچک ۵۲ پہر شروع
بدھوار	۵	۷	۱۳	۲۴	۲۱	پرکرماں نومی بدھ برچھک میں ۵ پہر آیا
برہسپت	۶	۸	۱۴	۲۵	۲۲	
شکروار	۷	۹	۱۵	۲۶	۲۳	دیو اٹھان ایکادشی
سنیچر	۸	۱۰	۱۶	۲۷	۲۴	عرس سالانہ غوث پاک و مائی صاحبہ در راولپنڈی فتح آباد
اتوار	۹	۱۱	۱۷	۲۸	۲۵	پنچک ۲۲ ختم
سوموار	۱۰	۱۲	۱۸	۲۹	۲۶	بیکنٹھ چتردشی اشنان دھن
منگل	۱۱	۱۳	۱۹	۳۰	۲۷	مکھوڑی میلہ رام تیرتھ و چنڈی منسا دیوی
بدھوار	۱۲	۱۴	۲۰	۱	۲۸	مرگ بھوری
برہسپت	۱۳	۱۵	۲۱	۲	۲۹	بدھ مغرب میں طلوع
شکروار	۱۴	۱۶	۲۲	۳	۳۰	سنیچر مشرق میں طلوع
سنیچر	۱۵	۱۷	۲۳	۴	۱	سورج برچھک میں ۳۴ پہر آیا گنیش چوتھ
اتوار	۱۶	۱۸	۲۴	۵	۲	
سوموار	۱۷	۱۹	۲۵	۶	۳	عرس شاہ دولہ دریائی در گجرات
منگل	۱۸	۲۰	۲۶	۷	۴	
بدھوار	۱۹	۲۱	۲۷	۸	۵	
برہسپت	۲۰	۲۲	۲۸	۹	۶	بھیرو اشٹمی
شکروار	۲۱	۲۳	۲۹	۱۰	۷	شکر تلا میں پہر آیا
سنیچر	۲۲	۲۴	۳۰	۱۱	۸	
اتوار	۲۳	۲۵	پوس ۱	۱۲	۹	اُتپنا ایکادشی
سوموار	۲۴	۲۶	۲	۱۳	۱۰	
منگل	۲۵	۲۷	۳	۱۴	۱۱	بدھ دھن میں ۲۹ پہر آیا
بدھ	۲۶	۲۸	۴	۱۵	۱۲	
برہسپت	۲۷	۲۹	۵	۱۶	۱۳	
شکروار	۲۸	۳۰	۶	۱۷	۱۴	
سنیچر	۲۹	جمادی الاول	۷	۱۸	۱۵	
اتوار	۳۰	۲	۸	۱۹	۱۶	

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۵ نومبر کو بارش ہوئی تو آئندہ بارش اچھی ہوگی۔ اگر ۷ نومبر کو مطلع صاف رہا تو فصل کے لئے ناقص ہے۔ اگر ۸ نومبر رات کو بادل نہ ہوئے۔ تو لوگوں کو ہر طرح سے آرام ملے۔ اگر ۹ نومبر کو بادل نہ ہوئے۔ تو آئندہ بارش کی قلت ہوگی۔ اگر ۱۲ نومبر کو بجلی چمکی گرج ہوئی۔ تو نرخ غلہ ارزاں ہوگا۔ اگر ۱۶ نومبر کو بادل ہوئے تو آئندہ بارش عمدہ ہوگی۔ اگر ۱۸ نومبر کو آسمان ابر چھایا رہا۔ تو ماہ بیساکھ میں بارش کم اور غلہ گراں ہوگا۔ اگر ۲۱ نومبر کو بوقت شب بارش یا بادل کی گرج ہو۔ تو جان لو کہ اب ماہ ساون بھادوں میں بارش کی طرف سے جواب ہوگیا ہے۔ اگر ۲۶ نومبر کو سورج بادلوں میں چھپا رہا۔ تو گھاس اور چارہ گراں ہوگا +



حرکت سیارگان

ماہ نومبر ۱۹۲۴ء

تاریخ	حرکت سیارگان
۱	بدھ نشاکھا کے (۲) ۵۸-۵۶ شکر انرادھا کی کے (ہ) ۲۲-۱۶
۲	سورج سواتی کے (۴) ۴-۲-۱۴ منگل ست بھکے (۲) ۶-۷
۳	بدھ نشاکھا کے (۳) ۰-۵-۲۴ پنچر سواتی کے (۳) ۲۲-۲۹
۴	شکر ہست کے (۱) ۱۰-۳-۱۴ منگل ست بھکے (۳) کینتو جیشٹھا کے (۱) ۰-۴-۳۰
۵	سورج نشاکھا کے (۱) ۴۲-۳۲ راہو انلہ کے (ہ) ۵۰-۶
۶	شکر ہست کے (۲) ۵۷-۵۰
۷	بدھ انرادھا کے (۱) ۴۴-۵ منگل ست (۳) ۴۳-۱۱
۸	
۹	سورج نشاکھا کے (۲) ۱-۱۳ بدھ انرادھا کے (۲) ۵-۲-۳۲
۱۰	شکر ہست کے (۳) ۱-۵ برہسپت مولا کے (۱) ۲-۳۸
۱۱	بدھ انرادھا کے (۳) ۴۷-۷
۱۲	سورج نشاکھا کے (۳) ۱۹-۳۰ شکر ہست کے (۴) ۴۱-۲۳
۱۳	منگل ست بھکا کے (۴) ۱۹-۳۸ بدھ انرادھا کے (۴) ۴۵-۴۴
۱۴	
۱۵	سورج نشاکھا کے (۴) بدھ جیشٹھا کے (۱) ۲۴-۲۴ شکر چترا کے (۱) ۲۰-۵۴
۱۶	
۱۷	
۱۸	سورج انرادھا کے (۱) ۵۲-۵۳ بدھ جیشٹھا کے (۲) شکر چترا کے (۲) ۴-۹
۱۹	
۲۰	بدھ جیشٹھا کے (۳) ۲۳ شکر چترا کے (۳) ۴۹-۴۳
۲۱	منگل پوربابھادرپد کے (۱) ۳۱-۲۴
۲۲	سورج انرادھا کے (۲) ۱۵ بدھ جیشٹھا کے (۴) ۳۷-۳۵
۲۳	شکر چترا کے (۴) ۳۴-۵۸
۲۴	بدھ مولا کے (۱) ۸-۳۹
۲۵	سورج انرادھا کے (۳) ۲۸-۴۷ برہسپت مولا کے (۲) ۵-۴-۴
۲۶	شکر سواتی کے (۱) ۱۸-۳۷
۲۷	منگل پوربابھادرپد کے (۲) ۲۷-۷ بدھ مولا کے (۲) ۵-۳۹
۲۸	سورج انرادھا کے (۴) ۴-۲۵
۲۹	شکر سواتی کے (۲) ۲-۱۷
۳۰	

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت برچھک

[illegible]

پیشنگوئی بابت مگھر

ابتدائے ۱۵ - نومبر لغایت ۱۴ دسمبر

کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز سنیچر وار آردر نچھتر میں پرویش ہوئی ہے - جوکہ ۱۵ مہورتی ہے - اور نکھشتر شدی اشٹمی ڈگ گئی ہے - جوکہ گرانی غلہ کا خواص رکھتی ہے پس بہ نسبت ماہ گذشتہ اس ماہ میں غلہ گندم و نخود کے بھاؤ میں گرانی ہوگی - غلہ خورد مثل مونگ - موٹھ - جوار خورد کلاں باجرہ - وغیرہ کا بھاؤ بھی کچھ گرانی پر چلا جائیگا - روغن زرد و روغن سیاہ کا بھاؤ گراں ہوگا - برہسپت دھن راشی میں داخل ہوگا - جوکہ ملک مارواڑ میں قحط سالی کی تاثیر دیگا - گوڑ - شکر - لال مرچ صندل سرخ - اور سرخ کپڑا کا بھاؤ تیزی پر رہیگا - روئی - کپاس - سن - سوت - بنولے کا بھاؤ ارزانی پر - رسدار اشیاء دودھ - دہی کھانڈ کا بھاؤ مدہم - تیل - تل گراں - چاندی - پارہ - رانگ ارزاں ہونگی - تارامیرا - سرسوں - السی وغیرہ کا بھاؤ روبہ ارزانی رہیگا - اون پشمینہ گرم کپڑا گراں رہینگے +

موسم - سردی زیادہ پڑیگی - طفلان خوردسالہ کو مرض چیچک سے بکھسف اور مستورات کی صحت زیادہ تر خراب رہیگی - بخار و نمونیہ کی شکایت اکثر زیادہ ہوگی - بعض جگہ زمین شق ہونے اور زلزلہ آنے کا یوگ ہے +

کرۂ فلک

چونکہ بوقت سنکرانت چندرماں آلی نچھتر پر ہے - اس لئے بادل آسمان پر خوب چکر لگا دینگے - اور بارش بھی ہوگی - ماہ نومبر کی ۱۹ و ۲۰ تاریخ کو آسمان ابر محیط و بارش - ۲۴ لغایت ۲۷ نومبر کو آسمان پر بادلوں کا اجتماع ہوا سرد اور بارش خوب ہو - ماہ دسمبر کی یکم و ۵ و ۸ لغایت ۱۰ تاریخ کو بادل کی گرج - بارش - اور ۱۳ دسمبر کو آسمان ابر محیط ہونے کا یوگ ہے +

تقویم سیارگان

[illegible]

طلوع و غروب سیارگان

ماہ نومبر

[illegible]

ایام	دسمبر ۱۹۲۴ عیسوی	جمادی الاول ۱۳۴۳ ہجری	۱۹۸۱	۱۹۸۱	کیفیت
سوموار	۱	۳	۹	۲۰	۱۷	
منگلوار	۲	۴	۱۰	۲۱	۱۸	پنچک سے شروع
بدھوار	۳	۵	۱۱	۲۲	۱۹	سکٹ ہا چھٹ
برہسپت وار	۴	۶	۱۲	۲۳	۲۰	
شکروار	۵	۷	۱۳	۲۴	۲۱	
سنیچروار	۶	۸	۱۴	۲۵	۲۲	موکشدا ایکادشی
اتوار	۷	۹	۱۵	۲۶	۲۳	
سوموار	۸	۱۰	۱۶	۲۷	۲۴	
منگلوار	۹	۱۱	۱۷	۲۸	۲۵	منگل
بدھوار	۱۰	۱۲	۱۸	۲۹	۲۶	
برہسپت وار	۱۱	۱۳	۱۹	۳۰	۲۷	
شکروار	۱۲	۱۴	۲۰	پوہ ۱	۲۸	
سنیچروار	۱۳	۱۵	۲۱	۲	۲۹	
اتوار	۱۴	۱۶	۲۲	۳	۳۰	
سوموار	۱۵	۱۷	۲۳	۴	پوہ ۱	
منگلوار	۱۶	۱۸	۲۴	۵	۲	
بدھوار	۱۷	۱۹	۲۵	۶	۳	
برہسپت وار	۱۸	۲۰	۲۶	۷	۴	
شکروار	۱۹	۲۱	۲۷	۹	۵	
سنیچروار	۲۰	۲۲	۲۸	۹	۶	
اتوار	۲۱	۲۳	۲۹	۱۰	۷	
سوموار	۲۲	۲۴	۱	۱۱	۸	سپھلا ایکادشی
منگلوار	۲۳	۲۵	۲	۱۲	۹	
بدھوار	۲۴	۲۶	۳	۱۳	۱۰	
برہسپت وار	۲۵	۲۷	۴	۱۴	۱۱	
شکروار	۲۶	۲۸	۵	۱۵	۱۲	
سنیچروار	۲۷	۲۹	۶	۱۶	۱۳	
اتوار	۲۸	جمادی الثانی ۱	۷	۱۷	۱۴	
سوموار	۲۹	۲	۸	۱۸	۱۵	
منگلوار	۳۰	۳	۹	۱۹	۱۶	پنچک سے شروع
بدھوار	۳۱	۴	۱۰	۲۰	۱۷	

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۴۔ دسمبر کو ایشان کون میں بادل نظر آئے تو بارش بہت کم ہونے کی علامت ہوگی اگر ۵ دسمبر کے دن بارش ہوئی۔ تو ارزانی غلہ کی علامت جاننا۔ اگر ۱۱ دسمبر کو آسمان پر بادل ہوئے۔ تو غلہ کا نرخ گراں ہو جاویگا۔ اگر ۱۳۔ دسمبر کو بادل یا بارش ہوئی۔ تو ماہ ہاڑ میں اماوس کے روز بارش ضرور ہوگی۔ اگر ۱۶ دسمبر کو رات کو بادل گرجا بجلی چمکی۔ تو ماہ ساون میں بارش کم ہوگی۔ اگر ۱۹۔ اکتوبر کو نصف شب کے بعد بارش ہوئی۔ تو چوماسہ بھر بارش خوب ہوگی۔ اگر ۲۰۔ دسمبر کو مشرق میں بادل گرجے تو فصل کا غلہ خراب ہو جانے کی علامت ہے۔ اگر ۲۵ دسمبر کو بادل ہوئے تو ماہ بھادوں میں بارش اچھی ہوگی۔ اگر ۲۹۔ دسمبر کو بجلی کوندتی نظر آوے تو آئندہ بارش کی قلت جاننا۔ اگر ۳۰۔ دسمبر کو ہوا چلی۔ بجلی چمکی۔ تو جان لینا کہ ماہ اساڑ کرشن پکش میں ۷ یوم برابر بارش ہوگی +

دی نکشتر پنچانگ (ہندی)

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت

تقویم سیارگان

تاریخ	واقعات
۱	سورج جیشٹا کے (۱) ۵۹ - ۵۰ بدھ مولا کے (۳) پہلے شکر سواتی کے (۳) ۴۴ - ۴۴ - ۲۱
۲	سنیچر سواتی کے (۴) ۲ - ۴۶
۳	منگل پوربابھادرپد کے (۳) ۴۱ - ۴ بدھ مولا کے (۴) ۲۳ - ۱۴
۴	شکر سواتی کے (۴) ۳۱ - ۱۳
۵	سورج جیشٹا کے (۲) ۱۸ - ۱۳
۶	
۷	شکر وشاکھا کے (۱) ۱۴ - ۴
۸	سورج جیشٹا کے (۳) ۳۴ - ۱۸
۹	منگل پوربابھادرپد کے (۴) ۹ - ۴۷ شکر وشاکھا کے (۲) ۵۵ - ۱۵
۱۰	برہسپت مولا کے (۳) ۳۸ - ۵۳
۱۱	سورج جیشٹا کے (۴) ۵۰ - ۱۲
۱۲	بدھ پورباکھاڑ کے (۱) ۱۲ - ۵
۱۳	شکر وشاکھا کے (۳) ۳۸ - ۴۴
۱۴	منگل اترابھادرپد کے (۱) ۵۴ - ۳۶
۱۵	سورج مولا کے (۱) ۵ - ۵۹ شکر وشاکھا کے (۴) ۲۱ - ۵۹
۱۶	
۱۷	
۱۸	سورج مولا کے (۲) ۲۱ - ۳۷ شکر انورادھا کے (۱) ۳۳ - ۳۹
۱۹	منگل اترابھادرپد کے (۲) ۵۹ - ۵۳
۲۰	
۲۱	سورج مولا کے (۳) ۳۷ - ۲۵ بدھ پورباکھاڑ کے (۴) ۶ - ۳ - ۵۴ شکر انورادھا کے (۲)
۲۲	
۲۳	شکر انورادھا کے (۳) ۲۶ - ۹
۲۴	سورج مولا کے (۴) ۵۲ - ۴۶
۲۵	منگل اترابھادرپد کے (۳) ۴۲ - ۱۳ بدھ مولا کے (۳) ۲۸ - ۳۸ برہسپت مولا کے (۴) ۱۷ - ۳۱
۲۶	شکر انورادھا کے (۴) ۷ - ۲۳
۲۷	
۲۸	سورج پورباکھاڑ کے (۱) ۸ - ۵۶ شکر جیشٹا کے (۱) ۴۵ - ۱۵
۲۹	بدھ مولا کے (۲) ۶ - ۱۸
۳۰	راہو اشلیکھا کے (۲) کیتو شرون کے (۴) ۵۶ - ۴۵
۳۱	سورج پورباکھاڑ کے (۲) ۲۳ - ۲۱ منگل اترابھادرپد کے (۴) ۵ - ۷ شکر جیشٹا کے (۲) ۲۸ - ۱۰

پیشینگوئی بابت ماہ پوہ

ابتدائے ۱۵ دسمبر لغایت ۱۲ جنوری سنہ ۱۹۲۵

کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز سوموار بکھ نکھشتر میں پردیش ہوئی ہے۔ جو کہ ۳۰ مہورتی ہے۔ اور گذشتہ سنکرانت کے نکھشتر سے بکھ شمار میں تیسرا ہے اور بدھ بدی آماوس کو مولا نکھشتر ہے۔ جو کہ ارزانی غلہ پر دلالت کرتے ہیں۔ پس اس ماہ میں غلہ گندم دنخود کے نرخ میں اچانک غیر معمولی ارزانی ہوگی۔ جس سے بہت سے بیوپاری سخت نقصان اٹھا دینگے۔ غلہ خورد۔ باجرہ۔ موٹھ۔ مونگ۔ جوار خورد و کلاں کا بھاؤ بھی ارزانی پر رہیگا۔ روئی۔ کپاس۔ سن سوت کا بھاؤ گراں ہوگا۔ ہر قسم کی دھاتیں۔ موتی۔ مونگا۔ روغن زرد۔ ناریل کا تیل ارزاں ملینگے۔ تل۔ تیل السی۔ تارامیرا۔ سرسوں۔ توریہ کا بھاؤ گرانی پر رہیگا۔ رسدار اشیاء گوڑ۔ شکر۔ کھانڈ۔ دودھ۔ دہی کا بھاؤ کچھ تیزی پر ہوگا۔ منگل مین میں رہیگا اس لئے گھاس۔ مویشیوں کا چارہ۔ لکڑی کوئلہ۔ تمباکو اور چوپائے جانوروں کے نرخ میں گرانی کریگا۔

موسم۔ لوگوں کی صحت عمدہ رہیگی۔ سردی اچھی پڑے گی۔ پہاڑی مقامات پر برف باری ہوگی۔ چوری و رہزنی کے واقعات بہت شنید میں آوینگے۔

کرۂ فلک

چونکہ اس ماہ میں شکر و سنیچر کا تلا راشی میں ملاپ ہوگا۔ اس لئے بارش اچھی ہوگی خصوصیت سے ماہ دسمبر کی ۱۵ و ۱۶ کو بادل و بارش۔ ہوا سرد۔ ۲۶ و ۲۸ دسمبر کو آسمان ابر محیط اور بادل کی گرج اور بارش۔ ۳۰ و ۳۱ دسمبر کو آسمان پر بادل ہوں اور بارش ہو۔ ماہ جنوری کی یکم لغایت ۵۔ اور ۸ و ۹ تاریخ کو بادل اور بارش ہونے کا یوگ ہے۔

برکھ پھل یعنے ثمرہ سال سمت ۱۹۸۱ بکرم مطابق سنہ ۱۹۲۴ء

پیارے ناظرین! اس پرماتما سرب شکتیمان نے موجودات عالم کو اپنی قدرت کاملہ سے ایسی اناادی ترکیب پر قائم رکھا ہوا ہے۔ جو کہ اپنے محور پر لٹو کی طرح گھوم رہا ہے۔ اس اناادی چکر کا ایک دور بموجب سدھانت گرنتھوں کے ایک ارب تیس کروڑ سال کا ہے۔ جس کو کہ کلپ کہتے ہیں۔ اس دور میں چار جگ یعنے ست یگ۔ دواپر۔ ترتیا۔ کلجگ۔ یکے بعد دیگرے دورہ کرتے ہیں۔ ست یگ کی ابدی ۱۷۲۸۰۰۰ برس دواپر کی ابدی ۱۲۹۶۰۰۰ برس۔ ترتیا کی ابدی ۸۶۴۰۰۰ برس اور کلجگ کی ۴۳۲۰۰۰ برس ہے۔ بموجب سورج سدھانت اس وقت اکاون کلپ کا دورہ ہے۔ اور سمت ۱۹۸۱ بکرم آخر تک ۱۹۵۵۸۸۵۰۲۴ برس گذر جاوینگے۔ اور باقی ۲۳۶۴۱۱۴۹۰۶ برس رہینگے۔ برتمان جگ کا نام کلجگ ہے۔ اس کی آیو کے ۵۰۲۴ برس گذر جاوینگے۔ اور باقی کلجگ کی ابدی ۴۲۶۹۷۶ برس رہجاویگی +

سمت ۱۹۸۱ میں دیگر سموت حسب ذیل برتمان ہونگے:۔

نام سمبت	بکرمی	کلجگی	شاکا	عیسوی	ہجری	فصلی	بدی	عمرانی	مصری	نہ کپار	تاریخی	؟	سکندری
برس	۱۹۸۱	۵۰۲۴	۱۸۴۶	۱۹۲۴	۱۳۴۲	۱۳۳۲	۲۴۶۸	۵۹۳۸	۳۷۵۷۸	۳۷۰۰	۱۸۹۸۹۴	۳۳۹۸	۲۲۳۶

لیجیے سمت ۱۹۸۰ بکرم گذر گیا۔ اور اُس کے نیک و بد نتائج آپ نے دیکھ لئے۔ اب سمت ۱۹۸۱ بکرم کا آرمبھ ہوتا ہے۔ جس میں گردش افلاک اور رفتار کواکب کی سعادت و نحوست کا ثمرہ نزد ماہران علم جوتش حسب ذیل خیال کیا جاتا ہے:۔

(۱) برس کا راجہ سنیچر ہے۔ بارش کی قلت ہوگی۔ لوگوں کی صحت کے لئے یہ سال سخت منحوس ہوگا۔ مرگ مفاجات کی کثرت ہوگی۔ چوری و ڈاکہ زنی کی وارداتیں کثرت سے ہونگی۔ فصلوں کو ٹڈی چوہا اور ژالہ باری سے سخت نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ بلکہ قحط سالی کے آثار نمودار ہونگے۔ چھوٹے درجے کے لوگ ترقی کرینگے +

(۲) وزیر سنیچر ہے۔ چوری۔ آتشزدگی کی کثرت۔ لوگوں میں حیرانی و پریشانی۔ بیماری و خشک سالی ہوگی +

(۳) زراعت کا مالک منگل ہے۔ چاولوں کی فصل کو سخت نقصان پہنچے اور چوپائے جانوروں میں بیماری پھیل جاوے +

(۴) سپہ سالار سنیچر ہے۔ ناگہانی واقعات کی کثرت۔ لوگوں کے درمیان جھگڑے۔ فساد اور دشمنی پھیل جاوے +

(۵) دولت کا مالک منگل ہے۔ چاولوں کی فصل کو سخت نقصان پہنچے۔ چوپائے گراں ہوں +

(۶) رسوں کا مالک برہسپت ہے۔ رسدار اشیا کی پیداوار اچھی ہوگی لیکن بوجہ سنیچر کے راجہ ہونے کے رسدار اشیاء ناش ہو جاوینگی +

(۷) غلہ کا مالک چندرماں ہے۔ جو کہ اناج کی بڑھتی پر دلالت کرتا ہے لیکن بوجہ سنیچر راجہ ہونے کے فصل کی پیداوار خراب ہو جاویگی +

(۸) دھاتوں کا مالک منگل ہے۔ سرخ رنگ کی دھاتیں بہت پیدا ہوں۔ اور ارزاں رہینگی +

(۹) ابر و باراں کا مالک سنیچر ہے۔ کھنڈ برشٹی ہوگی۔ کسی جگہ بارش کثرت سے اور کسی جگہ بالکل نہ ہو +

(۱۰) پھلوں کا مالک شکر ہے۔ اس لئے پھل پھول کی بڑھتی ہوگی +

رودھنی۔ سندھی میں برس کا نواس دھوبی کے گھر ہوگا +

برکھ کنڈلی

چونکہ ۴۔ اپریل شکروار کو ۱۲ گھڑی ۴ پل کے بعد چیت سدی ایکم کا پرویش ہوگا۔ اسوقت کی کنڈلی گرہ چال حسب ذیل ہوگی +

گت راشی۔ ۱۱ راس ۱۱۔ انش ۲۲ کلا ۳۲ بکلا ۳۶ سیکلا شبیش یعنے باقی بھوگ راشی ۱۸۔ انش ۷ کلا ۲۶ بکلا ۲۴ سیکلا ہیں +

عین انشا سمت ۱۹۸۱ بکرم میں ۲۳۔ انش ۲۱ کلا ہے +

سمت سر سمت ۱۹۸۱ بکرم میں دھاتا نام سمت سر کا پرویش ہوگا جس کا سوامی سنیچر ہے +

شنکرانتیں۔ اس سمت میں اٹھ شنکرانتیں گرودار یعنے ۴ منگلوار کو اور ۴ سنیچر وار کو ہیں۔ باقی اسوموار ابدھ وار اوپر وار اور اشکر وار کو ہے۔ جس کا ثمرہ ناقص ہے +

سوماوتی اماوش۔ اس سال میں دو ہونگی +

چاند گرہن

ماگھ سدی پورنماشی ۹ پھاگن سمت ۱۹۸۰ مطابق ۲۰ فروری سنہ ۱۹۲۴ء بروز بدھ وار ۳۲ گھڑی ۳۸ پل پر چاند گرہن شروع ہوگا۔ اور ۴۱ گھڑی ۴۸ پل پر چاند صاف ہوگا۔ کل اوقات گرہن ۹ گھڑی ۱۰ پل ہے

ساون سدی پورنماشی ۳۱ ساون سمت ۱۹۸۱ مطابق ۱۴۔ اگست سنہ ۱۹۲۴ء بروز دیروار ۴۵ گھڑی ۴۵ پل پر چاند گرہن شروع ہوگا۔ اور ۵۵ گھڑی پر چاند صاف ہوگا۔ کل اوقات گرہن ۹ گھڑی ۱۵ پل ہے +

سرب آرتھ سدھ یوگ سنہ ۱۹۲۴ء

بعض اوقات ایسے ضروری کام درپیش آجاتے ہیں۔ جن کے لئے مہورت کی انتظاری دشوار معلوم ہوتی ہے جس کے واسطے پراچین رشیوں نے سرب آرتھ سدھ یوگ کو مقدم لکھا ہے۔ پس ناظرین مشہور عالم جنتری کی آسانی کے لئے ۱۹۲۴ء کے ہر ماہ کے سرب آرتھ سدھ یوگ کی تاریخیں نکال کر درج کی گئی ہیں۔ مگر اس بات کا خیال رکھنا چاہئے۔ کہ جو تاریخ درج کی گئی ہے۔ اس روز کا جتنی قدر گھڑی دن جنتری میں درج ہے اس کے اندر اندر کام کرنا چاہئے۔ جو کہ ہر طرح سے بخیر و خوبی سرانجام ہوگا +

ماہ جنوری کی ۳۔ ۲۳۔ ۲۵۔ ۲۷۔ ۳۱۔ ماہ فروری کی ۱۳۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۷۔ مارچ کی ۲۔ ۳۔ ۹۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ماہ اپریل کی ۴۔ ۸۔ ۹۔ ۱۳۔ ماہ مئی کی ۲۔ ۷۔ ۹۔ ۱۷۔ ۱۹۔ ۲۴۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ماہ جون کی ۳۔ ۴۔ ۶۔ ۱۴۔ ۱۶۔ ۲۰۔ ۲۴۔ ۲۶۔ ۳۰۔ ماہ جولائی کی ۳۔ ۹۔ ۱۸۔ ۲۲۔ ۲۴۔ ۲۸۔ ۳۱۔ ماہ اگست کی ۲۳۔ ۲۸۔ ماہ ستمبر کی ۷۔ ۱۴۔ ۱۶۔ ۲۰۔ ۲۸۔ ماہ اکتوبر کی ۳۔ ۵۔ ۱۲۔ ۱۴۔ ۲۲۔ ۲۴۔ ۲۶۔ ۳۰۔ ماہ نومبر کی ۱۲۔ ۱۷۔ ۱۹۔ ۲۱۔ ۲۳۔ ۲۷۔ ۳۰۔ ماہ دسمبر کی یکم۔ ۷۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۲۴۔ ۲۸۔ ۲۹ +

سنیچر کا پایہ معلوم کرنے کا طریقہ

اکثر معتقدان علم جوتش بروقت تبدیلی راس سنیچر کا پایہ معلوم کیا کرتے ہیں کہ ہم کو سنیچر کس پایہ میں آیا ہے۔ پس ناظرین کی رفع تکلیف کے لئے ہم اس کا قاعدہ ذیل میں درج کر دیتے ہیں۔ تاکہ دیکھنے میں آسانی رہے۔ بوقت تبدیلی سنیچر جنتری میں دیکھو۔ کہ اس روز چندرماں کس راشی پر ہے۔ پھر اپنے نام کی راشی سے چندرماں کی راشی تک شمار کرو۔ اگر شمار میں پہلی۔ چھٹی۔ گیارھویں ہو تو سونا کا پایہ۔ اگر دوسری۔ پانچویں۔ نانویں ہو۔ تو چاندی کا پایہ۔ اگر ساتویں۔ تیسری۔ دسویں ہو تو تانبا کا پایہ۔ اگر چوتھے۔ آٹھویں۔ بارھویں ہو تو لوہا کا پایہ جانو۔ سونا کا پایہ سعد اصغر جانو۔ چاندی کا پایہ سعد اکبر۔ تانبہ کا پایہ معمولی۔ اور لوہا کا پایہ سخت منحوس ہوتا ہے +

بارہ راشیوں کو سمت ۱۹۸۱ بکرم میں سنیچر کا پایا

چونکہ سنیچر ماہ ۱۵ اسوج سمت ۱۹۸۰ بکرم میں تلا راشی میں داخل ہوا تھا۔ اور اس سال بھی تلا میں ہی رہیگا۔ اس لئے بارہ راشیوں کو مندرجہ ذیل پایا پڑیگا

ہر راس	میکھ۔ کنیا۔ برچھک	برکھ۔ سنگھ۔ کمر	کرک۔ دھن۔ مین	متھن۔ تلا۔ کنبھ
پایہ	سونا	چاندی	تانبہ	لوہا
ثمرہ	دھن کا لابھ کم ہو	ترقی مرتبہ و لابھ	آمدن کم مسا وی	فکر۔ حیرانی خرچ تکلیف

انسان کے اعضاؤں پر سنیچر آنے کا ثمرہ

اکثر معتقدان علم جوتش ہر سال اس بات کو بڑے شوق سے دریافت کرتے ہیں کہ سنیچر ان کو کس اعضاء پر آیا ہے۔ اور کیا پھل کریگا۔ لہذا ان کی آسانی کی خاطر نقشہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے:۔

اپنے نام کا نچھتر اس نقشہ میں دیکھ لو۔ جہاں پر وہ نچھتر لکھا ہے اُس کے اوپر اعضاء کا نام اور نیچے اس کا ثمرہ درج ہے۔ چونکہ ۲۱ بھادوں سمت ۱۹۸۱ بکرم مطابق ۵ ستمبر سنہ ۱۹۲۴ء کو سنیچر سواتی کے (۱) چرن میں داخل ہوگا۔ اس لئے نقشہ کی خانہ پُری سواتی نچھتر سے کی گئی ہے +

اعضا	پیشانی	سر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سینہ	جسم	[illegible]
نچھتر	سواتی۔	بشاکھا۔	انورادھا۔ جیشٹا۔ مول	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ثمرہ	فکر و ترددات	بیماری و رنج	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

کسی جوتشی سے مت پوچھو کہ ہمارا آج کا دن کس طرح گذریگا

اگر آپ کو روزمرہ کے رنج و راحت دیکھنے کا شوق ہے تو آپ کسی جوتشی سے مت پوچھیں۔ بلکہ ہر روز بوقت صبح اُٹھ کر مشہور عالم جنتری میں اس روز کے نچھتر کو دیکھ لیں۔ اور پھر مندرجہ ذیل شکل کا چکر

بنا کر جہاں نمبر ا کا ہندسہ لکھا ہے۔ وہاں وہ نچھتر لکھ کر اس سے آئندہ کے نچھتر بالترتیب دوم و سوم پُر کر کے ۲۷ نچھتروں کا دور پورا کر دو۔ اور پھر دیکھو۔ کہ آپ کے نام کا نچھتر کس مقام پر پڑا ہے۔ جس جس مقام پر پڑا ہے۔ اُس کا ثمرہ دیکھ کر تجربہ کرکے دیکھ لو۔ کہ آیا وہ یوم کس طرح گذر رہا ہے +



ثمرہ۔ اگر آپ کے نام کا نچھتر دائرہ کے اوپر پڑا ہے۔ تو اُس روز طبیعت میں فرحت اور سب طرح سے آرام ملیگا۔ جو کام کرینگے۔ اس سے فائدہ اُٹھائینگے۔ اور اگر دائرہ کے باہر پڑے۔ تو نصف یوم خوشی سے گذرے۔ مگر آخر روز کو فکر اور تشویش غم و غصہ پیدا ہو۔ جسم میں تکلیف ہو۔ اور اگر نرشول کے اوپر پڑے۔ تو تمام دن دل کو گھبراہٹ اور زر و مال کا نقصان ہو۔ لوگوں سے لڑائی۔ دشمن سے دہشت۔ جسم میں روگ پیدا ہو۔ اور اگنی اور چور کا بھے ہو +

لڑائی جھگڑے و صحت بیمار اور سفر کے لئے

اگر سفر جانا ہو یا کسی بیمار کی بیماری کا حال دیکھنا ہو۔ یا لڑائی جھگڑا اور مقدمات کا نتیجہ دیکھنا ہو۔ کہ کیا ہوگا۔ تو چاہئے۔ کہ جس روز سفر کو جانا ہو۔ یا جس وقت کوئی شخص بیمار ہو۔ یا دشمن کے مقابلہ میں جانا ہو۔ تو اس وقت دیکھو کہ سورج کس نچھتر پر ہے۔ پس اس وقت سورج جس نچھتر پر ہو۔ اُس کو یاد رکھو۔ اور ایک چکر حسب نمونہ ذیل بنا کر جس نچھتر میں سورج ہو۔ جہاں ایک کا ہندسہ لکھا ہے وہاں اس نچھتر کو لکھ کر باقی نچھتروں کو بالترتیب دوم و سوم نمبر پر لکھو اور دیکھو۔ کہ سائل کے نام کا نچھتر کس جگہ پر آیا ہے +



ثمرہ۔ پس اگر نمبر ا یا ۲ یا ۸ پر نام نچھتر پڑے۔ تو سفر میں تکلیف اور دشمن کے مقابلہ میں شکست اور حیرانی و پریشانی ہو۔ اگر نمبر ۳ یا ۴ یا ۵ یا ۹ یا ۲۱ یا ۲۲ یا ۲۶ یا ۲۷ پر آئے۔ تو فکر و تشویش دشمن سے خوف اور بیمار کی بیماری بڑھے۔ اگر نمبر ۱۰ سے ۲۰ تک پڑ جائے۔ تو سفر میں ناکامیابی اور بیمار کو سخت تکلیف۔ بلکہ قریب مرگ ہو۔ دشمنوں سے نقصان پہنچے۔ اور دشمن کا نقصان ہو۔ اگر ثمرہ یا ۶ یا ۷ یا ۲۳ یا ۲۴ یا ۲۵ پر پڑے۔ سفر کریں۔ تو کامیابی اور صحت جسم۔ اگر بیمار ہو۔ تو جلد صحت پائے۔ مقدموں اور لڑائی جھگڑوں میں کامیابی ہو۔ اور زر و مال کا مفاد ہو +

یہ بھی خیال رکھو۔ اگر نام کے نچھتر سے بوقت سفر سورج کا نچھتر آٹھواں بارھواں ہوگا۔ تو سفر میں حیرانی و پریشانی ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ایسے وقت میں بیمار ہوگا۔ تو بڑی مشکل سے صحت پائیگا۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں دشمن کا مقابلہ کریگا۔ تو ہر طرح سے کامیابی اور فتح پائے گا +

مہورت

شبھ کاموں کے اجرا کرنے کے لئے نیک وقت یعنی مہورت ذیل میں درج کئے جاتے ہیں جو صاحب مندرجہ ذیل اصول کے بموجب کوئی شبھ کاج شروع کرینگے۔ وہ کام برانجام ہوگا+

مہورت	تتھ	یوم	نچھتر سعید	کیفیت
نئے مکان میں پرویش کرنا	چوتھ - نومی چودش - اماوش نہ ہو	اتوار منگلوار نہ ہو	مرگشر - ریوتی - چترا - اترادھا - اترابھاگنی - اتراکھاڈ - اترابھادرپد روہنی	جیٹھ - ماگھ - پھاگن - بیساکھ کا مہینا ہو سورج اترائن ہو لگن استھر ہو - گرپرویش کے وقت سورج نچھتر سے ۵ خراب اور ۸ عمدہ اور خراب پھر ۶ عمدہ ہوتے ہیں
ملازمت کے لئے			ریت شکر اتوار ہو اشنی - پکھ - مرگشر - ریوتی - چترا - اترادھا - ابھجت - ہست -	سورج یا شنگل لگن سے نویں یا گیارہویں ہونا چاہئے
گھر میں اناج لانا		سنیچر منگلوار اتوار نہ ہو	اترابھاگنی - اتراکھاڈ - اترابھادرپد - پکھ - اشنی - سواتی - شرون - روہنی - جیسٹا - دھنیشٹا - ست بکھا	کرک و میکھ و تلا لگن نہ ہونا چاہئے -
بیمار کو غسل کرنا	چوتھ - نومی - چودش نہ ہو	شکر دار نہ ہونا چاہئے	مندرجہ نچھتروں کے علاوہ اور سب درست ہیں - ریوتی - اترابھاگنی - اترابھادرپد - پنربس - اتراکھاڑ - روہنی - سواتی - اشلیکھا -	لگن چر ہو -
مکلاوہ لانے کیلئے		سوا منگل سنیچر کے اور سب دن نیک ہیں	ہست - اشنی - روہنی - پکھ - اترابھاگنی - سواتی - پنربس - شرون - دھنیشٹا - مولا - مرگشر - ریوتی - چترا - اترادھا - اتراکھاڈ - اترابھادرپد -	بیاہ کے برس سے طاق برس اور طاق دن ہو مگر میکھ - برکھ - کنبھ کا سورج نہ ہو -
بچہ کا نام رکھنا	۴ - ۱۴ نہ ہوں		مرگشر - روہنی - پکھ - پنربس - ریوتی - ہست - چترا - سواتی - اترادہا - شرون - اشنی - ست بکھا - تینوں اترا	جنم سے گیارہواں بارہواں دن نہ ہو -
پیپل یا درخت لگانا			بشاکھا - مولا - مرگشر - ریوتی - چترا - اترادہا - ست بکھا - اشنی - پکھ - تینوں اترا اچھے ہیں	
خرید مویشی	۴ - ۹ - ۸ - ۱۴ نہ ہو	اتوار نہ ہو	اتراکھاڈ - اترابھادرپد - پوربا کھاڈ - بشاکھا - روہنی - پنربس - پکھ - اترابھاگنی +	لگن استھر ہو -
فروخت مویشی			پورباپھاگنی - پورباپھادرپد - پورباکھاڈ - بشاکھا - کرتکا - اشلیکھا -	لگن کنبھ ہو -
دکان کھولنا	۴ - ۹ - ۱۴ نہ ہو		ریوتی - مرگشر - اترادہا - چترا - روہنی - ہست - اشنی - پکھ - تینوں اترا -	لگن سے دوسرے - دسویں گیارہویں لگن میں چندرماں شبھ گرہ ہوں - لگن کنبھ ہو -
زمین جوتنا	۴ - ۹ - ۶ - ۱۲ - ۱۸ - اماوش نہ ہو		مولا - بشاکھا - سواتی - مگھا - پنربس - شرون - دھنیشٹا - ست بکھا - روہنی - مرگشر - ریوتی - چترا - اترادہا - ہست - اشنی - پکھ - تینوں اترا -	سورج نچھتر سے ۲ خراب ۸ عمدہ - ۵ خراب ۸ عمدہ -
بیج بونا	۶ - ۱۲ ۱۲ - ۲ نہ ہو	منگل سنیچر نہ ہو	مولا - مگھا - سواتی - دھنیشٹا - اترابھاگنی - اتراکھاڈ - اترابھادرپد - ریوتی مرگشر - روہنی - چترا - اترادھا - ہست - اشنی -	راہو نچھتر سے ۸ خراب ۵ عمدہ - پھر ایک خراب پھر ۲ عمدہ - پھر ایک خراب ۴ عمدہ - پھر ۳ خراب پھر ۳ عمدہ ۵ پھر ۴ ان نچھتر بیج بونے کے خراب ہیں -
فصل کاٹنا	۴ - ۹ - ۱۴ نہ ہو		مولا - جیشٹا - آردرا - اشلیکھا - کرتکا - ہست - شرون - دھنیشٹا - مرگشر - سواتی - چترا - پکھ - مگھا - تینوں اترا - پوربا بھادرپد -	برکھ - سنگھ - دھن - برچھک لگن ہو -
مونڈن کرنا	۶ - ۸ - اماوش نہ ہو	منگل سنیچر - اتوار نہ ہو	اشنی جیشٹا - ریوتی - پکھ - دھنیشٹا - پنربس - چترا - سواتی - مرگشر - شرون - ست بکھا -	جنم سے ۳ - ۵ - ۷ سال جائز ہیں -
کان چھیدنا		منگل سنیچر اتوار نہ ہو	اترادہا - پنربس - پکھ - دھنیشٹا - ریوتی - ہست - شرون - اترابھادرپد - اتراکھاڈ -	
زنار بندی	۱۰ - ۱۱ - ۱۲ شکل شبھ ہے	منگل سنیچر نہ ہو	چترا - سواتی - ریوتی - پکھ - شرون - دھنیشٹا - اشنی - مرگشر - ہست - پورباکھاڈ - پورباپھاگنی	سورج اترائن ہو - لگن برکھ - کنبھ - کنیا - دھن - سنگھ
بچہ کو مکتب بٹھلانا	۴ - ۸ - ۹ - ۱۴ نہ ہو	منگل سنیچر نہ ہو	اشنی - ریوتی - مرگشر - آردرا - پنربس - پکھ - شرون - دھنیشٹا - چترا - سواتی - مولا - اشلیکھا	جنم سے پانچویں برس شبھ ہیں -
کنواں یا تالاب بنوانا	۴ - ۹ - ۱۴ - اماوش نہ ہو	اتوار منگل نہ ہو	پورباکھاڈ - پنربس - پکھ - روہنی - مرگشر - شرون - دھنیشٹا - ست بکھا - اترابھاگنی - ہست - چترا - مولا - سواتی - ریوتی - اترادھا - اشنی -	سورج نچھتر سے ۵ - ۷ - ۹ - ۱۲ - ۲۶ نہ ہو کیونکہ ان نچھتروں میں زمین سوئی ہوئی ہے - ٹب نہ لگاؤ -
علاج بیمار	۸ - ۹ اماوش نہ ہو	اتوار منگل سنیچر نہ ہو	ریوتی ہست - چترا - اشنی - پنربس - شرون - دھنیشٹا - ست بکھا - اترابھاگنی - ہست - چترا - مولا - سواتی - ریوتی - اترادھا - اشنی -	چندرماں نیچ راشی کا نہ ہو -
سواری کا مہورت	۵ سے ۱۳ شبھ ہیں	سوموار - ویروار بدھ وار ہو	شرون - اترادھا - تینوں اترا - روہنی - مرگشر - پنربس - پکھ - ہست - چترا - سواتی - اشنی -	
زیور بنانے کا مہورت	۵ - ۲ - ۳ - ۱۲ شبھ ہیں -	اتوار منگلوار شکروار - ویروار ہو	تینوں اترا - ریوتی - اشنی - شرون - دھنیشٹا - ست بکھا - مرگشر - پکھ - ہست - پنربس - اترادہا - چترا - سواتی - روہنی -	
زیور میں جواہرات جڑوانا اور نیا کپڑا پہننا	۱۰ - ۱۲ - ۱۳ ۱۴ - شبھ ہیں	اتوار منگلوار شکروار - ویروار ہو	کرتکا - روہنی - مرگشر - ہست - چترا - سواتی - بشاکھا - اترادہا - ریوتی - اشنی شرون - دھنیشٹا - ست بکھا - پنربس - پکھ - تینوں اترا +	
حاکم کی ملاقات کرنا	۲ - ۳ - ۵ - ۷ ۱۳ شبھ ہیں	منگل - سنیچر نہ ہو	تینوں اترا - شرون - دھنیشٹا - مرگشر - پکھ - اترادہا - ریوتی - اشنی - چترا - ہست -	
اناج بھرنا	۳ - ۲ - ۵ - ۱۲ شبھ ہیں	ویروار - اتوار شکروار شبھ ہیں	پنربس - مرگشر - ریوتی - اترادہا - شرون - دھنیشٹا - ست بکھا - چترا - سواتی اشنی - پکھ - روہنی - تینوں اترا +	

راس اور نچھتر معلوم کرنے کا نقشہ

ناظرین دنیا کی تمام موجودات کو جوتشیوں نے اس نقشہ پر تقسیم کر دیا ہے۔ پس اپنی راس معلوم کرنے والے کو چاہیئے۔ کہ اپنے نام کا اول حرف اس نقشہ میں دیکھے پس اس حروف کے اوپر جو راس لکھی ہے۔ وہی اس شخص کی راس ہوگی۔ اور جو نچھتر اس کے جانب راست لکھا ہے۔ اس کا وہی نچھتر ہوگا۔ مثلاً نام رام ناتھ ہے۔ حروف اول حرف (ر) جو زیر تلا اس کے جانب راست نچھتر چترہ کا ۳ چرن لکھا ہے۔ پس رام ناتھ کی راس تلا اور نچھتر چترا ہے +

راس	نچھتر / چرن / حروف
میکھ	اشونی ۱ चू، ۲ चे، ۳ चो، ۴ ला — بھرنی ۱ ली، ۲ लू، ۳ ले، ۴ लो — کرتکا ۱ अ
برکھ	کرتکا ۲ इ، ۳ उ، ۴ ए — روہنی ۱ ओ، ۲ वा، ۳ वी، ۴ वू — مرگشرا ۱ वे، ۲ वो
متھن	مرگشرا ۳ का، ۴ की — آردرا ۱ कु، ۲ घ، ۳ ङ، ۴ छ — پنربس ۱ के، ۲ को، ۳ हा
کرک	پنربس ۴ ही — پکھ ۱ हू، ۲ हे، ۳ हो، ۴ डा — اشلیکھا ۱ डी، ۲ डू، ۳ डे، ۴ डो
سنگھ	مگھا ۱ मा، ۲ मी، ۳ मू، ۴ मे — پوروا پھالگنی ۱ मो، ۲ टा، ۳ टी، ۴ टू — اترا پھالگنی ۱ टे
کنیا	اترا پھالگنی ۲ टो، ۳ पा، ۴ पी — ہست ۱ पू، ۲ ष، ۳ ण، ۴ ठ — چترا ۱ पे، ۲ पो
تلا	چترا ۳ रा، ۴ री — سواتی ۱ रू، ۲ रे، ۳ रो، ۴ ता — وشاکھا ۱ ती، ۲ तू، ۳ ते
برچھک	وشاکھا ۴ तो — انورادھا ۱ ना، ۲ नी، ۳ नू، ۴ ने — جیشٹھا ۱ नो، ۲ या، ۳ यी، ۴ यू
دھن	مول ۱ ये، ۲ यो، ۳ भा، ۴ भी — پوروا شاڑھا ۱ भू، ۲ धा، ۳ फा، ۴ ढा — اترا شاڑھا ۱ भे
مکر	اترا شاڑھا ۲ भो، ۳ जा، ۴ जी — ابھجیت ۱ जू، ۲ जे، ۳ जो، ۴ खा — شرون ۱ खी، ۲ खू، ۳ खे، ۴ खो — دھنشٹھا ۱ गा، ۲ गी
کنبھ	دھنشٹھا ۳ गू، ۴ गे — شتبھشا ۱ गो، ۲ सा، ۳ सी، ۴ सू — پوروا بھادرپد ۱ से، ۲ सो، ۳ दा
مین	پوروا بھادرپد ۴ दी — اترا بھادرپد ۱ दू، ۲ थ، ۳ झ، ۴ ञ — ریوتی ۱ दे، ۲ दो، ۳ चा، ۴ ची

بارہ راشیوں کے ماہواری حالات

اکثر معتقدان علم جوتش اس علم کے جاننے والوں سے اپنے نیک و بد حالات دریافت کیا کرتے ہیں۔ اس لیئے مشہور عالم جنتری ہر سال بلحاظ گردش کواکب بارہ راشیوں کے مختصر ماہواری حالات بمعہ کنڈلی گرہ ہائے نہایت آسان ترکیب سے درج کیئے جاتے ہیں۔ جس کو دیکھ کر ہر ایک شخص اپنی راس کی گرہ چال اور اس کے نیک و بد پھل بغیر کسی جوتشی سے دریافت کیئے معلوم کر سکتا ہے۔ اور ان نام نہاد جوتشیوں کے پھندے سے بچ جاتا ہے۔ جو خواہ نخواہ اپنی مطلب براری کے لئے لوگوں کے سر پر سنیچر، منگل کا بھوت سوار کر کے ان کی جیبیں خالی کرا لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ مشہور عالم جنتری میں برابر ستائیس سال سے جاری ہے۔ جس کو پبلک نے بہت پسند کیا ہے۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں۔ کہ اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا کوئی نام نہ ہو۔ ماہران علم جوتش نے کرہ فلک کے بارہ (۱۲) حصے کر کے ہر ایک حصہ کی ایک راشی مقرر کر دی ہے۔ اور تمام مخلوقات عالم کو ان بارہ راشیوں پر منقسم کر دیا ہے۔ ہر چیز کے نام کا پہلا حرف اس کی راشی پر دلالت کرتا ہے۔ جو نقشہ بالا سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے۔ جو صاحب اپنے حالات دیکھنا چاہیں۔ ان کو چاہیئے کہ نقشہ مندرجہ بالا میں سے اپنے نام کے پہلے حرف سے اپنی راشی معلوم کر لیں۔ پھر اگلے صفحوں میں دو مہینہ نکال کر اپنی گرہ چال اور نیک و بد حالات دیکھ لیں۔ مگر واضح رہے۔ کہ یہ حالات سنکرانتی مہینہ کے حساب سے لکھے گئے ہیں۔ اور جس تاریخیں جو درج ہیں وہ بھی سنکرانتی مہینہ کی ہیں +

بارہ راشیوں کے مرد و عورت کا لابھ و خرچ کا نقشہ بابت ۱۹۲۴ء

نام راس	میکھ	برکھ	متھن	کرک	سنگھ	کنیا	تلا	برچھک	دھن	مکر	کنبھ	مین	کیفیت
لابھ	٨	٢	٨	٢	٥	٨	٢	٨	٥	١٤	١٤	٥	مردوں کے لیئے
خرچ	٥	١٤	١١	٨	٥	١١	١٤	٥	١١	١١	١١	[illegible]	
لابھ	١٤	٥	١١	٥	٨	١١	٨	١٤	٢	٥	٥	٢	عورتوں کے لیئے
خرچ	١٤	٨	٥	٥	١٤	٥	٨	١٤	٨	٢	٢	٨	

طریقہ۔ اپنی راشی کے اعداد لابھ و خرچ کو جمع کر کے ایک کم کر دو اور باقی کو ۸ پر تقسیم کر دو۔ اگر باقی ایک یا دو یا ۶ یا ۷ رہیں۔ تو آمدنی زیادہ۔ اگر ۳ یا ۴ یا ۵ رہیں۔ تو خرچ زیادہ۔ اگر پوری تقسیم ہو تو وہ سال آمدنی کے لئے سخت منحوس خیال کرنے چاہیئیں

بارہ راشیوں میں سے بعض کیلئے سمت ۱۹۸۱ بکرم میں ناقص گرہ کی نحوست

یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ گرہ بولتے نام کی راشی کے لحاظ سے چوتھے۔ چھٹے۔ آٹھویں۔ بارھویں استھان میں ہوتا ہے۔ اس کا ثمرہ نحس ہوتا ہے مگر سورج منگل کا چھٹے استھان میں ہونا دشمن کا ناش کرتا ہے۔ اور سنیچر، راہو، کیتو سعد بیت دکھاتے ہیں۔ سال ۱۹۸۱ بکرم میں سنیچر تلا راشی میں رہیگا۔ اس سے کنیا، تلا، برچھک راشی کو ساڑھ ستی رہیگی۔ جس کا ثمرہ نحس ہے۔ راہو کرک میں۔ کیتو مکر میں آئیگا۔ اس سے راہو میکھ کو چوتھے دھن کو آٹھویں اور سنگھ کو بارھویں استھان میں ہوگا۔ اور کیتو تلا کو چوتھے متھن کو آٹھویں اور کنبھ راشی کو بارھویں استھان میں رہیگا۔ جس کا ثمرہ دشمنی و تکلیف دل کو حیرانی و پریشانی جسم کو روگ اور تکلیف ہوگی

گرہوں کی نحوست

اکثر لوگ گرہوں کی نحوست کو پوجن وغیرہ سے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ غلطی کرتے ہیں۔ کیونکہ گرہ اپنی مقررہ میعاد سے پیشتر اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتا۔ اور اپنا پھل ضرور کرتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دان سے تکلیفیں ہوتی ہے۔ اس لیئے آپ ایسے وقت میں غریبوں اور محتاجوں کو دان دو۔ تاکہ ان کی دعائے خیر سے تمہاری مشکل آسان ہو +

لابھ و خرچ سنہ ۱۹۲۴ء

یہ ایک مجمل طریقہ آمدن و خرچ دیکھنے کا ہے اس نقشہ سے سوائے اس کے کہ اس سال میں آمدن و خرچ کیسا رہیگا۔ اور کچھ معلوم نہیں ہوگا ناظرین کی دلچسپی کے لئے نقشہ درج ذیل ہے:۔

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ سپھاپت ماہ ماگھ سمت ۱۹۸۱

میکھ

کاروبار میں کشائش۔ راج دربار سے مان اور لابھ ہو۔ دل کو خوشی صحت عمدہ ہے۔ عورت سے کچھ جھگڑا۔ اولاد کی فکر رہے۔ تمنائے دلی بر آوے۔ اس ماہ کی یکم۔۲۔۸۔۱۳۔۲۸۔۲۹ تاریخ خراب ہے ÷

برکھ

کاروبار بہتر رہیں۔ آمدن کم خرچ زیادہ۔ دھن کی ہانی ہو۔ دشمن پیدا ہوں لیکن ناش ہو جاویں۔ سفر میں رنج۔ آنکھوں میں تکلیف۔ عورت سے بگاڑ ہو۔ اس ماہ کی ۱۳۔۱۴۔۱۶۔۲۲ تاریخ خراب ہے۔

متھن



دھن کا لابھ ہو۔ آمدن اچھی رہے۔ جسم کو کچھ تکلیف۔ در فکر ہو۔ دشمن مغلوب ہیں۔ اولاد کی طرف سے کچھ فکر لگا رہے۔ عورت کا سکھ ملے۔ اس ماہ کی ۱۶۔۲۴۔۲۵ تاریخ خراب ہے ÷

کرک

آمدن کم خرچ زیادہ۔ کسی جگہ سے کچھ لابھ ہو۔ دشمن سے خوف۔ پیٹ میں گرانی شکم سے تکلیف۔ بادی امراض سے تکلیف۔ کوئی کام بگڑے۔ عورت سے جھگڑا۔ اس ماہ کی ۱۱۔۱۵۔۱۸۔۲۹ تاریخ خراب ہے۔

سنگھ

کاروبار میں نقصان۔ لابھ نہ ہو۔ والدین کو تکلیف ہو۔ اولاد کا سکھ ملے۔ عورت سے کچھ بگاڑ رہے۔ دشمن کا ناش۔ صحت اچھی نہ ہے۔ مراد پوری ہو۔ اس ماہ کی ۹۔۲۱۔۲۲ تاریخ خراب ہے ÷

کنیا



کاروبار بدرجہ اوسط۔ بیوپار میں نقصان۔ دل کو خوف و رنج ہو۔ خرچ سے زر د مال کی زیرباری ہو۔ بھائیوں سے رنج پہنچے۔ عورت سے سکھ ملے۔ اولاد کی طرف سے رنج ہو۔ اس ماہ کی ۶۔۷۔۱۴۔۳۰ تاریخ خراب ہے۔

تلا

آمدن کم خرچ زیادہ۔ جسم کو تکلیف۔ بھائیوں سے کدورت۔ والدین سے جھگڑا۔ اولاد کی طرف سے فکر ہے۔ عورت کا سکھ ملے۔ دل خوش رہے۔ اس ماہ کی ۴۔۱۹۔۲۰۔۲۴۔۲۹ تاریخ خراب ہے ÷

برچھک

کاروبار میں لابھ۔ ترقی علم و دولت ہو۔ دشمن پیدا ہوں لیکن ناش ہو جاویں۔ والدین کو تکلیف۔ سفر میں رنج۔ درد سر و فساد خون سے جسم کو تکلیف پہنچے۔ عورت کو تکلیف۔ اس ماہ کی ۳۔۴۔۵۔۲۸ تاریخ خراب ہے۔

دھن

دھن کا لابھ۔ کاروبار میں ترقی۔ خرچ زیادہ رہے۔ کوئی فائدہ مند کام شروع کیا جاوے۔ بشر پر کچھ رہ گئی رہے۔ بھائیوں سے فائدہ۔ درد سر کی شکایت رہے۔ اس ماہ کی ۳۔۷۔۲۶۔۲۷ تاریخ خراب ہے۔

مکر

کاروبار کی بڑھتی۔ دھن کا لابھ ہو۔ دنیاوی کاروبار میں دھن خرچ۔ دشمن مغلوب۔ سفر میں جانا پڑے۔ مرض بواسیر سے تکلیف ہو۔ کسی شخص سے خواہ مخواہ تکرار ہو۔ اس ماہ کی ۲۔۵۔۷۔۱۱۔۱۶ تاریخ خراب ہے۔

کنبھ

روزگار بدرجہ اوسط۔ دھن کی ہانی۔ خرچ زیادہ ہو۔ عورت سے جھگڑا۔ بدھی مین دھرم کے کاموں میں لگے۔ راج دربار سے مان عزت و مرتبہ بلند ہو۔ اس ماہ کی یکم۔۲۔۱۹۔۲۰۔۲۱ تاریخ خراب ہے۔

مین

کاروبار میں فائدہ۔ دھن کا لابھ۔ کسی جگہ سے کچھ پراپتی ہو۔ دلی مراد بر آوے۔ دشمن ناش۔ آزار شکم سے کچھ تکلیف۔ دل حیران رہے۔ راج دربار سے عزت و مرتبہ بلند ہو۔ اس ماہ کی ۶۔۱۰۔۱۴۔۲۴ تاریخ خراب ہے۔

تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

پیارے ناظرین! مشہور عالم جنتری میں ہر سال علم الرموز کے نئے نئے مضامین کا اندراج ہوتا چلا آتا ہے۔ اس سال ان کالموں میں علم جوتش کا ایک عجیب غریب مضمون درج کرنے کے لئے تیار کیا تھا۔ مگر ہزاروں شائقین نے تحریر کیا ہے۔ کہ یہ فالنامہ جو گذشتہ سال کی جنتری میں طبع ہو چکا ہے۔ نہایت مفید و عجیب غریب ہے جس سے بدوں امداد دیگرے ہر ایک شخص خود بخود اپنے مطلب و امورات خیر و شر کو دیکھ سکتا ہے۔ جس کا نتیجہ بالکل درست نکلتا ہے۔ اس لئے اس فالنامہ کا ہمیشہ کے لئے مشہور عالم جنتری میں درج ہونا ضروری ہے۔ اس میں شک نہیں۔ کہ یہ فالنامہ حکماء متقدمین علم الحروف نے ایسے طریق پر استخراج کیا ہے کہ جس سے ہر ایک شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ نام نہاد جوتشیوں کے ڈھکوسلوں سے بچ نکلتا ہے۔ مگر ہمیشہ کے لئے اس کا اندراج موزوں معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ اس سال ہزاروں شائقینوں کی فرمائش سے درج کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کے یہ بتلا دینا بھی ضروری ہے۔ کہ ہم نے اس فالنامہ کو کتاب کی صورت میں علیحدہ بھی چھاپ دیا ہے۔ جو موازی ۳ر قیمت پر کارخانہ سے درخواست کرنے پر مل سکتا ہے ÷

فالنامہ دیکھنے کا طریقہ

بیہ قرعہ ہفت دھات کا شرف آفتاب یا زہرہ یا مشتری کی ساعت بروز جمعہ لیکر سنار وار قمر زائد النور میں اس طرح سے بنوالیں۔ کہ اس کے تینوں دانہ کے چاروں طرف حروف (ا ب ج د) کندہ کرالیں۔ اور پھر تینوں دانوں کو ایک تار آہنی میں اس طرح پرو دیں۔ کہ وہ گردش میں رہیں۔ جن کی صورت حسب ذیل ہوگی ÷

ج	ب	ا

پس جب کسی امر نیک و بد کے نتیجہ کو دیکھنا ہو۔ تو بصدق دل یکسوئی قلب سے اس کو ہاتھ میں لیکر اپنے مطلب کو مدنظر رکھ کر اس کو گردش دیکر کسی تختی یا ہموار جگہ پر ڈال دیں۔ اور دیکھیں کہ اس کے اوپر کونسا حروف آیا ہے جو حروف آئے ہوں انکو بالترتیب جنتری کے ان کالموں میں دیکھیں تو حروف بجنسہ ملیں گے۔ پس ان حروفوں کے زیر جو ثمرہ لکھا ہے اس کو دیکھ لیں ÷

رفع تکلیف

مشہور عالم جنتری کے ناظرین کو تیار کرنے کی ترکیب بتلا دی گئی ہے۔ پس جن احباب کو خود بخود بنوانا مشکل معلوم ہو۔ انکی رفع تکلیف کے لئے یہ قرعہ تیار کرائے گئے ہیں جنکی قیمت آٹھ آنہ ہے۔ اور محصول ڈاک بذمہ خریدار ہے۔ پس درخواست بھیجکر پتہ ذیل سے منگا لیں ÷

مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری رجسٹرڈ لاہور

بارہ انشبوں کا ماہوری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات گرہ راسہا بابت ماہ پھاگن سمت ۱۹۸۰ بکرم

میکھ

کاروبار کی بردھی صحت عمدہ رہے دھن کا لابھ ہو۔ اولاد کی طرف سے دل کو رنج دشمن مغلوب۔ دل کچھ خوف زدہ رہے۔ آنکھوں کو کچھ تکلیف ہوگی اس ماہ کی ۵-۹-۲۷-۲۸ تاریخ خراب ہے +

برکھ

کشائش روزگار دھن کا لابھ ہو سفر میں جانا پڑے۔ دشمن پیدا ہوں لیکن خود بخود ناش ہو جاویں۔ عورت سے بگاڑ۔ درد کمر اور آزار چشم سے طبیعت علیل رہے اس ماہ کی ۹-۱۲-۱۸-۲۴ تاریخ خراب ہے

متھن

دھن کا لابھ۔ روزگار میں فائدہ بھائیوں سے لابھ ہو۔ دشمن کی طرف سے خطرہ لگا رہے۔ دل کو فکر و تشویش دھرم ہانی دل کو رنج۔ اولاد کا فکر۔ اس ماہ کی ۱۴ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ تاریخ خراب ہے +

کرک



لابھ اچھا ہوگا لیکن خرچ بھی بہت ہوگا۔ دھرم کے کاموں میں پریتی۔ عورت سے محبت زیادہ جسم کو بیماری سے تکلیف صفرادی روگ ہو۔ راج دربار سے مان بڑھے اس ماہ کی ۹-۱۰-۱۱-۱۶ تاریخ خراب ہے۔

سنگھ

بہ نسبت آمدن کے خرچ زیادہ ہو عزت و رتبہ بلند۔ دلی مراد پوری ہو۔ دشمن نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ عورت سے کلیش اور بیمار رہے۔ پیٹ میں کچھ روگ ہو کوئی چیز گم جائے اس ماہ کی ۶-۱۸-۱۹-۲۴ تاریخ خراب ہے

کنیا

کاروبار میں بہتری کی صورت لابھ اچھا ہو لیکن بیماری سے طبیعت علیل رہے۔ دل کو رنج و فکر و جھگڑا پیش آوے۔ اولاد کا سکھ ملے۔ دشمن ناش ہوں اس ماہ کی ۴ و ۵ و ۱۰ و ۲۱ تاریخ خراب ہے +

تلا

کاروبار بدرجہ اوسط۔ آمدن خرچ برابر روپیہ کا نقصان ہو البتہ تجارتی کاموں سے کچھ لابھ ہوگا جسم کو بیماری سے تکلیف۔ چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے اولاد سے رنج ہو اس ماہ کی ۱۷-۱۸-۱۲-۶ تاریخ خراب ہے

برچھک

کاروبار مدہم دھن کا لابھ کم خرچ زیادہ دشمن پیدا ہوں نقصان پہنچے بیماری سے تکلیف۔ بھائیوں سے جھگڑا۔ والدین سے رنج نقل و حرکت زیادہ ہو۔ اولاد کا سکھ ملے اس ماہ کی ۲-۳-۲۶-۳۰ تاریخ خراب ہے

دھن



کاروبار میں لابھ ترقی مال و دولت دل کو خوشی۔ عورت کا سکھ۔ دشمن کا ناش ہو اولاد کی طرف سے خوشی۔ کوئی عزیز ملے دھرم کے کاموں میں پریتی نہ ہو اس ماہ کی ۴-۲۴-۲۵-۲۸-۲۹ تاریخ خراب ہے

مکر

کاروبار میں کشائش۔ آمدن زیادہ ہو لیکن خرچ بھی ساتھ لگا رہے۔ سفر میں جا کر طبیعت بیمار ہو جاوے دل کو رنج پہنچے روپیہ پیسہ کا فکر لگا رہے۔ خواہش دلی پوری ہو اس ماہ کی ۳-۹-۱۰-۱۳-۳۰ تاریخ خراب ہے

کنبھ

کاروبار میں نقصان۔ زیر باری خرچ ہو کوئی ناگہانی تکلیف پیش آوے۔ عورت سے لڑائی جھگڑا ہو۔ دھن کی ہانی رنج دربار سے ان بھنگ دھرم کی ہانی ہو۔ کوئی گم شدہ چیز ملے۔ اس ماہ کی ۱۷-۱۸-۲۱-۲۷ تاریخ خراب ہے

مین

کاروبار میں فائدہ دھن کا لابھ۔ دشمن ناش عزت و مرتبہ میں ترقی سکھ ملے۔ عورت سے محبت کسی جگہ سے کچھ دھن ملے طبیعت کچھ علیل رہے۔ اس ماہ کی ۳-۸-۱۴-۲۲-۲۸ تاریخ خراب ہے

تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

ثمرۂ اشکال حروفی قرعہ

ا ا ا

خوش قسمتی کا ایک نشان ہے۔ روزگار میں ترقی اور بابوس امیدوں میں کامیابی ہوگی۔ اگر یقین نہ ہو تو دیکھو تمہارے داہنے بازو پر تل کا نشان ہے +

ا ب ا

جس چیز کی یاد میں حیران ہو وہ جلد ملیگی اور خواہش تمہاری جلد پوری ہوگی۔ فکر مت کرو۔ دیکھو اس کی صداقت کے لئے تمہاری داہنی آنکھ کے اوپر کی طرف ایک نشان ہے +

ا ج ا

تمہارا کام آسان ہوگا۔ دشمنوں کی تکلیف دور ہوگی۔ یہ سال تمہاری امیدوں کی بہتری کے لئے مبارک ہے۔ کسی عورت سے تم کو محبت ہوگی۔ اور گمی ہوئی چیز ملیگی یقین نہ ہو۔ تو دیکھ لو۔ کہ تم کو استقلال نہیں +

ا د ا

کاروبار میں ترقی۔ آمدن اچھی ہوگی۔ تجارت میں فائدہ نہ ہوگا۔ جسم کی تکلیف دور ہوگی۔ دشمن زیر ہونگے۔ یقین جان لو۔ کہ ایک ماہ کے بعد تم کو فائدہ ہوگا۔ تصدیق یہ ہے۔ کہ تمہاری عورت سے محبت نہیں ہے +

ب ا ا

کارج سدھ ہوگا۔ سفر سے فائدہ ہوگا۔ دل کا فکر کچھ روز کے بعد دور ہوگا۔ کسی عزیز سے ملاقات ہونے والی ہے۔ بیوپار سے لابھ ہوگا۔ نشان یہ ہے۔ کہ تمہاری عورت تم کو کلیش دیتی ہے +

ب ب ا

تم یک سال سے حیرانی و پریشانی میں ہو اور سخت تکلیفیں تم نے اٹھائی ہیں۔ اب وقت بہتری کا آگیا ہے۔ اس لئے تمہارا فکر دور ہوگا۔ نشان یہ ہے۔ کہ تم دس سال کی عمر میں پانی میں ڈوب گئے تھے +

ب ج ا

تم کو تکلیف ہے۔ جس سے نیکی کرتے ہو اس کا بدلہ بدی ملتا ہے۔ عورت کی طرف تمہارا خیال بہت رہتا ہے۔ چند یوم میں تمہارا مطلب پورا ہوگا۔ نشان دیکھو تمہارے سر میں اکثر درد کی شکایت رہتی ہے

ب د ا

تم کو جس جگہ سے لابھ کی امید ہے وہاں سے کام ہونا

بارہ راشیوں کا اہوری ہلادیش یعنی نیک و بد حالات امور اسہا بابت ماہ چیت سمت ۱۹۸۰ بکرم

میکھ

کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ اور جسم کو صفراوی روگ سے تکلیف پہنچے۔ عورت اور اولاد کی طرف سے کلیش۔ دشمن کا فکر لگا رہے۔ اس ماہ کی ۷-۲۴-۲۵ تاریخ خراب ہے ✤

برکھ



کاروبار مدہم۔ دھن کا لابھ تھوڑا ہو۔ دشمن کاروبار میں وگھن ڈالیں لیکن کامیاب نہ ہوں۔ آنکھوں میں روگ ہے۔ راج دربار سے مان عزت مرتبہ بلند ہو۔ اس ماہ کی ۸-۹-۱۰-۲۳ تاریخ خراب ہے

متھن



کاروبار روبہ ترقی دولت کا لابھ صحت عمدہ البتہ آنکھوں میں کچھ روگ رہیگا۔ راج دربار سے مان۔ دشمن کا بھی دھرم کی ہانی ہو۔ کوئی دوست ملے دلی مراد پوری ہو۔ ماہ کی ۱۲-۱۶-۱۹-۲۰ تاریخ خراب ہے

کرک

آمدن خرچ مساوی ہے۔ بلکہ کچھ زیر باری ہو۔ کھوٹے کرموں میں خیال زیادہ رہے۔ صحت میں کچھ فتور ہے۔ کوئی ناگہانی واقعہ پیش آوے۔ اس ماہ کی ۶-۱۴-۲۹ تاریخ خراب ہیں ✤

سنگھ



بیوپار میں ترقی لابھ ہو۔ دنیاوی خرچ زیادہ رہیں۔ دھرم کے کاموں میں دھن خرچ ہو۔ عورت سے سکھ ملے دل خوش رہے۔ کسی دشمن سے نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ اس ماہ کی ۱۵-۱۷-۱۸-۲۶ تاریخ خراب ہیں۔

کنیا

کاروبار مدہم۔ بہ نسبت آمدن کے خرچ زیادہ ہے۔ عدالتی کاموں میں دھن خرچ ہو۔ دشمن پیدا ہوں سفر ہو کر نا پڑے۔ دل رنجیدہ رہے۔ گرانی شکم سے تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۲-۶-۱۸-۲۹-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

تلا

کاروبار میں فائدہ۔ دھن کا لابھ ہو۔ جسم میں کچھ بلغم کا زور رہے۔ دشمن پیدا ہوں لیکن ناش ہو جاویں۔ اولاد کی طرف سے کچھ فکر لگا رہے۔ عورت سے محبت زیادہ۔ اس ماہ کی ۵-۱۲-۱۴-۱۹-۲۶ تاریخ خراب ہے

برچھک

بیوپار میں دھن کا لابھ ہو صحت عمدہ رہے۔ عورت کا سکھ ملے اولاد کو کچھ تکلیف رہے۔ دشمن اپنی کارستانیوں سے باز نہ آویں اور خوف لگا رہے۔ کچھ نقصان بھی ہو۔ اس ماہ کی ۲۲-۲۳-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

دھن



آمدن خرچ مساوی رہے وایو روگ سے جسم کو تکلیف۔ دھرم کے کاموں سے دل ہٹ جاوے دل کو رنج و غم۔ خرچ زیادہ ہو اولاد کی طرف سے سکھ ملے۔ کوئی عزیز ملاقی ہو۔ اس ماہ کی ۲۱-۲۲-۲۴-۲۵ تاریخ خراب ہے

مکر

دھن کا لابھ معمولی ہوگا۔ امراض صفراوی سے جسم کو تکلیف ہوگی۔ والدین کے لئے بھی نیک ناقص ہے البتہ اولاد کی طرف سے سکھ ملیگا۔ دشمن سے نقصان پہنچے۔ اس ماہ کی ۶-۷-۱۵-۱۴ تاریخ خراب ہے ✤

کنبھ



کاروبار بدرجہ مساوی دھن کا نقصان ہو۔ درد سر و امراض بلغمی سے تکلیف ہو۔ راج دربار سے مان ہانی۔ کوئی اچانک واقعہ پیش آوے جس سے دل رنجیدہ ہو جاوے۔ اس ماہ کی ۱۲-۱۴-۱۵ تاریخ خراب ہے

مین



دھن کا لابھ کاروبار میں ترقی اور فائدہ ہو عزت مرتبہ بلند ہو۔ سکھ ملے سفر میں جانا پڑے بیرتھ یاترا ہو۔ دشمن کا ناش استری اولاد کا سکھ ہو۔ اس ماہ کی ۶-۱۹-۲۰-۲۲ تاریخ خراب ہے ✤

تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

مشکل ہے۔ مگر یک دوست کی مدد سے کچھ صورت بہتری کی ہوگی۔ یقین نہ ہو تو دیکھو تمہاری داہنی آنکھ پر تل ہے۔

ج ا ا

وقت تو اچھا آگیا ہے۔ زمین کا لابھ ہوگا سفر کا خیال ہو۔ تو جاؤ فائدہ ہوگا۔ اور اولاد کا فکر رہیگا۔ عورت کی طرف سے جو چنتا کرتے ہو وہ دور ہوگی۔ کیونکہ تمہاری استری بہت ہوشیار ہے ✤

ج ب ا

اے صاحب فال۔ تیرا زمانہ بہت ناقص ہے جس کام کو تو کرتا ہے۔ نقصان اٹھاتا ہے۔ مگر دیکھ پانچ ماہ کے بعد تیری بہتری کی سبیل نکل آئیگی اگر یقین نہ ہو۔ تو دیکھ لے تیری طبیعت اداس ہے ✤

ج ج ا

دو سال سے تیرے اوپر نحوست آئی ہوئی ہے اور کاروبار میں خلل ہوتا ہے۔ اور جو ارادہ کرتا ہے وہ درمیان ہی میں خراب ہو جاتا ہے مگر یہ چنتا تیری جلد دور ہوگی۔ دیکھ تمہارے اپنے ہاتھ کی پشت پر کوئی نشان ہے ✤

ج د ا

چند روز سے عجب معاملات تمہارے درپیش رہے ہیں۔ جو کام کرتے ہو۔ ادھورا رہتا ہے۔ اس وقت تم کو ایک جیو کی چنتا ہے۔ جو ایک ماہ کے بعد دور ہو جائے گی۔ یقین نہ ہو۔ تو دیکھو تمہارے کندھے پر زخم کا نشان ہے ✤

د ا ا

گھر میں ہر طرح تکلیف اور دل کو فکر رہتا ہے بلکہ تم کو بھرم اتپن رہتا ہے۔ یہ وقت منحوس ہے دھن کی ہانی اور چنتا و فکر لگی ہے۔ اس کا دور ہونا مشکل ہے۔ یقین نہ ہو۔ تو دیکھو تمہارے داہنے بازو پر یا تو تل ہے یا کوئی نشان ہے ✤

د ب ا

تم کو ایک جیو سے دھن کی پراپتی کا خیال لگا ہوا ہے۔ ایک ماہ تک صبر کرو۔ تمہارے بگڑے ہوئے کام درست ہونگے۔ عورت سے ملاپ ہوگا۔ دیکھو تمہارے عضو تناسل پر تل ہے ✤

د ج ا

تمہارے دل میں جس شخص سے مدد لینے کا خیال ہے وہ تم کو لیت و لعل میں ٹال دیگا۔ اور تم کو رنج پہنچیگا چند روز صبر کرو۔ امداد غیبی سے تمہارا کام سدھ ہوگا۔ اور کارج سدھ ہوگا۔ مگر یاد رکھو۔ کہ تمہاری استری دروغگو ہے ✤

د د ا

گم گشتہ ہوئی چیز کا ملنا مشکل ہے۔ دھن کی پراپتی کے لئے بیوپار سے لابھ ہوگا۔ دشمن بہت تکلیف دینگے۔ مگر تم بزرگوں کی خدمت کیا کرو۔ اور

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات گرہ اسمہا بابت بیساکھ سمت ۱۹۸۱

میکھ

کاروبار میں ترقی - دھن کا لابھ ہو - سفر میں کچھ بیماری - اولاد کی طرف سے فکر - سر درد سے تکلیف - کوئی جھگڑا پیش آئے - دل پریشان رہے - اس ماہ کی ۴-۲۰-۲۱-۲۲-۳۰ تاریخ خراب ہے -

برکھ

کاروبار میں فائدہ - دھن کی بردھی - دلی مراد بر آوے - دل خوش رہے - دشمن پیدا ہوں - لیکن خود بخود ناش ہو جاویں - سفر میں جانا پڑے - دھن خرچ اور تکلیف ہو عورت سے آرام ملے - اس ماہ کی ۳-۵-۷-۲۸ تاریخ خراب ہے -

متھن



روزگار میں ترقی - دشمن مغلوب - بھائیوں سے لابھ - درد کمر سے تکلیف - دل کو رنج اولاد کا فکر اور عورت سے بگاڑ رہے - دھرم کے کاموں میں ہانی ہو - اس ماہ کی ۹-۱۲-۱۷-۱۸-۲۴ تاریخ خراب ہے +

کرک



ہر طرح سے لابھ ہو عزت و مرتبہ بلند صحت عمدہ رہے - لیکن دنیاوی کاموں میں دھن خرچ ہو - دشمن پیدا ہو کر مغلوب ہو جاویں - راج دربار میں ان البتہ دات رگ سے کچھ تکلیف رہے - اس ماہ کی ۲-۴-۵-۱۱-۲۷-۳۰ تاریخ خراب ہے

سنگھ

کاروبار مدہم خرچ زیادہ رہے طبیعت کچھ علیل رہے - کوئی کام بگڑ جاوے آنکھوں میں درد سے تکلیف ہو عورت سے جھگڑا ہو دھرم کے کاموں میں دل لگے اس ماہ کی ۵-۶-۱۶-۲۱-۲۶ تاریخ خراب ہے -

کنیا

کاروبار میں چنداں لابھ نہیں ہوگا دل رنجیدہ ہوگا - اخراجات بہت ہونگے اولاد کو تکلیف - دشمن آزار دیں - بیماری میں دھن خرچ ہوگا - دشمن سے خوف ہو - اس ماہ کی یکم-۱۱-۲۶-۲۷-۲۸ تاریخ خراب ہے

تلا



کاروبار میں لابھ زیادتی زر و مال ہو بھائیوں سے کچھ بگاڑ ہو جاوے - اولاد کا فکر پیٹ میں درد ہو - سفر جانا پڑے - عورت کا سکھ اور جسم کو آرام ملے - اس ماہ کی ۱۳-۱۴-۱۶-۱۷-۲۱-۲۷ تاریخ خراب ہیں -

برچھک



کاروبار میں ہانی خرچ زیادہ طبیعت بیمار ہے - دشمن پیدا ہو جاویں - اور تکلیف دیں - عورت کا سکھ ملے - دلی مراد پوری ہو - اس ماہ کی ۶-۱۱-۱۷-۲۱-۲۴-۲۵ تاریخ خراب ہے +

دھن

کاروبار میں لابھ اچھا ہو - لیکن خرچ بھی زیادہ رہے - فساد خون اور درد سر سے طبیعت علیل رہے بھائیوں سے کچھ لابھ ہو - دشمن سے خوف اولاد کو تکلیف اس ماہ کی یکم-۱۱-۱۹-۲۰-۲۳ تاریخ خراب ہے

مکر

کاروبار مدہم - بہ نسبت آمدن خرچ زیادہ رہے والدین سے رنج پہنچے - عورت کا سکھ نہ ملے سیانوں سے لابھ - بواسیر سے کچھ تکلیف ہو اولاد کی طرف سے آرام ملے - اس ماہ کی ۴-۵-۲۵-۲۹-۳۱ تاریخ خراب ہے +

کنبھ

کاروبار میں لابھ - روزگار کی بردھی - دشمن مغلوب جھگڑے میں کامیابی - عورت کا سکھ ملے - والدین کو تکلیف ہو - دلی مراد پوری ہو - راج دربار میں مرتبہ بلند - اس ماہ کی ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۸ و ۲۹ تاریخ خراب ہے

مین



کاروبار میں دھن ہانی ہو بھائیوں سے فائدہ پہنچے - درد سر سے تکلیف - اولاد کا سکھ - دشمن کا ناش ہو آرام ملے طبیعت علیل رہے عزت و مرتبہ بلند راج دربار میں ہو - اس ماہ کی ۶-۱۲-۱۴-۲۱-۲۷ تاریخ خراب ہے

تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

منگلوار کو فقیروں کو روٹی کھلا دیا کرو تمہارا کارج سدھ ہوگا - نشانی دیکھو - تم کو جریان کی تکلیف ہے +

ا ا ب

آپ کا ستارہ گردش میں ہے - جو کام کرتے ہو - اس میں تکلیف اٹھاتے ہو - ان دنوں تو حصول مدعا ہونا محال ہے - صبر کرو - پردیس میں جانے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا - دیکھو تمہارے جسم میں کچھ روگ ہے +

ا ج ب

اے صاحب فال - جس کام کی نسبت تو دریافت کرتا ہے - وہ کام تیرا دو ماہ کے بعد سر انجام ہوگا - اور یاد رکھ کہ ایک خوبصورت عورت سے وصل ہوگا - اور مشرق کے سفر سے تجھ کو لابھ ہوگا - دیکھو تمہاری بغل کے نیچے ایک نشان ہے +

ا و ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے - کہ تم بزرگی کے خواہشمند ہو - اور کسی جیو کی چنتا تم کو لگی رہتی ہے لیکن تمہارا مطلب سدھ ہوگا - اور وہاں سے تم کو دھن بہت ملیگا - دیکھو تمہارے دل میں کسی دوست کے ملنے کا خیال ہے +

ب ا ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے - کہ تم حصول زر اور ترقی کاروبار کے لئے پردیس جانے کا ارادہ کرتے ہو بے شک جاؤ - تمہارا مطلب سدھ ہوگا - اور وہاں سے تم کو دھن بہت ملیگا - دیکھو تمہارے دل میں کسی دوست کے ملنے کا خیال ہے +

ب ب ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے - کہ دشمن در پے آزار رہیں - اور ان سے تم کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے قرضخواہوں سے دہشت ہوتی ہے جس کام کا تم کو خیال ہے ابھی اس میں توقف ہے دیکھو کہ تمہاری ران پر کسی دنبل کا نشان ہے +

ب ج ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے - کہ تمہارا طالع نحوست میں ہے - اور بہت دنوں سے تم کو نقصان ہو رہا ہے - بلکہ ایک شخص سے لڑائی جھگڑے میں تم کو تکلیف ہوئی - تم کارج سدھی کے لئے جو دوڑ دھوپ کرتے ہو وہ کام پورا نہیں ہوگا - دیکھو تمہارا دل اس سے [illegible]

ا ب ب

فکر مت کرو - سعادت کا وقت آگیا ہے عنقریب تمہارا کارج سدھ ہوگا - اور تم کو کسی دوست سے امداد ملیگی - اور سفر با منفعت پیش آنے والا ہے - دیکھو - تم اپنی عورت کی محبت میں سرشار رہتے ہو +

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات گرہ راسہا بابت ماہ جیٹھ سمت ۱۹۸۱ بکرم

میکھ

کاروبار میں کشائش - آرام ملے - کوئی شخص دھوکا سے دھن کی ہانی کرے بھائیوں سے بھلا اولاد کا سکھ لیکن عورت سے بگاڑ رہے درد سر سے تکلیف ہو - اس ماہ کی ۳ و ۷ و ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۸ تاریخ خراب ہیں -

برکھ

کاروبار مدہم خرچ زیادہ - آمدن کم - سفر جانا پڑے - اخراجات کی زیرباری ہو - دشمن سے جھگڑا پیش آوے لیکن کامیابی ہو - عورت کا سکھ معمولی برآمد - اس ماہ کی ۲-۳-۲۲-۲۰-۳۱ تاریخ خراب ہیں

متھن

روزگار مدہم - کسی جگہ سے حصول مال ہو دل خوش رہے - مراد پوری - خویشوں سے لابھ ہو - اولاد کا سکھ نہ ملے - کمر میں وات پیڑا سے تکلیف - دھن خرچ ہو - اس ماہ کی ۵-۷-۱۳-۱۴-۳۲ تاریخ خراب ہیں

کرک

کاروبار میں معمولی لابھ ہوگا - خرچ بھی زیادہ رہیگا - عورت سے جھگڑا ہو - راج دربار میں عزت و مرتبہ بلند - دشمن ناش لیکن آنکھوں میں کچھ تکلیف رہیگی - اس ماہ کی یکم - ۷ - ۲۲ - ۳۰ - ۳۱ تاریخ خراب ہیں

سنگھ



ہر طرح سے لابھ ہوگا - صحت عمدہ رہیگی دل کو خوشی ہو - کوئی ہنر ملیگا - کاروبار میں ترقی ہوگی - دشمن مغلوب ہونگے لیکن عورت سے کچھ خصومت رہیگی - اس ماہ کی ۵-۱۱-۱۲-۱۶-۲۳-۲۹ تاریخ خراب

کنیا



کاروبار میں ہانی - زیرباری خرچ - صحت میں فتور - دل رنجیدہ - کوئی کام بگڑ جاوے - آنکھوں میں روگ - دشمن کا خوف اولاد سے رنج - دھن ہانی ہو - اس ماہ کی ۶-۱۲-۲۱-۲۳-۲۴ تاریخ خراب ہے

تلا

کاروبار میں لابھ - زیادتی زر و مال - آمدن اچھی رہے - دشمن پیدا ہو کر تکلیف دیں گرمی سے جسم کو تکلیف - عورت کا سکھ ملے - والدین کو کشٹ - اس ماہ کی ۹-۱۰-۱۱-۱۳ - ۲۵ - ۳۰ تاریخ خراب ہے

برچھک

دھن کا لابھ - ترقی علم و دولت ہو سفر جانا پڑے - دوران سفر میں بیماری سے تکلیف اور رنج پہنچے - پیٹ میں کچھ تکلیف رہیگی - دشمن پیدا ہو رنج دینگے بھائیوں سے بھی بگاڑ رہیگا - اس کی ۱۲-۱۷-۲۰-۲۱-۲۴-۲۹ خراب

دھن

دھن ہانی - آمدن کم خرچ زیادہ - اولاد کو کشٹ ہو بیماری میں روپیہ پیسہ کا خرچ ہو - بھائیوں سے کچھ لابھ ہوگا - دشمن مغلوب ہونگے عورت سے محبت رہیگی - دھرم کی ہانی ہو - اس ماہ کی ۵-۱۴-۱۶-۱۷-۱۹-۲۴ خراب ہیں

مکر

آمدن کم خرچ زیادہ - درد سر اور پھوڑے پھنسی سے جسم کو تکلیف - دشمن سے آزار پچپن کا روگ ہو - اولاد کو تکلیف - عورت کا سکھ ملے - مرتبہ بلند ہو - اس ماہ کی ۱۵-۲۱-۲۴-۲۸-۲۹ تاریخ خراب ہے

کمبھ

کاروبار تجارت میں لابھ ہوگا کسی سے خواہ مخواہ جھگڑا ہو - لیکن کامیابی ہو جاوے - والدین سے رنج پہنچے - اولاد کی بیدی - عورت کا سکھ ملے مراد پوری ہو ست سنگ میں دل لگے روپیہ کی زیرباری ہو اس ماہ کی ۳-۹-۱۰-۱۸-۲۹ تاریخ خراب

مین

کاروبار میں دھن کا لابھ - آمدن اچھی رہے - دشمن مغلوب ہوں عزت و مرتبہ بلند دل خوش رہے - عورت سے محبت بڑھے - والدین کو کچھ تکلیف ہو - پیٹ میں درد رہے اس ماہ کی ۶-۱۳-۱۴-۲۱-۲۸ تاریخ خراب ہے

تصویر کی تقدیر کا فالنامہ

ب د ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے - کہ زمانہ گذشتہ میں تم نے پرستری کے خیال میں دھن کا نقصان کیا اور تمہارے کاروبار میں خلل ہوگیا - مگر وقت اچھا آگیا ہے - کاج سدھ ہوگا - دیکھو تمہارے داہنے کندھے پر تل کا نشان ہے

ج ا ب

اے صاحب فال - تمہاری موجودہ حالت عجب قسم کی ہوئی ہے - تمہارے خیالات گاہے جنس گاہے خیال ہوتے ہیں - اور جس شخص سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہو وہ مشکل ہے - ہاں چند روز کے بعد کوئی دیگر صورت ظہور میں آئیگی - دیکھو اس وقت تمہارے خیالات پراگندہ ہیں +

ج ب ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے - کہ تم کو کسی گئے ہوئے جیو کی چنتا رہتی ہے اور کسی خبر و خط کے تم ہر وقت انتظار میں رہتے ہو - بلکہ تم کسی چیز کی خرید و فروخت کا جو خیال کرتے ہو - تو اس وقت نہیں ہوگی دیکھو تمہارے سر پر ایک داغ کا نشان ہے +

ج ج ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ تم حصول زر اور کشائش کاروبار کے لئے بڑی جستجو کرتے ہو - مگر گردش ایام تمہاری تم کو فائدہ نہیں ہونے دیتی اور جس شخص کو ملنے کی خواہش کرتے ہو - وہ عنقریب تم کو ملیگا مگر یاد رکھو اس سے فائدہ نہیں ہوگا - دیکھو اس وقت تمہاری توجہ اس شخص کی طرف لگی ہوئی ہے -

ج د ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے - کہ تم کو ایک جیو کی چنتا ہے اور تمہارے پاس دھن تھوڑا ہے - ست سنگ میں تم دل لگاتے ہو - مگر چنتا تم کو کچھ نہیں کرنے دیتی - دو ماہ تک صبر کرو - پھر دن اچھے آئینگے دیکھو تمہارے پاؤں پر کوئی داغ ہے +

د ا ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے - کہ تم کو زن و فرزند کی چنتا ہے - اور تمہارے پاس دھن تھوڑا ہے ست سنگ میں تم دل لگاتے ہو - مگر چنتا تم کو کچھ نہیں کرنے دیتی دو ماہ تک صبر کرو - پھر دن اچھے آئینگے - دیکھو تمہارے پاؤں پر کوئی داغ ہے +

د ب ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے - کہ تمہارے دل میں ایک بہت چنتا لگ رہی ہے - اور تم کسی شخص کو زیر کرنے کا خیال ابھی بہت کرتے ہو - مگر لابھ کے لئے جو فکر تم کو ہے وہ توقف سے رفع ہوگا - دیکھو تو بھلا تمہاری کمر پر کوئی نشان ہے +

د ج ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے - کہ عنقریب تم کو کسی ہنر کا

بارہ راسیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات گرہ راسہائے بابت ماہ ہاڑ سمت ۱۹۸۱ بکرم

منتھن	برکھ	میکھ
روز گار کی بردھی - دھن لابھ ہو - بتر بھ - یاترا میں دھن خرچ ہو - بھائیوں سے لابھ پہنچے - کمر میں درد ہے - تکلیف - اولاد کی طرف سے سکھ ملے - حصول مال کی کوشش میں کامیابیاں - اس ماہ کی یکم - ۹ - ۱۰ - ۲۶ - ۲۸ تاریخ خراب ہے	کاروبار میں کشائش - ہر طرح سے لابھ ہو - لیکن کوئی شخص دشمن سے دھن کا نقصان کرے - سفر میں جاکر طبیعت علیل ہو جانے سے تکلیف پہنچے - کوئی تہمت لگے جس سے بے عزتی ہو - عورت کا سکھ ملے - اس ماہ کی ۴ - ۱۶ - ۹ - ۲۶ تاریخ خراب ہے	زرومال کا فائدہ - دل کو خوشی - بھائیوں سے لابھ پہنچے - عورت سے محبت زیادہ - دشمن مغلوب - اولاد کی طرف سے کچھ فکر - پیٹ میں بدہضمی کا روگ اور درد ریزش سے تکلیف پہنچے - اس ماہ کی ۸ - ۱۳ - ۱۴ - ۲۳ تاریخ خراب ہے



کنیا	سنگھ	کرک
روز گار مدہم ہوگا - خرچ زیادہ رہیگا - کوئی بنا بنایا کام بگڑ جاوے گا - جس سے دل کو رنج پہنچیگا - راج دربار سے مان اور لابھ ہو - صحت کے لئے یہ ماہ اچھا ہے لیکن دھرم کے کام میں پرتی نہ رہے - اس کی ۲ - ۷ - ۱۴ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۸ تاریخ خراب ہے	دھن کا لابھ ہوگا - لیکن خرچ بھی بہت رہیگا - راج دربار میں مان - عزت و مرتبہ بلند - دشمن مغلوب - دلی مراد بر آویگی - عورت سے لڑائی جھگڑا ہوگا - ملک املاک کی بردھی ہوگی - اس کی ۴ - ۷ - ۸ - ۹ - ۲۷ - ۳۱ تاریخ خراب ہے	کاروبار مدہم - آمدن کم - خرچ زیادہ رہے - میں تکلیف اور دوات بڑا سے طبیعت خراب رہے - کسی سے خواہ مخواہ جھگڑا ہو - عورت سے بگاڑ اور زیرباری ہو - دل رنجیدہ رہے - اس ماہ کی ۳ - ۱۵ - ۲۲ - ۲۳ - ۳۰ تاریخ خراب ہے

دھن	برچھک	تلا
روزگار مدہم - آمدن کم - خرچ زیادہ - سفر میں روگ - زیرباری خرچ - دشمن پیدا ہوں - دھن ہانی کریں - عورت کا سکھ ملے - دلی مراد بر لاوے - پیٹ میں کچھ تکلیف ہو - اس ماہ کی ۷ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۴ - ۲۷ تاریخ خراب ہے	ترقی زرومال - آمدن زیادہ - خرچ کم رہیگا - دل کو ہر طرح سے خوشی - خویش و اقارب سے رنج پہنچے - سفر جانا پڑے گا - نقل و حرکت زیادہ ہوگی - آنکھوں میں روگ - عورت کا سکھ ہو - اس کی ۵ - ۱۲ - ۱۶ - ۱۷ - ۳۱ تاریخ خراب ہے	کاروبار میں ترقی - دھن کا لابھ - صحت عمدہ رہیگی - دل کو خوشی کوئی منزل ملیگا - والدین کو کچھ تکلیف ہوگی - اولاد کا فکر رہیگا - دشمن پیدا ہوں لیکن ناش ہو جاویں - اس ماہ کی ۴ - ۵ - ۸ - ۲۰ - ۳۱ تاریخ خراب ہے

مین	کنبھ	مکر
روزگار کی بردھی - دھن کا لابھ - عزت و مرتبہ بلند ہو - جھگڑنے میں کامیابی ہو - عورت کا سکھ ملے - دشمن مغلوب - والدین سے رنج ہو - پیٹ میں روگ ہو - اس ماہ کی ۶ - ۹ - ۱۰ - ۲۴ تاریخ خراب ہے	کاروبار مدہم - دھن ہانی - زیرباری اور نقصان پہنچے - دنیاوی کاروبار میں دھن خرچ ہو - اولاد کو تکلیف - عورت سے بگاڑ - راج دربار میں مرتبہ بلند - مراد پوری ہو - اس ماہ کی ۴ - ۲۰ - ۲۲ - ۳۱ تاریخ خراب ہے	کاروبار میں ترقی نہ ہو - آمدن کم - خرچ زیادہ ہے - اولاد کو تکلیف - بیوپار کے عارضہ سے تکلیف پہنچے - دشمن سے خوف - راج دربار میں مرتبہ بلند ہو - اس ماہ کی ۱۲ - ۱۴ - ۱۷ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۴ تاریخ خراب ہے

تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

خط پہونچیگا - دشمنوں کی طرف سے جو جھنجھٹ ہوگی ہے وہ جلد رفع ہو جائیگی - مگر شک جاتا ہے کہ تمہاری عورت تم سے محبت نہیں رکھتی +

د د ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے - کہ کچھ دنوں سے تمہارا ہاتھ تنگ ہو رہا ہے - اور تم روزگار کے لئے کوشش کرتے ہو - مگر بباعث گردش کام سرانجام نہیں ہوتا - لیکن اب کارج سدھ ہوگا - دیکھو چنتا مت کرو +

ا ا ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے - کہ تم بلندی مرتبہ کے لئے اور ملک و املاک کی بہتری کے واسطے ایک عرصہ سے کوشش کر رہے ہو - مگر اس وقت تک طالع گردش میں ہے - چھ ماہ کے بعد کارج سدھ ہوگا - دیکھو آٹھ یوم ہوئے کہ تمہاری جیب سے کوئی چیز گر گئی تھی +

ا ب ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے - کہ تمہارا دل کسی شخص کی محبت میں بیقرار ہے - اور وہ تم سے التفات نہیں رکھتا - اور تم اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو طالع گردش میں ہے - خیال چھوڑ دو - نقصان اٹھاؤ گے - دیکھو آج کئی روز سے تم کو قبضی کی شکایت ہے +

ا ج ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے - کہ تم کو ایک چنتا ہے - اور تم اپنے دشمنوں کو دفع کرنے کے لئے کوشش کرتے ہو - کچھ دن ہوئے - تمہارا کچھ نقصان بھی ہو گیا تھا - کہ اب دن اچھے آگئے ہیں کارج سدھ ہوگا - دیکھو - تم کو کھانسی کی تکلیف رہتی ہے +

ا د ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے - کہ کسی نے تمہاری مملوکہ چیز پر قبضہ کر لیا ہے - اور تم کو ہر وقت اسکی چنتا رہتی ہے - اور تم اپنی بہتری کی کوشش کرتے ہو - مگر بباعث گردش ایام کام نہیں ہوتا - ایک سال کے بعد امید بہتری رکھیں - دیکھو تم کو بھوک کم لگتی ہے +

ب ا ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ تم دنیاوی دھندوں میں عجیب کشمکش میں پڑے ہوئے ہو - اور اپنی کامیابی کے لئے کوشش کرتے ہو اچھا دن اچھے آگئے ہیں - چند یوم میں کارج سدھ ہوگا دیکھو رات تم نے خواب میں ایک مہاتما کا درشن کیا ہے +

ب ب ج

یہ شکل نحوست طالع پر دلالت کرتی ہے - جو کام تم نے بچارا ہے اس کا پورا ہونا مشکل ہے - لین دین کے معاملہ میں بھی تم کو تکلیف ہوگی - دوستوں سے رنج

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ راسیھائے بابت ماہ ساون سمت ۱۹۸۱ بکرم

میکھ

کاروبار میں لابھ۔ بھائیوں سے محبت اور پرانی ہو۔ والدین سے رنجش۔ اولاد کا فکر عورت سے محبت ہے۔ دل خوف زدہ دل درد سر سے تکلیف ہو دلی مراد بر آوے۔ سکھ ملے اس ماہ کی ۳-۹-۱۰-۱۹-۲۰ تاریخ خراب ہے

برکھ

دھن کی بڑھتی اور تجارت میں فائدہ جھگڑے میں کامیابی دشمن مغلوب تمنائے دلی برآوے عورت کا سکھ ملے بلغمی روگ اور کھانسی سے طبیعت علیل رہے دھرم کے کاموں میں پڑتی نہ ہو۔ اس ماہ کی ۲-۱۰-۱۷-۲۱-۲۲ تاریخ خراب ہے

متھن



کاروبار مدہم آمدن خرچ مساوی رہے کسی جگہ سے حصول مال ہو۔ بھائیوں سے لابھ تجارت میں فائدہ۔ اولاد کا فکر ہے مگر بیمار ہونے سے دل بے چین ہے۔ کوئی منتر سے دل کو خوشی ہو۔ اس ماہ کی ۵-۶-۱۴-۲۰-۲۴-۲۹ تاریخ خراب

کرک



کاروبار میں گنجائش۔ دھن کا لابھ ہو۔ سفر میں دھن خرچ ہو نقل و حرکت زیادہ ہے۔ دشمن کا بھے لگا ہے۔ بادی روگ سے تکلیف اور آنکھوں میں درد ہو کسی جگہ سے کوئی تہمت لگے۔ اور بے عزتی ہو۔ اس ماہ کی ۹-۱۹-۲۰-۲۶ تاریخ خراب ہے

سنگھ

دھن کا لابھ ہوگا۔ لیکن خرچ بھی بہت ہوگا و بیم۔ زمین سے دھن کی پراپتی ہوگی عورت بیمار رہیگی۔ اور زیرباری ہوگی۔ اولاد کا سکھ ہوگا دل کو حیرانی پریشانی رہیگی۔ ترقی کی امید پوری نہ ہوگی اس ماہ کی تیم ۳-۴-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱ خراب

کنیا

کاروبار مدہم۔ زیرباری خرچ۔ دل کو رنج و الم اور طبیعت ناساز رہے سفر میں جانا پڑے کسی سے جھگڑا ہو۔ دشمن مغلوب دلی مراد پوری ہو۔ راج دربار سے مان بھنگ اور بے عزتی ہو۔ اس ماہ کی ۴-۸-۱۴-۱۵-۱۶-۳۱ تاریخ

تلا

کاروبار میں لابھ گنجائش رزق۔ راج دربار سے مان و عزت و مرتبہ بلند ہو۔ دلی مراد بر آوے۔ زر و مال کی زیادتی ہو اولاد کی طرف سے تکلیف اور طبیعت کچھ علیل رہیگی دھرم کے کاموں میں خیال زیادہ رہیگا۔ اس ماہ کی تیم ۲-۵-۲۵-۲۹ تاریخ خراب

برچھک



ترقی علم و دولت صحت عمدہ۔ کاروبار تجارت میں دھن کا لابھ ہو۔ دشمن پیدا ہوں اور تکلیف دیں اولاد کو تکلیف اور دل کو فکر لگا رہے دھرم کے کاموں میں دل لگے۔ دھن حاصل ہو بین۔ نقل و حرکت زیادہ ہے اس ماہ کی ۹-۱۳-۲۶ تاریخ خراب

دھن



روزگار کی بڑھتی دھن لابھ دل کو خوشی ہو۔ کوئی خوشخبری ملے دنیاوی کاروبار میں دھن خرچ ہو۔ خویش و اقارب سے کچھ رنجش ہو عورت کا سکھ ملے صحت میں فتور ہے۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ اس ماہ کی ۲-۷-۸-۱۱-۲۸ تاریخ خراب ہے

مکر

کاروبار میں نقصان۔ آمدن کم خرچ زیادہ جسم کو تکلیف اور بیماری ہو۔ دشمن سے گزند سفر درپیش آئے قبض سے پیٹ میں درد ہو۔ آنکھوں میں تکلیف ہو عورت سے رنجش ہو۔ اس ماہ کی ۱۱-۱۳-۱۹-۲۰ تاریخ خراب ہے

کنبھ

کاروبار مدہم۔ آمدن خرچ مساوی رہے فساد خون اور درد سر سے طبیعت پریشان رہے۔ دشمن پیدا ہوں لیکن خود ہی مغلوب ہو جاویں۔ اولاد کا سکھ ملے عورت کو تکلیف راج دربار میں مرتبہ بلند۔ کوئی نقصان کرے اس ماہ کی تیم ۳-۱۰-۱۴-۲۱-۲۹ تاریخ خراب ہے

مین



کاروبار میں لابھ کم لیکن کسی دیگر ذریعہ سے دھن کا لابھ ہو۔ عورت کا سکھ ملے۔ والدین کو تکلیف۔ اولاد کو کشٹ ہو پیٹ میں درد ہونے سے دل کو بےچینی ہو راج دربار سے بہتری مرتبہ بلند۔ اس ماہ کی تیم ۵-۶-۱۸-۲۷ تاریخ خراب ہے

تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

پہنچیگا۔ دیکھو رات خواب میں تم نے ایک روز خوف کھایا تھا

ب ج ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ تم کو فکر اور رنج رہتا ہے۔ جس میں اکثر تکلیف اور کسی بیماری کی طرف سے چنتا کرتے ہو۔ مگر خیال رکھو۔ کہ ایام نحوست بہتری کی صورت نہیں ہونے دینگے۔ دیکھو تم کو عورت کی طرف سے سکھ نہیں ملتا ٭

ب د ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ مایوس امیدوں میں کامیابی ہوگی۔ دشمن دفع۔ حاکم سے فائدہ۔ اور جس جھوٹے ملنے کی خواہش ہے۔ وہ جلد پائیگا۔ بشرطیکہ تم منگلوار کو برت رکھا کرو۔ دیکھو تمہاری پرتل ہے ٭

ج ا ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ تمہارے جسم میں کشٹ رہتا ہے جس کا تم کو ہر وقت فکر رہتا ہے۔ طاقت مردمی کام دیو کی چیشٹا سے بہت کم ہوگئی ہے علاج سے فائدہ نہیں۔ گردش کا باعث ہے دیکھو تمہارے دل میں ایک بھرم ہو رہا ہے ٭

ج ب ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو کسی عورت کے وصل کا شوق ہے۔ اور تم ہر وقت ترقی روزگار کے لئے بھی کوشش کرتے ہو۔ اور تمہارا دل ایک جگہ نہیں لگتا۔ رات کو خواب میں بھی بڑبڑاتے ہو۔ کسی شخص کی مدد سے تمہارا کارج سدھ ہوگا ٭

ج ج ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ بہت دنوں سے کوئی شخص تم کو نقصان دیتا ہے جس کی چنتا تم کو لگی ہوئی ہے۔ اور روزگار بھی تمہارا اچھا نہیں۔ مگر اب وقت اچھا آگیا ہے۔ کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو تمہارا داہنا سوانس چل رہا ہے ٭

ج د ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تمہارے مکان میں دھن گڑا ہوا ہے۔ تم نے کئی مرتبہ اس کے لینے کی خواہش کی۔ مگر نہیں ملا۔ ہر وقت تم کو چنتا لگی رہتی ہے۔ لیکن یہ دھن تم کو نہیں ملیگا چنتا چھوڑ دو۔ دیکھو تمہارے مکان کا دروازہ پورب کو ہے ٭

و ا ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو راج دربار سے خوف رہتا ہے۔ اور عورت کی چنتا بھی ہر وقت لگی رہتی ہے۔ ناقص وقت گذر گیا۔ اب کارج سدھ ہوا چاہتا ہے دل کی خواہش پوری ہوگی۔ مگر تمہارا سبھاؤ بہت چنچل ہے ٭

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات امور گرہ راسہا بابت ماہ بھادوں سمبت ۱۹۸۱ بکرمی

میکھ

دھن لابھ ہو بھائیوں سے فائدہ پہونچے کوئی دلی مراد بر آوے لیکن درد سر سے طبیعت بچین ہے۔ عورت و اولاد کو کشٹ اور دل کو رنج دشمن کا خوف لگا رہے۔ اس ماہ کی ۵ - ۶ - ۱۵ - ۲۲ تاریخ خراب ہے ✣

برکھ

صحت اچھی رہے۔ روپیہ پیسہ کا لابھ ہو۔ عورت سے محبت زیادہ لیکن والدین سے رنجش اور دشمن سے تکلیف ملے۔ سفر میں جانا پڑے۔ دل رنجیدہ رہے۔ اس ماہ کی ۴ و ۱۷ و ۸ او ۲۹ تاریخ خراب ہے ✣

متھن

کاروبار میں دھن کا لابھ اچھا ہوگا۔ ہر طرح سے آرام ملے۔ عدالتی کاروبار میں کامیابی۔ دشمن کا ناش۔ عزت و مرتبہ بلند ہو۔ البتہ درد کمر سے کچھ تکلیف ہوگی۔ اور کچھ خرچ بھی ہو۔ اس ماہ کی یکم - ۱۴ - ۲۰ - ۲۸ - ۲۹ تاریخ خراب ہے

کرک

لابھ تو اچھا ہوگا۔ لیکن خرچ بھی زیادہ رہیگا۔ دل کو کسی بد خبری سے رنج پہنچیگا۔ ریزش و نزلہ سے طبیعت خراب رہے اور آنکھوں میں تکلیف ہو جاوے دشمن کا بھے ہوگا۔ اس ماہ کی ۳ - ۱۵ - ۱۶ - ۲۲ - ۲۸ تاریخ خراب ہے ✣

سنگھ



کاروبار تجارت میں دھن کا لابھ اچھا ہوگا۔ نیز بخار ہوگی۔ سفر کی وجہ سے جسم کو تکلیف۔ عورت سے بگاڑ اور اس کو خونی مرض سے کشٹ پہنچے مرتبہ میں ترقی ہوگی۔ اس ماہ کی ۷ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ تاریخ خراب ہے ✣

کنیا

کاروبار مدہم رہیگا۔ خرچ زیادہ ہوگا نقل و حرکت زیادہ رہے۔ بیماری میں زیرباری ہو۔ راج دربار سے کچھ پراپتی ہوگی۔ دشمن کا ناش۔ اور دلی مراد بر آوے۔ اس ماہ کی ۲ و ۱۰ و ۱۱ و ۲۲ و ۲۷ تاریخ خراب ہے ✣

تلا



کاروبار میں چنداں فائدہ کی صورت نہ ہوگی جسمانی صحت بگڑی رہیگی۔ کوئی بنا بنایا کام خراب ہو جاویگا۔ اولاد کا سکھ ملیگا۔ دھرم کے کاموں میں پریتی زیادہ ہوگی۔ دشمن مغلوب ہونگے اس ماہ کی ۸ او ۲۳ و ۲۴ و ۲۷ تاریخ خراب ہے ✣

برچھک



ترقی زر و مال صحت عمدہ رہے۔ دشمن پیدا ہوں۔ اور خواہ مخواہ جھگڑہ پیش آوے سفر جانا پڑے۔ راج دربار میں مان عزت و مرتبہ بلند۔ والدین کو تکلیف پہنچے۔ بد ہضمی کی شکایت رہے۔ اس ماہ کی ۴ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۹ و ۳۱ تاریخ خراب ہے

دھن

روزگار میں لابھ اچھا ہوگا۔ دھن کی بڑھتی ہوگی۔ دلی مراد پوری ہوگی برادروں سے رنجش رہیگی۔ عورت کا سکھ ملیگا۔ دھرم کے کاموں میں ہانی ہو۔ اس ماہ کی ۲ - ۱۳ - ۶ - ۲۱ - ۳۰ و ۳۱ تاریخ خراب ہے ✣

مکر

دھن کا لابھ ہوگا۔ لیکن بہ نسبت آمدن کے خرچ زیادہ رہیگا۔ دشمن کا خوف لگا رہیگا۔ بادی و بلغم کے روگ سے تکلیف ہوگی۔ عزت و مرتبہ میں ترقی ہوگی۔ اس ماہ کی ۵ و ۶ و ۱۵ او ۱۶ او ۳۰ تاریخ خراب ہے ✣

کنبھ

کاروبار مدہم دھن کا لابھ ہو۔ سفر دور دراز پیش آوے۔ اور دھن خرچ ہو۔ پیٹ میں کچھ تکلیف ہو جاوے۔ اور پھوڑا پھنسی سے طبیعت علیل رہے۔ عورت و اولاد کا سکھ ملے۔ اس ماہ کی ۵ - ۱۰ - ۲۳ - ۲۴ تاریخ خراب ہے

مین

کاروبار میں دھن لابھ۔ عزت و مرتبہ بلند ہو۔ دشمن مغلوب ہوں۔ راج دربار سے عزت۔ سفر میں کچھ مایوسی ہو۔ امید بر نہ آوے۔ آنکھوں میں کچھ تکلیف ہو جاوے۔ والدین کو کشٹ ہو۔ اس ماہ کی یکم - ۱۴ - ۲۰ - ۲۸ - ۲۹ تاریخ خراب ہے

تقدیر کی تصویر کا نادر فالنامہ

د ب ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ تم متلاشی روزگار اور ترقی کاروبار کے لئے کسی شخص کی امداد کے طلبگار رہتے ہو۔ مگر وہ ٹال مٹول کرتا ہے عنقریب ایک معاون پیدا ہوگا۔ اور تمہارا کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو تمہارے سر میں درد ہے ✣

د ج ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو ان دنوں کچھ تکلیف ہے اور ابھی تمہارے دن بہت خراب ہیں۔ شکم میں روگ ہوگا۔ دشمن سے دہشت ہوگی۔ ایشور کی یاد کرو۔ شاید تمہارا مطلب سدھ ہو جاوے۔ دیکھو رات تم کو نیند بہت کم آتی ہے ✣

د د ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ گزشتہ وقت میں تو تم نے دھن کا نقصان اٹھایا۔ مگر اب تمہاری تمام تکلیفیں دور ہونے والی ہیں۔ چند روز میں منگلا چار ہوگا۔ اور عورت و اولاد کا سکھ ہوگا۔ دیکھو تمہاری اندری پر تل ہے ✣

ا ا د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ عنقریب ایک غیر معمولی ترقی اور عزت پاؤگے۔ اور تمہارے بگڑے ہوئے کام سرانجام ہونگے۔ عورت اور اولاد کا سکھ۔ کسی دوست سے ملاقات ہو۔ دیکھو تمہاری گردن پر تل ہے ✣

ا ب د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو گیت بدیا کا بہت شوق ہے اور تمہارا دل بھی کرن کی طرف بہت رہتا ہے جس دلربا کے لئے تم کو تشویش ہے وہ عنقریب یہاں سے چلی جاویگی۔ مگر چند روز کے بعد تم کو ایک جگہ سے فائدہ پہنچیگا۔ دیکھو تمہاری طاقت مردی کمزور ہے ✣

ا ج د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو عورت کی طرف سے تنگی اور اولاد کی طرف سے رنج اور کسی مؤنث جیو کی جنجال رہتی ہے۔ بلکہ تم سفر میں جانے کو تیار ہوتے ہو۔ مگر ایام گردش ہیں۔ کارج سدھ نہیں ہوگا۔ دیکھو تمہارا دل بیقرار ہے ✣

ا د د

اس شکل سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ تم زمانہ کی گردش سے بہت گھبراہٹ میں ہو۔ جس کام کو تم ڈالتے ہو۔ اس میں کامیابی نہیں ہوتی شروع سے بھی تکلیف ہے۔ ابھی ایک سال اس طرح سے گزریگا۔ دیکھو تمہاری مزاج میں تندرستی زیادہ ہے

ب ا د

اے صاحب فال۔ دیکھ زمانہ اس قابل نہیں۔

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ راشی ماہ اسوج سمت ۱۹۸۱ بکرم

میکھ

روزگار میں لابھ ہوگا۔ صحت اچھی رہیگی دِل کو خوشی عورت کا سکھ ملیگا۔ اولاد کی طرف سے فکر و تشویش۔ دشمن رنج پہنچاویں۔ لیکن خود بخود ناش ہو جاویں والدین کو تکلیف سفر میں رنج پہونچے اس ماہ کی ۳ و ۴ و ۱۱ و ۱۷ و ۲۸ و ۲۹ تاریخ خراب ہے

برکھ

دھن کا لابھ ترقی علم و دولت ہو۔ بھائیوں سے لابھ۔ دلی مراد پوری ہو۔ دشمن مغلوب عورت کا سکھ ملے۔ اولاد کی طرف سے کچھ رنج ہے۔ سفر جانا پڑے۔ سر درد اور آنکھوں میں کچھ تکلیف رہے اس ماہ کی ۳-۱۳-۱۴-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

متھن



کاروبار میں دھن لابھ ہر کام میں کامیابی دلی مراد پوری ہو۔ دنیاوی کاروبار میں دھن خرچ ہو۔ عدالتی کاموں میں کامیابی والدین سے جھگڑا۔ اولاد کا فکر رہے۔ بادی و بلغمی روگ سے کمر میں درد ہو۔ اس ماہ کی ۸-۱۶-۲۴-۲۵ تاریخ خراب ہے

کرک

کاروبار میں دھن کا فائدہ ہوگا۔ کسی جگہ سے حصول مال ہو۔ طبیعت ہر طرح سے بشاش رہے۔ دشمن مغلوب ہوں۔ کوئی بری خبر سننے سے دل کو رنج پہنچے عورت سے جھگڑا ہو جاوے اولاد کی طرف سے خوشی ہو۔ اس ماہ کی ۱۱-۱۲-۱۸-۲۴ تاریخ خراب

سنگھ

کشائش رزق و دھن لابھ ہو۔ تجارت میں فائدہ پہنچے نقل و حرکت زیادہ ہو۔ تمنائے دلی بر آوے۔ عزت و مرتبہ بلند ہو۔ دشمن کا ناش۔ چوروں سے دھن ہانی ہونیکا خوف ہے۔ آنکھوں میں درد ہو۔ اس ماہ کی ۶-۱۷-۲۰-۲۲-۲۴ تاریخ خراب ہے

کنیا



کاروبار میں فائدہ کم۔ بہ نسبت آمدن کے خرچ زیادہ ہے۔ اور زیرباری ہو۔ ملک و املاک کا نقصان کوئی کام بگڑ جاوے۔ اولاد کو تکلیف سفر میں زیرباری اور سر درد کے عارضہ سے تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۶ و ۷ و ۲۲ و ۲۳ تاریخ خراب ہے۔

تلا

زر و مال کا فائدہ دھن یعنی تجارت سے لابھ ہو۔ عورت سے محبت زیادہ ۔۔۔ کو تکلیف۔ دشمن پیدا ہو جاویں۔ اور رنج پہنچاویں۔ تیرتھ یاترا ہو اور دل کو خوشی ہو۔ کوئی مترملے اس ماہ کی ۱۳ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۴ تاریخ خراب ہے

برچھک

صحت عمدہ۔ ترقی علم و دولت دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار سے مان۔ عزت و مرتبہ بلند نقل و حرکت زیادہ ہو دھرم کے کاموں میں پریتی۔ خویش و اقارب سے کچھ رنجش ہو جاوے۔ دشمن مغلوب ہوں۔ اس ماہ کی ۴ و ۵ و ۱۴ و ۲۸ تاریخ خراب ہے۔

دھن

کاروبار میں چنداں لابھ نہ ہوگا۔ بلکہ بہ نسبت آمدن کے خرچ زیادہ رہیگا۔ بیماری میں روپیہ پیسہ خرچ ہو۔ اولاد کا سکھ ملے پیٹ میں درد اور سہائی و تپش کی بیماری سے تکلیف پہنچے راج دربار میں مان ہو اس ماہ کی ۲-۱۶-۲۶-۲۷-۳۰ تاریخ خراب

مکر



دھن کا لابھ کامیابی و ترقی لیکن سفر میں کچھ دھن کا نقصان ہوگا۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ عورت سے محبت زیادہ رہیگی راج دربار میں مان۔ عزت و مرتبہ بلند ہو۔ درد سر اور پھوڑا پھنسی سے طبیعت علیل۔ اس ماہ کی ۴ و ۱۱ و ۱۲ و ۲۵ تاریخ خراب

کنبھ

کاروبار مدھم۔ بہ نسبت آمدن کے خرچ زیادہ ہے۔ دشمنوں سے طبیعت خوف زدہ ہے۔ عورت سکھ ملے۔ دل کو ہر وقت حیرانی و پریشانی وات و پت روگ سے تکلیف پہنچے۔ اس ماہ کی یکم۔ ۴۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۹ تاریخ خراب ہے

مین

دھن کا لابھ طبیعت میں فرحت۔ اولاد کا سکھ سفر دور دراز پیش آوے کوئی کام بوجہ حسن سرانجام ہو۔ دل کو خوشی۔ اولاد کا سکھ۔ لیکن دشمن درپے آزار رہیں۔ گرانی شکم سے تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۱۱-۱۵-۲۶-۲۷ تاریخ خراب ہے

تقدیر کی تصویر نادر فالنامہ

کہ کسی کے بھروسہ پر کام کیا جاوے۔ تیری سادہ پنی نے تجھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ رحم دلی نے مخالف پیدا کر دئے۔ مگر خیال رکھ۔ کہ تیرے دل کی چنتا اب جلد دور ہوگی۔ دیکھ تیرے سینہ میں کچھ روگ ہے +

ب ب د

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ تم کو عورت کی چنتا زیادہ رہتی ہے۔ سفر جانے میں تمہارا دل بہت چاہتا ہے۔ مگر کام دیری سے ہوگا۔ اور کسی دوست یا عزیز کا خط جلد ملا چاہتا ہے۔ دیکھ تیرے بائیں بازو کے زیریں تل ہے +

ب ج د

یہ شکل بتلاتی ہے۔ کہ دریافت کنندہ کے خیالات بہت منتشر ہیں۔ اور کسی جیو کی چنتا میں صبح شام رہتا ہے۔ اور حصول ملک و مال کی زیادہ خواہش کرتا ہے۔ مگر دیر سے کام سرانجام ہوگا۔ دیکھو تمہارا دل تیرتھ یاترا کو چاہتا ہے +

ب د د

اے صاحب فال۔ تیرے ایام گردش کے ہیں جو کچھ دل میں بچارتا ہے۔ اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ اور تیرے جسم اور دھن کا نقصان ہوتا ہے۔ ابھی دو سال باقی ہیں۔ دیکھو تھوڑے دن گذرے۔ کہ تم کو چوٹ لگی تھی +

ج ا د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ جس امر کے لئے تم دریافت کرتے ہو وہ بہت جلد سرانجام ہوگا اور دشمن مغلوب اور دھن کی بردھی کا وقت آگیا ہے دیکھو چار یوم سے تمہارے دل میں گھبراہٹ ہے +

ج ب د

اے صاحب فال دیکھ تیری مصیبت اور تکلیف کے دن دور ہو گئے ہیں۔ اور اب وہ وقت آگیا ہے۔ کہ تجھ کو بیوپار سے لابھ۔ حاکم سے فائدہ۔ اور کسی دوست سے مدد ملیگی۔ دیکھو۔ تمہارے جسم میں کچھ تکلیف ہے +

ج ج د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو گئی ہوئی چیز کا خیال ہے اور تم الفضال کے کام کی طرف زیادہ توجہ رکھتے ہو۔ مگر دن اچھے نہیں اس لئے جلد کام نہیں ہوگا۔ دیکھو چار یوم ہوئے۔ تم نے بھوگ کیا تھا +

ج د د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو داد و ستد کے معاملات میں نقصان اور بیع و شری کی طرف زیادہ خیال ہے۔ اور حصول ملک کے لئے ایک مزد

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات مع گرہ راسہائے بابت ماہ کارتک سمبت ۱۹۸۱ بکرم

میکھ

لابھ ہوگا۔ لیکن اخراجات بھی بہت ہونگے جس سے زیرباری ہوگی۔ دشمن ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرینگے۔ سفر پیش آویگا۔ طبیعت علیل رہیگی۔ اور دل کو رنج و غم اور خوف لگا رہیگا۔ اولاد کا سکھ ملیگا۔ اس ماہ کی ۸-۱۲-۲۶-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

برکھ

دھن کا لابھ اچھا ہوگا۔ صحت میں ترقی اور دل کو خوشی رہیگی۔ عورت سے محبت۔ دشمن مغلوب۔ مراد پوری ہو۔ بھائیوں سے کچھ جھگڑا۔ اولاد کو تکلیف۔ والدین سے بگاڑ ہوگا۔ اس ماہ کی ۳ و ۱۱ و ۱۲ و ۲۱ تاریخ خراب ہے۔

متھن

کاروبار مدہم۔ آمدن کم۔ خرچ زیادہ رہے۔ بھائیوں سے کچھ دھن لابھ ہو۔ عورت کا سکھ۔ اولاد اولاد کو کشٹ۔ دل کو رنج پہنچے۔ سفر میں مایوسی ہو۔ دانت پر اسے کمر میں تکلیف اور آنکھیں خراب۔ حمل۔ اس ماہ کی ۱۲ و ۱۳ - ۲۰ - ۲۲ - ۹ تاریخ خراب ہے۔

کرک

کاروبار مدہم۔ لیکن اچانک کسی جگہ سے کچھ فائدہ ہو پہنچے۔ جھگڑے میں کامیابی اور والدین سے رنجش ہو۔ عورت سے بگاڑ ہو جاوے۔ طبیعت کچھ علیل رہے۔ دانت پیٹ روگ سینے تکلیف ہو۔ اور دل رنجیدہ رہے۔ اس ماہ کی ۸ و ۹ و ۱۵ و ۱۸ تاریخ خراب ہے۔

سنگھ

کاروبار میں لابھ اچھا ہوگا۔ دھن کی آمد ہوگی۔ دل کو خوشی۔ کسی جگہ سے خوشخبری ملے۔ دشمن مغلوب ہونگے۔ دل مراد پوری۔ لیکن عورت سے کچھ رنجش رہیگی۔ عزت و مرتبہ میں بلندی ہوگی۔ اس ماہ کی ۳ و ۴ و ۷ و ۲۰ تاریخ خراب ہے۔

کنیا

کاروبار۔ دھن کا لابھ ہو۔ لیکن خرچ بھی بہت لگا رہے۔ چوروں سے دھن ہانی کا خطرہ ہے۔ دشمن مغلوب ہونگے۔ آنکھوں میں کچھ تکلیف۔ اولاد سے رنجش رہیگی۔ عزت و مرتبہ میں بلندی ہوگی۔ اس ماہ کی ۲ و ۴ و ۱۷ و ۳۰ تاریخ خراب ہے۔

تلا

کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ صحت بدنی بگڑی رہے۔ نزلہ و زکام سے سر میں درد ہو۔ سفر میں زیرباری اور دھن کا خرچ۔ کسی کام کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ طبیعت بدہضمی زیادہ ہونے سے تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۸-۱۰-۱۴-۱۸ تاریخ خراب ہے۔

برچھک

کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ۔ صحت اچھی رہے۔ خویش و اقارب سے فائدہ پہنچے۔ تجارتی کاروبار میں اچھا لابھ ہوگا۔ عورت کا سکھ ملیگا۔ والدین کو کچھ تکلیف ہوگی۔ ترقی کے کاموں میں تبدیلی۔ بدہضمی ہے۔ اس ماہ کی یکم و ۲ و ۹ و ۲۵ و ۲۸ تاریخ خراب ہے۔

دھن

آمدن کم خرچ زیادہ۔ کاروبار میں لابھ ہو۔ بھائیوں سے بگاڑ ہو جاوے۔ نقل و حرکت زیادہ رہے۔ راجہ سے عزت مرتبہ بلند ہو۔ دشمن مغلوب ہوں۔ بادی سے تکلیف پہنچے اور خرچ ہو۔ اس ماہ کی ۱۱ و ۱۳ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۷ تاریخ خراب ہے۔

مکر

کاروبار میں نقصان۔ دھن ہانی۔ آمدن کم خرچ زیادہ۔ کسی سے جھگڑا پیش آوے۔ دشمن مغلوب ہو۔ عورت سے بگاڑ۔ راج دربار میں مان اور پیٹ میں گرمی ہو۔ اولاد کا سکھ ملے۔ اس ماہ کی ۲-۸-۹-۲۰-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

کمبھ

دھن لابھ ہوگا۔ لیکن دشمن نقصان پہنچاویگے جس سے دھن ہانی ہونے کا خطرہ ہے۔ راج دربار میں مرتبہ بلند ہوگا۔ سفر ہوگا۔ اور طبیعت علیل رہیگی۔ بدہضمی۔ دل رنجیدہ۔ عورت کا سکھ رہیگا۔ اس ماہ کی ۶-۱۷-۱۸-۲۵-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

مین

کاروبار مدہم رہیگا۔ چنداں فائدہ کی امید نہیں ہے۔ بلکہ کچھ زیرباری ہوگی۔ دشمن درپے آزار رہینگے۔ دل کو خوف و فکر۔ اولاد سے رنج۔ عورت سے محبت رہیگی۔ پیٹ کی شکایت رہیگی۔ اس ماہ کی ۷، ۹، ۲۱ و ۲۲ تاریخ خراب ہے۔

تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

بزرگ سے مدد ملیگی۔ دیکھو ایک ہفتہ ہوا تمہارے شکم میں درد تھی۔

د ا د

اس شکل کی کیفیت یہ ہے۔ کہ تمہارا دل کسی جیو کی چنتا میں پڑا ہوا ہے۔ اور تم پردیس میں جانا چاہتے ہو۔ صبح و شام تمہارے خیال میں ترمیم و تنسیخ ہوتی رہتی ہے۔ مگر کامیابی مشکل ہے۔ دیکھو۔ تمہارے پاؤں میں تکلیف ہے۔

د ب د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ اے صاحب فال تیرے دشمن دور ہونگے۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ کسی جیو سے ملاقات ہوگی۔ اور کسی جگہ سے تم کو فائدہ پہنچیگا۔ دیکھو اس وقت تمہاری جیب بالکل خالی ہے۔

د ج د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو عورت اور اولاد کی چنتا رہتی ہے۔ اور دھن کی پراپتی کے واسطے تم سفر جانا چاہتے ہو۔ مگر گردش ایام سے اس میں کامیابی مشکل ہے۔ ایک سال کے اندر رفع تکلیف ہوگی۔ دیکھو۔ ایک جیو پر تم مفتون ہو۔

د د د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ جو کام تم نے دل میں بچارا ہے۔ وہ جلد پورا ہوگا۔ تم کو ایک جگہ سے کچھ دھن کی پراپتی اور بیوپار سے لابھ اور دشمن زیر ہونگے۔ عورت کا سکھ اولاد سے آرام ملیگا۔ یقین نہ ہو تو دیکھو تمہارا دل ایک جگہ قیام نہیں کرتا۔

قیافہ کرۂ فلک

بارش کی علامات

(۱) اگر چندرماں کا رنگ طوطی یا کبوتر کے آنکھوں جیسا لال رنگ ہو۔ یا شہد کے رنگ کی طرح ہو۔ تو سمجھ لو کہ عنقریب بہت

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ اسمائے بابت ماہ مگھر سمت ۱۹۸۱ بکرم

میکھ

کاروبار معمولی لابھ کم ہو۔ دشمن سے تکلیف پہنچے۔ دل کو حیرانی و پریشانی۔ عورت بیمار۔ سفر میں رنج و تکلیف لیکن جس کام کے لئے سفر کیا جاوے وہ پورا ہو۔ دھرم کے کاموں میں پریتی نہ ہو۔ اس ماہ کی ۶ و ۸ و ۲۳ و ۲۴ تاریخ خراب ہے ٭

برکھ

کاروبار میں لابھ۔ دھن بردھی۔ دشمن مغلوب۔ تمنائے دلی بر آوے۔ عورت کا سکھ ملے۔ اولاد کیطرف سے آرام۔ بھائیوں سے دھن کا لابھ۔ پیٹ میں کچھ روگ ہو۔ دھرم کے کاموں میں ہانی ہو۔ اس ماہ کی ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۵ و ۲۷ تاریخ خراب ہے

متھن

کاروبار مساوی۔ آمدن کم۔ خرچ زیادہ رہے۔ صحت عمدہ اور دل کو خوشی۔ عورت سے محبت۔ کام چنتا بڑھے۔ اولاد کو کچھ تکلیف۔ والدین کو کشٹ ہو۔ بلغم و بادی سے طبیعت علیل رہے۔ دشمن کا بھے ہے۔ اس ماہ کی ۱۱ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۴ تاریخ خراب ہے

کرک

کاروبار میں نقصان دھن کی ہانی دل رنجیدہ رہے۔ بھائیوں سے لابھ ہو۔ درد سر سے تکلیف۔ اولاد کو کشٹ عورت سے لڑائی جھگڑا۔ اور کمر میں بادی کا درد ہو۔ سفر جانا پڑے۔ اس ماہ کی ۶-۷-۱۳-۱۴ تاریخ خراب ہے ٭

سنگھ

کاروبار میں لابھ۔ دھن کی پراپتی۔ دشمن پر فتحیابی عورت کا سکھ ملے۔ مراد پوری ہو۔ تیں عورت کو خونی مرض سے کچھ تکلیف ہوجاوے۔ والدین سے رنجش اور جھگڑا ہو جاوے۔ دل کو رنج ہو۔ اس ماہ کی ۸-۱۴-۱۶-۱۷-۲۷ تاریخ خراب ہے

کنیا

دھن کا لابھ کاروبار تجارت میں فائدہ اور طبیعت میں فرحت اور دل کو خوشی ہو۔ دشمن ناش ہو جاویں۔ جھگڑے میں کامیابی اولاد کی طرف سے کچھ رنجش۔ راج دربار میں مان مرتبہ بلند ہو۔ اس ماہ کی ۱ و ۲ و ۱۳ و ۱۷ و ۲۸ و ۲۹ تاریخ خراب ہے ٭

تلا

دھن کا لابھ ہوگا۔ لیکن صحت میں فتور رہیگا۔ عزت و مرتبہ بلند ہوگا۔ دشمن سے آزار۔ دلی مراد پوری ہو۔ بوجہ بیماری دھن خرچ اور کوئی کام بگڑ جاوے سفر میں سفر پہنچے۔ دھن ہانی ہو۔ اس ماہ کی ۴ و ۱۸ و ۲۵ و ۲۹ تاریخ خراب ہے۔

برچھک



کاروبار میں ترقی دھن کا لابھ اچھا ہو لیکن کوئی تہمت لگے۔ جس سے دل رنجیدہ ہو جاوے دشمن سے بھے۔ دھرم ہانی۔ بیماری میں دھن خرچ۔ بھائیوں سے لابھ والدین کو تکلیف پہنچے۔ اس ماہ کی ۵ و ۲۲ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ تاریخ خراب ہے ٭

دھن

دھن کا لابھ ہوگا۔ کاروبار میں ترقی۔ تجارت کے کاموں میں فائدہ ہو۔ صحت اچھی رہے عورت کو بلغمی روگ۔ بھائیوں سے رنجش دھرم ہانی۔ بادی روگ سے کچھ تکلیف پہنچے۔ اس ماہ کی ۷-۲۱-۲۲-۲۴ تاریخ خراب ہے ٭

مکر

کاروبار کی بردھی۔ دھن لابھ۔ عزت و مرتبہ بلند۔ دل کو خوشی ہو۔ دشمن پیدا ہوکر خود بخود مغلوب ہو جاویں۔ عورت سے ناراضگی اولاد کا سکھ۔ ریزش کھانسی۔ درد سر اور دھن کا خرچ ہو۔ اس ماہ کی ۶-۷-۱۵-۲۶ تاریخ خراب ہے

کنبھ

آمدن خرچ مساوی رہے۔ دلی مراد پوری ہو۔ کوئی نیا کام شروع کرنے کا خیال پیدا ہو۔ راج دربار سے مان و مرتبہ بلند۔ اولاد کا سکھ اور عورت بیمار رہیگی۔ دھرم کے کاموں سے دل ہٹ جاوے۔ اس ماہ کی ۱۴ و ۱۵ و ۲۰ و ۲۳ تاریخ خراب ہے

مین

دھن کا لابھ ہوگا لیکن کوئی شخص دھوکہ دیکر نقصان کریگا اور جھگڑا پیش آویگا سفر میں جانا پڑیگا۔ طبیعت علیل رہیگی خاصکر پیٹ میں درد وغیرہ کی شکایت ہوگی۔ عورت سے محبت اولاد سے رنج پہنچیگا۔ اس ماہ کی ۵-۶-۱۹-۲۰-۲۷ تاریخ خراب ہے

قیافہ کرۂ فلک

بارش ہونے والی ہے ٭

(۲) اگر کبھی رات کو بادل گرجے۔ اور دن کو لال رنگ بجلی ڈنڈے کی طرح سیدھی نظر آئے۔ اور پورب کی ہوا چلے۔ تو نتیجہ لو کہ فوراً ہی بارش آجائے گی ٭

(۳) اگر مور یا طوطا یا نیل کنٹھ جانور جیسا رنگ بادلوں کا ہو اور کچھوے یا مچھلی کی طرح بادلوں کی شکل ہو۔ اور شام کا وقت ہو تو جاننا چاہیئے۔ کہ اس قسم کے بادل پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور بارش اچھی ہوتی ہے ٭

(۴) اگر آسمان پر بوقت طلوع آفتاب اور بوقت غروب آفتاب بادلوں کا رنگ تیتر کے پروں جیسا یعنی بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تیتر کے پروں جیسے نظر آئیں۔ تو فوراً کہدو۔ کہ چار پہر کے اندر اندر ہی خوب بارش ہوگی۔ جیسا کہ بھڈلی گرنتھ میں لکھا ہے

دوہرہ

تیتر پنکھی بدلی رن ملائی کھاہ
ادہ دیتے اوہ آجڑے کل نہ مرتھا جاہ

(۵) اگر پچھم کیطرف سے بادل آئیں۔ اور پورے کی ہوا چلے۔ تو بارش بہت ہی جلد ہوتی ہے۔ بقول

پچھوں اٹھے بدلی پرے دی وگے وا
ڈنک کہے سن بھڈلی اندر منجی ڈاہ

علامت اندر دھنکھ

(۱) اگر بارش میں پورب کی طرف اندر دھنکھ نظر آجائے۔ تو بارش ہوتی ہوئی بھی بند ہو جائے۔ اگر بدوں بارش کے پورب میں اندر دھنکھ پڑا ہوا نظر آجائے تو جان لو کہ برکھا جلد ہوگی۔ اگر پچھم کی طرف ہو۔ تو اس سال میں بارش ہوتی ہے ٭

(۲) اگر بغیر بادل کے آسمان پر مغرب یا مشرق کی طرف اندر دھنکھ ہو۔ تو جان لو کہ قحط پڑیگا ٭

(۳) اگر بدوں بادلوں کے آسمان پر اندر دھنکھ ہو تو مہاماری اور سخت بیماری ملک میں پڑتی ہے۔ اگر دھنکھ سفید رنگت میں ہو تو ملک میں فتنہ و فساد اور اگر زرد رنگ کا ہو تو آگ بہت لگے۔ اگر نیلے رنگ کا ہو تو قحط پڑنے کی علامت بتلاتا ہے ٭

بارہ راشیوں کا ماہواری بھلادیش یعنی نیک وبد حالات معہ گوراسہایا بابت ماہ پوہ سمت ۱۹۸۱ بکرم

میکھ

کاروبار میں ہم آمدن سے خرچ زیادہ رہیگا۔ کسی شخص سے جھگڑا ہوگا۔ اور زیرباری ہوگی۔ دشمن دیپے آزار رہینگے۔ اور دل کو رنج والم رہیگا۔ عورت سے سکھ حاکم سے فائدہ سفر بیفائدہ ہو اس ماہ کی ۳-۲۰-۲۸-۳۱ تاریخ خراب ہے ÷

برکھ

دھن کی ہانی۔ کاروبار میں خسارہ لیکن بھائیوں سے لابھ اور وراثت کا دھن ملے۔ دشمن نقصان پہنچادیں روپیہ پیسہ کا خرچ ہو۔ کسی مایوس امید میں کامیابی کی صورت نکل آوے اور مراد پوری ہو اس ماہ کی ۵ و ۶ و ۱۰ و ۱۶ و ۲۶ تاریخ خراب ہے

متھن

بہ نسبت آمدن کے خرچ زیادہ رہیگا۔ کسی جگہ جانا پڑیگا۔ اور کوئی مترملیگا۔ عورت سے محبت زیادہ اور سنتان کی بردھی ہوگی۔ پیٹ کا روگ دور ہوگا۔ دشمنوں کی طرف سے فکر رہیگا۔ اس ماہ کی ۸-۱۴-۱۷-۱۹-۲۳ تاریخ خراب ہے ÷

کرک

آمدن خرچ برابر طبیعت کچھ علیل رہیگی۔ ادویات میں دھن خرچ ہوگا۔ دشمنوں کی طرف سے ہر وقت فکر لگا رہیگا۔ عورت سے ناراضگی اور درد کمر سے تکلیف ہوگی۔ والدین سے بگاڑ ہوگا۔ اس ماہ کی ۳ و ۴ و ۹ و ۱۰ و ۲۲ تاریخ خراب ہے ÷

سنگھ

زر و مال کا فائدہ۔ اور بھائیوں سے لابھ ہوگا۔ لین دین کے کاموں میں فائدہ ہو سر اور آنکھوں میں درد سے تکلیف اور جسم سے خون نکلنے کا اندیشہ ہے۔ اولاد کو کشٹ ہوگا۔ سفر میں جاکر مایوسی ہو۔ اس ماہ کی ۴ و ۱۲ و ۱۴ و ۵ اور ۲۹ تاریخ خراب ہے

کنیا

دھن کا لابھ۔ مراد پوری اور دھرم میں کامیابی ہو عورت خونی مرض سے بیمار رہے۔ اولاد کی طرف سے دل رنجیدہ اور والدین کو کچھ تکلیف ہوگی۔ دنیاوی کاموں میں دھن کا خرچ زیادہ ہوگا۔ اس ماہ کی ۸-۱۵-۲۵-۲۶ تاریخ خراب ہے ÷

تلا

دھن کا لابھ ہوگا۔ کسی جگہ سے حصول مال ہو۔ کاروبار میں آمدنی اچھی ہے لیکن دشمن سے نقصان پہونچے۔ جھگڑے میں کامیابی ہو۔ اور سفر میں دھن کا خرچ اولاد کا فکر رہے طبیعت کچھ علیل ہو۔ اس ماہ کی ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ و ۲۴ تاریخ خراب ہے

برچھک



کاروبار میں لابھ دھن کی بردھی۔ کسی جگہ سے کچھ مال ملے۔ عزت و مرتبہ بلند مراد پوری ہو۔ اولاد کو خونی امراض سے تکلیف ہو۔ دشمن کا خوف لگا ہے۔ چوروں سے دہشت ہو۔ کوئی کام خراب ہو جاوے آنکھوں میں روگ ہو اس کی ۵ و ۱۰ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ تاریخ خراب ہے

دھن

گنجائش رزق رہیگا۔ دربار میں دھن لابھ ہو۔ ہو بیماری سے تکلیف اور بلغم سے سر میں درد۔ والدین کو تکلیف۔ عورت سے آرام اور سفر میں زیرباری ہوگی۔ دھرم کے کاموں میں پریتی نہ ہو۔ کھوٹے کرم کرے۔ اس ماہ کی ۱۰-۱۸-۱۹-۲۲-۲۷ تاریخ خراب ہے

مکر

کاروبار تجارت میں دھن کا لابھ۔ دل کو خوشی ہو۔ دلی مراد پوری ہو۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ بھائیوں سے کچھ کشیدگی ہو۔ عورت کو تکلیف اور اس سے کچھ بگاڑ رہے۔ بیماری میں فروخ ہو۔ اس ماہ کی ۳-۴-۱۰-۱۱-۱۹ تاریخ خراب ہے

کنبھ



دھن کا لابھ۔ عزت و مرتبہ بلند رہے بفضل خدا حرکت زیادہ ہو۔ بوجہ زیادتی خرچ کے کچھ قرضہ لینا پڑے۔ دشمن مغلوب ہوں اور جھگڑے میں فتح ہو۔ دھرم کے کاموں میں پریتی اور ست سنگ کا شوق بڑھے۔ اس ماہ کی ۱۲-۱۳-۱۵-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

مین

کاروبار مدہم رہیگا۔ جسمانی صحت بھی کچھ خراب رہیگی۔ درد سر اور آزار شکم سے تکلیف ہو۔ راج دربار سے مالی عزت و مرتبہ بلند ہوگا۔ اولاد کا سکھ نیچ لوگوں کی صحبت زیادہ رہیگی۔ اور خیالات پراگندہ ہونگے اس ماہ کی ۳ و ۱۶ و ۱۷ اور ۲۹ تاریخ خراب ہے

قیافہ کرہ فلک

نوٹ اندر دھنکھ کی شکل یہ ہوتی ہے

(۴) جس طرف رات کے وقت اندر دھنکھ پڑا ہوا نظر آئے اُس طرف کے راجہ کی موت کی علامت خیال کرنی چاہیئے ÷

(۵) اگر چاند یا سورج کے گرد ہالہ یعنے گول ⊙ دائرہ پڑا ہوا ہو تو اُس کے رنگ کو دیکھنا چاہیئے۔ پس اگر ہالہ برنگ زرد ہو۔ تو علامت بیماری۔ اور اگر سفید ہو یا نیلے رنگ کا ہو۔ تو بارش۔ اگر سیاہی مائل ہو۔ تو علامت فتنہ و فساد اور رنج و تکلیف خلق اللہ کی خیال کرنی چاہیئے۔ مگر خیال رہے کہ اگر ہالہ نصف ہو۔ تو اوسط اگر سالم ہو۔ تو پوری تاثیر ہوگی ÷

بارش کا لچھن

اگر طلوع آفتاب کے وقت بادل گرجے یا دھنکھ نظر آئے۔ اور آسمان سے ایک بوند بھی اُس وقت پانی کی گرے تو جان لینا چاہیئے۔ کہ چار یوم تک کثرت سے بارش ہوگی ÷

(۲) اگر چاروں طرف آسمان زیتونی رنگ کی بدلی نظر آئے۔ تو جان لینا چاہیئے کہ آٹھ پہر کے اندر اندر خوب بارش ہو ÷

(۳) اگر چاروں طرف آسمان پر دھندلے رنگ کے بادل ہوں۔ تو چار پہر کے اندر بارش کثرت سے ہو ÷

اندھیری کی علامات

(۱) اگر طلوع آفتاب کے وقت آسمان برابر دو دن تک گرد آلود رہے۔ اور گرد و غبار زیادہ ہوتا چلا جائے۔ تو سمجھ لینا چاہیئے کہ کوئی بڑا خوف اور تکلیف خلق اللہ میں ہونے والی ہے ÷

(۲) اگر تین یا چار روز تک اندھیری چلے تو تمام رسدار چیزیں گراں ہو جائیں ÷

(۳) اگر سیاہ رنگ کی دھول سے آسمان چاروں طرف سے ڈھک جائے۔ کہ جس میں کوئی چیز نظر نہ آئے۔ تو سمجھ لینا چاہیئے کہ عنقریب کوئی نامور شخص راہی ملک عدم ہوگا۔ (نوٹ) خیال رہے۔ کہ اول جس طرف دھول نظر آوے۔ اول اسی طرف دیس کے دس دن کے اندر اندر کوئی اپدر ہو ÷

جوتش کے متعلق روزمرہ کی کارآمد باتیں

مہورت یاترا یعنی سفر

یہ تو پراچین اصول ہے۔ کہ سفر کے وقت دشاشول بھدرا یوگنی کال چکر وغیرہ کو ضرور دیکھ لینا چاہیئے۔ تاکہ کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ کیونکہ اگر بوقت روانگی دشاشول یا یوگنی کال چکر سنمکھ یا داہنیں ہوں تو سخت نقصان اور موجب رنج ہوتے ہیں۔ اور چندرماں کا بوقت روانگی سنمکھ یا داہنے ہونا دلی مرادوں کو برلاتا ہے۔ اور سفر میں فائدہ ہوتا ہے۔ بشرطیکہ چندرماں کی پوشاک کا رنگ ناقص نہ ہو۔ لہذا سب کی جدولیں ذیل میں درج ہیں *

مقامات یوگنی

پورب: پڑوا ۔ نومی
اگنی کون: تیج ۔ ایکادشی
دکن: پنجمی ۔ ترس
نیرت کون: چوتھ ۔ دوادشی
پچھم: چھٹ ۔ چتردشی
بائب کون: پورنماشی ۔ سپتمی
اتر: دوج ۔ دسمی
ایشان کون: اشٹمی ۔ اماوس

کال چکر

اگر روانگی کے وقت کال داہنے یا بالمقابل ہو تو سفر نہ کریں مگر جنگ کے لئے روانہ ہو

یوم	سنیچروار	شکروار	وبروار	بدھوار	منگلوار	سوموار	اتوار	
جہت کال	پورب	اگن کون	دکن	نیرت کون	پچھم	بائب کون	اتر	ایشان کون

نقشہ دشاشول

یوم	سنیچروار۔ سوموار	منگلوار۔ بدھوار	شکروار۔ اتوار	وبروار
نچھتر	جیشٹا۔ ہست	اترا پھالگنی۔ شرون	روہنی	پوربابھادرپد۔ چترا
جہات	پورب	اتر	پچھم	دکن

نقشہ مقامات چندرماں

چندرماں کی راس	میکھ۔ سنگھ۔ دھن	برکھ۔ کنیا۔ مکر	متھن۔ تلا۔ کنبھ	کرک۔ برچھک۔ مین
جہات	پورب	دکھن	پچھم	اتر
رنگ پوشاک	سرخ	سفید	زرد	سیاہ
خواص	سامنے ہو تو حصول مراد	داہنے ہو تو زر کا فائدہ	پس پشت موت	بائیں نقصان جان

نقشہ مقامات بھدرا

چندرماں	میکھ۔ برکھ۔ کرک۔ کنبھ	کنیا۔ تلا۔ متھن۔ دھن	سنگھ۔ کنبھ۔ مین۔ برچھک
مقام	سورگ لوک	پاتال لوک	مرت لوک
نتیجہ	کامیابی	مفاد زر	حیرانی و پریشانی

سفر کے لئے سعد نچھتر

چونکہ ہر ایک دشا کے سفر کے لئے مندرجہ ذیل نچھتر سعد ہیں اگر کوئی مہورت نہ بنے تو ان نچھتروں میں سفر کرو

سمت	نچھتر جو سفر کے لئے سعد ہیں	کیفیت
مشرق	کرتکا۔ روہنی۔ مرگشر۔ آردرا۔ پنروس۔ پکھ۔ اشلیکھا	اگن کون کے لئے بھی سعد ہیں
مغرب	انورادھا۔ جیشٹا۔ مول۔ پوربا کھاڈ۔ اترا کھاڈ۔ ابھجت۔ شرون	بائب کون کے لئے بھی سعد ہیں
شمال	دھنشٹا۔ ست بکھا۔ پوربا بھادرپد۔ اترابھادرپد۔ ریوتی۔ اشنی۔ بھرنی	ایشان کون کے لئے بھی سعد ہیں
جنوب	مگھا۔ پوربا پھالگنی۔ ہست۔ چترا۔ سواتی۔ بشاکھا۔	نیرت کون کے لئے بھی سعد ہیں

چندرماں کی سواری دیکھنے کا طریقہ

معتقدان علم جوتش وقت سفر چندرماں کی سواری کا لحاظ بھی رکھتے ہیں۔ جس کا کلیہ اصول ہم ذیل میں درج کرتے ہیں *

جس روز سفر کرنا ہو۔ اس روز دیکھو۔ کہ کون نچھتر ہے۔ پس اپنے جنم سے یوم نچھتر تک شمار کرو۔ اور مجموعہ شمار کو ۹ پر تقسیم کرکے باقی کو نقشہ ذیل میں دیکھو پس اس کے نیچے جو سواری لکھی ہوئی ہے۔ اس روز وہی سواری چندرماں کی ہوگی۔ اور اس کا نیک و بد ثمرہ بھی اس کے زیر میں لکھا ہے۔ دیکھ لو *

تعداد عدد	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
نام سواری	گدھا	گھوڑا	ہاتھی	بھینڈھا	گیدڑ	شیر	کوا	مور	ہنس
خاصیت	[illegible]	دولت کا فائدہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

مثلاً ایک شخص رام چند کی تلا راس اور نچھتر سواتی ہے۔ اور یکم اپریل کو ہست نچھتر میں وہ سفر کو جانا چاہتا ہے۔ اس روز کی سواری راس سے معلوم کرنی ہے۔ پس سواتی نچھتر سے ہست ۲۶ نچھتر ہے۔ اس لئے ۲۶ کو ۹ پر تقسیم کیا۔ تو باقی ۸ رہے۔ نقشہ مندرجہ بالا میں دیکھا تو ۸ کے زیر میں مور کی سواری درج ہے۔ جو شبھ ہے۔ پس اس روز سفر کرنے پر زر و مال کی ترقی اور طبیعت خوش رہے *

سفر کے لئے سرپانگ یوگ

جس وقت جانے کا ارادہ ہو اس وقت کی تتھ دار یوم و نچھتر اپنے نام کے حروف کو شمار کرکے جمع کرے یعنی تتھ کو ایکم سے دن کو اتوار سے اور نچھتر کو اشنی سے شمار کرے۔ اور اپنے نام اور یوم کے حروف گن کر سب کو جمع کرکے ۸ پر تقسیم کرے اور باقی کچھ رہے۔ تو جانے کو یوگ ہے اور پھر کل جمع کو ۳ سے ضرب کرکے ۸ پر تقسیم کرے۔ پھر بار سوم اسی مجموعہ کو ۴ سے ضرب کرے ۸ پر تقسیم کرے۔ اگر تینوں دفعہ کی تقسیم سے کچھ باقی بچتا رہے۔ تو مبارک اگر کچھ نہ بچے۔ تو حیرانی و پریشانی ارادہ کو ترک کرے *

مہورت چوگھڑیا

دن کی گھڑیوں کا چوگھڑیا

اگر کوئی مہورت سفر کے لئے نہ بنتا ہو۔ تو اس چوگھڑیا مہورت پر عمل کریں۔

یوم	اول	دوم	سوم	چہارم	پنجم	ششم	ہفتم	ہشتم
اتوار	ادیگ	چر	لابھ	امرت	کال	شبھ	روگ	ادیگ
سوموار	امرت	کال	شبھ	روگ	ادیگ	چر	لابھ	امرت
منگلوار	روگ	ادیگ	چر	لابھ	امرت	کال	شبھ	روگ
بدھوار	لابھ	امرت	کال	شبھ	روگ	ادیگ	چر	لابھ
وبرہسپتوار	لابھ	روگ	ادیگ	چر	لابھ	امرت	کال	شبھ
شکروار	چر	لابھ	امرت	کال	شبھ	روگ	ادیگ	چر
سنیچروار	کال	شبھ	روگ	ادیگ	چر	لابھ	امرت	کال

رات کی گھڑیوں کا چوگھڑیا

شب	اول	دوم	سوم	چہارم	پنجم	ششم	ہفتم	ہشتم
اتوار	شبھ	امرت	چر	روگ	کال	لابھ	ادیگ	شبھ
سوموار	چر	روگ	کال	لابھ	ادیگ	شبھ	امرت	چر
منگلوار	کال	لابھ	ادیگ	شبھ	امرت	چر	روگ	کال
بدھوار	ادیگ	شبھ	امرت	چر	روگ	کال	لابھ	ادیگ
وبروار	امرت	چر	روگ	کال	لابھ	ادیگ	شبھ	امرت
شکروار	روگ	کال	لابھ	ادیگ	شبھ	امرت	چر	روگ
سنیچروار	لابھ	ادیگ	شبھ	امرت	چر	روگ	کال	لابھ

شکر و برہسپت کے غروب ہونے پر ذیل کے کام کرنے منع ہیں

باولی وچاہ و تالاب باغ و مکان بنوانا۔ اور کار اتساہ اور عورتوں کا آنا جانا اور دان کلان اور جگ گئودان کرنا اور شادی۔ مونڈن۔ تیرتھ یاترا۔ جپ بید خوانی۔ بچوں کا نام رکھنا۔ سنیاس اکرم۔ ملاقات ملوک۔ راج تلک۔ مسند نشینی۔ شادی وغیرہ کار اتساہ کرنے منع ہیں۔ اور ماہ لوند میں بھی یہ کام نہیں کرنے چاہئیں ٭

شکر کے بالمقابل یعنی سنمکھ ہونے کے دوش

شکر تین طرح سے سنمکھ سمجھا جاتا ہے۔ اول جس طرف کا شکر طلوع ہوتا ہے۔ دوم جس راشی میں ہو۔ وہ راس جس جہات سے منسوب ہے۔ وہ طرف بھی سنمکھ ہے۔ میکھ و سنگھ دھن پورب اور برکھ کنیا و مکر دکھن میتھن۔ تلا و کمبھ پچھم اور کرک و برچھک و مین اُتر سے منسوب ہیں۔ سوم اگر سورج اتراین ہو۔ تو کشکر اتراین اور دکشناین ہو تو دکشناین ہو جاتا ہے۔ پس منجملہ تین طرح کے زیادہ تر جس طرف شکر اودے ہو۔ خاصکر اس طرف جانا درست نہیں۔ بلکہ شکر داہنے ہاتھ میں نہ ہو۔ اور شکر غروب اور بکری ہونے کے وقت بھی سفر نہ کرنا چاہئے۔ مگر شکر ریوتی نچھتر سے کرتکا کے پہلے چرن تک اندھا رہتا ہے۔ اس وقت میں سنمکھ جانے کا کوئی دوش نہیں۔ خصوصاً عورتوں کے لئے شکر کا دوش ضروری ہے۔ پس عورتوں کو سنمکھ داہنے لیکر یاترا ہرگز نہ کرنی چاہئے ٭

پنچک نچھتروں کی خاصیت

پانچ نچھتر یعنی نصف آخر دھنشٹا۔ ست بکھا۔ پوربا بھادرپد۔ اترا بھادرپد ریوتی پنچک کہلاتے ہیں۔ ان میں مردہ جلانا۔ مکان پر سقف ڈالنا وغیرہ وغیرہ ممنوع ہیں۔ مگر ہندی نجموں کا قول ہے۔ اگر بڑوا میں مولا پنچمی میں بھرنی۔ اشٹمی میں کرتکا۔ نومی میں روہنی۔ دسمی میں اشلیکھا نچھتر ہو لیس جو لڑکا یا لڑکی ان میں پیدا ہو جلد مر جاوے۔ اگر گاؤں آباد ہو۔ تو جلد ویران ہو جاوے۔ اگر بیاہ ہو تو دلہن بیوہ ہو جائے۔ بیمار شفا نہ پائے سفر سے مراد حاصل نہ ہو۔ ان نچھتروں کو جوالا مکھی کہتے ہیں ٭

تتھوں کے اقسام

چونکہ تتھوں کے اقسام پانچ ہیں۔ جن کے نام ذیل میں درج ہیں :۔

اقسام	نندا	بھدرا	جیا	رکتا	پورنا
تتھ	ایکم۔ چھٹھ ایکادشی	دوج۔ ستمی دوادشی	تیج۔ اشٹمی تر یودشی	چوتھ۔ نومی چودش	پنچمی۔ دسمی پورنماشی۔ اماوس

شکل پکش کی نندا اور رکتا تتھیں اشبھ یعنے ناقص ہیں۔ بھدرا اور پورنا مدہم ہیں اور جیا شبھ ہیں۔ کرشن پکش کی نندا اور رکتا شبھ۔ بھدرا اور پورنا مدہم اور جیا اشبھ یعنے ناقص ہیں۔ ہر کام کے آرنبھ یعنے شروع کرنے سے ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ٭

ناقص یوگوں کا چکر

جس روز دن و نچھتر و تتھ اس نقشہ کے مطابق ہو اس روز کوئی شبھ کام نہ کرو۔

یوم	اتوار	سوموار	منگلوار	بدھوار	برہسپت وار	شکروار	سنیچروار
نچھتر	بشاکھا بھرنی مگھا دھنشٹا انرادہا	پوربا کھاڈ اترا کھاڈ چترا سواتی بشاکھا	انرادہا آردرا دھنشٹا ست بکھا پوربا بھادرپد	دھنشٹا بھرنی مولا جیوتی اشنی	ست بکھا کرتکا روہنی مرگشر آردرا اترا پھالگنی	روہنی جیشٹا پکھ اشلیکھا مگھا	پوربا کھاڈ اترا کھاڈ چترا ہست ریوتی اترا پھالگنی
تتھ	ستمی دوادشی چتردشی	چوتھ ایکادشی پنرمس	دوج دسمی	ایکم تیج پنچمی	چوتھ چھٹھ ستمی	دوج ستمی	چھٹھ ستمی

ایام بیماری معلوم کرنے کے لئے

ہر ایک نچھتر کے چار چرن (حصہ) ہیں۔ پس جب کوئی آدمی بیمار ہو تو اس روز جنتری میں دیکھیں۔ کہ کون نچھتر ہے۔ پس اس نچھتر کی کل گھڑیاں نکلکر اس کے چار حصہ کر دو۔ اور پھر دیکھو کہ کتنے یوم کا کشٹ ہے۔ صفر سے نشان موت ہے اور پھر جو اس کا اپاؤ لکھا ہے کرا دو۔ پرمیشر شفا دے گا ٭

نام نچھتر	تعداد کشٹ: چرن اول	چرن دوم	چرن سوم	چرن چہارم	اپاؤ دان
اشنی	۹	۰	۲	۲۱	بھوجن
بھرنی	۰	۴۰	۳	۲۱	گنگو
کرتکا	۶	۳۱	۷	۲۱	سونا
روہنی	۲	۹	۱۱	۳۰	گھی
مرگشر	۳	۵	۲۵	۷	تیل
آردرا	۰	۸	۰	۲	گنگو
پنربس	۷	۲۱	۲	۲۷	تیل
پکھ	۷	۲۱	۲	۱۷	چاول
اشلیکھا	۰	۰	۰	۴۰	گنگو
مگھا	۴۰	۱۲	۲۷	۳۰	بکری
پوربا پھالگنی	۱۰	۷	۱۷	۱۴	بھوجن
اترا پھالگنی	۱۵	۷	۱۷	۱۴	تل
ہست	۱۵	۱۷	۱۷	۱۴	بکری
چترا	۱۵	۱۸	۷	۸۲	دودھ
سواتی	۲	۰	۱۷	۱۰	گنگو
بشاکھا	۲۰	۱۵	۱۲	۴	سونا
انرادہا	۱۵	۴۵	۱۳	۴۰	گھی
جیشٹا	۱۵	۴۸	۱۲	۴	تل
مولا	۱۰	۶۰	۲۵	۱۴	چاندی
پوربا کھاڈ	۲۰	۲۷	۲۵	۲۰	گنگو
اترا کھاڈ	۲۸	۶۸	۲۵	۱۵	بھوجن
شرون	۳۰	۶۸	۴۵	۱۴	بھوجن
دھنشٹا	۰	۰	۰	۴۰	بھینس
ست بکھا	۱۵	۱۰	۲۵	۴۰	ناریل
پوربا بھادرپد	۰	۲۵	۳۰	۰	گھوڑا
اترا بھادرپد	۱۵	۷	۱۵	۲۳	غلہ
ریوتی	۳۱	۳۴	۱۵	۰	بیل

ناقص گرہ کا اپاؤ

اکثر معتقدان علم جوتش ناقص گرہ کی رفع نحوست کے لئے اپاؤ وغیرہ کے لئے استفسار فرماتے ہیں۔ اس لئے ہر ایک گرہ کا دان وجپ و منتر نقشہ ذیل میں مفصل طور پر تحریر کر دیا گیا ہے۔ پس جو گرہ ناقص ہو۔ اس کا منتر جپ دان جیسا کہ تحریر ہے۔ اول تو خود کریں۔ ورنہ کسی حاجتمند برہمن سے کرائیں ٭

نام گرہ	تفصیل اشیاء و دان	منتر	تعداد جپ
سورج	ہیرا۔ گئو۔ گندم۔ سونا تانبا۔ چندن۔ لال استر۔	(اوم) ہرانگ۔ ہرینگ۔ ہرو سواہا۔ سورجہ۔ نمہ	۷ ہزار
چندرماں	موتی۔ چاندی۔ چاول۔ کپور۔ سفید بیل۔ چندن	(اوم) اشرانگ۔ شرینگ۔ شرو سواہا۔ چندرماں۔ نمہ	۱۱ ہزار
منگل	مونگا۔ گڑ۔ گندم۔ سونا تانبا۔ پھول۔ چندن سرخ	(اوم) کرانگ۔ کرینگ۔ کرو۔ سواہا۔ منگل۔ نمہ	۱۰ ہزار
بدھ	کانسی۔ مونگی۔ گھی۔ مصری بنا کپور۔ پارچہ سبز۔	(اوم) برانگ۔ برینگ۔ برو سواہا۔ بدھ۔ نمہ	۹ ہزار
برہسپت	ہلدی۔ سونا۔ نمرہ۔ پارچہ پکھراج۔ لڈو۔ گھوڑا۔	(اوم) گرانگ۔ گرینگ۔ گرو۔ سواہا۔ برہسپت۔ نمہ۔	۱۹ ہزار
شکر	ہیرا۔ یاقوت۔ چاندی۔ چاول دودھ۔ کھانڈ۔	(اوم) درانگ۔ درینگ۔ درو سواہا۔ شکر۔ نمہ	۱۵ ہزار
سنیچر	تیل۔ تل۔ ماش۔ نیلم۔ لوہا کالی گئو۔ پارچہ سیاہ	(اوم) پرانگ۔ پرینگ۔ پرو سواہا۔ سنیچر۔ نمہ	۲۳ ہزار
راہ	بینہ پارچہ۔ پھول۔ نیل۔ نیل۔ گھوڑا۔ ست ناجہ	(اوم) چرانگ۔ چرینگ۔ چرو سواہا۔ راہ۔ نمہ	۱۷ ہزار
کیت	کستوری۔ کمبل۔ تیل۔ سونا۔ ست ناجہ۔	(اوم) شرانگ۔ شرینگ۔ شرو سواہا۔ کیت۔ نمہ	۱۰ ہزار

گنڈانت نچھتروں کا بچار

اشنی - مولا و مگھا ہر سہ نچھتر کے اول کی ۳ گھڑی اور جیشٹھا و اشلیکھا و ریوتی نچھتر کے آخر کی ۳ گھڑی گنڈانت کہلاتی ہیں - جو شبھ کاموں میں ناقص ہیں - اگر اس میں کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو - تو ناقص ہے ✤

لڑکے کے پیدا ہونے کی خاصیت

اگر لڑکا مولا نچھتر کے اول چرن میں پیدا ہو - تو والد کا دوسرے چرن میں پیدا ہو - تو والدہ کا - تیسرے چرن میں پیدا ہو تو دولت کا ناش کرتا ہے - اگر اشلیکھا کے اول چرن میں پیدا ہو - تو مبارک - دوسرے میں پیدا ہو تو دولت کا نقصان کرے - تیسرے میں والدہ چوتھے میں والد کا نقصان کرے - لڑکے کے دانت نکلنے کا ثمرہ - اگر پہلے ماہ میں بچے کے دانت نکلیں تو مرجاوے - ۲ ماہ میں چھوٹے بھائی کو ضرر دے - ۳ ماہ میں ہمشیرہ کو ناقص - ۴ ماہ میں والدہ کی محبت غالب ہو - ۵ ماہ میں برادران کلاں کو ناقص - ۶ ماہ میں عمر بھر خوش گذران - ۷ و ۸ ماہ میں والدین کو آرام ملے - ۹ ماہ میں بہادر - ۱۰ ماہ میں دولتمند ہو - (نوٹ) یہ ثمرہ بچے کے دانت نکلنے کا ہے - اگر ان دس مہینوں میں اوپر سے دانت نکلیں - تو والدین اور بھائیوں کو ناقص ہوتا ہے ✤

لڑکی کی پیدائش کی خاصیت

اگر لڑکی مولا نچھتر میں پیدا ہو - تو خوش دامن - اگر اشلیکھا میں ہو - تو خسر - اگر جیشٹھا میں ہو - تو جیٹھ - اگر بشاکھا میں ہو تو دیور اس کا مرجاوے مگر بشاکھا کے اول کے ۳ چرنوں اور اشلیکھا کے اول چرن اور مولا کے آخر چرن میں پیدا ہو - تو کوئی نہ مرے ✤

ہر ایک یوم میں ناقص وقت دیکھنے کا طریقہ

کھٹ شاستروں میں سے جوتش شاستر کو اعلےٰ مرتبہ اس لئے دیا گیا ہے - کہ اس کے ذریعہ سعد و نحس وقت کی پہچان ہوتی ہے سعد وقت میں شبھ کام کرنے سے اچھا اور نحس وقت میں کام کرنے سے نتیجہ خراب نکلتا ہے - ہر ایک یوم میں سعد و نحس وقت روزمرہ ہوتا ہے - جن کے نام یہ ہیں - کلک - کال بیلا - یم گھنٹ کنٹک - ان کی گھڑیاں جو روزمرہ آتی ہیں - ان میں شبھ کام اور فائدہ کے لئے جو کام کیا جائیگا - اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا - اور اس کام میں نقصان اور حیرانی و پریشانی ہوگی - ہر ایک یوم میں ناقص مہورت کی تفصیل نقشہ سے دیکھو - اور ہر ایک مہورت دنمان کے سولھویں حصے کا ہوتا ہے ✤

نام یوم	اتوار	سوموار	منگلوار	بدھوار	ویروار	شکروار	سنیچروار
کلک	۱۴	۱۲	۱۰	۸	۱	۴	۱۴
کال بیلا	۸	۶	۴	۲	۱۴	۱۲	۱۰
یم گھنٹ	۱۰	۸	۳	۴	۲	۱۴	۱۲
کنٹک	۱۱	۴	۸	۱۴	۱۰	۱۰	۸

طریقہ اس کے دیکھنے کا یہ ہے کہ دنمان کی جس قدر گھڑیاں ہوں ان کے ۱۶ حصے کردو - سولھویں حصے کا نام ایک یوگ یعنے مہورت ہے - جس کی گھڑیاں نحس ہیں - مثلاً ۲۶ مارچ ۱۹۲۴ء کو سنیچروار کے دیکھا ہے - اس روز دنمان ۳۰ گھڑی ۲۸ پل کا ہے اس کے ۱۶ حصے کئے تو سولھواں حصہ ایک گھڑی ۵۴ پل کا ہوا - جو ایک مہورت کی اوقات ہے - پس ایک گھڑی ۵۴ پل سنیچروار کو سورج چڑھنے کے بعد دوسرا مہورت کلک نام ہے - جو ۳ گھڑی ۴۸ پل تک رہیگا - یہ ناقص ہے - اس لئے سنیچروار کو ایک گھڑی ۵۴ پل دن نکلنے کے بعد ۳ گھڑی ۴۸ پل تک ہرگز کوئی شبھ کام نہیں کرنا چاہئے - اس طرح ہر کام کا ناقص وقت نکال لیں ✤

ہر کام میں کامیابی اور ناکامیابی دیکھنے کا طریقہ

روایت ہے کہ بادشاہ سکندر ہر مہم میں اس طرح طریقہ پر عمل کر کے فتح و نصرت پاتا تھا - پس لڑائی جھگڑے یا مقدمات میں دیکھنا چاہئے - کہ کون غالب اور کون مغلوب ہوگا - بلکہ ہر کام میں اس کا دیکھنا ضروری ہے - مثلاً بیمار کے لئے حکیم غالب اور مریض مغلوب - دوائی غالب اور مرض مغلوب - عورت و خاوند میں خاوند غالب اور عورت مغلوب ہونی چاہیئے - پس جو شخص اس قاعدہ پر عمل کر کے اپنے آپ کو غالب اور طرف ثانی کو مغلوب دیکھ کر کام کریگا - وہ ہر مراد میں کامیابی اٹھائیگا ✤

طریقہ یہ ہے - کہ غالب و مغلوب کے نام کے حروف مفرد لکھ کر موجب نقشہ ذیل اعداد نکالے :-

ا	ب	ج	د	ہ	و	ز	ح	ط	ی	ک	ل	م	ن
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰
س	ع	ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ
۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰

ہر ایک نام کے اعداد کو علیحدہ علیحدہ جمع کر کے ہر ایک کو ۹ پر تقسیم کرلے - اگر دونوں ناموں کے اعداد باقی طاق رہیں - تو جس کے اعداد کم ہونگے وہ غالب رہیگا - اور اگر ایک آدمی کے طاق اور دوسرے کے جفت رہیں گے - تو جس کے اعداد زیادہ ہونگے - وہ غالب رہیگا - اور دونوں کے مساوی رہینگے - تو جو عمر میں چھوٹا رہیگا - وہ غالب ہوگا ✤

بیمار کی زندگی اور موت دیکھنے کا طریقہ

اگر کسی بیمار کی زندگی اور موت کا حال دیکھنا ہو - تو چاہیئے - کہ اس کے نام کے اعداد معہ اس کی والدہ کے نام کے اعداد بقاعدہ ابجد نکال کر ایک جگہ لکھ لو - اور پھر جس روز بیمار ہوا ہو - اس روز سے جس قدر ایام روز دریافت تک گذرے ہوں - ان میں جمع کرلو - اور کل جمع کو تین پر تقسیم کردو - جو باقی بچے اس کو لوح حیات و ممات میں دیکھو - اگر لوح حیات میں ہوں - تو زندہ - اگر لوح ممات میں ہوں - تو مرجاوے - حکیموں کے لئے یہ نہایت مفید ہے ✤

لوح حیات			لوح ممات		
۲	۲	۸	۲	۴	۵
۱۰	۱۳	۱۴	۶	۷	۹
۱۵	۱۶	۱۷	۱۱	۱۲	۱۸
۱۹	۲۲	۲۰	۲۱	۲۳	۲۴
۲۵	۲۶	۲۹	۲۷	۲۸	۳۰

گمشدہ چیزوں کا حال دیکھنا

اگر مگھا نچھتر سے انزا پھالگنی تک کوئی چیز گم ہو جاوے - تو جلد مل جاوے اگر ہست سے دھنشٹا تک گم ہو - تو لینے والا نہ دیوے - اگر ست بھکھا سے بھرنی تک جلی جاوے - تو گھر میں پڑی ہے تلاش کرو - اگر کرتکا سے اشلیکھا نچھتر تک گم ہو - تو ہرگز نہ ملے ✤

چوپایہ سورج نچھتر سے ۹ نچھتر تک گم ہو - تو جنگل میں چھ نچھتر تک ہو - تو گھر کے باہر - اگر ۲ نچھتر تک گم ہو - تو واپس نہ آوے - مگر تین نچھتر تک ہو گیا ہو - تو مردہ جاننا چاہئے ✤

علم الرمل

سلسلہ کے لئے دیکھو مشہور عالم جنتری ۱۹۲۳ء

سال گذشتہ میں خانہ نہم و دہم کے متعلق چند ایک سوالات کے جوابات دیکھنے کا طریقہ درج کیا گیا تھا۔ لہذا اس سال سلسلہ وار خانہ یازدہم و دوازدہم کے احکام درج کئے جاتے ہیں۔ اگر زیادہ مفصل قواعد علم رمل ملاحظہ کرنے ہوں۔ تو مجربِ تقدیر حصہ اول و دوم قیمتی ایک روپیہ منگوالیں ٭

سوالات متعلق خانہ یازدہم

اس خانہ سے حالات دوست۔ وزیر۔ خزانہ۔ تعشوق جاگیر ایفاء وعدہ وغیرہ وغیرہ کے دیکھے جاتے ہیں۔ پس اگر کوئی شخص سوال کرے کہ فلاں شخص نے جو وعدہ کیا ہے وہ وفا کریگا۔ زائچہ رمل بناؤ۔ اور شکل پنجم کو یازدہم سے ضرب کرو۔ اگر ⁘ یا ⁘ یا ⁘ یا ⁘ حاصل ہو تو گمان ہے کہ وعدہ وفا ہوگا۔ اور اگر ⁘ یا ⁘ یا ⁘ یا ⁘ ہو تو کبھی وعدہ خلافی نہ ہوگی۔ اگر ⁘ یا ⁘ یا ⁘ یا ⁘ یا ⁘ ہو تو عہد شکنی کرے۔ اس کا اعتبار نہ کرنا۔ اگر طریق ⁘ حاصل ہو تو بڑی مدت کے بعد لیت ولعل سے وعدہ وفا کرے۔ اگر سوال ہو کہ میں فلاں شخص کو اپنا کار مختار یا وزیر مقرر کرتا ہوں نیک ہوگا۔ زائچہ کو دیکھو کہ اگر خانہ ۱ میں ⁘ یا ⁘ یا ⁘ یا ⁘ یا ⁘ پڑی ہو۔ اور خانہ ۱ و ہم و ۱۰ و ۱۲ میں تکرار کرے۔ تو وہ شخص نہایت عقلمند صاحب تدبیر اور دانا ہے۔ اگر نحس اشکال پڑیں۔ تو تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا اگر سوال ہو کہ میرے دوست کے خیال کیسے ہیں۔ تو رب شکل طالع کو ۱۱ سے ضرب کرو۔ اگر حاصل ضرب شکل سعد اور خانہ سعد میں تکرار کرے۔ تو تمہاری آپس میں بہت دوستی ہے۔ بہ نسبت اس کے تمہاری اس سے زیادہ محبت ہے۔ شکل ۷ کو ۵ سے ضرب کرو۔ اگر حاصل شکل سعد ہو۔ تو دوسری طرف سے محبت زیادہ ہے ٭

سوالات متعلق خانہ دوازدہم

اس خانہ سے حالات دشمن حاکم۔ بیماری۔ خرید چارپایہ وغیرہ وغیرہ کا دیکھا جاتا ہے سوال میں دشمن کے مقابلہ میں کامیاب ہونگا۔ جواب۔ زائچہ رمل کو دیکھو۔ اگر طالع میں شکل سعد ہو اور خانہ ۷ اور ۱۲ میں شکل نحس ہو۔ تو تم فتحیاب ہوگے۔ اگر شکل طالع نحس ہو۔ اور شکل ۷ و ۱۲ سعد ہوں۔ تو دشمن تمہارا تم پر فتح پائیگا ٭

سوال۔ جو گھوڑا ہم خریدتے ہیں۔ اچھا ہے۔ جواب زائچہ کے خانہ دوازدہم کو دیکھو اگر اس میں شکل ⁘ پڑی ہو تو معیوب ہے اگر ⁘ ہو اور خانہ نحس میں تکرار کرے۔ تو گھوڑا نہایت سست رفتار ہے۔ اگر ⁘ یا ⁘ یا ⁘ یا ⁘ پڑی ہو۔ اور خانہ نیک میں تکرار کرے۔ اور گھوڑا بہت عمدہ تیز رفتار ہے۔ اگر خانہ اول میں ⁘ یا ⁘ ہو تو مرض درد شکم سے بیمار ہو۔ اگر ⁘ ہو تو خارش کے عارضہ والا ہو ٭

سوال میں فلاں شخص سے ملنے جاتا ہوں ملیگا؟ جواب۔ زائچہ کو دیکھو۔ اگر امہات میں شکل ⁘ یا ⁘ موجود ہوں۔ تو ملیگا۔ اگر شکل ۴ و ۷ داخل ہو تو بھی ملیگا ٭

سوال۔ حاکم اس مقدمہ میں کیا رویہ اختیار کریگا۔ جواب۔ زائچہ کے خانہ دہم کو دیکھو۔ کہ اس میں کونسی شکل پڑی ہے۔ اگر شکل دہم امہات میں تکرار کرے۔ تو سائل کی طرفداری کریگا۔ اگر خانہ ہائے بنات میں تکرار کرے۔ تو طرف ثانی کے موافق رہیگا۔ اگر متولدات میں تکرار کرے۔ تو دونوں کی بہتری کریگا۔ اگر زوائدات میں تکرار کرے تو اس کا رویہ غیر جانبدارانہ ہوگا ٭

علم جوتش

سلسلہ کے لئے دیکھو مشہور عالم جنتری ۱۹۲۳ء صفحہ ۴۹

جنم کنڈلی کے چھٹے گھر کا بچار

اس کو پربھون کہتے ہیں۔ اس سے حال دشمن۔ لڑائی۔ دنگہ۔ بیماری۔ خوف خطر۔ سحر۔ جادو۔ چوپایہ اور نحس کاموں کی ابتداء و انتہاء دیکھنی چاہئے ٭

چھٹے گھر میں گرہوں کا ثمرہ

اگر سورج چھٹے گھر میں پڑا ہو۔ تو دشمن مغلوب سفر سے تکلیف۔ راج دربار سے نقصان ہو۔ اگر چندرماں پڑا ہو تو دشمن پیدا ہو جاویں۔ امراض بلغمی سے تکلیف پہنچے اگر منگل پڑا ہو تو دشمن مغلوب۔ شکم میں روگ۔ دھرم میں پرپتی رکھے۔ اگر بدھ پڑا ہو تو کم عقل دشمن بہت ہوں۔ لیکن دیا نتدار ہو۔ اگر برہسپت پڑا ہو۔ تو دشمن مغلوب۔ ماموں کا سکھ پاوے۔ والدہ بیمار رہے۔ اگر شکر پڑا ہو تو عورت سے بگاڑ۔ کاروبار میں نقصان اٹھاوے۔ اگر سنیچر پڑا ہو۔ تو دشمن مغلوب ہوں۔ خاندان کی پرورش کرے۔ اگر راہو پڑا ہو تو کم عقل۔ لیکن دشمن نابود ہوں۔ اگر کیتو پڑا ہو۔ تو دشمن مغلوب۔ بواسیر کا روگ۔ چوپایہ کا آرام پاوے ٭

چھٹے گھر کے مالک کا دیگر گھروں میں ثمرہ

اگر سورج چھٹے گھر میں پڑا ہو۔ تو دشمن زیر ہوں۔ لیکن خویش و اقربا سے بگاڑ رہے۔ اگر دوسرے میں پڑا ہو۔ تو بڑا چالاک لیکن بیمار رہے۔ اگر تیسرے میں پڑا ہو۔ تو صحبت بد میں جلدی وراثت کو تباہ کردے۔ اگر چوتھے میں پڑا ہو تو والد اور فرزندوں سے بدسلوکی رکھے۔ اگر چھٹے گھر میں پڑا ہو۔ تو بے مروت ہو۔ دشمنوں کو زیر کرے۔ اگر ساتویں گھر میں کرور گرہ کے ساتھ پڑا ہو تو جھگڑالو شہوت پرست۔ شبھ گرہ ساتھ ہو۔ تو زرو مال کا لابھ پاوے ٭ اگر آٹھویں گھر میں پڑا ہو تو زہر خورانی سے موت ہو یا سانپ کاٹے۔ اگر نانویں گھر میں پڑا ہو تو جھگڑالو۔ ٹانگ سے لنگڑا ہو بے اولاد رہے۔ اگر دسویں گھر میں پڑا ہو۔ تو والد سے دشمنی رکھے ٭ اگر گیارہویں گھر میں پڑا ہو تو چوروں سے دھن ہانی۔ دشمن تکلیف دیں۔ اگر بارہویں گھر میں پڑا ہو۔ تو چوپایہ کا آرام۔ سفر کی خواہش رکھے ٭

چھٹے گھر پر گرہوں کی درشٹی

اگر چھٹے گھر کو سورج دیکھتا ہو۔ تو دشمن مغلوب۔ داہنی آنکھ میں روگ۔ والد کا سکھ اگر چندرماں دیکھتا ہو۔ تو دشمن زیادہ۔ جریان سے تکلیف۔ بلغمی روگ ہو۔ اگر منگل دیکھتا ہو۔ تو دشمن مغلوب۔ ماموں کا ناش۔ اور جسم پر اسلحہ سے چوٹ لگے۔ اگر بدھ دیکھتا ہو۔ تو دشمن بہت ہوں۔ چغلخور رہو۔ کھوٹے کرم کرے۔ اگر برہسپت دیکھتا ہو تو والدہ کا سکھ پائے۔ لیکن دروغگو ہو۔ اگر شکر دیکھتا ہو۔ تو دشمن زیادہ لیکن مغلوب رہیں۔ اگر سنیچر دیکھتا ہو۔ تو دشمن ناش۔ بیماری سے تکلیف پائے ماموں کو تکلیف دیوے۔ اگر راہو و کیتو دیکھتا ہو۔ تو دشمن زیر ہوں ٭

چھٹے گھر کے گرہوں کے یوگوں کا ثمرہ

اگر جنم لگن میں ہو۔ اور سورج لگن میں یا آٹھویں گھر میں پڑ جاوے۔ تو اس شخص کے بدن پر داغ ہوں۔ اگر جنم لگن کنیہ ہو۔ اور چندرماں چھٹے گھر کا مالک لگن میں یا آٹھویں پڑ جاوے۔ تو منہ پر سفید داغ ہوں۔ اگر سنیچر و منگل چھٹے گھر میں پڑے ہوں اور سورج کی ان پر درشٹی ہو۔ تو ہمیشہ بیمار رہے۔ اگر سنیچر چھٹے گھر میں پڑا ہو۔ تو پاؤں میں تکلیف رہے۔ اگر راہو ہو۔ تو دانتوں میں تکلیف رہے۔ اگر منگل سنیچر چھٹے یا آٹھویں گھر میں ہوں۔ تو مرض مرگی سے تکلیف پاوے۔ اگر چندرماں بدھ چھٹے گھر میں ہو تو زہر خورانی سے موت پاوے۔ اگر جنم لگن کرک ہو۔ اور منگل و بدھ چھٹے گھر میں پڑے ہوں۔ تو بدچلن۔ چور جعلساز ہو۔ اگر اسی طرح سے سنیچر۔ راہو۔ منگل۔ چندرماں چھٹے گھر پڑے ہوں۔ تو چور۔ دغاباز ہو ٭ اگر منگل سنیچر سورج چھٹے گھر میں پڑ جاویں۔ تو وہ شخص جذامی ہو۔ اگر لگن کا مالک چھٹے گھر اور چھٹے کا مالک لگن میں پڑ جاوے۔ تو وہ شخص بڑا بخیل شوم ہو۔ اگر چھٹے گھر کا مالک لگن میں سورج کے ہمراہ پڑا ہو۔ تو بگڑے خون سے مرض جذام ہو جاوے۔ اگر چھٹے گھر کا مالک ساتویں میں ہمراہ راہو کے پڑا ہو۔ تو راہزنوں سے اذیت پاوے۔ اگر چھٹے گھر کا مالک چوتھے۔ آٹھویں یا بارہویں گھر میں پڑ جاوے۔ اور سنیچر کی اس پر درشٹی ہو۔ تو وہ شخص کانوں سے بہرہ ہوگا۔ اگر سنیچر و منگل چھٹے گھر میں ہوں تو اس کی عورت کو اسقاط حمل کا عارضہ ہو ٭

اگر زیادہ مفصل دیکھنا چاہو تو رسالہ سر نوشتہ قیمت ۸ کا خزانہ مشہور عالم جنتری ہاؤس سے منگوا کر دیکھو

علم الطلسمات

طلسم برائے محبّت

اگر تم چاہو کہ جملہ مستورات تم سے زیادہ محبت اور الفت کریں - اور ہر وقت تمہاری محبت میں سرشار رہیں - اور تم کو زیادہ عزیز رکھیں - تو چاہیئے کہ جس وقت زہرہ برج میزان کے ۱۳ درجہ پر یا قوس کے ۲۴ درجہ پر یا حوت کے ۲۳ درجہ پر بحالت مستقیم افق مشرقی پر ہو - اور قمر اس وقت برج ثور کے ۱۴ درجہ یا جوزا کے پہلے یا سرطان کے ۱۷ درجہ یا سنبلہ کے ۲۸ یا میزان کے ۸ درجہ پر واقع ہو - اور زہرہ مشتری کو بنظر تثلیث یا التسدیس دیکھتی ہو - یا مشتری کا قمر سے قران ہو - اگر یہ بھی نہ ہو تو قمر و مشتری کے درمیان زہرہ مندرجہ بالا درجات میں سے کسی درجہ پر واقع ہو - تو اس وقت بخور عطر و لوبان دکافور کا روشن کرکے سنگ لاجورد یا سنگ یشب کا ایک عمدہ مربع ٹکڑا لیکر اس طرح بنادیوے - کہ عورت مرد بنظر محبت دیکھتے ہوں - اور ان دونوں کے درمیان ایک شکل کبوتر کی نقش کرے - اور بعد ازاں مرد کے سر پر طلسم تہر ہائیل اور عورت کے سر پر اسم جہاکیع کندہ کرے اور کبوتر کے سر پر اسم غربیون کندہ کرے - پس یہ طلسم تیار ہو جائیگا - بعد ازاں ۷ شب مقابل زہرہ اور پھر ۷ شب مقابل قمر زائد النور میں اس کی بخور روشن کرکے تنجیم کرے - تو پھر یہ طلسم مکمل ہوگا - پس جو شخص اس طلسم کو اپنے پاس رکھیگا - عورتیں ہمیشہ اس کی فرمانبردار رہینگی - اور جو حاجت اس کی ہوگی - اُن سے بر آئیگی - اور جہاں وہ جائیگا - نوجوان عورتیں اسکو بنظر محبت دیکھینگی - اگر کسی خاص مطلب و مقصد کے لئے اس طلسم کو دھو کر جس عورت کو وہ پانی پلادے یا اُس کے اُوپر چھڑک دیوے - یا اُس گھر میں جہاں وہ رہتی ہے - یہ پانی چھڑک دیوے - تو وہ محبت میں دیوانہ اور بے قرار ہوگی ❊

صورت اس طلسم کی یہ ہے

طلسم دفعیہ برائے درد گردہ

طلسم اسکندریہ میں لکھا ہے - کہ جب زہرہ برج میزان یا ثور میں ہو - اور قمر زہرہ کو بنظر مفارنہ نگراں ہو یا دونوں کا قران ہو - تو اس وقت ایک ٹکڑا سنگ سرخ بوزنی ۲ تولہ ساڑھے سات ماشہ کا لیکر شکل گردن کے اس کو تراش کر اس کے گرد حروف طلسمی لکھدیں - بعد ازاں اس میں سوراخ کرکے ڈورہ ریشمی ڈالکر درد گردہ کے مریض کے بازو پر باندھیں - تو فوراً درد سے آرام پائیگا ❊

وہ طلسم یہ ہے

اساا ہ ا ۹ ا لا نحی ہ ا ا ظ ا غ - سلح ا لح ا ا سح ا ہ ۹۸ سا

تنتر بدیا کے عجائبات

یہ بدیا بھی پراچین رشیوں کے منیوں کی ایجاد ہے - بعض چیزوں میں قدرتی تاثیریں موجود ہوتی ہیں - اور بعض کو باہم مرکب کرنے سے ایک عجیب تاثیر پیدا ہو جاتی ہے - ہم یہاں مختصر سا حال اس علم کا درج کرتے ہیں - اگر مفصل دیکھنا ہو - تو رسالہ موہنی تنتر قیمتی ایک روپیہ کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے منگوا کر تجربہ کرو ❊

تنتر برائے حُب یعنے محبت

حُب کا کاجل تیار کرنا

(۱) گدھ جانور جو مردار خور ہوتا ہے - اس کی دونوں آنکھیں اور سیاہ اُلو کی دونوں آنکھیں لیکر ان کو سرسوں کے تیل میں خوب جل کریں - اور جس روز پکھ نچھتر ہو - اُس روز ایک چراغ مٹی کا نیا اور وہ تیل ڈالکر اور نئی روئی کی بتی ڈال کر چراغ روشن کریں - اور چراغ کے اوپر کوئی پیالی لٹکا کر سیاہی اس کی اتارلیں - اور اس سیاہی میں مکھن ملا کر کاجل بنالیں - جو شخص اس کاجل کی ایک سلائی آنکھ میں لگاویگا - تمام لوگ اس سے مہربانی و محبت سے پیش آوینگے ❊

(۲) ناگیسر - کٹھ - تگر ان ہرسہ اشیاء کو ہموزن لیکر باریک کرکے روئی میں لپیٹ کر چراغ نو میں ڈالکر سرسوں کے تیل کا چراغ روشن کریں اور سیاہی اُتارلیں - اور کاجل بناکر آنکھوں میں لگادیں - تو ہر شخص محبت سے پیش آوے ❊

(۳) بھیڑ کے خون میں مادہ کی جڑ خوب رگڑ لیں - اور بروز پورنماشی اس خون میں روئی تر کرکے اور چراغ نو میں تیل ڈالکر اور اس روئی کی بتی بناکر جلادیں - اور سیاہی اُتار لیں - اور کاجل بناکر آنکھوں میں لگادیں - تو تمام دیکھنے والے کمال محبت و مہربانی سے پیش آویں ❊

حُب کا سفوف

(۱) پکھ نچھتر میں بل کنتھ - مجیٹھ - ان ہرسہ درختوں کی جڑیں اُکھیڑ کر اس کا سفوف کرلو - جس کے بدن پر اس سفوف کی ایک چٹکی ڈالدو وہ مہربانی سے پیش آویگا ❊

(۲) سیاہ بھنورے کے دونوں پر - پوکھر مول - تگر اور کاک جنگھاں ان سب کو ملا کر سفوف کرکے رکھ لو - اس سفوف میں سے تھوڑا سا جس کے بدن پر ڈالدوگے - وہ محبت سے پیش آونے لگا ❊

حب کا تلک

(۱) بھنگرہ سیاہ و سفید کی جڑ اور لاجونتی کے پتے اور سہدیوی کا پھول لیکر ان کو پیس کر اس کا تلک جو شخص اپنی پیشانی پر لگادے وہ عزیز خلائق ہو ❊

(۲) بھنگرہ اور گوکھرو کی جڑ اور گوروچن ان تینوں کو ملا کر گولی بنالیں اس گولی کو گھس کر جو شخص ماتھے پر تلک لگائیگا - دیکھنے والے موہت ہونگے ❊

حب کے لئے دھوپ

(۱) بروز اتوار پکھ نچھتر میں دھتورے کی جڑ - ڈنڈی - پھل - پھول اور پتے لیکر ان میں زیرہ سفید و گوگل ملا کر بھینس کے خون میں حل کریں - اور گولیاں بنالیں - پس اس گولی کی دھونی جس کو دی جاوے وہ با محبت پیش آوے ❊

(۲) سا کرا اسنگی - دوچ - ایلوا - الائچی خورد - برابر وزن لیکر خوب پیس کر اس کا دھوپ بنالیں - اس دھوپ کی دھونی اپنے لباس کو دیکر وہ لباس پہن لیں - جہاں جاؤ گے لوگ محبت کرینگے ❊

علم قیافہ

علامات پاء مستورات

اگر پشت پاء اونچی ہو۔ تو صاحب قسمت اور کسی امیر کبیر راجہ کے گھر بیاہی جاوے۔ اگر اس کا رنگ مثل تانبا کے سرخ ہو۔ تو صاحب اولاد اور خدمتگذار شوہر ہو۔ اگر پشت پاء پر گوشت ہو تو بامروت صاحب حسن وجمال ہو۔ اگر بہت بڑی ہو۔ تو بے اولاد رہے۔ اگر پاؤں مثل کاشے ہے ہو۔ تو تیسرا شوہر کرے۔ بڑی بے شرم وبے حیا ہو۔ اگر بوقت رفتار نقش پاء پورا زمین پر لگے۔ تو صاحب قسمت خوش گذران ہو۔ عورت کے پاؤں میں جس قدر پدم یا چکر کی ریکھا ہوں۔ اسی قدر اس کے فرزند ہوں۔ اگر پاؤں میں دھجا یا چھتر یا جو ہے یا ہاتھی کا نشان ہو۔ تو خوبصورت دلربا اور جس سے اس کی شادی ہو وہ امیر مثل راجہ کے ہو۔ اگر پاؤں میں پدم چکر یا آنکس کا نشان ہو۔ تو راجہ کے گھر بیاہی جاوے۔ اگر پاؤں میں سنکھ کا نشان ہو۔ تو تندمزاج غصہ ور مگر صاف باطن ہو۔ اگر چلنے میں پاؤں زمین پر نہ لگے۔ تو بدکار ہو۔ ہمیشہ رنج ومصیبت اٹھاوے ÷

(نوٹ) مفصل دیکھنا ہو۔ تو رسالہ نظارہ تقدیر قیمتی ۶ر منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے منگوالو ÷

علم کیرل

غائب کب آویگا؟

اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے۔ کہ فلاں شخص کہیں گیا ہوا ہے کب آئیگا تو چاہئیے کہ دریافت کرنے کے وقت جو نچھتر ہو اس کو ایکم سے اور جو نچھتر ہو اس کو اشنی سے شمار کرکے مجموعہ شمار کو ۷ پر تقسیم کردے۔ اگر باقی ایک رہے۔ تو اسی جگہ مقیم ہے۔ ۲ رہیں تو نقل وحرکت کر رہا ہے۔ ۳ رہیں تو وہاں سے چل پڑا۔ ۴ رہیں تو جلد آیا چاہتا ہے۔ ۵ رہیں تو آکر چلا جائیگا۔ ۶ رہیں تو اس کی طبیعت علیل ہے اگر برابر تقسیم ہو جاوے۔ تو اس کے آنے پر توقف ہے۔ شاید ہی بعد مدت بسیار کے آئے۔ دوم دریافت کنندہ سے کہو کہ کسی یوم کا نام لیوے۔ پس اگر وہ اتوار یا بدھوار کا نام لیوے تو مسافر رستہ میں ہے۔ اگر وبروار یا شکروار کا نام لیوے تو جلد آیا چاہتا ہے۔ اگر منگلوار کا نام لیوے۔ تو وہ شخص بیمار ہے اگر بیسپتوار یا سوموار کا نام لیوے۔ تو وہ شخص اپنی جگہ پر مقیم ہے۔ ابھی اس کے آنے میں توقف ہے ÷

مرد عورت میں پہلے کون مریگا؟

اگر کوئی دریافت کرے کہ فلاں زن وشوہر میں سے پہلے کون مریگا۔ تو چاہئیے۔ کہ مرد وعورت دونوں کے نام کے اعداد بحساب ابجد نکال کر مجموعہ کو ۲ پر تقسیم کردے۔ اگر ایک باقی رہے۔ تو پہلے عورت مرے۔ اگر برابر تقسیم ہو جائے تو پہلے مرد مر جائے گا ÷

بانجھ پن دیکھنا

اگر یہ معلوم کرنا ہو۔ کہ فلاں عورت ومرد کے گھر اولاد نہیں ہوتی۔ ان دونو کے نام کے اعداد نکالکر جمع کرلیں۔ اور مجموعہ اعداد کو ۹ پر تقسیم کردیں۔ اگر باقی جفت ہے تو مرد اور طاق رہیں تو عورت بانجھ ہے۔ علاج کرنا ضروری ہے ÷

فتح وشکست کا سوال

اگر کوئی دریافت کرے کہ فلاں مقدمہ یا لڑائی جھگڑے یا جنگ یا کشتی میں کامیاب ہونگا۔ تو چاہئیے کہ بروقت سوال اول یوم دوم تتھ سوم نچھتر چہارم بروقت دریافت جس قدر دن کی گھڑیاں گذری ہوں۔ ان سب کو جمع کرکے سورج اور چندرماں کے نچھتر میں جس قدر تفاوت ہو۔ اس کے شمار کو بھی ان میں جمع کرلیوے۔ اور بعدازاں کل جمع کو ۷ پر تقسیم کردے۔ اگر باقی ایک یا ۳ رہیں تو دریافت کنندہ کامیاب ہوگا۔ اگر ۴ یا ۶ باقی رہیں۔ تو حریف۔ اگر ۲ یا ۵ رہیں۔ تو دونوں کے درمیان صلح ہو جاویگی۔ اگر برابر تقسیم ہو جائے۔ تو دونوں مساوی رہینگے۔ جھگڑا بڑھتا چلا جائے گا ÷

چور پکڑنے کی ترکیب

یہ ایک نادر ترکیب ہے جو کئی دفعہ تجربہ میں معلوم ہوئی ہے۔ جن لوگوں پر کسی چیز کے گم کر لینے کا گمان ہو۔ ان کو بترتیب مشرق سے مغرب کی طرف بٹھلادو۔ اور بروقت معلوم کرنے جس قدر گھڑی دن چڑھا ہو۔ خوب غور اور صحت سے معلوم کرکے ان کو ۱۰ سے ضرب کردو۔ اور حاصل ضرب میں ۱۲ عدد قانون کے اور ملالو۔ اور بعدازاں مجموعہ کو ۵ سے ضرب دیدو۔ اور حاصلضرب میں ۵ اعداد قانون کے اور جمع کرلو۔ بعدازاں کل جمع کو ۱۵ پر تقسیم کردو۔ جو خارج قسمت ہو اس کو ۲ سے ضرب دیکر حاصلضرب کو نصف کرلو۔ اور ان نصف اعداد کو مشرق سے ان لوگوں پر تقسیم کرنا شروع کردو۔ اگر دور میں اعداد بڑھ جائیں۔ تو پھر مشرق سے تقسیم شروع کردو۔ پس جس شخص پر اعداد ختم ہونگے۔ وہی شخص چور ہوگا۔ اطلاع۔ علم کیرل کا عجیب وغریب رسالہ قیمتی دس آنے کا۔ کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے مل سکتا ہے ÷

سفر سے لابھ ہوگا؟

کوئی شخص یہ دریافت کرنا چاہے۔ کہ فلاں جگہ جاتا ہوں۔ مجھ کو وہاں سے لابھ ہوگا؟ تو چاہئیے کہ دریافت کرنے والے کے نام کے حروف شمار کرکے اس میں اس روز کے یوم اور نچھتر کو ملالیوے۔ یوم کا شمار اتوار سے اور نچھتر کا شمار اشنی سے کرنا چاہئیے۔ بعدازاں سب کو جمع کرکے ان کو ۹ پر تقسیم کردے۔ اگر باقی ایک رہے تو سفر میں وہ ہر طرح سے کامیابی اور دہن کا لابھ اٹھائے اگر ۲ رہیں۔ تو جس کام کے لئے جائے فوراً برا انجام ہو۔ اگر ۳ رہیں۔ تو راہ سے واپس آئے۔ اگر ۴ رہیں تو ناکامیابی۔ اگر ۵ رہیں تو بہت لابھ ہو۔ اگر ۶ رہیں تو جسمانی تکلیف اور دشمنوں کا خوف۔ اگر ۷ رہیں۔ تو جس قدر لابھ ہو اس کے نقصان ہونے کا احتمال ہوگا۔ اگر ۸ رہیں۔ تو اس سفر میں بیماری اور مرنے کا خوف جانو۔ اگر پوری تقسیم ہو جائے۔ تو مایوس ہو کر بے منفعت واپس آنے پر آمادہ ہو ÷

بیمار کے لئے پرشن

اگر کوئی بیمار کی بیماری کی کیفیت دریافت کرے۔ کہ اس کو کیا بیماری ہے تو دریافت کنندہ اور بیمار کے نام کے حروف شمار کرکے وقت مطلوبہ کے یوم وتتھ ونچھتر کو یعنے یوم کو اتوار سے اور تتھ کو ایکم سے نچھتر کو اشنی سے شمار کرکے سب کو جمع کرے۔ اور پھر اس مجموعہ کو ۹ پر تقسیم کردے۔ اگر باقی ایک رہے۔ تو حرارت اور صفرا کا غلبہ۔ اگر ۲ رہیں تو اس کے جگر میں گرمی اور جسم میں بخار۔ اگر ۳ رہیں تو بلغم اور کف اور سینے جینی۔ اگر ۴ رہیں تو سردی اور خشکی۔ اگر ۵ رہیں۔ تو فکر وتشویش بوجہ حرارت اور زیادتی صفرا۔ اگر ۶ رہیں۔ تو مرض سحر۔ اگر ۷ رہیں۔ تو ضعف اور ناطاقتی اور جریان۔ اگر ۸ رہیں تو وہم اور حیرانی وپریشانی اور جسم میں درد اور خوف ودہشت۔ اگر برابر تقسیم ہو جائے تو کوئی روگ نہیں۔ اس کے دل میں جو کچھ چنتا ہے جس سے یہ کمزور اور ناتواں ہو رہا ہے ÷

معشوق کی ملاقات ہوگی

اگر کوئی یہ امر دریافت کرے کہ فلاں شخص کی محبت میں گرفتار ہوں۔ کیا وہ مجھ کو ملیگا؟ تو چاہئیے۔ کہ وقت مطلوبہ کے نچھتر اور تتھ اور یوگ کا شمار کرکے اس میں اس طالب کے نام

کے حروف ہوں اُس پر تقسیم کردے اگر باقی طاق رہیں تو ہرگز ملاقات نہ ہو۔ اگر جفت رہیں۔ تو وہ اُسکے وصل سے شاد و بامراد ہو۔ بعدازاں وہ اُس مجموعہ کی خارج قسمت کو ۷ پر تقسیم کردیں۔ اگر باقی ایک رہے تو اکثر راستہ چلتے ہوئے دیدار ہو۔ اگر ۲ رہیں تو عنقریب گفتگو کا موقع ملیگا۔ اگر ۳ رہیں تو وہ ملنے کے لئے وقت کا منتظر ہے۔ اگر ۴ رہیں تو کوشش فضول ہے۔ وہ ہرگز تم کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ۵ رہیں تو عنقریب اُس کا پیغام ملیگا۔ اگر ۶ رہیں۔ تو وہ مطلب پرست ہے۔ تمہاری پرواہ نہیں کرتا۔ اگر برابر تقسیم ہو جائے۔ تو طالب اُس کی محبت میں حیران و سرگردان رہے۔ اور حصول مدعا نہ ہو ✣

علم مسمریزم

یہ وہ بینظیر علم ہے جسکے ذریعہ انسان دوسروں کو اپنی قوت جاذبہ سے مغلوب کرسکتا ہے اس میں کسی جنتر منتر کے سادھن ضرورت نہیں۔ صرف یکسوئی قلب اور اجتماع خیالات سے موجودات عالم کو مسخر کرسکتا ہے۔ گو اس علم کی ابتدا و انتہا اصول اس سے بیشتر کے سالوں میں درج ہو چکے ہیں۔ مگر گذشتہ سال میں مشہور عالم جنتری کے نئے خریداروں کے ہزاروں خطوط اس کے ابتدائی اصول کے لئے موصول ہوتے ہیں جنکی خاطر ذیل میں درج کیا جاتا ہے ✣

مسمریزم کا ابتدائی کا یہ اصول یہ ہے کہ یکسوئی قلب کرے یعنی اپنے خیالات کو ایک نقطہ مرکز پر قائم کرے۔ پس ایک سفید ٹکڑہ کاغذ سات انچ لمبا اور سات انچ چوڑا لیکر اس کے عین درمیان میں ایک گول دائرہ چونی کے برابر بناکر اس کو خوب سیاہ کردیوے اور اس کاغذ کو کسی موٹے کاغذ پر اس طرح چسپاں کرے کہ اس میں شکن نہ پڑے اور پھر بوقت صبح یا بعد دوپہر غذا ہضم ہونے کے بعد تنہائی کی جگہ میں جنوب کی دیوار پر اس طرح لٹکاوے کہ نظر کے مقابل سے ایک انچ بلند رہے۔ اور خود چار فٹ کی دوری پر بیٹھکر خوب یکسوئی قلب سے ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھے اور سانس بہت آہستہ آہستہ لیوے۔ کامل ایک گھنٹہ روز مشق کرتے رہو۔ جب آنکھوں سے پانی نکلے۔ تو رومال سے صاف کرلو۔ متواتر روزمرہ اپنے مقررہ ٹائم پر عمل جاری کرو۔ پس اس سیاہ داغ میں روشنی ہونی شروع ہوگی۔ اور ایک ہفتہ کی کامل مشق سے وہ سیاہ داغ بالکل سفید نظر آنے لگے۔ تو بعدازاں اس سیاہ داغ کو اور بڑا کردو۔ اور پھر چار پانچ فٹ کے فاصلہ پر بیٹھ کر نظر جماؤ۔ پس اس طرح اس سیاہ داغ کو بڑھاتے اور دوری فاصلہ پر نظر جماتے جاؤ۔ پس جس قدر مشق کرتے جاؤگے۔ اسی قدر مقناطیسی طاقت اور صورتیں نظر آنے لگینگی۔ پس کامل مشق کے بعد پھر جس انسان یا حیوان پر جس نیت اور ارادے سے اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھوگے۔ اور نظر سے نظر ملاؤگے وہ مطیع و فرمانبردار ہوگا۔ یہ عمل جب کے منا شیو! کیسا سہل اور آسان لگتا ہے ✣

مقناطیسی آلہ سے قوت جاذبہ کی تاثیر

علم مسمریزم کے شائقین کے لئے یہ کیسا بے نظیر اور پُر تاثیر آلہ ہے۔ ایک ٹکڑہ سفید تانبے کا مربع یا بیضوی لیکر اس کے درمیان روپیہ کے برابر گول ٹکڑہ جست کا لگوالیں۔ اور اس کے چاروں طرف بالمقابل جست اور تانبے کی سلاخیں اس طرح لگوائیں۔ کہ درمیانی گول دائرہ سے ان کے سرے پیوست رہیں۔ اور اس آلہ کے گول درمیانی دائرے پر سیاہ وارنش کرادیں۔ اور ہر روز اس پر مشق کریں ✣



تاثیر اس کی یہ ہوگی۔ کہ عمل جلد موثر ہوگا۔ اگر کسی شخص یا معمول کے ہاتھ میں دیکر چند منٹ تک وہ اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھے۔ تو محویت کا عالم اس پر طاری ہوگا۔ یہ آلہ نہایت بے نظیر و پُر تاثیر ہے۔ جو معمول کے ہاتھ میں دینے سے جلد مؤثر ہوکر اپنی قوت جاذبہ سے اس کو گہری نیند میں لاتا ہے ✣

قواعد محکمہ تار و ڈاک ہندوستان

پوسٹ کارڈ سنگل اور ڈبل (جوابی) ہندوستان کے ہر ایک ڈاکخانہ سے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ سنگل کارڈ کی قیمت دو پیسہ اور جوابی کارڈ کی قیمت ایک آنہ ہے۔ اگر پوسٹ کارڈ نہ ملے تو پوسٹ کارڈ کی مانند موٹا کاغذ لیکر اس کو کارڈ کے سائز کے برابر کاٹ کر اور دو پیسہ کا ٹکٹ لگاکر ڈال سکتے ہیں۔ کارڈ کا سائز ۵½ انچ × ۳½ انچ ہوتا ہے۔ بیرنگ پوسٹ کارڈ روانہ نہیں ہو سکتا۔ اسلئے اس پر دو پیسہ کا ٹکٹ لگا دینا چاہئے۔ ورنہ کارڈ ضائع ہو جاویگا۔ اور مکتوب الیہ کو نہیں ملیگا۔ کارڈ کے ایک طرف اپنا مطلب لکھو۔ اور دوسری طرف آدھے حصہ میں مکتوب الیہ کا پتہ اور ٹکٹ لگاؤ۔ اور باقی آدھے حصہ میں اپنا مطلب لکھا جاسکتا ہے۔ پتہ والے نصف حصہ میں اپنا نام یا تاریخ وغیرہ کچھ نہ لکھو ورنہ کارڈ بیرنگ ہو جاویگا۔ اور مکتوب الیہ کو ایک آنہ دینا پڑیگا ✣

لفافہ سرکاری لفافہ جس پر ایک آنہ کی مہر چھپی ہوتی ہے۔ ہر ڈاکخانہ سے مل سکتا ہے یا خالی لفافہ لیکر اس پر ایک آنہ کا ٹکٹ لگاکر ڈاک میں ڈالا جاسکتا ہے۔ چٹھی کا وزن ۲½ تولہ سے زائد نہ ہونا چاہیئے۔ اگر زائد ہو جاوے۔ تو ایک آنہ کا ٹکٹ اور لگا دو۔ اسی طرح ہر ۲½ تولہ پر ایک آنہ لگاتے جاؤ۔

بک پیکٹ تمام چھاپہ شدہ کاغذات۔ کتابیں۔ خالی کاغذ۔ تصویریں۔ نقشے کی اپیاں۔ پروف۔ مسودے اور عام کاروباری کاغذات خواہ چھپے ہوئے ہوں یا تحریری بشرطیکہ وہ کاغذات کسی خاص پرائیویٹ خط و کتابت کی نوعیت کے نہ ہو۔ بذریعہ بک پوسٹ روانہ ہو سکتے ہیں۔ بک پیکٹ میں ڈاک کے ٹکٹ۔ نوٹ۔ چک۔ ہنڈی وغیرہ روانہ نہیں کرنے چاہئیں۔ پیکٹ کا سائز دو فٹ۔ لمبائی ایک فٹ چوڑائی اور ایک فٹ اونچائی سے زیادہ نہ ہونا چاہئے۔ اگر پیکٹ گول ہو تو اس کی لمبائی ۲½ فٹ اور قطر ۴ انچ سے زائد نہ ہو۔ پیکٹ کے دونوں سرے کھلے رہنے چاہئیں۔ اور ایسے طریقہ پر باندھا جانا چاہئے کہ ہر وقت بغیر کاغذ کو پھاڑنے کے کھول کر دیکھا جاسکے۔ ہر پیکٹ پر ۵ تولہ وزن کے لئے دو پیسہ کا ٹکٹ لگیگا۔ اگر پیکٹ بیرنگ ڈالا جاوے تو اس پر مکتوب الیہ سے دوگنا محصول چارج کیا جاویگا۔

اخبارات اخبار جو باقاعدہ ڈاکخانہ میں رجسٹرڈ ہو اور اس پر رجسٹر نمبر درج ہو اس کا محصول حسب ذیل ہوگا۔ ۸ تولہ وزن تک ایک پیسہ۔ ۸ تولہ سے زائد ۲۰ تولہ سے کم وزن تک دو پیسہ۔ اس سے زائد ہر بیس تولہ یا کم کے لئے دو پیسہ زائد لگاتے جاؤ ✣

پارسل پارسل میں ہر ایک چیز سوائے اس چیز کے جسکی قانوناً ممانعت ہے روانہ ہو سکتی ہے۔ پارسل کو کسی مضبوط لکڑی یا دھات کے بکس میں بند کرنا چاہیئے اور مندرجہ ذیل شرح سے محصول لگانا چاہئے۔ ۲۰ تولہ وزن تک ۲ آنے۔ ۲۰ تولہ سے ۴۰ تولہ تک ۳ آنے۔ ۴۰ تولہ سے ۸۰ تک ۶ آنے۔ ۸۰ تولہ سے اوپر ہر ۴۰ تولہ تک ۳ آنے بڑھاتے جاؤ۔ لیکن پارسل ۴۴۰ تولہ سے زائد وزنی نہ ہو۔ اگر ۴۴۰ تولہ سے زائد وزنی پارسل ہو تو اسکے لئے مندرجہ ذیل شرح ہوگی۔ ۴۴۰ تولہ تک [illegible]۔ ۴۸۰ تولہ سے ۵۲۰ تولہ تک [illegible]۔ ۵۶۰ تولہ [illegible]۔ ۶۰۰ تولہ [illegible]۔ ۶۴۰ تولہ [illegible]۔ ۶۸۰ تولہ [illegible]۔ ۷۲۰ تولہ [illegible]۔ ۷۶۰ تولہ [illegible]۔ ۸۰۰ تولہ [illegible]۔ اس سے زیادہ وزن کا پارسل روانہ نہیں ہو سکتا۔ ۴۴۰ تولہ سے زائد وزن والے پارسل کو رجسٹری کرانا لازمی ہے جسکے لئے ۲ آنے کا ٹکٹ اور لگانا چاہیئے۔ کوئی پارسل بیرنگ روانہ نہیں ہو سکتا ✣

رجسٹری ہر ایک لفافہ۔ کارڈ۔ پیکٹ۔ پارسل احتیاط کے لئے رجسٹری کروایا جاسکتا ہے تاکہ کسی اور کو تقسیم نہ ہو جاوے۔ رجسٹری کے لئے علاوہ معمولی محصول کے ۲ آنے کے ٹکٹ زائد لگانے چاہئیں۔ اور رجسٹری کروانے والی چیز کو ڈاکخانہ میں جاکر اس عہدہ دار کو دینی چاہیئے جو اس کام کے لئے مقرر ہو وہ اس چیز کی رسید فرستندہ کو دیگا۔ اگر علاوہ ڈاکخانہ کی رسید کے فرستندہ کو مکتوب الیہ کی دستخطی رسید لینی ہو تو ۳ آنے کے ٹکٹ لگانے چاہئیں۔

بیمہ تمام قیمتی سامان مثلاً زیورات۔ نوٹ۔ چک۔ ہنڈیاں۔ قیمتی دستاویز۔ سونا چاندی وغیرہ کے پارسل کا بیمہ کرانا لازمی ہے۔ جس پر علاوہ فیس رجسٹری و محصول وزن کے مندرجہ ذیل خرچ سے زائد ٹکٹ لگانے چاہئیں۔ ۵۰ روپیہ کی مالیت تک ۱ آنہ۔ ۵۰ روپیہ سے زائد ہر پچاس روپیہ یا کم کی مالیت پر ایک آنہ زائد لگاتے جاؤ ✣

منی آرڈر دس روپیہ تک ۲ آنے۔ دس سے زائد ۲۵ روپیہ تک ۴ آنے۔ ۲۵ روپیہ سے زائد پہلے دس روپیہ تک کے ۲ آنے اور بعد دوسرے ۱۵ روپیہ تک کے ۳ آنے لگاؤ۔ اسی طرح ایک سو کے لئے ۱ روپیہ لگیگا۔ [illegible]

تار تاریں دو قسم کی ہیں۔ ایک ضروری دوسری معمولی۔ ان کی فیس روانگی حسب ذیل ہے۔ قسم ضروری ۱۲۔ الفاظ تک ۱۲ آنے جس میں پتہ وغیرہ سب شامل ہے۔ اگر الفاظ کی تعداد ۱۲ سے زیادہ ہو جاوے تو فی لفظ ۱ آنہ زائد لئے جاوینگے ✣ قسم معمولی۔ ۱۲۔ الفاظ تک ۶ آنے جس میں پتہ وغیرہ سب شامل ہے۔ اگر الفاظ کی تعداد بارہ سے زائد ہو جاوے تو فی لفظ ½ آنہ زائد لیا جاوے گا ✣

جادو سیکھنے کے عجیب و غریب آسان طریقے

افریقہ کا جادو باب اول ہمزاد کو تسخیر کرنے اور قابو میں لاکر اس سے غلام کی طرح کام لینے کی مکمل ترکیب کھول کر بیان کی گئی ہے دوسرے باب میں کئی فالنامے جنکے ذریعہ انسان غیب کی باتیں معلوم کرسکتا ہے۔ گذرا ہوا اور آئندہ کا حال بیان کرسکتا ہے۔ باب سوئم میں جنتر منتر۔ تنتر اور باب چہارم میں نقش و تعویذ ہیں۔ جنکے ذریعہ دوسرے آدمی اپنی محبت کے جال میں آسانی سے پھنسائے جاسکتے ہیں۔ دشمن مطیع ہوجاتا ہے۔ اصل قیمت (عہ) رعایتی (۱۲ا؍) ایکروپیہ۔

تسخیر یکھنی (معروف بہ چین و برہما کا جادو) یہ وہی تسخیر یکھنی ہے جسکی بدولت کشمیر کے سیب۔ کابلی انگور۔ قندھار کے انار۔ و دیگر مقامات کے عجیب و غریب تحفہ جات منگواسکتے ہو۔ اور یکھنی ہمیشہ کیلئے محکوم بنکر رہتی ہے۔ اور ہر طرح کی خواہش پورا کرتی ہے۔ ہزار انسان کی خوراک ایک چھوٹے سے برتن سے بہم پہنچانا۔ ہر ایک انسان کو اپنا مطیع و حاجتمند بنانا۔ پردیس گئے ہوئے رشتہ داروں کو واپس بلانا۔ خود بخود علم کا عالم ہونا۔ ذرا سی راکھ دیکر تمام امراض کا قلع قمع کرنا سب کچھ اسکے ذریعہ سے ہوسکتا ہے۔ تمام مخلوق کو دیکھنا۔ اور خود کسی کو نظر نہ آنا۔ ہزار ہا دشمن پر اکیلے ہی غالب آنا۔ وغیرہ وغیرہ اصل قیمت (عہ) رعایتی (عہ)

مُردہ روحوں سے ملاقات اگر آپ مُردہ روحوں سے ملاقات کرکے انکے حالات دریافت کرنا چاہو تو ہماری کتاب اسرار مسمریزم منگواکر دیکھو۔ جو ایک عامل کو بلا کسی تکلیف کے پورے طور پر مسمریزم سکھلا سکتی ہے۔ اصل قیمت (عہ) رعایتی (۱۲ا؍) بارہ آنے

ہپناٹزم ہم پبلک کی ضرورت کو محسوس کرکے ایک بزرگ کے سینہ کا جوہر ہپناٹزم طریق سے اس کتاب میں قلمبند کیا گیا ہے۔ اسکے ذریعہ سے ہر ایک کو قابو میں کرنا کئی ایک جگہ سے اسکے ذریعہ تحفہ جات منگوانا۔ غیب کی بات جاننا ہر ایک مرض کا علاج۔ دفینہ معلوم کرنا۔ وغیرہ وغیرہ۔ اصل قیمت (۱۲ا؍) رعایتی (۸؍)

بنارس کا کامل جوتشی اگر آپ چاہتے ہیں۔ کہ آجکل کی غلامی کی نوکری سے چھوٹ کر خود بخود دولت پیدا کریں تو آپ کو فوراً آئینہ جوتش منگواکر پڑھ لینی چاہئے۔ آپکو غلامی سے بچانے کیلئے ہمنے یہ کتاب زر کثیر خرچ کرکے ایک پرانے اور مشہور و معروف ماہر جوتشی سے تیار کرائی ہے۔ جن کا اس فن میں سالہا سال کا تجربہ ہے۔ خود پڑھیں۔ اور اپنے دوستوں کو پڑھنے کی ترغیب دیں۔ گویا اس علم کے متعلق کئی ایک کتب طبع ہوچکی ہیں۔ مگر ایسی مکمل ایک کتاب ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیگی۔ جو اکیلی ہی سب کتب کا کام دے سکے۔ اصل قیمت (ے) رعایتی بمعہ محصولڈاک دو روپے۔ (عہ) دو روپیہ چار آنے۔

فارس کا جادو یہ کتاب مصنف صاحب اکرام حسین صاحب کے اپنے مجرب نسخہ۔ تعویذات و عملیات کا مجموعہ ہے۔ جو آزمائیگا۔ مجرب پائیگا۔ بذریعہ عملیات دوسرے کو قابو میں لانا۔ اور صدہا امراض کا علاج۔ نظام شمسی سیارہ و نحس و بد۔ نظر بد۔ جن۔ دیو۔ پری۔ جنبیث۔ شیطان وغیرہ از روئے حدیث درج ہیں۔ اصل قیمت (۱۲ا؍) رعایتی (۸؍) آٹھ آنے۔

تسخیر ہمزاد اسمیں ہمزاد کو قبضہ میں لانے کے طریق نہایت وضاحت سے درج ہیں۔ جنکے ذریعہ سے مشکل کام سرانجام دیا جاسکتا ہے ہر ایک کے دل کا حال جاننا۔ جسکو مرضی ہو مطیع و فریفتہ کرنا۔ علاوہ ازیں قواعد مسمریزم آسان طریقوں سے درج ہیں۔ جنکے ذریعہ سے انسان اپنے آپ ہر ایک مرض کا علاج بلا کسی دوائی کے کرسکتا ہے۔ اصل قیمت (۱۲ا؍) رعایتی (۸؍) آٹھ آنے۔

طلسمات سکندری یہ کتاب درحقیقت علم کیمیا تسخیر شعبدات کے لئے اکسیر اعظم ہے۔ اور حضرت ہرمس کے تجربات کا ایک نادر مجموعہ ہے نہیں بلکہ عرب۔ ایران۔ طہران اور ہندوستان کے حکما کے تجربات کا خزینہ ہے اسمیں کوئی شک نہیں۔ کہ اس کتاب کا عامل صرف کیمیا گر ہی نہیں بلکہ ولی کامل بن سکتا ہے۔ یہ نسخہ فنون پنجگانہ کا مجموعہ ہے۔ اصل قیمت (عہ) رعایتی (۱۲ا؍) بارہ آنے۔

کھیل مداریان اس کتاب میں تاش کے جادو۔ بوتل میں انڈا ڈالنا۔ گلاس کو الٹا کردینا۔ مگر پانی نہ گرنا۔ آگ سے کاغذ نہ جلنا۔ بغیر آگ پانی کو جوش دینا۔ رومال اور بندوق کا کھیل۔ روپیہ غائب کرنا جادو کا صندوقچہ جلانا۔ اور پھر جوڑ دینا رومال کے ٹکڑے کرکے پھر ثابت کردینا۔ اصل قیمت ہر حصہ (عہ) رعایتی (۱۲ا؍) بارہ آنے۔

صنعت۔ حرفت میں مالامال کرنیوالی کتابیں

فخر قوم لالہ لاجپت رائے جی ایڈیٹر بندے ماترم لاہور اپنے پرچہ موزخہ ۲۵ فروری سنہ ۱۸ میں تحریر فرماتے ہیں

شہنشاہ تجارت یہ فن تجارت کے متعلق ایک مفید کتاب ہے۔ اس میں تجارت کے بیش بہا راز و نکات۔ کفایت شعاری۔ منافع طریق تجارت کے اصول وغیرہ بتلائے گئے ہیں۔ مختلف اقسام کی تجارتی معلومات و تجارتی ضروریات بھی درج کی گئی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے۔ کہ کونکونسی اشیاء ہندوستان کے کن شہروں میں پہنچتی پیدا یا فروخت ہوتی ہیں۔ ہندوستان کے ہر ایک بڑے شہر و قصبہ کی تجارت کا نقشہ بھی درج کیا گیا ہے۔ قیمت مجلد (للعہ) رعایتی (ے) دو روپیہ آٹھ آنے

کروڑپتی بناؤ اسمیں وہ وہ نسخہ جات درج ہیں جنکے ذریعہ سے ایک معمولی شخص بھی کروڑپتی بن سکتا ہے۔ اسکے سات ایڈیشن چھپکر ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوگئے۔ اب آٹھواں ایڈیشن بھی ختم ہونے کو ہے۔ جلدی کیجئے۔ واقعی اس کتاب روپیہ بنانے کی مشین ہر فن مولا کا جسقدر شہرہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ کہ اسکا کوئی ہنر ایسا نہیں۔ کہ جس سے انسان اپنی روزی نہ کما سکتا ہو۔ اسمیں مشہور و معروف نسخہ آب حیات بھی لکھا گیا ہے۔ فہرست ہزاروں ترکیبوں میں سے چند حسب ذیل ہیں:۔ بال عمر بھر پیدا نہ ہونے کا مجرب نسخہ۔ بال اڑانے کا عرق و پوڈر۔ ۵ منٹ میں بال سیاہ کرنے کا خضاب۔ ربڑ کی مہریں۔ کھانا پکانے کی ترکیبیں اچار۔ مربہ۔ چٹنیاں۔ ربڑ کی اشیاء۔ موم بتیاں۔ ہر قسم کی سیاہی۔ ریشم کا کپڑا رنگنا۔ عطر۔ روح فرح۔ لیمونیڈ۔ خوشبودار تیل وغیرہ بنانا۔ غرضیکہ ہزاروں ترکیبیں درج ہیں۔ اصل قیمت ہر سہ حصہ (عہ) رعایتی (عہ) ایکروپیہ آٹھ آنے۔

کامل فوٹوگرافی اسمیں کل حالات فوٹوگرافی مکمل طور پر قلمبند کئے گئے ہیں تمام ضروری سامان کا اندراج بمعہ ترکیب استعمال مفصل طور پر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے انجان بھی اعلیٰ فوٹوگرافر بن سکتا ہے۔ اصل قیمت (عہ) رعایتی (عہ) ایکروپیہ۔

رسالہ رنگ سازی یہ ایک نادر و نایاب کتاب ہے جسمیں کئی قسم کے روغن وارنش۔ پینٹنگ آئیل کلر۔ اور واٹر کلر مکانات کو رنگنے کے رنگ۔ وارنش۔ لکڑی۔ لوہا۔ پیتل وغیرہ وغیرہ ہر ایک قسم کی دھات پر رنگ و پالش کرنا بگھی پالش تیار کرنا۔ ایک معمولی قسم کی لکڑی پر رنگ کرکے اسکو اعلیٰ قسم کی لکڑی بنانا۔ ساگوان کا رنگ بنانا چیل۔ دیار اور کیل کی ردی لکڑی پر شیشم کا رنگ کرنا۔ اور کئی قسم کے وارنش و پینٹ آئیل تیار کرنا۔ اسکے علاوہ اس کتاب میں اور بھی کئی قسم کے مفید اور کم لاگت والے پالش تیار کرنے کے طریقہ درج ہیں جس سے ہر ایک آدمی چند پیسے خرچ کرکے سینکڑوں روپیہ پیدا کرسکتا ہے۔ ایک بار ضرور منگواکر پڑھیں۔ اصل قیمت (عہ) رعایتی (عہ) ایکروپیہ۔

لیتھوفوٹوگرافی ہم نے عام شائقین کے فائدہ کیلئے اور بے روزگاروں کیلئے تجارت و سودیشی کا منبع جاری کرنے کیلئے ایک کتاب بنام فوٹولیتھوگرافی جو کہ ولایت سے انگریزی میں مبلغ عنقہ روپیہ کو ملتی ہے۔ اسکا عام فہم ترجمہ اردو میں چھپوایا ہے۔ اصل قیمت (ے) رعایتی (عہ) ایکروپیہ چار آنے

فن گھڑیسازی ہمنے جو یہ فن گھڑیسازی تیار کرائی ہے۔ اسمیں تمام ہدایات بالکل علمی اور مشرح ہیں۔ ہر صفحہ میں کئی کئی تصاویر اور نقشے دیکر نفس مضمون کو واضح کردیا گیا ہے۔ بالتصویر۔ اصل قیمت (عہ) رعایتی (عہ)

طلائے برقی ٹھنڈا اور گرم ملمع کرنا کچا۔ پکا اور نہایت عمدہ گلٹ اور دھاتوں کا پانی بنانا۔ اور لوہا وغیرہ دھاتوں کے عجیب و غریب اعمال اور کئی ایجادیں درج ہیں۔ اصل قیمت (عہ) رعایتی (عہ) ایکروپیہ چار آنے۔

رنگریز اسمیں انگریزی اور دیسی طریق سے سوت۔ کپاس۔ روئی۔ سن وغیرہ ہر قسم کے رنگ رنگنا درج ہے۔ اصل قیمت (۱۲ا؍) رعایتی (۸؍) آٹھ آنے۔

کتاب	اصل	رعایتی	کتاب	اصل	رعایتی	کتاب	اصل	رعایتی
بیاری دکٹنکشنری	عا	عہ	علم کیمیا و یدک	۱۰؍	۸؍	صابون گری مکمل	۱۲؍	۸؍
خانساماں یا مکمل انگریزی کک	عہ	عہ	مجموعہ لوازمات	۸؍	۶؍	رسالہ گلٹ سازی	۴؍	۳؍
			رسالہ عرق شربت	۴؍	۳؍	دندان ساز	۶؍	۴؍
رسوبایعنی بکلوجن مرکاش	عہ	۱۲؍	تیل پھلیل مسی منجن خوشبو	۴؍	۳؍	حلوائی	عہ	۱۲؍
باورچی یا اسلامی ہوٹل	عہ	۱۲؍	اتالیق فوٹوگرافی	۸؍	۶؍	عطرساز اور گندھی	۱۲؍	۸؍
معجون گلقند لعوق	۸؍	۶؍	ربڑ سٹیمپ میکر	۵	۳؍	شیشہ گری	۱۲؍	۸؍

ملنے کا پتہ کیشورام مہرہ۔ بک سیلر۔ اندرون شاہ عالمی دروازہ لاہور

میوہ جات ہندوستان ۱۲؍۔ قارون کا خزانہ ۳؍۔ علاج بلاڈاکٹر ۳؍۔ قانون الاغذیہ ۲؍۔ رسالہ خضاب ۱؍۔ بخار اور اسکا علاج ۵؍۔ پرورش اطفال ۵؍۔ ذیابیطس شکر بلی ۳؍

صفحہ ۵۳ سے لیکر ۵۶ صفحہ تک ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ۵۴

خود بخود ڈاکٹر بن جاؤ

گنجینۂ طبیب مکمل

یہ کتاب جناب حکیم رام کشن صاحب کے ۵۲ سالہ تجربوں کا ذخیرہ ہے۔ یہ کتاب خصوصاً حکیموں۔ عطاروں۔ پنساریوں کی تو جان ہے۔ اور دیگر خانہ دار اصحاب کے واسطے باعثِ راحتِ جان ہے۔ اسمیں بڑے امراض مثل آتشک۔ سوزاک جریان۔ جذام برص بہق۔ ہیضہ۔ طاعون۔ نامردی وکمزوری اور مستورات کے پوشیدہ امراض کے مجرب نسخہ جات درج ہیں۔ علاوہ ان خوبیوں کے علم کیمیا کے مطابق شمس یعنی سونا بنانے کے کیمیاوی نسخہ جات۔ صنعت وحرفت کے عجیب نسخہ جات درج ہیں۔ مثلاً کافور کا کٹورہ بنانا چاندی کا سفوف برائے گلٹ۔ ملمع کرنے کے نسخہ جات درج ہیں۔ اصل قیمت (للعہ ۱۸) رعایتی (عہ)

تحفۂ لقمان

اسمیں فعل ... کے متعلق تمام ضروری مفید ہدایات اعضاء مخصوص کی ضروری تشریح مردوں و عورتوں کی تمام پوشیدہ خاص بیماریوں کی تعریف طاقت۔ روغن طلا۔ حفاظتِ حمل و آسانی پیدائش نیز سر سے لیکر پاؤں تک کی کوئی موٹی بیماریوں کیلئے آزمودہ۔ بیشمار نسخہ جات ظاہر کر دیئے ہیں صرف منٹوں میں کم لاگت۔ کئی من اصلی خضاب۔ حمایت پوڈر وعرق اور صابن اور دیسی صابن بغیر آگ وچربی بنانا۔ پارہ کی مقوی گولی۔ سوڈا واٹر۔ اور ہر قسم کے کشتہ جات بنانے اور بنانے کی آسان تراکیب قلمبند کر دیگئی ہیں۔

ایکہزار روپیہ انعام کا اعلان:۔ اسکے صفحہ ۳ پر مصنف کی طرف سے درج ہے۔ اگر کوئی صاحب ایک نسخہ بھی غلط یا فرضی ثابت کر دے۔ تو بصورت انکار مصنف سے بذریعہ عدالت وصول کرنے کا مجاز ہوگا۔ اصل قیمت (عہ) رعایتی (۱۲) بارہ آنے۔

حبیبُ الحیوانات

اس کتاب میں ہاتھی۔ اونٹ گھوڑا۔ گدھا۔ گائے۔ بھیڑ۔ بکری۔ کتا۔ بندر ان گیارہ جانوروں کا بیان نہایت تحقیق سے معہ انکے جملہ امراض کے اسباب۔ علامات شناخت وعلاج مشرح طور پر درج کئے گئے ہیں۔ ایک ماہر طبیب نے ۱۸ سال کی محنت۔ تجربات اور چھان بین سے یہ مجموعہ تیار کیا ہے۔ ہر جانور کا مفصل حال ان تمام امراض کا بیتر بہدف علاج مجرب اور سہل کوڑیوں کے نسخے۔ ادویات۔ تمام دیسی جو ہر جگہ دستیاب ہو سکیں۔ ہاتھیوں اور بندروں کے پکڑنے اور سدھانے کے طریقے۔ ہدایات دربارہ حفظ ماتقدم وپرورش اور نسل کشی وغیرہ علم حیوانات کے ایسے ایسے مخفی راز جو اب تک سینہ بسینہ چلے آتے ہیں۔ اور سینکڑوں روپیہ لیکر کوئی نہ بتلاتا تھا۔ مثلاً بچھیرہ جس رنگ کا چاہو۔ رنگ حمل میں پھیرلو۔ خچر کے پیٹ سے بچہ پیدا کرنا اصل قیمت (عہ) رعایتی (عہ)

کامل فقیر

یہ حکمت کی نایاب کتاب ہے جسمیں ایک مہاتما سنیاسی کا اپنا ذاتی تجربہ اور آزمودہ مجربات کا مجموعہ ہے۔ اسمیں وہ وہ نسخہ جات درج ہیں۔ جو ہزاروں روپیہ خرچ کرنے پر بھی دستیاب نہیں ہوتے اور ہر ایک بیماری کو دفع کرنے کیواسطے کئی کئی نسخے درج ہیں۔ اصل قیمت (عہ) رعایتی (عہ)

بوٹی پرکاش

جسمیں ہر ایک کی اقسام کی بوٹیوں کی تصویریں انکی شناخت۔ خواص رنگ وفائدے۔ استعمال کے طریقے۔ خلاصہ طور پر درج کئے گئے ہیں جنکا جاننا ہر ایک حکیم۔ وید کیلئے ضروری اور کارآمد ہے۔ اور ہر ایک زبان میں ان کا نام بھی درج ہے۔ بلا مطلب فرمائیے۔ اصل قیمت (عہ) رعایتی (۱۲) بارہ آنے۔

بالکل نئے دلچسپ اور سستے ناول

بہادر مردِ میدان

اسمیں بہادر نلسن کی زندگی کے سچے حالات۔ نلسن کا ایک معمولی سپاہی سے افسر بننا۔ جنگ امریکہ معرکہ فرانس اور نپولین فرانس کی پولٹیکل چالیں۔ انگریزوں کی جرمن سے لڑائی غنیم پر اتحادیوں کے جان توڑ حملے۔ نپولین بونا پارٹ کے ساتھ جنگ شروع کرنا۔ نپولین بونا پارٹ کے جہازوں کو گرفتار کرنا۔ سلطنت نیپلز کو فرانسیسیوں کے ہاتھ سے آزادی دلانا۔ فرانسیسیوں کا نپولین اور روم کی ریاستوں سے نکالا جانا نلسن کو ڈیوک آف کناٹ کا خطاب ملنا۔ اطالیہ میں فوجوں کی کامیابی۔ انگریزوں کی حکومت قائم کرنے کیواسطے مصر میں جان توڑ حملے۔ کیسے بے انکا اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کرنا اور جہاز کے ممنان کا جل جانا۔ یہ کتاب آپ کو آزادی دلانے میں مدد دیگی۔ اصل قیمت (عہ) رعایتی (عہ) یکروپیہ آٹھ آنے۔

دخترِ ابلیس یا الف لیلہ البطرہ ناول

ایک شریف خاندان لڑکی کی داستان۔ اقبال کا عاشق ہونا۔ توحید وتثلیث کا عجیب نظارہ اقبال کا تعلیم سے کنارہ کشی کرنا۔ اقبال کی سوتیلی والدہ کا اقبال کو عشق کی سٹیج پر کھیلتے ہوئے دیکھکر خوش ہونا۔ اصل قیمت (للعہ) رعایتی (عہ) دو روپیہ۔

اسرارِ ایران

(حاجی بابا کی آپ بیتی سرگذشت) ملک ایران کی ایک صدی گذشتہ کی حیرت انگیز تاریخ۔ حاجی بابا کا زینب پر عاشق ہونا۔ قتل زینب شکر لب کنیز۔ ترکمانوں کے ہاتھ گرفتار ہونا۔ طرح طرح کے مصائب اٹھانا گویا باطنی نصیحتوں کا خزانہ ہے۔ اصل قیمت (عہ) رعایتی (عہ) دو روپیہ۔

ناول عائشہ

یہ ناول درگیش نندنی کا دوسرا حصہ ہے۔ جو صاحبان درگیش نندنی پڑھ چکے ہیں۔ اب ان کو یہ ناول ضرور پڑھنا چاہیئے۔ اصل قیمت (عہ) رعایتی (عہ)

حسین رانی کا چکر ناول روپ بسنت

مہاراجہ سنگلادیپ کا بیٹا۔ کلی سے شادی کرنا پھول کلی کا کمار روپ پر عاشق ہونا۔ شہر بدر کرنا جنگل میں سانپ کا ڈسنا۔ جوگی کا تندرست کرنا شہر مصر میں جلسہ کی شرط جیت کر شہر مصر کی شہزادی سے شادی کرنا۔ سیر بار نا۔ جہاز ران کمپنی کے ساہوکار اور کوتوال کو پھانسی دلوانا قیمت (عہ)

باتصویر اصلی کوک شاستر

اس کوک شاستر میں مشکل۔ اشلوک۔ بشپ۔ عرکیب چاروں قسم کے مردوں کا بیان۔ پدمنی۔ چترنی۔ ہستنی۔ سنکھنی چاروں عورتوں کی تصویریں۔ ان کی شناخت حلیہ وخاکہ نیک وبد عورت کی پہچان۔ قربت کرنیکے ہر ایک مناسب قواعد اور وقت عورت ومرد کا جوڑا۔ جوڑوں کا میلان۔ چاند کے بڑھاؤ گھٹاؤ میں روزانہ عورت کے میرچ کے تبادلہ کا حال۔ عورت کو عمر بھر خوبصورت۔ جوان۔ مطیع فرمانبردار و نیک خصلت بنائے رکھنا خوبصورت بہادر اولاد نرینہ پیدا کرنا کامیاب ہونے کے راز۔ پرائیویٹ مشورے علم مستورات کے بے بہا خزینے اور خود سو سال تک جوان پہلوان بنے رہنا حمل میں لڑکا لڑکی کی پہچان۔ ہائے عورتوں اور مردوں کی مکمل تشریح۔ اور مجرب علاج درج ہیں۔ اصل قیمت (عہ) رعایتی (عہ) ایکروپیہ

انگلش ٹیچر

بلا مدد کسی استاد کے تھوڑے ہی عرصے میں انگریزی زبان سکھلا دیتی ہے۔ اصل قیمت (عہ) رعایتی (۱۲)

آتشک وسوزاک یعنی ہدایت نامۂ ایام۔ اشتہر کلاں۔ مخزنِ حکمت یادی۔ مفرداتُ الادویہ۔ کامل حکیم یا وید۔ جراحی پرکاش ہر دو حصہ۔ مجرباتِ افلاطون۔ مخزن اکسیر خفیہ ہر دو حصہ۔ طب متعلقہ عدالت۔ مکمل علاج امساک۔ محب امساک۔ حفظِ صحت حیوانات۔ مجربات لقمان۔

دارالشفاء اردو نثر۔ علم الکیمیا ہر دو حصہ۔ سدا جوانی۔ تریاق مجلوق ومفلوج۔ رسالہ مقوی باہ۔ علاج بے دوا۔ قرابادین ویدک۔ رسالہ کشتہ جات۔ آئینۂ قوت۔ لغات کا ہنجند درسی۔ لغات طبی کلاں۔ آئینۂ امراض۔

پاکٹ فارما کوپیا اردو سائنگریزی۔ رسالہ سل ودق۔ علاج بذریعہ پانی۔ علاج الاطفال۔ علاج بواسیر۔ علاج مارگزیدہ۔ علاج چشم۔ تریاق اعظم۔ آئینۂ تشخیص امراض۔ رسالہ خضاب۔ زینتِ شباب۔ فادِ زہر۔ مقناطیسی قوت۔ آئینۂ حکمت۔ رسالہ قارورہ۔

علاج المستورات۔ اکسیر الحیات دیسی۔ مخزن الادویہ انگریزی۔ انگریزی دیسی بیماری۔ پریکٹس آف میڈیسن وغیرہ۔ انگریزی وید کو علاج۔ کلید امتحانات طبی۔ مجربات طبی۔ صحیفۂ قدرت۔ کیمیائے حکمت بیجرز۔ علاج بیبی بارہ۔ اکسیروں کا علاج۔ ہومیوپیتھک طبیب۔ مفصل سبق علاج۔

سیتا بن باس۔ مہادھو کی بہادری۔ ستی پتی بیرتا۔ پتنی فریوگ۔ مکمل مہابھارت۔ لیلا ناول۔ قانون شرح الشہود۔ مجموعہ فتاویٰ۔ سوانح عمری شیر جی اور گنگا جی۔ شری بھگوت گیتا اردو ترجمہ اشلوک۔ تاریخ میواڑ۔ رہبر زندگانی۔

بھیجن سکنہ نادر کتب: شکنتلا ناٹک۔

شکنتلا مہابھارت۔ بھیجن ساڑھی۔ بھیجن چترتر پور کش۔ چندر مکھی مہاراج۔ مجموعہ بھجن۔ بھگتی مارگ۔ شری شتاتن۔ شکنتلا کرشن چرتر۔ شری مہاتما۔ شکنتلا پدماوت۔ بھیجن لڑائی۔ اورنگ زیب شاہ۔ دلی دربار۔ شکنتلا دانی سوامی۔ بھیجن ابلا کنواری۔ کنہیا کی یادگار۔

مشہور ومعروف ناول: خوفناک انتقام۔ طرحدار معشوق۔ باوفا عاشق۔ جانباز سپاہی۔ بت شکستہ۔ خانہ بدوش لڑکا۔ نوجوان ایڈیٹر۔ قمار باز۔ پراسرار لیڈی۔ شہید محبت۔ عاشق وطن۔ نپولین بونا پارٹ۔ شوقِ وصل۔ حورِ حرم۔

مولوی عبدالحلیم شرر: دلکش ہر سہ حصہ۔ شہید وفا۔ منصور موہنا۔ ملک العزیز ورجنا۔ حسن انجلینا۔ فردوس بریں۔ حسن بن صباح۔ بدر النساء اور اسکی مصیبت۔ انتخاب الکلام۔ اردو سائیکلوپیڈیا ہر دو حصہ۔ چندر شانتا۔ شاہی جاسوس۔ ناوک دلگداز۔

ملنے کا پتہ: کیشو رام مہرہ بک سیلر اندرون شاہ عالمی گیٹ لاہور

کارخانہ جڑی بوٹی لاہور کی تجربہ شدہ سریع التاثیر اور مجرب ادویات

برقی گولیاں

ان گولیوں کے استعمال سے ہر قسم کی بیماریاں مثلاً جریان شہوت - احتلام - کمزوری - نامردی - وغیرہ دور ہوتی ہیں حلق سے اُترتے ہی اپنا جادو بھرا اثر دکھاتی ہیں - دماغی طاقت پیدا ہوتی اور بھوک خوب لگتی ہے - آزمائیے - اور فائدہ اُٹھائیے - اس سے بڑھکر دنیا میں طاقت بڑھانیوالی سستی دوائی بمشکل ملے گی - قیمت ۳۲ گولی معہ محصول - (للعہ) قیمت ۱۴ گولی معہ محصول (ع۸) دو روپیہ چھ آنے -

برقی طلاء

اس تیل کی بیرونی مالش سے قوت پیدا ہوتی ہے - برقی گولیوں کے ہمراہ اسکا استعمال کرنا بجلی کا اثر پیدا کرتا ہے - قیمت فی شیشی کلاں معہ محصول (للعہ) قیمت فی شیشی خورد معہ محصول (ع۸)

آتشک کی گولیاں

ان گولیوں کے استعمال سے پہلے سے پُرانا آتشک بھی جڑ سے چلا جاتا ہے - یہ بڑی نامراد مرض ہے - اگر جلدی علاج نہ کیا جائے - تو پھر اور کئی قسم کی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے - اسی واسطے جب کسی کو یہ نامراد مرض ہو تو فوراً ایک پیسہ کا کارڈ لکھکر دوائی طلب کریں - قیمت (سے) مرہم برائے زخم آتشک (۱۲؍) بارہ آنے -

سفوف دافع سوزاک

پیشاب کرتے وقت جلن ہوتی ہو - پیپ پڑتی ہو - تو ہماری دوائی استعمال کرو - ایک دو دن کے استعمال سے جلن بند ہو جاتی ہے - ایک ہفتہ کے استعمال سے مرض کافور ہو جاتی ہے - ایک ماہ کے استعمال سے تو نام کو نہیں رہتا - مریض بالکل تندرست ہو جاتا ہے - قیمت (سے) تین روپے -

دوائی دافع جریان

یہ عارضہ اکثر ناجائز تنبض - بے اعتدالی یا دیگر ایسے اسباب سے ہو جاتا ہے - پیشاب کرتے وقت پہلے یا پیچھے سفید رنگت میں جو اخراج ہوتا ہے - یہ گھن کی طرح اندر ہی اندر انسان کی طاقت چاٹتا رہتا ہے - ہمارے یہاں اس مرض کی مجرب دوائی موجود ہے - قیمت فی پیکٹ دو روپے - (عہ)

بواسیر خونی و بادی کی اکسیر دوائی

یہ موذی مرض تکلیف کے علاوہ ہر گھڑی ناپاک رکھتا ہے مریض علاج کرتے کرتے لاچار ہو کر مایوسی کی حالت میں خاموش ہو بیٹھتا ہے گھبرانے کی بات نہیں - ہمارے پاس اس کی حکمی اثر کرنے والی دوا موجود ہے - مسّوں کا درد قبض وغیرہ اس کے متعلق تمام شکایتیں دور ہو جاتی ہیں ہزاروں مایوس العلاج اس کے استعمال سے فائدہ اُٹھا چکے ہیں - قیمت - دو روپیہ (عہ)

نین امرت

آنکھوں کی جملہ امراض مثلاً جالا پھولا - غبار - دھند ککرے - خارش و سرخی کیلئے اکسیر ہے - دُکھتی آنکھ کیلئے اسمیں جادو بھرا اثر ہے ایک سلائی لگانے سے فوراً آرام - ایک شیشی تمام گاؤں کیلئے کافی ہے - چند یوم کے استعمال سے مستقل آرام - قیمت فی شیشی دو روپے (عہ)

پردانک دوائی

زعورتوں کے رحم سے سفید رطوبت کا گرنا جو انگریزی میں لیکوریا اور عورتوں کو پردر روگ جسکو لیکوریا کہتے ہیں - آجکل نوے فیصدی سے بھی زیادہ ہے اس موذی بیماری کے شروع ایام میں عورتیں مارے شرم کے چھپا رکھتی ہیں - بعد ازاں جب یہ زور پکڑ جاتی ہے تب اس مرض کی بابت کسی سے ذکر کرتی ہیں - چونکہ یہ مرض عورتوں میں کثرت ہو گئی ہے - اسلئے ہر ایک یہی جواب دیتی ہے - کہ ہوا کرتی ہے - اس مرض کے زیادہ بڑھ جانے پر یہ علامات مثلاً دل کا دھڑکنا - سر میں چکر کا آنا - ہونٹوں کا خشک ہونا - کمزوری - بھوک کم - غشی کا ہونا - سستی کا بڑھنا پیدا ہو جاتی ہیں - اسلئے جب اس بیماری کا پتہ لگے فوراً اس دوائی کو منگوا کر اسکا استعمال کرانا چاہیئے - جو کہ تین ہفتہ کے استعمال سے اس بیماری کو جڑ سے ناش کر دے گی - قیمت تین ہفتہ تین روپے (سے)

طاقتور دوائیوں کا بادشاہ

خالص مکرو دھج

یہی رسائین ہے - کہ جس کے استعمال سے بوڑھے جوان اور جوان تندرست ہو جاتے ہیں - ضعف دماغ - ضعف بصارت - ضعف قوائے رئیسہ کے لئے بے مثل ہے - یہی رس ہے - جو دل و جگر کی کمزوریوں کو چند یوم کے استعمال سے اصلی حالت پر لے آتا ہے - اور دھات کو گاڑھا کرتا ہے باہ کو بڑھاتا ہے - خون کی صفائی میں اسکے افعال و خواص تمام رسائینوں سے اعلیٰ ہیں - پرانے بخاروں دکھانسی کے لئے نہایت ہی موثر زود اثر دوا ہے - قیمت فی تولہ چالیس روپے (للعہ) ایک ماہ کی خوراک (سے)

گلابی تیل

حُسن افزا تیل - اس تیل کے چہرے پر مالش کرنے سے چہرے کی چھائیاں - کھٹہ - سیاہ داغ - کیل دور ہوتے ہیں - قیمت فی شیشی (۱۴؍)

بہرہ پن کی عجیب دوائی

یہ مرض اس قابل نہیں - کہ بے پروائی سے چھوڑ دیا جائے - اور اس کی طرف توجہ نہ کی جائے - بلکہ قوت سامع اگر آدمی میں نہ ہو تو وہ بہت سی اپنی ضرورتوں میں ناکام رہتا ہے - اپنی تو وہ دوسروں میں کہہ دیتا ہے - مگر دوسرے کی اُسے مطلق خبر نہیں ہوتی ایسی نادر چیز کا برقرار عین خوشی ہے - ہماری اس دوائی سے بہت جلد بہرہ پن دور ہو جاتا ہے - جلد طلب فرمائیے قیمت فی شیشی کلاں - ایک روپیہ (عہ)

دمہ کی مجرب دوائی

دمہ بھی کیا تکلیف دہ مرض ہے - دو قدم چلے - کہ دم پھولنے لگا - ذرا کام کرنا - زینہ سے چڑھنا اُترنا تھوڑی دور چلنا جان پر دشوار ہوتا ہے - غرض موت اس زندگی سے ہزار درجہ بہتر ہے - قیمت دو روپیہ (عہ)

کھانسی خشک و تر کی گولیاں

کھانسی خشک ہو یا تر بہت جلد آرام ہو جاتا ہے - بسبب کے مزاج کو بھیں - ۵۰ عدد کی قیمت (۸؍)

خارش خشک و تر کی دوائی

یہ دوائی خارش خشک و تر کو بہت جلد آرام کرتی ہے - قیمت فی ڈبیہ - (عہ)

کیشوری خضاب

یہ خضاب ۵ منٹ میں سفید بالوں کو سیاہ بھنور کر دیتا ہے - کوئی داغ دھبہ نہیں دیتا - دو منٹ میں بالوں کو کھڑے کھڑے لگایا جا سکتا ہے - رنگ پختہ اور بالوں کو مثل ریشم کے ملائم رکھتا ہے - قیمت - دو روپیہ (عہ)

کیشوری ہیر آئیل

یہ بالوں میں لگانے کا اعلیٰ درجہ کا خوشبودار تیل تیار کیا گیا ہے - اسکے استعمال سے سر کے تمام امراض رفع ہو جاتے ہیں - بالوں کو مضبوط اور سیاہ رکھتا ہے - خوشبو نہایت عمدہ - ایک شیشی ضرور منگوا کر دیکھو - قیمت فی شیشی - ایک روپیہ چار آنے (عہ)

ڈاڑھی مونچھ بڑھانیوالا تیل

بغیر ڈاڑھی - مونچھ کے بھی آدمی کا چہرہ کیسا بے رونق اور بلا رعب والا معلوم دیتا ہے - جس وقت کسی صاحب کے چہرہ پر مونچھوں کی کمی ہوتی ہے - وہ چہرہ کیسا ڈراؤنا معلوم ہوتا ہے - چہرہ کی خوبصورتی دس حصہ گر جاتی ہے - ہمارا تیل ڈاڑھی مونچھ کو بڑھا کر خوشنما بنا دیتا ہے - جنکو مونچھیں بڑھانے کا شوق ہو یا کسی کے بال نہ اُگتے ہوں - اس تیل کے لگانے سے اس جگہ بال اُگ آتے ہیں قیمت فی شیشی بارہ آنہ (۱۲؍)

بال اُڑانیکا بصر پوڈر

بغیر جلن اور جلد کو بنا کسی قسم کی تکلیف کے بالوں کو ۵ یا چھ منٹ میں دور کر کے کھونٹی تک نہیں چھوڑتا بلکہ جلد کو ملائم - چکنی اور خوبصورت بنا دیتی ہے - قیمت فی بکس (۸؍)

قبض کشا گولیاں :- ایک گولی رات کو سوتے وقت کھا جاؤ - صبح اجابت بافراغت ہو گی - قیمت ۳۲ گولی - (۸؍) ۹۶ گولی - ایک روپیہ (عہ)

فہرست کشتہ جات

کشتہ سونا - فی تولہ - ٣٠	کشتہ ہڑتال - فی تولہ سے
" فولاد - " " - عہ	" سنگ یشب - " " - عہ
" چاندی - " " - ۶	" جست - " " - عہ
" قلعی - " " - عہ	" سیپ - " " - عہ
" تانبا - " " - عہ	" پیتل - " " - عہ
" ابرک - " " - عہ	" سنگ جراح - " " - عہ
" پارہ - " " - عہ	" کوڑی - " " - ۸
" سونا مکھی - " " - عہ	" منڈور - " " - عہ

نوٹ :- حکیموں - ویدوں کیلئے خاص رعایت ہے جو بذریعہ خط و کتابت دریافت فرما سکتے ہیں ؛

ملنے کا پتہ کیشو رام مینیجر کارخانہ جڑی بوٹی اندرون شاہ عالمی گیٹ - لاہور

ایسا نادر موقعہ پھر ہاتھ نہیں آئیگا۔

ایک روپیہ کی کتابیں تین آنے میں

آپ خریدیں اور اپنے دوستوں کو خریدنے پر مجبور کریں۔

یہ کتابیں جو ہر ایک پہلو سے نہایت عمدہ اور ملک میں مقبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ جو آجتک پوری قیمت پر فروخت ہو رہی تھیں صرف فائدہ عام کی خاطر بحساب ایک روپیہ کی کتب تین آنہ میں دیجائینگی۔ ظاہر ہے کہ اسمیں فرضی رعایت کا کوئی ڈھکوسلہ نہیں۔ فرمائش جلد بھیجیں۔ جو کتاب ختم ہو جائیگی جتنی موجود ہونگی۔ اُتنی ہی روانہ کیجائینگی کیونکہ جو کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دوبارہ مشکل سے چھپتی ہے۔ یہ کتابیں ایک روپیہ سے کم نہ بھیجی جائینگی محصولڈاک بمعہ پیکنگ خرچ بذمہ خریدار ہوگا جتنی قیمت جنتری ہذا میں درج ہے اُس سے کم ہرگز نہ لیجائیگی۔

نام کتاب

- مسٹریز آف انڈیا ہر دو حصہ
- مسٹریز آف افریقہ
- مسٹریز آف لنڈن
- مسٹریز آف کشمیر
- مسٹریز آف سکوٹ
- مسٹریز آف پنجاب
- مسٹریز آف سائنس
- مسٹریز آف انگلینڈ
- مسٹریز آف کابل
- مسٹریز آف دہلی
- مسٹریز آف پولیس
- مسٹریز آف جہازات
- مسٹریز آف شالامار باغ
- مسٹریز آف دنیا
- مسٹریز آف سمرقند
- مسٹریز آف جاپان
- مسٹریز آف خانگی

سوانح عمریاں

- گورو گوبند سنگھ جی
- گورو نانک دیو جی
- مہاراج
- گورو تیغ بہادر
- مہاراجہ رنجیت سنگھ
- ہری سنگھ نلوہ
- مہارانا پرتاپ سنگھ
- مہاراجہ پرتھوی راج
- مہارانا امر سنگھ
- سری کرشن جی
- مہاراجہ سری رامچندر جی
- مہاتما بدھ
- راجہ ہری چند
- بکرماجیت اعظم
- مہاراجہ بھرج
- رانا سانگا
- سوامی دیانند سرستی
- ہنومان جی کا جیون چرتر

نام کتاب

- راجہ بیربل
- حیات ٹوڈرمل
- ملاد دیوانہ
- حالات تان سین
- تانتیا بھیل
- کولمبس
- جلال الدین محمد اکبر
- شہنشاہ ہند
- سکندر اعظم
- شیخ ابوالفضل
- حضرت ابوبکر صدیق رضہ
- حضرت عثمان رضہ
- دوست محمد خان
- قطب الدین بختیار کاکی رحہ
- حیات حیدر
- حیات ٹیپو سلطان
- شہنشاہ بابر
- حیات اورنگ زیب
- حاتم طائی
- آئینہ سکندر
- قیس عامری مجنوں
- لیلا دتی
- پدمنی
- چنچل کماری
- کرنلا کماری
- تارامتی سیوپا
- مہارانی جودھپور
- مہارانی اودے پور
- ارجن کی رانی
- قزاق کی بیٹی
- حیات ملکہ چین
- خواتین اسلام
- نواب زیب النساء بیگم
- مریم
- نور جہاں جہانگیر
- گنوار کا بھرجن
- بیزار خاوند
- ایک انوکھی عورت
- گستاخ عورت
- ایک عورت چار خاوند

نام کتاب

- وہ عورت جس نے کر کے دکھایا
- بے صبر عورت
- خوبصورت مالن
- وفادار عورت
- چالاک عورت
- تعلیم نسوان
- فریبی عورت
- شیردل راجکماری
- زبردستی کی شادی
- بہن کا سرمایہ
- بھائی نے اُڑا دیا
- بچھڑی ہوئی دلہن
- انتخاب دلہن
- مایوس دلہن
- شہر کی بیٹی
- کرنیل کی بیٹی
- عالمگیر کی پیاری بیٹی زیب النساء
- خون عاشق
- بامراد عاشق
- کامیاب عاشق
- نتیجہ عشق
- آئینہ عشق
- گلزار عشق
- انجام عشق
- شعلۂ عشق
- قتل عشاق
- عاشق صادق
- ناکام محبت
- بدقسمت معشوقہ
- انجام محبت
- انجام الفت
- محبت کا چشمہ
- وصل ممتاز
- حسرت وصل
- رازِ دل
- عورت کا قاتل
- خون آرزو
- گلشن محبت
- جمیلہ کی معشوقہ

نام کتاب

- رشک قمر
- شہید ادا
- کامل عیار
- خوبصورت ڈاکو
- پُراسرار ڈاکو
- انارکلی کلاں
- رازِ محبت
- اسرار حسن
- انمول ہیرا
- یوسف زلیخا ناول
- انتقام عبرت
- جوانا مرگ
- میرے خاوند کا راز
- جمیل و شکیلہ
- سوہنی مہیوال
- لطرز ناول
- ہیرا انجھا لطرز ناول
- پریتم تارا
- بیگم و طلال
- نزاکت حسن
- عبرت انگیز
- بندوق باز بابو
- محبوبہ کا قاتل
- خوبصورت بہو
- حسن کشمیر
- محبوبہ کشمیر
- شہنشاہ جہانگیر
- محبوبہ گریش
- انتقام ہر دو حصہ
- روح لیلے
- تقدیر کا چکر
- دھوکہ باز کمالات
- انگلستان
- عمر پاشا مکمل
- جنت الفردوس
- شادکام
- جادو گر
- مسرار حرم
- سپاہی کی دلہن
- آہ مظلوم

نام کتاب

- گردش تقدیر
- خون مظلوم
- کنیز فاطمہ
- کامنی
- شمسہ ہر دو حصہ
- لال کپتان
- نیم حکیم خطرہ جان
- دیانگاہ
- حفاظت پدر
- بنگالے کا چاند
- نقلی بابو
- بنگالی جنٹلمین
- دو جورو کا شوہر
- منہ بولتا
- خودکشی
- صبح زندگی
- نکات قدرت
- رسم و رواج
- چالاک مرد
- رشک حور
- فریب محبت
- نل دمینتی
- موت یا فتح
- مہاتما ولیم درشن
- بھارت کی مشہور دیویاں
- جوہر زندگانی
- قتل الگزینڈر
- ممتاز ناول
- عشرت و نزاکت
- جوانی دیوانی
- روح فروشی
- شکنتلا ناٹک
- آئینہ مصیبت
- بھول بھلیاں ناٹک
- گلزار زینت
- خون دلربا
- مرد بیوفا
- اُٹھتا جنازہ
- دارالفناہ
- خوبصورت بلا

نام کتاب

- راجہ بھرتری ناٹک
- اسیر حرص ناٹک
- کنک تارا ناٹک
- ستارہ گردش ناٹک
- حقیقت رائے دھرمی ناٹک
- موتیوں کی لڑی
- جنتر درپن
- جاپانی اسیر
- نیرنگ دنیا
- سسی سوہنی
- ڈرٹڈ ڈھم
- مذہبی قربانی
- مرقع اقوام عالم
- عیار مارمہ
- ہیرے کی انگوٹھی
- قاتل کی غلطی
- شرح حروف
- شادی غم
- جنٹلمین بنانے کیوں
- میری مٹی خراب کی
- چالاکیوں کا مرقع
- شنکو کی پولیس
- پھر تو آج سے
- میری زوجہ نہیں
- آغاز عالم
- گلدستہ پارسائی
- صفت عجائبات عالم
- گلزار لطف
- ناول دلسوز
- ناول دلنواز
- گدڑی میں لعل
- نیکی پرتا استری کولال
- واقعات عجیبہ یورپ
- امیرانہ غریبانہ زندگی
- سیاہ فام کی شادی
- سچی قربانی
- عیار قلندر
- الوادر الو کا پٹھا
- عزیز بانو
- مسعود جمیلہ
- سچی چھڑ یا

ملنے کا پتہ:- کے آر مہرہ برادرس تاجر کتب لاہور

اندرون شاہ عالمی

رجسٹرڈ رجسٹرڈ

کشمیری کوک شاستر

باتصویر ۹۶ نیا رنگ نیا ڈھنگ

یہ ۹۶ دورنگی تصویرون والی دلچسپ کتاب کل ہندوستان بھر مین کسی کے پاس نہین ہے
یاد رکھین
(دوسو صفحے اور ۹۶ تصویرین)
یاد رکھین

اسمین ۹۶ دورنگی یعنی سُرخ اور سبز دورنگ کی تصویرین بطرز فوٹو نہایت عمدہ اور خوبصورت ہندوستان کے مشہور شہر کانپور کی بنی ہوئی ہین جو کہ پڑھنے والون کے دلون کو خوش کر رہی ہین۔ ہمارے سوا اور کوئی شخص کشمیری کوک شاستر چھاپنے کا حق نہین رکھتا۔ اس لیئے آپ ہمیشہ دفتر کشمیری کوک شاستر کا پتہ یاد رکھین۔ اس مین

پدمنی — چترنی — ہستنی — سنکھنی

چارون عورتون کی قسمین اور اونکی شناخت۔ زنانی مردانی بیماریون کا علاج۔ نیک و بد عورت کی پہچان حسب مرضی اولاد نرینہ پیدا کرنا۔ کوک پنڈت سابق وزیر اعظم مہاراجہ کشمیر کے ذاتی مجرب ٹوٹکے معہ **سوانح عمری**۔ عورت کو عمر بھر خوبصورت تندرست **جوان فرمانبردار** بنائے رکھنا۔ خود پورے **سو سال** تک تندرست رہنا۔ حمل مین لڑکا لڑکی کی پہچان۔ بانجھ عورتون کا علاج۔ **عورت مرد کا جوڑا**۔ عورتون کے متعلق اور بہت سی پوشیدہ باتین جو بیان لکھنی مناسب نہین۔ ہمارے ۹۶ دورنگی تصویرون والے کشمیری کوک شاستر مین صاف صاف درج ہین۔ اس کتاب کے پڑھنے سے آپ کو وہ لطف حاصل ہوگا جو کہ دوسری دس بیس کتابون کے پڑھنے سے نہ ملیگا۔ باوجود ان سب خوبیون کے قیمت صرف ایک روپیہ گیارہ آنہ (۱؎۱۱؍) محصولڈاک ۵؍ فیس منی آرڈر ۲؍۔ دو کتابون کے خریدار کو محصولڈاک معاف ہے۔ تین کتابون کے خریدار کو فیس منی آرڈر بھی معاف ہے۔

پانچسو روپیہ انعام جو شخص یہ ثابت کر دے کہ ہمارے کوک شاستر مین کانپور کی بنی ہوئی تصویرین نہین ہین اوسکو پانچسو روپیہ انعام دیا جائیگا۔

مفت نذر۔ ہماری کتاب کے خریدار کو رسالہ **فن تماش بینی** مفت نذر ہوگا۔ **دھوکے سے بچو**۔ ہماری کتاب کے دوسو صفحے مضمون کے ہین۔ تصویرون کے صفحے الگ ہین۔ آپ کسی دوسری جگہ سے کتاب منگوانے سے پہلے صفحے و تصویرین دریافت کرلین۔ دوسو صفحے اور ۹۶ تصویرین یاد رکھین قیمت ایکروپیہ گیارہ آنہ ۱؎۱۱؍

ملنے کا پتہ
دفتر کشمیری کوک شاستر نمبر ۳ لودیانہ (پنجاب)

لائق حکیم

مختصر فہرست مضامین

جوہر کرامات

لائق وکیل

قانون کی لاجواب کتاب

قیمت

انگلش ٹیچر

مصر کا جادو

صابون سازی

اعلیٰ درجے کے سنہری قابل دید زیورات جن سے عورتوں کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے
ملنے کا پتہ - بابو چمنی رام اینڈ سنز نمبر ۳ - لودیانہ - پنجاب

چاندی سے زیادہ آبدار جرمنسلور کے زیورات
سنہری موتیوں کا نولکھا ہار
سنہری خوشنما پہونچی
چندن ہار
طوق نایاب
سنہرا تعویذ
بازو بند عمدہ
ملنے کا پتہ - بابو بینی رام اینڈ سنز نمبر ۳ - لودیانہ - پنجاب

سوانگ تماشے کیلئے نایاب بال

زنانے بال سیاہ

یہ بھی زنانے بال ہیں جنکو تھیٹر میں لڑکے لگاکر عورت معلوم ہونے لگتے ہیں اور اصل و نقل میں تمیز نہیں ہوتا ہے قیمت ایکروپیہ آٹھ آنہ عہ

زنانے بال لانبے سیاہ

بہت ہی لانبے اور بہت عمدہ ہیں۔ جو شہزادی وغیرہ کے سوانگ میں کام آتے ہیں انکی نفاست قابل دید ہے قیمت صرف تین روپیہ آٹھ آنہ ؏

لانبی نفیس داڑھی

ہر داڑھی کے لگانے سے شکل مقطع ہو جاتی ہے صرف تسبیح کھٹکانے کی کسر رہ جاتی ہے۔ کالی یا سفید قیمت سوا روپیہ ؏

گول خوشنما داڑھی

یہ گول داڑھی بہت خوبصورت ہے اسکے لگانے سے چہرہ رعبدار ہو جاتا ہے کالی یا سفید قیمت ایکروپیہ ؏

رعبدار گلمچھ

یہ گلمچھ کوتوال - جمعدار - ڈاکو - جلاد اور بہادر کے سوانگ میں کام آتی ہے اصل اور نقل میں تمیز نہیں ہوتا قیمت ؏

مردانے سیاہ پٹے

یہ مردانے سر کے سیاہ پٹے بہت عمدہ اور مانند اصلی کے ہیں جو سوانگ میں بہت کام آتے ہیں قیمت ڈیڑھ روپیہ ؏

فقیرانہ جٹا

یہ جٹا سادھو وغیرہ کے سوانگ میں بڑا لطف دیتی ہے کالی جٹا ؏ لال جٹا ؏ سفید جٹا ؏

رعبدار مونچھ

یہ مونچھیں بہت ہی بڑی شاندار ہیں انکے لگانے سے چہرہ رعبدار ہو جاتا ہے کالی مونچھ یا لال یا سفید فی مونچھ ؏

اگر گرمیوں کا موسم آرام سے گذارنا ہے تو فوراً

یہ جیبی پنکھا منگا لیجئے

حضرات! واقعی یہ نو ایجاد جیبی پنکھا نہایت مفید اور کارآمد چیز ہے۔ موجد نے اسکو ایسی ترکیب سے بنایا ہے کہ دیکھکر طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ ہوا اسکی ایسی تیز ہے کہ خواہ کیسا ہی پسینہ گرمی سے بہتا ہو دو منٹ کے اندر پسینہ خشک کرکے دل کو نہایت مسرور کر دیتا ہے۔ شکل بالکل بجلی کے پنکھے کی طرح ہے۔ صرف ایک بٹن دبانے سے بجلی کے پنکھے کی طرح تیز چلتا ہے اسمیں کسی مصالحہ کے ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اسکو ہر وقت جیب میں رکھ سکتے ہیں۔ جب ضرورت پڑے فوراً جیب سے نکالکر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے دل کو خوش کرلو۔ قابل قدر تحفہ ہے۔ قیمت اسکی بمقابلہ اسکے فوائد کے بالکل کم رکھی ہے یعنی صرف دو روپے آٹھ آنے ؏ معہ محصولڈاک۔

سیر جہاں نما بین

صاحبان! یہ نو ایجاد جیبی سیر بین بالکل تازہ چالان کی ہمارے یہاں آئی ہیں۔ اسکے ذریعہ دریا۔ پہاڑ۔ جنگل۔ بڑے بڑے شہروں کی مشہور عمارت کے فوٹو۔ خوبصورت لیڈیوں کی تصویریں سبزہ زاروں کی سیر۔ ریل و سمندر و جہازوں کے نظارے نہایت عمدگی سے اس طرح نظر آتے ہیں کہ اصل چیز کا نظارہ سامنے آجاتا ہے۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اصل چیز سامنے موجود ہے۔ چونکہ ہمنے براہ راست تھوک مال منگوایا ہے اس لیئے نہایت ارزاں قیمت پر فروخت کر رہے ہیں۔ اس سیر بین کے ہمراہ تیس ۳۰ عدد تصویریں نہایت عمدہ دلخوش کن نظاروں کی مفت دی جاوینگی قیمت معہ محصولڈاک وغیرہ صرف ؏

سیفٹی ریزر یعنے حجامت بنانے کی مشین

دو روپیہ آٹھ آنہ

اصلاح خط سر کی خود ہاتھ سے کرلو بے مشق سکھاتا ہے یہ استاد غضب ہے لیجئے حجام کی بھی ضرورت برطرف۔ ایک پاکٹ استرہ منگا لیجئے اور بلا تکلیف اپنے ہاتھ سے آن واحد میں بال صاف کرلیجئے۔ بال زیر ناف تو ایسی آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں کہ دوسرے استرے نا ممکن۔ جنٹلمین اسکو بہت پسند کرتے ہیں۔ قیمت عمدہ قسم عمدہ فالتو بلیڈ صرف ؏

میرٹھ کی مقراض

یہ میرٹھ کی قینچی جسکی بارہ بہت تیز اور لوہا پختہ ہے اس سے موٹے کپڑے کی کئی تہیں باسانی کٹ جاتی ہیں نمبر اول ؏ نمبر دوم ؏

آتشی شیشہ

اس سے مشکل حروف بہت صاف پڑھے جاتے ہیں اور پانی کے اندر کے باریک کیڑے صاف نظر آتے ہیں۔ یہ بہت کارآمد اور ضروری چیز ہے قیمت ایکروپیہ آٹھ آنہ ؏

ملنے کا پتہ - بابو چھبی رام اینڈ سنز نمبر ۳ - لودیانہ - پنجاب

یہ وہ رسٹ واچین اور کارآمد اشیا ہیں جن کی جا بجا قدر کی جاتی ہے
ٹیلیگراف یعنی تار سیکھنے کی ڈبی
بجلی کے لیمپ
لودیانہ - پنجاب

طاقت کی سنہری گولیان

نام گورنمنٹ آف انڈیا سے رجسٹری کرایا گیا ہے

ان گولیون کی زیادہ تعریف کرنا طاقت فانون کے خلاف ہے تاہم لکھ دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ تمام پوشیدہ باتین چھپانے اور گھبرانے مین شرم نہ کرین۔ چند یوم مین دور کر کے آپکو طاقت بخش دیگی۔ طاقت کی سنہری گولیان درد سر دور کرتی ہین اعضا مین چستی و کامل کا ہونا ضعف دماغ اور جگر کو طاقت دیتی ہین۔ یہ گولیان ہر ایک موسم مین استعمال کی جا سکتی ہین گرمی اور سردی کا اثر کوئی نہین پڑتا۔ یاد رکھو کہ یہ گولیان تمام نقصون و خرابیون کو دور کرکے بیماری کو جان مین ڈال دیتی ہین باوجود ان سب اوصاف و خوبیون کے قیمت نہایت ہی کم رکھی گئی ہے قیمت ۲۵ گولی ۲ روپیہ ۵۰ گولی چار روپے للعہ ایک بکس ضرور منگوائیے۔

طلاء اکسیر اعظم

جو لوگ بچپن کی غلط کاریون مین پھنس کر کمزور ہو گئے ہون انکے لیے یہ طلاء اکسیر کا کام دیتا ہے اس طلاء کے چند روز استعمال سے ہی رگون پٹھون کی کمزوری دور ہو کر طاقت آ جاتی ہے۔ بڑی خوبی یہ ہے کہ اسکے لگانے سے کسی قسم کی سوزش نہین ہوتی اور نہ آبلہ پڑتا ہے فی شیشی دو روپے ۲ع

طاقت کا مکمل بکس

جسمین ایک بکس عمدہ طاقت کی سنہری گولیان اور ایک شیشی طلاء اکسیر اعظم ہوگی قیمت فی بکس معہ محصولڈاک صرف پانچ روپے ادا کرنا ہوگا۔ ۵ع

درباری خضاب

ہمیشہ درباری خضاب استعمال کرو

رجسٹرڈ

صرف ایک شیشی کا ہی قیمت عہ

ناظرین یقین جانئے کہ ہم نے بڑی محنت و کوشش اور تجربہ سے نہایت اعلی درجہ کا درباری خضاب ایجاد کیا ہے جو نہایت شوقینون دلبرون اور خوش مزاجون کیلئے ایک بہت عمدہ تحفہ ہے خضاب لگاکر سیاہ بال ہو جاتے ہیں ۔۔۔ بال بالکل سیاہ ریشم کی طرح ملائم اور خوبصورت کر دیتا ہے ۔۔۔ کسی قسم کی کمزوری پیدا نہیں ہوتی سیاہی دیر تک قائم رہتی ہے۔ درباری خضاب ۔۔۔ لطف یہ کہ کوئی بھی معلوم نہ کر سکیگا کہ آپ خضاب لگاتے ہیں ۔۔۔ قیمت ۔۔۔

خوبصورت بنو

اسکے استعمال سے چہرے کے داغ دھبے۔ کہاسے۔ جھریان۔ چھائیان۔ بدصورتی اور سیاہی دور ہو کر چہرہ مانند گلاب کے پھول کے نکل آتا ہے۔ عورتون کے لئے یہ عجیب تحفہ ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ عہ

خوشبودار صابن

نیم کا صابن۔ بادام کا صابن۔ شگفتہ کا صابن۔ گلاب کا صابن۔ کاربالک صابن۔ مکھن کا صابن۔ کافور کا صابن۔ کیوڑہ کا صابن۔ خارش کا صابن۔ الائچی کا صابن۔ سونف کا صابن۔ دل بہار صابن۔ چنبیلی کا صابن۔ خس کا صابن وغیرہ وغیرہ خوشبودار ہر قسم کے صابن ہمارے یہان سے ملتے ہین قیمت فی بکس ۳ ٹکیہ صرف ایک روپیہ عہ

جریان

افسوس کہ جریان کیسا برا مرض ہے۔ نامردی و ضعف اس سے پیدا ہوتا ہے ایک قسم کا گھن انسان کے جسم مین لگ جاتا ہے اور ہڈیون کو بوسیدہ کر دیتا ہے جسم مین کمزوری پیشاب سے قبل یا بعد سفید سفید دھات کا گرنا اور بدخوابی کا ہونا نطفہ کا قرار نہ پانا۔ درد کمر درد سر سستی کاہلی اور چہرہ پر بے رونقی سب جریان ہی سے پیدا ہوتی ہین ایسی صورت مین اگر آپ سفوف جریان کا استعمال کرینگے تو چند یوم مین تمام شکایتین رفع ہو جائینگی ہمارا دعوی ہے کہ اسکے استعمال سے کیسا ہی پرانا مرض کیون نہ ہو جڑ سے نابود ہو جائیگا نہایت مجرب ہے قیمت دس یوم کی ایک روپیہ چالیس یوم کی مکمل خوراک قیمت دس روپے ۵ع

دانتون کیلئے خوشبودار منجن

اس منجن کے استعمال سے دانتون پر کیسا ہی میل جما ہو صاف ہو جاتا ہے ہلتے ہوئے دانت مضبوط ہو جاتے ہین اور دانت مثل موتی کے چمکنے لگتے ہین قیمت عہ

بال اڑانیکا صابن

یہ اچھا صابن جس جگہ لگایا جاتا ہے اس جگہ کے بال بڑی صفائی سے اڑ جاتے ہین اور جسم پر کسی قسم کی تکلیف نہین ہوتی بلکہ وہ جگہ ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے فی بکس ۳ ٹکیہ ایک روپیہ عہ

سپاری پاک

اے مردو عورت ذات پر رحم کرو اور میری بات کان لگا کر سنو اور خوب یاد رکھو کہ عورتون مین تمام بیماریون کی جڑ ایام ماہواری کا ہی بگاڑ ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نوے فیصدی عورتون مین یہ بیماری بکثرت پائی جاتی ہے۔ اسکا کم و بیش آنا۔ جریان الرحم یعنی سفید پانی کا جانا۔ قبض۔ باد گولہ درد کمر۔ درد سر۔ پیلا رنگ اور بدہضمی کا ہو جانا اور اولاد کا نہ ہونا وغیرہ وغیرہ تمام بیماریون کے لیے ہمارا ایجاد کردہ سپاری پاک نہایت ہی اکسیر ثابت ہو چکا ہے۔ ہمارا سپاری پاک نہایت ہی خوش ذائقہ اور لذیذ ہے اس لیے عورتین مٹھائی کی طرح بخوشی کھا لیتی ہین اور ہر ایک موسم مین استعمال کیا جاتا ہے۔ قیمت بھی نہایت ہی صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ عہ بطور امتحان ضرور استعمال کرائیے۔

کالا سرمہ

یہ سرمہ عمدہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ آف انڈیا سے رجسٹری کرایا گیا ہے جو ضعف بصارت۔ تاریکی چشم۔ دھند۔ جالا۔ پڑوال۔ غبار۔ سرخی چشم۔ خارش۔ موتیا بند کے لئے اکسیر ہے نظر بہت دور تک ہو جاتی ہے۔ عینکی نظر کمزور ہو جانے کے لیے اس سرمہ کا استعمال نہایت ضروری بلکہ لازمی ہے۔ قیمت فی تولہ ایک روپیہ چار آنہ عہ تین تولہ صرف تین روپیہ ہے

ملنے کا پتہ۔ مینیجر درباری خضاب ورکس نمبر ۳ لودیانہ پنجاب

غور سے سنو

ہمارے براہ راست ولایت سے مال آتا ہے اور اسی وجہ سے ہماری کمپنی عمدہ مال سستا فروخت کرنے میں ہندوستان بھر میں مشہور ہے۔ تمام بڑے بڑے شہروں میں ہمارا مال جاتا ہے اور یہ مسلمہ بات ہے کہ ہم سے مال منگوانے والا خریدار ضرور ہی اور ہمیشہ نفع میں رہتا ہے۔ اسباب کو یاد رکھو۔ کیونکہ اسکو یاد رکھنے میں ہی آپکا نفع۔ فائدہ اور خوشی ہے +

دھوکے سے بچو

جھوٹے اشتہار بازوں کے دھوکے سے بچتے رہو یہ تجارت سے ناواقف لوگ دکھاوے کیلئے گھٹیا چیزیں رکھکر اور بالکل فضول اور لغو گپ شپ سے آپکو جال میں پھنسانیکی کوشش کرتے ہیں گپ شپ تو انکے اختیار کی بات ہے اسلئے جو کچھ بھی وہ چاہتے ہیں اشتہار میں لکھتے جاتے ہیں مگر مال عمدہ سپلائی کرنا انکے احاطہ اختیار سے باہر ہوتا ہے اسلئے ان لوگوں سے دوگنی تگنی قیمتوں پر بھی عمدہ مال نہ ملنے کا یقین رکھیں۔ ان سے بچتے رہنے میں ہی آپ کا فائدہ ہے ورنہ پچھتانا پڑیگا +

بجلی کا جیبی لیمپ



یہ لیمپ ایک بڑھیا کی شکل کا بنا ہوا ہے اور باسانی جیب میں رکھا جا سکتا ہے جس وقت روشنی کی ضرورت ہو لیمپ کا بٹن نیچے کھسکا دینے سے جھٹ روشن ہو جاتا ہے اور جتنی دیر آپکا دل چاہے روشن رکھیں پھر بٹن اوپر کر دینے سے بجھ جاتا ہے۔ روشنی بجلی کی تیز اور صاف ہوتی ہے دھوئیں کا نام و نشان نہیں خاص قابل ذکر خوبی یہ ہے کہ لیمپ جلتا ہی مگر سینک کا نام و نشان نہیں لالٹین میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس میں نہیں بلا شک و شبہ کے ہر ایک کے لئے یہ لیمپ کار آمد اور قابلقدر تحفہ ہے +

(۱) بجلی کا جیبی لیمپ بہت عمدہ قسم مکمل معہ بلب اور بیٹری دو روپیہ آٹھ آنے

(۲) تین رنگ یعنی سرخ سفید اور ہری روشنی والا بجلی جیبی لیمپ بہت عمدہ مکمل معہ بلب اور بیٹری تین روپیہ آٹھ آنے

(۳) بجلی کا جیبی لیمپ نہایت خوبصورت گرٹ کیس کے نمونہ کا بنا ہوا سگرٹ کیس کی طرح سائیڈ پر کھلنے والا اور نکلہ نقل دھات کا بنا ہوا نہایت خوبصورت مکمل معہ بلب اور بیٹری۔ تین روپیہ چودہ آنے

(۴) بجلی کا جیبی لیمپ بہت ہی عمدہ لالٹین کی طرح بنا ہوا جسکی روشنی سامنے کیطرف بہت ہی تیز پڑتی ہے اور ہاتھ میں پکڑنے کے لیئے یا لٹکانے کے لئے ہینڈل لگا ہوا ہے مکمل معہ بلب اور بیٹری چار روپیہ بارہ آنے

(۵) فالتو بیٹری کی قیمت ایک روپیہ اور فالتو بلب کی قیمت چار آنہ ہے۔ واضح ہو کہ ہر ایک لیمپ کے ہمراہ ایک بلب اور ایک بیٹری موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی نے ایک سے زیادہ بلب اور بیٹری لینی ہو تو مندرجہ بالا قیمت ہوگی +



بجلی کی مشعل

بیاہ شادی کے موقعوں پر اور بہت سے جلوسوں وغیرہ پر مشعلوں کی ضرورت پڑتی ہے اور معمولی تیل کی مشعلیں ایسے موقعوں کی بھیڑ بھاڑ میں خطرناک ثابت ہوئی ہیں بعض اوقات تو یہ مشعلیں خوشی اور شادی کو غم و رنج میں تبدیل کر دیتی ہیں اسلئے یہ بجلی کی مشعلیں ایجاد ہوئی ہیں جس وقت دل چاہے روشنی کرو اور جس وقت دل چاہے بجھا دو روشنی تیز اور صاف دور تک پڑتی ہے تیل اور دیا سلائی کا کام ہی نہیں بھیڑ بھاڑ میں ذرا بھی خطرہ نہیں جلتی ہوئی مشعل کپڑوں تک میں رکھی جا سکتی ہے جیبی لیمپ اور لالٹین کا بھی کام دیتی ہے۔ قابلقدر تحفہ ہے۔ قیمت مشعل بہت عمدہ قسم مکمل معہ بلب اور بیٹری سات روپیہ چودہ آنہ (۲) مشعل کی فالتو بیٹری کی قیمت دو روپیہ آٹھ آنہ اور فالتو بلب کی قیمت چار آنہ +

بجلی کا پھول

یہ بجلی کا پھول نہایت خوبصورت اور خوشنما ہے اسکے ساتھ خوبصورت ڈورہ اور بلب وغیرہ سب سامان موجود ہے کیس میں بیٹری ڈالکر ڈورہ لگا دیا جاتا ہے پھول کو کوٹ یا واسکٹ کے بٹن کے سوراخ یا کسی موزوں جگہ لگا کر کیس کو جیب میں ڈالا جاتا ہے۔ اب کیس کا بٹن نیچے کھسکا تے ہی پھول روشن ہو جاتا ہے روشنی بجلی کی ہی ہے پھول نہایت ہی خوشنما اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے روشنی سامنے پڑتی ہے اور روشنی بجلی کی تیز اور صاف ہوتی ہے جس وقت چاہو بٹن اوپر کھسکا دینے سے پھول بجھ جاتا ہے لاجواب تحفہ ہے ضرور منگوا کر ملاحظہ فرمائیں۔

قیمت پھول مکمل معہ کیس اور بیٹری تین روپیہ بارہ آنے (عہ ۱۲/)

(۲) فالتو بیٹری کی قیمت ایک روپیہ

بجلی کی لالٹین



یہ بجلی کی چھوٹی لالٹین واقعی ہر ایک کیلئے ایک نہایت ہی مفید اور کار آمد چیز ہے اسکی شیپ جو رسں لالٹین جیسی ہے اور قد اتنا چھوٹا ہے کہ کوٹ کی بڑی جیب میں باسانی رکھی جا سکتی ہے ہاتھ میں پکڑنے کیلئے یا کسی جگہ لٹکانیکے لئے ہینڈل لگا ہوا ہے روشنی سامنے پڑتی ہے بیٹری بڑا ہوتا اور اعلیٰ قسم کا ہونیکی وجہ سے روشنی نہایت تیز صاف اور دور تک پڑتی ہے اگر آپ کوٹھے پر سوئے پڑے ہوں رات کو آندھی اور بارش آجائے تو معمولی لالٹین کا جلانا اور جلتی رکھنا کیسا دشوار اور خطرناک ہے مگر اس بجلی کی لالٹین کیلئے گرمی سردی آندھی بارش سب وقت یکساں ہے۔ کمانی نیچے کرتے ہی لالٹین روشن ہو جاتی ہے اور آپکا دل چاہے روشن رکھیے پھر کمانی اوپر کرتے ہی لالٹین بجھ جاویگی سینک بالکل نہیں جاتی ہوئی لالٹین جیب میں رکھ لینے سے کچھ بھی اندیشہ نہیں واقعی ایک قابلقدر لاجواب تحفہ ہے اور گھر کے آرام اور آسائش کیلئے نہایت مفید اور کار آمد چیز ہے قیمت لالٹین بہت ہی بڑھیا عمدہ مکمل معہ بلب اور بیٹری پانچ روپیہ

(۲) لالٹین کی فالتو بیٹری کی قیمت ایک روپیہ اور فالتو بلب کی قیمت چار آنہ +

ملنے کا پتہ۔ منیجر جنرل ٹریڈنگ ایجنسی نمبر ۳ لدھیانہ (پنجاب)

اصلی راسکوپ سسٹم پیٹنٹ لیور واچ



یہ گھڑی اصلی راسکوپ سسٹم پیٹنٹ ہے اور اسکا ثبوت یہ ہے کہ اسکے ڈائل پر انگریزی میں راسکوپ سسٹم پیٹنٹ کندہ ہے اسکا ڈائل عمدہ ہے سوئیاں خوشنما ہیں ڈھکنے کے علاوہ پچھلی طرف شیشہ بھی موجود ہے اسکی چال لیور ہے ہماری گھڑی میں ایک اور بھی خوبی ہے کہ زیادہ چابی سے اسکا فنر نہیں ٹوٹتا یہ گھڑی مضبوط اور درست وقت دینے والی ہے +
قیمت معہ بکس و خوشنما زنجیر صرف ۳/۱۴ روپیہ
تین روپے چودہ آنے +

اصلی سکینڈ کی سوئی والی گارڈ واچ



یہ لیور چال والی اصلی گارڈ واچ ہے اور اسکا ثبوت یہ ہے کہ اسکے ڈائل پر ریلوے گارڈ واچ لیور کندہ ہے کیونکہ یہ گھڑی درست وقت دیتی ہے اس لئے ریلوے کے گارڈ بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں [illegible] خوبصورت [illegible] سکنڈ کی سوئی بھی ہے [illegible] غرضیکہ عمدہ گھڑی کی سب خوبیاں اس میں موجود ہیں باوجود ان سب صفات کے قیمت بہت کم ہے یعنی قیمت گھڑی در جہ اول سکنڈ کی سوئی والی معہ بکس و خوشنما زنجیر صرف پانچ روپیہ چھ آنہ

سکینڈ سوئی والی ریلوے ریگولیٹر واچ اعلیٰ قسم



اس نام کی گھڑیاں تو بہت ہوتی ہیں [illegible] ریلوے ریگولیٹر گھڑی کی [illegible] [illegible] خوشنما [illegible] قیمت اور نہایت [illegible] کیس [illegible] [illegible] اسکا فنر نہیں ٹوٹتا [illegible] قیمت گھڑی معہ بکس و خوشنما زنجیر [illegible]

ریلوے ریگولیٹر واچ



یہ لیور چال کی اصلی ریلوے واچ ہے کیونکہ یہ گھڑی درست وقت دیتی ہے [illegible] ریلوے کے ملازم [illegible] بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں [illegible] خوبصورت ہے کیپس [illegible] غرضیکہ عمدہ گھڑی کی سب خوبیاں اس میں موجود ہیں باوجود ان سب صفات کے [illegible] بہت کم ہے یعنی قیمت گھڑی [illegible] معہ بکس و خوشنما زنجیر [illegible]

آٹھ روزہ چابی کی گھڑی عمدہ قسم

اس گھڑی کی چابی آٹھ روز کی ہے یعنی ایک مرتبہ چابی دینے سے برابر آٹھ روز چلتی ہے ڈائل کے نیچے اسکی بنسری حرکت کرتی ہوئی عجب ہی بہار دکھاتی ہے اس کی شیپ ایسی خوشنما اور دلکش ہے کہ گھڑی کو دیکھتے دیکھتے طبیعت نہیں بھرتی اس گھڑی کے وقت میں کبھی فرق نہیں آتا مضبوط اور پائیدار اتنی ہے کہ ہم بخوشی دس سال کی گارنٹی کرتے ہیں آپ ایک گھڑی ضرور ہی منگوا کر ملاحظہ فرماویں آپ اسکو خرید کر خوش ہونگے
قیمت گھڑی معہ بکس و خوشنما زنجیر [illegible]
(۱) چاندی کے کیس کی چودہ روپیہ
(۲) چاندی کے کیس کی [illegible] کی اٹھارہ روپیہ

گولڈن ہنٹنگ واچ اعلیٰ قسم

سکینڈ کی سوئی والی ہنٹنگ کیس کی [illegible] گھڑی نہایت خوبصورت [illegible] [illegible]

راسکوپ سسٹم ریڈیم واچ

[illegible]

سکینڈ کی سوئی والی ریڈیم واچ

[illegible]

ملنے کا پتہ: منیجر جنرل ٹریڈنگ ایجنسی نمبر ۳ لدھیانہ پنجاب

سوپیریر پاکٹ ریڈیم واچ

اگر آپکو واقعی اعلیٰ اور بڑھیا ریڈیم کی رات کو اندھیرے میں بھی وقت بتلانیوالی گھڑی کی ضرورت ہے تو کم قیمت کا لالچ نہ کریں اور بلا تشک و شبہ ہم سے یہ سوپیریر پاکٹ ریڈیم واچ منگوالیں اسکی موومنٹ اعلیٰ ڈیزائن کی ہی خوشنما خوبصورت ہے شیشہ بڑھیا اور قیمتی لعل جیسی ہوا اس میں سیکنڈ کی سوئی موجود ہے اسکے وقت میں کبھی فرق نہیں آتا اسکا ریڈیم نہایت عمدہ اور خوب روشن ہوتا ہے خریدار کو خوش کردینے والی یہ گھڑی ہے باوجود ان اعلیٰ صفات کے اسکی قیمت مع بکس و عمدہ خوشنما زنجیر دس روپیہ

سیکنڈ کی سوئی والی فیور واچ



یہ گھڑی سب خوبیوں میں بڑھیا اور قیمتی گھڑیوں کے مقابل کی ہے یہ وقت درست دینے میں مشہور ہے مضبوط پائیدار خوشنما اور لیور کیپلیس ہے کل سلور کی ہے اور یہ ہنٹس اور گلاس ڈوم والی ہے نہایت عمدہ اعلیٰ درجہ کی ہے اور چونکہ اس گھڑی پر ہماری ایجنسی کا نام کندہ ہے اور ہم نے یہ گھڑی اپنی ایجنسی کو شہرت دینے کی غرض سے بنوائی ہے اسلئے اسکو ہر خاص و عام کے ہاتھوں میں پہنچانا مقصود ہے اور یہی وجہ ہے کہ قیمت گھڑی مع بکس و خوشنما زنجیر صرف سات روپیہ ہے

(۲) ریڈیم لیعنی رات کو اندھیرے میں بھی وقت بتلانیوالی مع بکس و خوشنما زنجیر آٹھ روپیہ

ویسٹ اینڈ واچ کمپنی کی چیلینجر واچ



ویسٹ اینڈ واچ کمپنی کی گھڑیاں دنیا بھر میں مشہور ہیں افسر اہلکار امیر رئیس راجے مہاراجے اس کمپنی کی گھڑی کو زیب تن کرنا فخر سمجھتے ہیں اسی کمپنی کی یہ چیلینجر واچ اسلئے مشہور عالم ہے کہ یہ غضب کی مضبوط پائیدار اور درست وقت دینیوالی گھڑی ہے اور ایکسیڈنٹ کی سوا ہی یہ کبھی خراب نہیں ہوتی ہے اسکے بگڑ جانیکا یا درست وقت نہ دینیکا ذرا بھی اندیشہ نہیں ہماری رعایتی قیمت اس گھڑی کی مع بکس و خوشنما زنجیر بیس روپیہ (۲) یہی گھڑی چھوٹے سائز کی قیمت مع بکس و خوشنما زنجیر انیس روپیہ

ویسٹ اینڈ واچ کمپنی کی کوہ نور اپنی رسٹ واچ



رسٹ واچز کا جھٹکا لگنے سے بگڑ جانیکا اندیشہ رہتا ہے ہاتھ پر لگی ہوئی گھڑی کو جھٹکا لگنے کا بار بار موقعہ ہو جاتا ہے اسلئے بڑے بڑے حکام اور فوجی افسر اور امیر رئیس ساہوکار جنکو دورے کا کام رہتا ہے اس گھڑی کو زیب تن کرتے ہیں اسکی غضب کی مضبوط پائیدار اور درست وقت دینے والی گھڑی پر جھٹکوں کا اثر ہی نہیں ہوتا قابل قدر سمجھی ہے ہماری رعایتی قیمت گھڑی مع عمدہ سٹریپ کے صرف بائیس روپیہ آٹھ آنے

گھنٹہ آدھ گھنٹہ بجانیوالا اور تاریخ بتلانیوالا آٹھ روزہ چابی کا اعلیٰ درجہ کا افسر کلاک ٹراوس...



یہ ایک انگوٹھی کی جوڑیدار گھڑی نئی ایجاد ہوئی ہے جو کہ گھنٹہ بجرہ دیکھنے میں چیب جواہرات اور جوہری کی بنائی ہوئی ہے یہ نہایت عجیب و غریب گھڑی ہے بہت خوبصورت ایک اسکا رنگ خراب نہیں ہوتا جو لوگ نیا تجربہ کا شوق رکھتے ہیں وہ اسکی ضرور خرید کر شوق پورا کریں وقت ٹھیک دیتی ہے قیمت سلور... سنہری سات روپیہ آٹھ آنے چاندی کی آٹھ روپیہ آٹھ آنے ریڈیم لیعنی رات کو اندھیرے میں بھی وقت بتلانیوالی سلور... روپیہ سنہری آٹھ روپیہ آٹھ آنے چاندی نو روپیہ



اگر آپکو عمدہ مضبوط اور خوبصورت رسٹ واچ کی ضرورت ہو تو بلا تشک و شبہ ہم سے یہ پانچ روپیہ بارہ آنہ والی گھڑی منگوالیں اسکے پرزے بہت مضبوط ہیں اور موومنٹ اعلیٰ قسم کی ہے اسمیں سیکنڈ کی سوئی لگی ہوئی ہے وقت میں کبھی فرق نہیں آتا واقعی یہ گھڑی مرد و عورتوں کے ہاتھوں کا ایک زیور ہے قیمت گھڑی مع سٹریپ کے صرف پانچ روپیہ بارہ آنہ (۲) چاندی کے کیس کی رسٹ واچ سیکنڈ کی سوئی والی مع عمدہ خوبصورت سٹریپ سات روپیہ آٹھ آنہ (۳) ایکسٹرا سٹونگ رسٹ واچ خوبصورت سٹریپ...



الارم والا ٹائم پیس بڑھیا اعلیٰ قسم کا ٹائم پیس

واقعی یہ ٹائم پیس آپکی بیٹھک میں رکھنے کے قابل ہے اس جیسی کم قیمت بالا نشین شاید ہی کوئی دوسری اشیاء ہوگی درست وقت بتلانیکے علاوہ اسمیں الارم بھی لگا ہوا ہے دن یا رات کو جسوقت پر آپ الارم کی سوئی کر دینگے اسیوقت الارم بجیگا اور آس پاس کے کمروں تک الارم کی آواز بخوبی سنائی دیگی اور وقت بتلانیوالا یہی ٹائم پیس ہے۔

قیمت چھ روپیہ (سے)



ہزاروں لاکھوں روپیہ کی لاگت والی کوٹھی اور مکان کی سجاوٹ کے لئے واقعی سب سے بہتر شاندار مفید اور کارآمد چیز ہے

قیمت ستائیس روپے آٹھ آنے

(نوٹ) سات روپیہ پیشگی وصول ہونے پر آرڈر کی تعمیل ہوگی

ملنے کا پتہ۔ مینیجر جنرل ٹریڈنگ ایجنسی نمبر ۳۳۔ لدھیانہ پنجاب

جالبدار سنہری عمدہ سبز نگدار چوڑی کی گھڑی



سنہری رنگ کی چوڑی میں سنہری رنگ کی گھڑی آویزاں ہے اور چوڑی میں یہ خوبی ہے کہ خواہ کلائی موٹی ہو یا پتلی سب میں ٹھیک آجاتی ہے ہماری گھڑی ایسی خوبصورت ہے کہ طلائی زیورات کو مات کرتی ہے اور درست وقت دینے والی مضبوط اور پائیدار ہے واقعی یہ عورتوں کیلئے ایک خوشنما اور حسن افزا زیور ہے قیمت گھڑی آٹھ روپیہ آٹھ آنہ
(۲) ریڈیم یعنی رات کو اندھیرے میں بھی وقت بتلانیوالی نو روپیہ آٹھ آنہ

نگدار جالبدار سنہری سبز نگدار چوڑی کی گھڑی



یہ گھڑی بڑھیا ہے اور اسکے اردگرد نہایت خوبصورت نگ جڑے ہوئے ہیں واقعی نہایت خوبصورت۔ خوشنما شاندار بہت عمدہ گھڑی ہے قیمت دس روپیہ
(۲) ریڈیم یعنی رات کو اندھیرے میں بھی وقت بتلانیوالی گیارہ روپیہ

شاندار نیو پیٹنٹ رسٹلٹ واچ



یہ گھڑی سیپ کے کیس کی سفید براق واقعی خوبصورتی سجاوٹ اور خوشنمائی میں لاثانی ہے اور واقعی عورتوں اور مردوں کیلئے ایک قابلقدر کارآمد پائیدار خوشنما اور خوبصورت زیور ہے ہاتھ کی سجاوٹ کیلئے قیمتی زیورات بھی اسکے آگے مات پڑجاتے ہیں چوڑس اور گول دونوں موجود ہیں جونسی دل چاہے منگوائیں سچ مانیں اور یقین کریں کہ یہ خرید کرنیوالی چیز ہے آپ اس کو خرید کر ضرور خوش ہونگے خاص قابل ذکر خوبی یہ ہے کہ کیس سفید سیپ کا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہی اس چمک دمک اور خوشنمائی قائم رہتی ہے قیمت گھڑی عمدہ خوبصورت تسمہ لگا ہوا صرف دس روپیہ
(۲) ریڈیم یعنی رات کو اندھیرے میں بھی وقت بتلانیوالی گیارہ روپے
گارنٹی چھ سال

نیو پیٹنٹ رسٹلٹ واچ



گنبدیدار رسٹلٹ گھڑیوں کے ایجاد ہوتے ہی جو کامیابی اور ناموری اس نئی گھڑی کو نصیب ہوئی ہے اسکو بیان کرنیکی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں سب ہی دیکھتے ہیں کہ اگر بیس فیصدی جنٹلمین ایسے ہیں جن کے پاس اینڈ لیس گھڑیاں لگاتے ہوئے موجود ہوں تو غالباً دو فی جیب ہیں تو جیبی گھڑیاں ہونگی اور باقی سب کے ہاتھ پر پرانے فیشن کی کٹوری دار تسمے والی رسٹ واچ لگی ہوئی ہوگی اور باقی سب کے ہاتھوں کو یہ خوبصورت باریک تسمے والی نیو پیٹنٹ رسٹلٹ گھڑیاں ہی زیب دیتی ہونگی اس گھڑی کی خوبصورتی اور دلکش شیپ نے پبلک کے دلوں پر ایسا اثر کیا ہے کہ جنٹلمین تو اس گھڑی کی موجودگی میں کسی بھی دوسرے نمونہ کو پسند نہیں کرنا چاہتے اور مستورات طلائی پہنچیوں کو کھڑوں اور بندوں کے مقابلے میں اس گھڑی کو زیب تن کرنا فخر سمجھتی ہیں واقعی یہ گھڑی عورتوں اور مردوں کے لئے ایک قابلقدر اور فیشنیبل زیور ہے آپ ایک گھڑی ضرور منگوا کر ملاحظہ فرمائیں آپ اسکو خرید کر خوش ہونگے یہ چھوٹے قد کی گھڑی کلائی پر لگائی جاتی ہے اسکے دونوں طرف کنڈے لگے ہوئے ہیں اور کلائی پر لگانیوالا تسمہ کنڈوں میں سے گذرتا ہے جب گھڑی کلائی پر لگی ہوئی ہوتی ہے تو ساری گھڑی دکھلائی دیتی ہوئی نہایت ہی خوبصورت معلوم ہوتی ہے گھڑی دلکش شیپ کی بہت عمدہ ہے مشین بھی عمدہ قسم کی ہے اسکا وقت ہمیشہ درست رہتا ہے واقعی یہ گھڑی نہایت ہی مضبوط اور خوبصورت قابل تعریف ہے اور یہی وجہ ہے کہ امیر رئیس اور جنٹلمین اب اسی گھڑی کو پسند کرتے ہیں قیمت گھڑی عمدہ خوبصورت باریک تسمہ لگا ہوا چھ روپے آٹھ آنہ

(۲) سنہری بہت عمدہ خوبصورت چھ روپے چودہ آنے
(۳) سیپ کی بہت ہی عمدہ خوبصورت سات روپیہ چودہ آنے
(۴) چاندی کے کیس کی آٹھ روپیہ
(۵) ریڈیم یعنی رات کو اندھیرے میں بھی وقت بتلانیوالی
(۶) نکل کیس سات روپیہ آٹھ آنہ (۷) سنہری بہت خوبصورت آٹھ روپیہ
(۸) سیپ کی بہت ہی خوشنما آٹھ روپے آٹھ آنے
(۹) چاندی کے کیس کی بہت ہی عمدہ آٹھ روپے چودہ آنے

لیور چال کی جولدار بڑھیا گھڑیاں



لیور چال کی جولدار سکنڈ کی سوئی والی نیو پیٹنٹ رسٹلٹ گھڑیاں فوجی افسروں اہلکاروں اور سپاہیوں کے لئے ایک قابلقدر تحفہ ہے جھٹکا لگنے سے دوڑنے میں یا گھوڑے کی سواری میں ان گھڑیوں کے بگڑ جانیکا اندیشہ نہیں نہایت مضبوط پائیدار وقت بالکل درست بتلانیوالی اور بگڑنے کا نام نہ لینے والی گھڑیاں ہیں قیمت گھڑی ریڈیم یعنی رات کو اندھیرے میں وقت بتلانیوالی نمبر جالبدار ریڈیم بہت عمدہ خوبصورت سٹریپ نکل کیس تیرہ روپے آٹھ آنے (۲) چاندی کی بند (۳) رولڈ گولڈ کیس کی اٹھارہ روپے

ملنے کا پتہ۔ مینیجر جنرل ٹریڈنگ ایجنسی نمبر ۳ لدھیانہ (پنجاب)

نہایت خوبصورت شاندار سنہری پاکٹ واچ

گارنٹی دس سال



یہ سنہری گھڑی خوبصورتی میں لاثانی ہے دیکھکر طبیعت خوش ہوجاتی ہے خیال نہ فرماویں کہ یہ خوبصورت ہی ہے بلکہ ذہن نشین فرماویں کہ یہ درست وقت دینے میں بھی بے نظیر ہے مضبوط اور پائیدار ہے۔
قیمت گھڑی بڑھیا درجہ اول نہایت عمدہ سات روپے آٹھ آنے ۸؍۷
درجہ دوم عمدہ بلا سیکنڈ پانچ روپیہ چار آنہ

امیرانہ جولدار سوپیریر لیور واچ

گارنٹی بارہ ۱۲ سال



یہ سیکنڈ کی سوئی والی جولدار لیور مومنٹ کی غضب کی مضبوط اور پائیدار گھڑی ہے افسروں اہلکاروں سپاہیوں اور اُن ملازمان کیلئے جنکو دورہ کا کام رہتا ہو واقعی یہ کم خرچ بالا نشین کار آمد اور مطلب کی چیز ہے جھٹکا لگنے سے دوڑنے میں اور گھوڑے اور اونٹ کی سواری اسکے بگڑنیکا اندیشہ نہیں وقت بالکل درست دینیوالی اور بگڑنیکا نام نہ لینیوالی بڑھیا جولدار گھڑی ہے قیمت بمعہ بکس و خوشنما زنجیر باراں ۱۲ روپے (۲) ریڈیم رات کو اندھیرے میں وقت بتلانیوالی تیراں روپیہ آٹھ آنہ

گولڈن ہاف ہنٹنگ واچ

گارنٹی دس سال



یہ بند ڈھکنے کی یعنی ڈبل کیس کی سنہری گھڑی ہے اور اسمیں خاص خوبی یہ ہے کہ وقت دیکھنے کیلئے ڈھکنا کھولنے کی ضرورت نہیں اسکے بند ڈھکن پر ایک چھوٹا سا خوبصورت شیشہ لگا ہوا ہے اور دن میں گھڑیوں کی طرح گھڑی جیب سے نکالتے ہی وقت معلوم ہو جاتا ہے اسکے ڈھکنوں پر سونا ولائتی طرز پر ایسی خوبی سے چڑھایا ہوا ہے کہ اگر احتیاط سے رکھی جاوے تو مدت تک اسکی آب و تاب میں فرق نہیں پڑتا۔ بلاشک یہ گھڑی سو روپیہ کی معلوم ہوتی ہے اور بہت مضبوط اور پائیدار اور درست وقت دینیوالی گھڑی ہے قیمت بمعہ بکس و عمدہ سنہری زنجیر باراں روپیہ ۱۲ عہ

بڑھیا شاندار امریکن دو گھنٹیوں والا الارم ٹایم پیس

گارنٹی دس سال



یہ خوبصورت پائیدار مضبوط اور خوشنما ٹائم پیس آپکی بیٹھک کی سجاوٹ کیلئے ایک کم خرچ بالانشین کار آمد چیز ہے درست وقت بتلانیکے علاوہ اس میں الارم بھی لگا ہوا ہے اور الارم بھی دو گھنٹیوں والا ہے۔ دن یا رات کو جسوقت پر آپ الارم کی سوئی کر دینگے۔ دونوں گھنٹیوں سے زوردار الارم بجیگا۔ فاصلے تک آواز سنائی دیگی۔ سوتوں کو وقت بتلانیوالا اور جگانیوالا یہی ٹائم پیس ہے
قیمت آٹھ روپیہ

ویسٹ اینڈ واچ کمپنی کا ٹایم پیس

گارنٹی دس سال



یہ ویسٹ اینڈ واچ کمپنی کے کارخانہ کا ٹایم پیس ہے چھوٹا ہلکا مضبوط اور پائیدار کم خرچ بالانشین درست وقت بتلانیوالا ٹایم پیس ہے۔
قیمت صرف چھ روپے ۶ے

بڑھیا آٹھ روزہ چابی کی نیو پیٹنٹ رسٹلٹ واچ

گارنٹی ۱۲ سال　　گارنٹی ۱۲ سال

یہ دو کنڈوں والی آٹھ روزہ چابی کی رسٹلٹ واچ واقعی ایک قابلقدر تحفہ ہے اس گھڑی کی چابی آٹھ روز کی ہے یعنی ایک مرتبہ چابی دینے سے برابر آٹھ روز چلتی ہے ڈایل کے نیچے اسکی مشینری حرکت کرتی ہوئی کیا ہی بہار دکھاتی ہے اسکی شیپ ایسی خوشنما اور دلکش ہے کہ گھڑی کو دیکھتے دیکھتے طبیعت نہیں بھرتی اس گھڑی کے وقت میں کبھی فرق نہیں پڑتا مضبوط اور پائیدار اتنی ہے کہ ہم بخوشی باراں سال کی گارنٹی کرتے ہیں آپ ایک گھڑی ضرور ہی منگواکر ملاحظہ فرماویں آپ اسکو خرید کر خوش ہو جاوینگے (۱) قیمت گھڑی بمعہ عمدہ خوبصورت سٹرپ سولاں روپے چاندی کی بیس ۲۰ روپے (۲) ریڈیم یعنی رات کو اندھیرے میں بھی وقت بتلانیوالی نکل کیس اٹھاراں روپے چاندی کی بائیس ۲۲ روپے ۲۲ عہ



بکس و زنجیر مفت

فل کیلنڈر واچ

یہ عجیب گھڑی ہے اسکا قدر عام گھڑیوں جتنا ہے اس میں خاص خوبی یہ ہے کہ وقت کے علاوہ تاریخ دن مہینہ چاند کا حال سب معلوم کر لیجئے اسکے وقت میں ہرگز فرق نہیں پڑتا مضبوط اور پائیدار ہے قیمت پندرہ روپے

نہایت مفید اور کار آمد سفری چولہا



واقعی یہ نہایت مفید اور بڑے کام کی چیز ہے اسمیں منٹلیٹڈ سٹرپ چلتی ہے جسکی قیمت من بارہ آنہ بوتل ہوتی ہے گھر میں موجود رکھو جب چاہو فوراً استعمال کیلئے تیار ہو جاتا ہے سفر میں لیجاؤ آرام پاؤ گے خوبصورت بلند اعلیٰ درجہ کے پیتل کا بنا ہوا اور ہلکے وزن کا ہے قیمت دو روپیہ بارہ آنہ

سیفٹی ریزر یعنی حجامت بنانیکی مشین

جو لوگ ڈاڑھی نہیں رکھتے انکو دوسرے تیسرے روز شیونگ کی ضرورت پڑتی ہے اگر نائی نہ ملے تو بڑا انتظار ہوتا ہے انکی سہولت کیلئے یہ سیفٹی ریزر ایجاد ہوئے ہیں اس سے ہر ایک شخص بڑی آسانی سے خود بخود شیونگ کر سکتا ہے اور شیونگ کرنیکا بلیڈ ایسی طرز سے لگتا ہے کہ اتنا ہی باہر رہتا ہے جتنے کی شیونگ کیلئے ضرورت ہوتی ہے اسلئے کٹ وغیرہ لگنے کا اندیشہ ہی نہیں۔ اسی لئے اسکا نام سیفٹی ریزر ہے جنٹلمین اس کے بہت شائق ہیں اور انکے لئے واقعی ایک مفید اور کار آمد چیز ہے +
قیمت عمدہ قسم بمعہ چار عدد فالتو بلیڈ صرف دو روپیہ آٹھ آنہ ۸؍۲ +

ملنے کا پتہ منیجر جنرل ٹریڈنگ ایجنسی نمبر ۳ لدھیانہ پنجاب

درباری کوک شاستر با تصویر

یہ کتاب جسٹرڈ ہے سرکاری گزٹ میں اسکا اعلان ہو چکا ہے دوسرے کوک شاستر سے ہماری درباری کوک شاستر باتصویر مجلد کی لاگت دوگنی سے بھی زیادہ ہے اگر قسمت میں ہے صرف دو روپیہ قیمت ہی منگوا کر لطف حاصل کریں	ہماری کتاب میں نہائت ہی عمدہ دلکش رنگا رنگ ہر دانی تصویریں فوٹو کی طرز پر بنی ہوئی ہیں۔	بنگال کا ایک تاجر کتب اس نایاب کتاب کی جرأت نہ کر سکا ہم سے خرید کر اس بے نظیر لاثانی کتاب کو چار روپیہ قیمت پر بیچنا شروع کیا تھا عرصہ دراز تک فروخت کرتا رہا اور جب اسیر دہلی میں فوجداری مقدمہ دائر ہوا تو عدالت سے باعزت بری ہو گیا +

درباری کوک شاستر وہی نایاب کتاب ہے جسکو حاصل کرنیکی خواہش تو سب کی تھی لیکن چند سال پیشتر کسی کو ملتی نہ تھی اب بھی جو لوگ اشتہاری کتب فروشوں کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں وہ سچائی سے اسکی خریداری سے محروم رہ جاتے ہیں ایسے بدقسمت لوگ وہ ہیں جو کوک شاستر کے نام پر سستی ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کوک شاستر کے نام پر کتابیں تو بہت ہیں لیکن انکے مطلب کی اصلی کتاب درباری کوک شاستر باتصویر ہے یہ کتاب رجسٹری شدہ ہے اور اسکے مصنف کے سوا کوئی دوسرا شخص اسکو چھاپ نہیں سکتا۔ اس کتاب میں پدمنی۔ چترنی۔ ہستنی۔ سنکھنی عورتوں کی قسمیں اور ان کی شناخت عورتوں کی جوانی کا آغاز عورتوں کے حسن لباس ہار سنگار ناز ادا کا بیان حسن شناسی کا علم ہندوستان کی عورتوں کی خوبصورتی کا بیان حسن افزائی کے طریقے عورتوں کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کے طریقے اور علامات قرار حمل۔ جننے کے دنوں کا شمار حاملہ کا ہر ماہ کا حال احوال پیٹ میں بچہ کا ہر ماہ کا حال احوال اصلی دردزہ کی شناخت جننے کی صورتیں اور حالتیں وضع حمل کے لئے جادو اثر نسخہ جات عورتوں اور مردوں کے مخصوص امراض کی تشخیص و علاج۔ حمل کا بیان ان عورتوں کی شناخت جنکو حمل نہیں ٹھہر سکتا اور عورت بامرد میں عقر کی شناخت بانجھ عورتوں کی شناخت و علاج ہر قسم کی کمزوری کا علاج مجرب نسخہ جات آتشک اور سوزاک کا علاج بالوں کے متعلق ہر قسم کے نسخہ جات خیالات کا اثر حسب مرضی لڑکا لڑکی پیدا کرنا حمل میں لڑکا لڑکی کی شناخت اور اسی طرح مضامین درج ہیں کہ اسکی مختصر فہرست جو کتاب کے ساتھ لگی ہوئی ہے آٹھ صفحہ کی ہے ہماری کتاب میں نقشہ اور تصاویر عمدہ و نفیس فوٹو کی طرز پر بنی ہوئی ہیں صرف ایکبار کے ملاحظہ سے آپ اس کتاب پر شیدا ہو جاوینگے اور دو چار دس بار نہیں بلکہ ہفتہ وار اسکے مطالعہ سے لطف حاصل کرینگے آپ دھوکہ نہ کھائیں سوچ سمجھ کر منگوائیں اس کتاب کی موجودگی میں دوسری کتاب ایک پیسہ کو بھی مہنگی ہے ایسی لغو کتابوں کی خریداری سے بچو اور ذہن نشین کر لو کہ اس عمدہ کتاب کے مقابلہ میں دوسری کتابیں ایسی ہیں جیسے

راجہ بھوج کے مقابلہ میں لنگڑا تیلی

ہماری کتاب درباری کوک شاستر باتصویر کو یہ حاصل ہے کہ بلا طلب کے ایک ایک کتاب کی فروخت پر کئی کئی سرٹیفکیٹ حاصل ہوئے ہیں اس کتاب کے سرٹیفکیٹ تو بہت ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ اشتہار میں سطر سطر کی اجرت ادا کرنی پڑتی ہے بدیں وجہ تمام سرٹیفکیٹ کا اندراج مشکل ہے بطور نمونہ چند سرٹیفکیٹ یہاں ناظرین کے مطالعہ کے لئے درج کئے جاتے ہیں ان سے کم سے کم ناظرین کو یہ تو معلوم ہو جائیگا کہ درباری کوک شاستر کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں بلکہ ایک نایاب تحفہ ہے اور اسکے مقابلہ میں دو روپیہ کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے اور تعلیم یافتہ ہو کر بھی ایسی نادر اور ضروری کتاب کے مطالعہ سے محروم رہنا ایک قابل افسوس غلطی ہے +

سرٹیفکیٹ نمبر ۱ سردار بہرام خان ۔ انتظر شکارپور ریاست پونچھ۔ آپکی کتاب درباری کوک شاستر ایک نہایت بیش قیمت تحفہ ہے یا یوں کہو کہ لا اولادوں کیلئے اکسیر اعظم کا حکم رکھتی ہے اور موقعہ پر حکیم حاذق کا کام دیتی ہے برائے مہربانی ایک جلد میرے دوست کو بھی بھیجدیں +

۲۔ شیخ شہاب الدین کیئر آف سیٹھ کاداجی ڈنشاجی عدن۔ آپ کی نادر کتاب درباری کوک شاستر موصول ہوئی وہ بیشک تعریف کے قابل ہے اور وہ بیشک پوشیدہ مضامین والی ہے میں اسکو خرید کر نہائت شاد و خرم ہوا +

۳۔ مولوی سلطان محمود قریشی مقام کھٹھہ قریشی ڈاکخانہ ٹانگہ دھہ۔ آپ کی کتاب درباری کوک شاستر دیکھی عجیب دلپذیر ہے ایک ایک نسخہ ہزاروں روپیہ کا ہے برائے مہربانی ایک ضرور بالضرور میرے کو روانہ فرمادیں +

۴۔ سید ضمیر حسین چاند امیاں ورکس پنچ ضلع جھنگ واڈسی۔ بی آپکی مرسلہ درباری کوک شاستر یعنی درباری کوک شاستر وصول پایا واقعی کتاب تو وہی ہے جسکی مجھکو ضرورت تھی کیونکہ میں نے تمام کوک شاستر ... دیکھ ڈالے مگر آپکا کوک شاستر بہت مفید اور قابلقدر ہے اور مہذب ہے پارسل سے کھول کر بیٹھے اپنے ایک دوست کو دکھلایا وہ بھی عاشق ہو گئے انکے واسطے جلد مجلد بھی آسمانی رنگ کی بہت جلد بذریعہ وی پی ارسال کریں +

۵۔ محمد عبدالرحیم مقام رتی ڈاکخانہ گجرات بھیجے آپ کی کتاب دیکھی کوک شاستر واقعی عجیب چیز ہے ایک قابلقدر تحفہ ہے ایک ایک نسخہ ہزاروں روپیہ کا ہے مہربانی کر کے ایک عدد کوک شاستر میرے نام ارسال فرماویں +

۶۔ نور محمد سپاہی نمبر ۹۵ مقام قصبہ پور ڈاکخانہ ماہسو ضلع فیروزپور۔ آپکا درباری کوک شاستر مجھکو ملا میں نے اسکو اپنی نظر سے ملاحظہ کیا تو دیکھکر از حد خوشی ہوئی میں نے ایسی کتاب دنیا بھر میں کبھی نہ دیکھی تھی اس میں ایسے مجرب نسخہ جات ہیں کہ انکو استعمال کرنے سے از حد فائدہ ہوا میں نے گاؤں کے دو آدمیوں کو ان نسخوں کے استعمال سے راضی کیا وہ بھی آپکا شکریہ ادا کرتے ہیں میں نے ایسی مفید کتاب کہیں نہ دیکھی تھی عرض ہے کہ آپ مندرجہ ذیل اشیاء ارسال فرماویں۔

قیمت۔ تمام کپڑے سے منڈھی ہوئی نہایت عمدہ سنہری دار جلد والی کتاب کی قیمت دو روپیہ ہے مگر خیال رہے کہ اس قیمت پر یہ کتاب مفت کے برابر ہے حجم کتاب دو سو صفحے یعنی مضامین ۱۷۶ صفحہ تصویریں ۲۴ صفحہ کل دو سو صفحہ +

(نوٹ) کم قیمت پر آرڈر روانہ کرنے والے وی پی کی انتظاری نہ کریں اور نہ ہی اس قسم کے خطوط کا جواب دیا جاویگا یہ کتاب ناگری بھاشا اور گورمکھی میں بھی چھپ گئی ہے قیمت اردو کی کتاب جتنی ہے۔ مگر جلد بہت عمدہ خوشنما ابری دار ہوگی +

ملنے کا پتہ منیجر جنرل ٹریڈنگ ایجنسی نمبر ۳ لدھیانہ پنجاب

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

گنجینۂ علوم و فنون بالتصویر

اپنے کتابوں کے اشتہارات میں دریا کو کوزے میں بند کرنیکا فقرہ کئی بار پڑھا ہوگا لیکن اگر آپ اس مثال کی تصدیق چاہتے ہیں اور وہ کتاب دیکھنا چاہتے ہیں کہ جسمیں بلا شک و شبہ کئی اوراق آتی ہو تو آپ ہماری کتاب گنجینۂ علوم و فنون بالتصویر کو ملاحظہ فرماویں ۱۲ کتابوں جتنا مضمون اس اکیلی کتاب میں موجود ہے پھر خوبی یہ ہے کہ عبارت مختصر لیکن مطلب بالکل صاف اور صریح الفہم ہے اس کتاب کے ۱۲ ابواب کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے :-

پہلا باب صابون سازی - صابن بنانیکی ایک دو معمولی ترکیبیں سکھانیکی فیس اشتہاری لوگ پانچ روپیہ مانگتے ہیں آپ ہماری کتاب میں انگریزی و دیسی صابن بنانے کی ترکیبیں دیکھ لیجئے یہانتک کہ بغیر چربی و آگ کے صابن بنانے کی ترکیب بھی اس میں درج ہے +

دوسرا باب - بالوں کے متعلق ہر قسم کے نسخہ جات - بال اڑانیکا صابون عرق اور پوڈر بنانا - ہیر آئیل بنانا - خوشبودار گلابی رنگ کا تیل بنانا - بال پیدا کرنیوالے نسخہ جات - بالوں کو گرنے سے روکنے والے نسخہ جات - بال عمر بھر سیاہ ہونے دینیوالے نسخہ جات - خضاب - غرضیکہ بالوں کے متعلق ہر قسم کے نسخہ جات درج ہیں +

تیسرا باب - طبابت - ہر مرض کے نسخہ جات اس میں درج ہیں +

چوتھا باب - علاج شمسی - اس باب میں اس طریقہ علاج کا بیان اسکے بنیادی اصول اور سب امراض کا علاج بڑی خوبی سے درج ہے +

پانچواں باب ہومیوپیتھی } ہماری کتاب میں اس طریقہ علاج کا مفصل بیان اور اسکے ذریعہ سب امراض کا مشرح علاج درج ہے اور دوائیاں ملنے کے پتے بھی اس کتاب میں درج ہیں +

چھٹا باب مسمریزم - مسمریزم کا مختصر بیان نہائت ہی عمدہ طور پر بالتصویر درج ہے +

ساتواں باب کشتہ جات - آپ ہماری کتاب میں سب دھاتوں کے کشتہ جات بنانیکی مجرب اور مستند ترکیبیں ملاحظہ فرمائیں عمدہ کشتہ کی پہچان اور کشتہ کو زندہ کرنیکی ترکیب بھی درج ہے

آٹھواں باب مفید کارآمد اشیائے بنانا - مصنوعی سونا بنانا - سنہری اگلاٹ کرنیکا سفوف بنانا - پارہ کی گولی - کافور کا بنانا - گندھک کا گلاس - دودھ کا سفوف - چائے کی ٹکیاں بنانا - کانچ پر گلٹ کرنا - کانچ پر رنگ کرنا - کانچ پر عبارت لکھنا - کانچ کے برتن جوڑنا - پیتل پر نقاشی کرنا - گلٹ کرنیکی بیٹری تیار کرنا وغیرہ وغیرہ درج ہیں اس باب میں وہ نسخہ بھی معہ ترکیب استعمال درج ہیں جو سب امراض کو فائدہ کرنیکے لئے مشہور و معروف ہیں +

نواں باب تشعبدات - بوتل میں انڈا ڈالنا - ناچنے والی انگوٹھی بنانا - حیرت انگیز پنسل بنانا - تالاب میں آگ کا شعلہ پیدا کرنا - جلے ہوئے کاغذ کو پڑھنا - بوتل میں آگ جلانا - لکڑیوں میں پانی سے آگ لگانا - تین گلاسوں میں پانی ڈالکر رنگ تبدیل کر دینا غرضیکہ اسی قسم کے حیران کرنیوالے تشعبدات درج ہیں +

دسواں باب - فوٹوگرافی - اس باب میں فوٹوگرافی کا بیان مفصل اور مشرح درج ہے +

گیارھواں باب - دنیا کے قدیم و جدید عجائبات کا دلچسپ حال درج ہے اس باب میں عجائبات کی تصاویر قابل دید ہیں +

بارھواں باب - تفریح - فرصت کے وقت تفریح طبع کے لئے تاش کے حیرت انگیز اور تعجب میں ڈالنے والے تماشے درج کئے گئے ہیں اس میں ڈاؤٹ سپورٹس والی انگریزی کھیل بھی درج ہے +

قیمت - باوجود ان سب خوبیوں کے نہایت عمدہ کاغذ پر چھپی ہوئی اور خوبصورت جلد بندھی ہوئی کتاب کی قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ ؏ +

حاملہ عورتوں اور بچوں کی جان

عورتوں اور بچوں کے باب میں ہماری کتاب اصلی ہدائت نامہ دائیان ہند بالتصویر مصنفہ ڈاکٹر جے این مکرجی ایل - ایم - ایس ایک مکمل بالتصویر کتاب ہے یہ کتاب گورنمنٹ سے منظور ہو چکی ہے اور رجسٹرڈ ہے اس کتاب کو خرید کرنیکے بعد حاملہ عورتوں اور بچوں کے متعلق کوئی بات کسی حکیم ڈاکٹر یا وید دائی یا میم صاحبہ سے دریافت نہیں کرنی پڑیگی اس بینظیر لاثانی کتاب میں عورتوں کے خاص خاص امراض متعلق حمل کی تشخیص اور علاج مستورات کی غیر معمولی امراض کا بیان و علاج حمل کی علامات حاملہ عورتوں کی احتیاط و خبرگیری کے متعلق ہدایات - حاملہ عورتوں کے مخصوص امراض کی تشخیص و علاج جننے کے دنوں کا شمار - زچہ خانہ کا بیان جننے کی حالتوں کی تقسیم جنوانیکے متعلق گھر والوں اور دائیوں کے فرائض ہر صورت میں جننے اور جنوانیکے لئے بالتصویر طریقہ جات اور نازک موقعہ پر سنبھال کیلئے مجرب مربع التاثیر دواؤں - نسخہ جات بچہ پیدا ہونیکے بعد زچہ اور بچہ کی حفاظت و خبرگیری کے متعلق نہایت ہی ضروری ہدایات بچوں کی پرورش کا طریقہ اور بدپرہیزی کے نتائج بچوں کے تمام امراض کی تشخیص مجرب نہایت ہی آسان قابل تعریف علاج اور یہ ایک بے بہا الدار کے جاننے کے لائق بیشمار قیمتی باتیں درج ہیں اس کتاب کو گھر میں موجود رکھنا ہر ایک عیالدار کا ضروری فرض ہے حجم کتاب ۲۶۴ صفحہ قیمت کتاب مجلد ایک روپیہ آٹھ آنہ

انگلش ٹیچر

بلا مدد استاد کے انگریزی سکھلانیوالی یہی کتاب ہے اس کتاب کو مطالعہ کرنے سے انگریزی میں خاصی اچھی لیاقت پیدا ہوجاتی ہے اسمیں گرامر - ٹرانسلیشن - لیٹر رائیٹر - ایڈیم ڈکشنری کے متعلق عمدہ عمدہ مضامین درج - عام بول چال کے فقرے ہر محکمہ اور ہر موقعہ کے الفاظ اور بیشمار محاورے درج ہیں اور ساتھ انکے اردو معنے بھی درج ہیں اسکو مطالعہ کرنے سے انگریزی سمجھنے اور انگریزی بولنے اور انگریزی میں خط و کتابت کرنیکی لیاقت ہوجاتی ہے اسمیں خاص قابل ذکر خوبی یہ ہے کہ انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو تلفظ اور ترجمہ صاف اور خوشخط لکھائی میں چھپا ہے واقعی بہت عمدہ مفید اور کارآمد کتاب ہے قیمت کتاب مجلد ایک روپیہ

ہنسی کا گول گپا

ظریفانہ مضامین کی دلچسپ اور لاجواب کتاب ہے اسمیں تقریباً تمام جوئنٹ کے لطیفے درج ہیں دلچسپ پہیلیاں معہ لاجواب سوال و جواب بالکل نئی طرز اور نرالے ڈھنگ کی مذاقیہ غزلیں نہائت دلچسپ اور مذاقیہ مضامین ہیجو جیسے عمدہ نہائت دلکش اور ہنسانیوالی تصاویر درج ہیں قیمت ہر دو حصہ مجلد ایک روپیہ آٹھ آنہ (؏) +

ملنے کا پتہ مینیجر جنرل ٹریڈنگ ایجنسی نمبر ۳ لدھیانہ پنجاب

ریڈیم یعنی اندھیرے میں بھی وقت بتلانیوالی گھڑیاں

اس صفحہ میں جتنی گھڑیاں ہیں ان میں دن میں معمولی گھڑیوں کی طرح ٹائم معلوم ہوتا ہے مگر خاص قابل ذکر خوبی یہ ہے کہ رات کے وقت بھی دن کی طرح ہی ٹائم معلوم ہوتا ہے ضرور منگوا کر ملاحظہ فرماویں

راسکوپ سسٹم ریڈیم واچ

غور فرماویں کہ ریڈیم واچ کیسی کارآمد چیز ہے اگر یہ گھڑی جیب میں موجود ہو تو نہ کبھی وقت دیکھو اور رات کو اندھیرے میں بھی بلا امداد روشنی کے وقت دیکھ لو جتنا زیادہ اندھیرا ہوگا اتنی ہی یہ زیادہ چمکیگی گھڑی راسکوپ سسٹم مشین کی ہے اچھی کم قیمت عمدہ مضبوط اور ٹھیک چال کی ہے مگر خیال رہے کہ ایسی گھڑیاں عام طور پر آٹھ دس روپیہ کو فروخت ہوتی ہیں اور پھر بھی خریدار نفع کا سودا خیال کرتا ہے اگر آپ اس ہیچمدان اشتہار کی قدردانی مناسب سمجھتے ہیں تو صرف ایک ایک گھڑی منگوا کر ملاحظہ فرماویں آپ اسکو خرید کر خوش ہونگے قیمت معہ بکس و خوشنما زنجیر پانچ روپے ہ۔

سیکنڈ کی سوئی والی لیور ریڈیم واچ



اس نام کی گھڑیاں تو بہت ہوتی ہیں لیکن اگر آپکو ایک ایسی اعلے گھڑی کی ضرورت ہے جو کہ عمدہ ہو خوبصورت ہو اور سستی بھی ہو تو آپ بلا شک و شبہ کے ہم سے یہ گھڑی منگوالیں جیسی گھڑی بڑھیا گھڑ ہونیکے نمونہ کی واقعی خوشنما پائیدار کم قیمت اور نہایت عمدہ اعلی درجہ کی ہے یہ کیپلیس ہے لیور ہے نکل سلور کی ہر وقت بہت ہی درست دیتی ہے مگر اپنا نام نہیں لیتی یہ دیکھنے میں جیسی بھی ویسے ہی معلوم ہوتی ہے اس کی چابی تیس گھنٹہ کی ہے اور زیادہ چابی سے اسکا نقصان نہیں خوشنما اس کا ڈائل جینی کا ہے واقعی دن اور رات کو درست وقت بتلانیکے لئے حاضر رہنے والی کم خرچ بالانشین گھڑی کی قیمت معہ بکس و خوشنما زنجیر سات روپے ۷۔

سیکنڈ کی سوئی والی ریڈیم دربار واچ



یہ گھڑی سب خوبیوں میں بڑھیا اور قیمتی گھڑیوں کے مقابل کی ہے اسکی شیپ ایسی خوشنما اور دلکش ہے کہ اس گھڑی کی شکل صورت اور مشینری کو دیکھ کر اور اتنی کم قیمت سنکر گھڑی ساز اور دوکاندار بھی حیران رہجاتے ہیں اور یہ وقت درست دینے میں مشہور ہے مضبوط اور پائیدار ہے مگر نام نہیں لیتی یہ کیپلیس اور سیکنڈ کی سوئی والی ہے یہ ہنجیس اور گلاس ڈوم والی ہے یہ نہایت عمدہ اعلیٰ درجہ کی ہے اور بہت ہی خوشنما ہے اسکی چابی تیس گھنٹہ کی ہے اور اس کی لیور ہے ریڈیم یعنی رات کو اندھیرے میں بھی وقت بتلانیوالی گھڑی لاجواب تحفہ ہے ہمیشہ درست وقت بتلانیکے لئے تیار رہے تیار ہے اس کے لئے دن اور رات یکساں ہے باوجود ان سب خوبیوں کے قیمت معہ بکس و خوشنما زنجیر صرف آٹھ روپے (عہ)

نیو پیٹنٹ ریڈیم رسٹلٹ واچ

یہ چھوٹے قد کی گھڑی کلائی پر لگائی جاتی ہے اس کے دونوں طرف کنڈے لگے ہوئے ہیں اور کلائی پر لگانیکے الامار یک تسمہ کنڈوں میں سے گذرتا ہے جب گھڑی کلائی پر لگی ہوتی ہے تو ساری گھڑی دکھلائی دیتی ہوئی نہایت ہی خوبصورت معلوم ہوتی ہے گھڑی دلکش شیپ کی بہت عمدہ ہے مشین بھی عمدہ قسم کی ہے اسکا وقت ہمیشہ درست رہتا ہے واقعی یہ گھڑی نہایت ہی خوبصورت مضبوط اور قابل تعریف ہے اور یہی وجہ ہے کہ ممبر لیس اور جنٹلمین اب ایسی گھڑی کو پسند کرتے ہیں قیمت گھڑی عمدہ خوبصورت باریک تسمہ لگا ہوا سات روپیہ آٹھ آنہ (۲) سنہری آٹھ روپیہ (۳) سیپ کیس کی آٹھ روپیہ آٹھ آنہ (۴) چاندی کے کیس کی آٹھ روپیہ چودہ آنے

نیو پیٹنٹ سپنر نگدار جوڑی نما ٹیل سٹرپ والی ریڈیم واچ

یہ اعلیٰ نمونہ کی جوڑیدار گھڑی نئی ایجاد ہوئی ہے ہر قسم کی موٹی اور پتلی کلائی میں ٹھیک آجاتی ہے اسکی جوڑی کسندار ہوتی ہے جو کہ گھٹ بڑھ سکتی ہے جب چاہو جوڑی کو اتار سکتے ہو یہ نہایت عجیب و غریب گھڑی ہے بہت عرصہ تک اسکا رنگ خراب نہیں ہوتا جو لوگ چمڑے کا تسمہ لگانا ناپسند کرتے ہوں وہ اسکو ضرور خرید کر شوق پورا کریں وقت دینے میں بے نظیر ہے۔ (۱) قیمت آٹھ روپے

(۲) سنہری آٹھ روپے آٹھ آنے (عہ)

(۳) سیپ کے کیس کی نو روپے (لعہ)

(۴) چاندی کے کیس کی نو روپیہ چھ آنے (لعہ)

جالیدار سپرنگدار جوڑیکی سنہری ریڈیم واچ



سنہری رنگ کی جوڑی میں سنہری رنگ کی گھڑی اور یہ اس جوڑی میں یہ خوبی ہے کہ خواہ کلائی موٹی ہو یا پتلی سب میں ٹھیک آجاتی ہے ہماری گھڑی ایسی خوبصورت ہے کہ طلائی زیورات کو مات کرتی ہے اور درست وقت دینے والی مضبوط اور پائیدار ہے واقعی عورتوں کے لئے خوشنما اور حسن افزا زیور ہے قیمت گھڑی ریڈیم یعنی رات کو اندھیرے میں وقت بتلانے والی نو روپے آٹھ آنے (عہ)

(۲) بڑھیا نگدار ریڈیم گیارہ روپے (عللہ)

گارنٹی چھ سال

ملنے کا پتہ۔ ویسٹرن واچ ایجنسی لدھیانہ پنجاب

ہینڈ وپاس پیٹنٹ بڑھیا آٹھ روزہ چابی کی گھڑی

قیمت تیراں روپے

گارنٹی دس سال

جب آپ آٹھ روزہ چابی کی گھڑی خرید فرماویں گھڑی کے ڈائل پر ہینڈ وپاس پیٹنٹ کنندہ دیکھ لیں کیونکہ یہ جسٹرڈ ٹریڈ مارک اس امر کی شناخت ہے کہ گھڑی بڑھیا مضبوط پائیدار اور اصلی ہے ڈائل کے نیچے اس کی مشینری حرکت کرتی ہوئی کیا ہی بہار دکھاتی ہے اسکی شبیہ خوشنما اور دلکش ہے واقعی یہ آٹھ روزہ چابی کی لیور چال کی گھڑی ہمیشہ درست وقت دینے والی نہایت مضبوط اور پائیدار ہے قیمت بمعہ بکس و خوشنما زنجیر تیراں ۱۳ روپے (۲) چاندی کے کیس کی ستاراں روپے (۳) چاندی کی ہنٹنگ ڈبل کیس بیس روپے

اصلی اسکوپ سسٹم پیٹنٹ لیور واچ



قیمت تین روپے چودہ آنے

گارنٹی چھ سال

یہ گھڑی اصلی اسکوپ سسٹم پیٹنٹ ہے اور اسکا ثبوت یہ ہے کہ اسکے ڈائل پر انگریزی میں اسکوپ سسٹم پیٹنٹ کنندہ ہے اسکا ڈائل عمدہ ہے سوئیاں خوشنما ہیں ڈھکنے کے علاوہ پچھلی طرف شیشہ بھی موجود ہے اسکی چال لیور ہے ہماری گھڑی میں ایک اور بھی خوبی ہے کہ زیادہ چابی سے اسکا فنر نہیں ٹوٹتا یہ گھڑی مضبوط اور درست وقت دینوالی ہے بیچنے والے سے یا کم قیمت کے لالچ میں آکر کوئی اور ناقص گھڑی خرید کر دھوکہ نہ کھائیں ورنہ پچھتاؤ گے ہماری گھڑی واقعی بہت عمدہ ہے قیمت بمعہ بکس و خوشنما زنجیر صرف تین روپے چودہ آنے

گولڈن ہنٹنگ واچ اعلیٰ قسم

قیمت پانچ روپے آٹھ آنے

گارنٹی دس سال

یہ لیور چال کی اصلی گارڈ واچ ہے اور اسکا ثبوت یہ ہے کہ اس کے ڈائل پر ریلوے گارڈ واچ کندہ ہے کیونکہ یہ گھڑی درست وقت دینے میں نام پا چکی ہے اس لئے ریلوے کے ملازم اور گارڈ بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں یہ خوبصورت ہے کیلس ہے اس میں سیکنڈ کی سوئی بھی ہے اور ڈائل بھی چینی کا ہے۔ غرضیکہ عمدہ گھڑی کی سب خوبیاں اس میں موجود ہیں باوجود ان سب صفات کے قیمت بہت کم ہے یعنی قیمت گھڑی درجہ اول سیکنڈ کی سوئی والی بمعہ بکس و خوشنما زنجیر صرف پانچ روپے آٹھ آنے

سوسپیریر پاکٹ ریڈیم واچ

قیمت صرف دس روپے

گارنٹی ۱۲ سال

اگر آپکو واقعی اعلیٰ اور بڑھیا ریڈیم یعنی اندھیرے میں بھی وقت بتلانیوالی گھڑی کی ضرورت ہے تو کم قیمت کا لالچ نہ کریں اور بلا شک وشبہ کے ہم سے یہ سوسپیریر پاکٹ ریڈیم واچ منگوالیں اس کی موومنٹ اعلیٰ ڈیزائن کی ہے یہ خوشنما خوبصورت ہے شبیہ بڑھیا اور قیمتی گھڑیوں جیسی ہے اس میں سیکنڈ کی سوئی موجود ہے اس کے وقت میں [illegible] اسکا ریڈیم نہایت عمدہ اور خوب [illegible] خریدار کو خوش کر دینیوالی ہی گھڑی [illegible] ان اعلیٰ صفات کے اسکی قیمت بمعہ بکس و عمدہ خوشنما زنجیر صرف دس روپے

سیکنڈ کی سوئی والی ریلوے ریگولیٹر واچ



اعلیٰ قسم

گارنٹی دس سال

اس نام کی گھڑیاں تو بہت ہوتی ہیں لیکن اگر آپکو ایک ایسی ریلوے ریگولیٹر گھڑی کی ضرورت ہے جو کہ عمدہ ہو خوبصورت ہو اور سستی بھی ہو تو آپ بلا شک وشبہ کے ہم سے یہ گھڑی منگوالیں یہ جیبی گھڑی بڑھیا گھڑیوں کے نمونہ کی واقعی خوشنما پائیدار کم قیمت اور نہایت عمدہ اعلیٰ درجہ کی ہے یہ کیلس ہو لیور ہے بالکل ہموار چلتی ہے وقت بہت ہی درست دیتی ہے بگڑنیکا نام نہیں لیتی یہ دیکھنے میں بیس پچیس روپیہ کی معلوم ہوتی ہے اس کی چابی تیس گھنٹہ کی ہے اور زیادہ چابی سے اسکا فنر نہیں ٹوٹتا اسکا ڈائل چینی کا ہے واقعی یہ کم خرچ بالا نشین گھڑی ہے قیمت گھڑی بمعہ بکس و خوشنما زنجیر صرف پانچ روپے دس آنے

آٹھ روزہ چابی کی گھڑی عمدہ قسم

گارنٹی دس سال

اس گھڑی کی چابی آٹھ روز کی ہے یعنی ایک مرتبہ چابی دینے سے برابر آٹھ روز چلتی ہے ڈائل کے نیچے اسکی مشینری حرکت کرتی ہوئی کیا ہی بہار دکھاتی ہے اس کی شبیہ ایسی خوشنما اور دلکش ہے کہ گھڑی کو دیکھتے دیکھتے طبیعت نہیں بھرتی اس گھڑی کے وقت میں کبھی فرق نہیں آتا مضبوط اور پائیدار اتنی ہے کہ ہم بخوشی دس سال کی گارنٹی کرتے ہیں آپ ایک گھڑی ضرور ہی منگوا کر ملاحظہ فرماویں آپ اسکو خرید کر ضرور خوش ہو جائیں گے قیمت گھڑی بمعہ بکس و خوشنما زنجیر دس روپے (۲) چاندی کے کیس کی چودہ روپے (۳) چاندی کے کیس کی دوہرے ڈھکنے کی اٹھارہ روپے

ریلوے ریگولیٹر واچ



قیمت صرف چار روپے آٹھ آنے

گارنٹی ۵ سال

یہ لیور چال کی اصلی ریلوے واچ ہے کیونکہ یہ گھڑی درست وقت دینے میں نام پا چکی ہے۔ اس لئے ریلوے کے ملازم اور گارڈ بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ خوبصورت ہے کیلس ہے اس میں ہنجس بھی ہے اور ڈائل بھی چینی کا ہے غرضیکہ عمدہ گھڑی کی سب خوبیاں اس میں موجود ہیں باوجود ان سب صفات کے قیمت بہت کم ہے یعنی قیمت گھڑی عمدہ قسم بمعہ بکس و خوشنما زنجیر چار روپے آٹھ آنے

الارم والا امریکن بڑھیا اعلیٰ قسم کا ٹائم پیس



گارنٹی دس سال

واقعی یہ ٹائم پیس آپ کی بیٹھک میں رکھنے کے قابل ہے اس جیسی کم خرچ بالا نشین شاید ہی کوئی دوسری اشیا ہوگی درست وقت بتلانے کے علاوہ اس میں الارم بھی لگا ہوا ہے دن یا رات کو جس وقت پر آپ الارم کی سوئی کر دینگے اسی وقت الارم بجیگا اور آس پاس کے کمروں تک الارم کی آواز بخوبی سنائی دیگی۔ سوتوں کو وقت بتلانے والا اور جگانے والا یہی ٹائم پیس ہے۔

قیمت صرف چھ روپے

ملنے کا پتہ - ویسٹرن واچ ایجنسی لدھیانہ - پنجاب

بواہ کے موقعہ پر جہیز میں دینے والی گھڑیاں

نہایت خوبصورت شاندار سنہری پاکٹ واچ

گارنٹی دس سال



یہ سنہری گھڑی خوبصورتی میں لاثانی ہے دیکھکر طبیعت خوش ہو جاتی ہے یہ خیال نہ فرماویں کہ یہ خوبصورت ہی ہے بلکہ ذہن نشین فرماویں کہ یہ درست وقت دینے میں بھی بے نظیر ہے مضبوط اور پائیدار ہے جو صاحب تھوڑے خرچ سے بالا نشین گھڑی خرید کر جہیز کی شان دوبالا کرنا چاہتے ہیں ان کے عین مطلب کے مطابق یہ گھڑی بنی ہوئی ہے۔ قیمت گھڑی ٹرھیا درجہ اول نہایت عمدہ سات روپیہ آٹھ آنہ ؏ درجہ دوم عمدہ بلا سیکنڈ ؏ پانچ روپیہ چار آنے

گولڈن ہنٹنگ واچ اعلیٰ قسم

قیمت باراں روپے

گارنٹی دس سال

یہ سکینڈ کی سوئی والی بند ڈھکنے کی یعنی ڈبل کیس کی گھڑی نہایت خوبصورت ہے اور اسکے ڈھکنے پر سونا ولایتی طرز پر چڑھا ہوا ہے یہ گھڑی ایسی خوشنما ہے کہ اگر یہ گھڑی ہاتھ میں ہو تو آپ سجا سمجھ کر دیکھنے کیلئے ٹھہر جاتے ہیں سب دیکھنے والوں کو یہ گھڑی خالص سونے کی معلوم ہوتی ہے اور سنار کے لئے بھی اسکی جانچ مشکل ہے سونا بھی ولایت والوں نے ایسی خوبی سے چڑھایا ہے کہ مدت تک اسکی آب تاب میں فرق نہیں پڑتا بلاشک یہ گھڑی سو روپیہ کی معلوم ہوتی ہے اور یہ وقت درست دینے میں اور بگڑنے کا نام نہ لینے میں مشہور ہے سونے کے زیور کا کام دینے والی یہی گھڑی ہے قیمت گھڑی معہ بکس وخوشنما عمدہ سنہری درجہ اول باراں روپے ؏

گولڈن ہاف ہنٹنگ واچ

گارنٹی دس سال



یہ بند ڈھکنے کی یعنی ڈبل کیس کی سنہری گھڑی ہے اور اسمیں خاص خوبی یہ ہے کہ وقت دیکھنے کے لیے ڈھکنا کھولنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بند ڈھکن پر ایک چھوٹا سا خوبصورت شیشہ لگا ہوا ہے اور اوپن فیس گھڑیوں کی طرح گھڑی جیب سے نکالتے ہی وقت معلوم ہو جاتا ہے اسکے ڈھکنوں پر سونا ولایتی طرز پر ایسی خوبی سے چڑھایا ہوا ہے کہ اگر احتیاط سے رکھی جاوے تو مدت تک اس کی آب تاب میں فرق نہیں پڑتا۔ بلاشک یہ گھڑی سو روپیہ کی معلوم ہوتی ہے اور بہت مضبوط اور پائیدار اور درست وقت دینے والی گھڑی ہے۔ قیمت معہ بکس وعمدہ سنہری زنجیر باراں روپے ؏

اصلی ۹ کیرٹ سونے کے کیس کی اوپن فیس جولدار لیور واچ

گارنٹی دس سال



یہ گھڑی اصلی ۹ کیرٹ سونے کیس کی ہے یہ جولدار لیور چال کی بڑھیا اعلیٰ قسم کی جیبی گھڑی ہے۔ یہ گھڑی شاندار اور قابل دید ہے اور واقعی یہ گھڑی ایک خوشنما خوبصورت کار آمد زیور ہے۔ جہیز میں زیورات تو ہزاروں کے ہونگے۔ مگر اس گھڑی کی شان سب زیورات سے بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ سب کی نظر اسی پر پڑیگی اور یہی دولہا دولہن کا مقبول پسندیدہ زیور ہوگا جن کو پرماتما نے توفیق دی ہے ضرور اس گھڑی سے جہیز کی شان دوبالا کریں قیمت چالیس روپے ؏

اصلی ۹ کیرٹ سونیکے کیس کی اوپن فیس جولدار لیور واچ

گارنٹی دس سال



یہ گھڑی اصلی ۹ کیرٹ سونے کے کیس کی ہے۔ یہ جولدار لیور چال کی بڑھیا اعلیٰ قسم کی جیبی دو کنڈے والی رسٹلٹ گھڑی ہے۔ یہ گھڑی شاندار اور قابل دید ہے اور واقعی یہ گھڑی ایک خوشنما۔ خوبصورت اور کار آمد زیور ہے جہیز میں زیورات تو ہزاروں کے ہونگے مگر اس گھڑی کی شان سب زیورات سے بڑھ چڑھ کر ہوگی سب کی نظر اسی پر پڑیگی اور یہی دولہا دولہن کا مقبول پسندیدہ زیور ہوگا جنکو پرماتما نے توفیق دی ہے۔ ضرور اس گھڑی سے جہیز کی شان دوبالا کریں قیمت چالیس روپیہ ؏

سنہری ملانیز سٹرپ والی نیو پیٹنٹ رسٹلٹ واچ



گارنٹی چھ سال — گارنٹی چھ سال

یہ دو کنڈے والی۔ خوشنما۔ پائیدار اور درست وقت دینے والی سنہری ہے اور چمڑے یا مخمل کے تسمے کی جگہ اس میں دھات کا سنہری ملانیز خوشنما خوبصورت سٹرپ لگا ہوا ہے۔ خوبصورتی سجاوٹ اور خوشنمائی میں لاثانی ہے۔ ہاتھ کی سجاوٹ کے لئے قیمتی زیورات بھی اسکے آگے مات پڑ جاتے ہیں۔ جہیز میں بیشک سینکڑوں ہزاروں کا سامان موجود ہوگا۔ مگر یہ چند روپیہ قیمت کی گھڑی اپنی تعریف دیکھنے والوں سے خود کرائیگی اور عمدہ خوشنما قیمتی زیور سے مقابلہ میں بازی لے جائیگی۔ جہیز کی شان دوبالا کرنے والی کم خرچ بالا نشین چیز ہے۔ قیمت آٹھ روپے ؏

(۲) ریڈیم یعنی رات کو اندھیرے میں بھی وقت بتلانے والی۔ نو روپے ہے ؏

شاندار نیو پیٹنٹ رسٹلٹ واچ

گارنٹی چھ سال



یہ گھڑی سیپ کے کیس کی سفید براق چمکدار واقعی خوبصورتی سجاوٹ اور خوشنمائی میں لاثانی ہے اور واقعی عورتوں اور مردوں کے ایک کار آمد نہایت خوشنما اور خوبصورت زیور ہے ہاتھ کی سجاوٹ کے لئے قیمتی زیورات بھی اسکے آگے مات پڑ جاتے ہیں چورس اور آٹھ کھونجی دونوں موجود ہیں۔ جو کی چاہیں منگوائیں سیج مانیں اور یقین کریں کہ یہ خرید کرنے والی چیز ہے آپ اسکو خرید کر ضرور خوش ہونگے۔ خاص قابل ذکر خوبی یہ ہے کہ کیس سفید سیپ کا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہی اس کی چمک اور خوشنمائی قائم رہتی ہے قیمت گھڑی عمدہ خوبصورت تسمہ لگا ہوا صرف دس روپے ؏

ملنے کا پتہ - ویسٹرن واچ ایجنسی - لدھیانہ پنجاب

سگرٹ کیس کیطرح بنا ہوا بجلی کا جیبی لیمپ اعلیٰ قسم



یہ لیمپ سیگرٹ کیس کی شکل کا بنا ہوا ہے اور بآسانی جیب میں رکھا جا سکتا ہے جسوقت روشنی کی ضرورت ہو لیمپ کا بٹن نیچے کھسکانے سے جھٹ روشن ہو جاتا ہے اور جتنی دیر آپکا دل چاہے روشن رکھیں پھر بٹن اوپر کر دینے سے بجھ جاتا ہے روشنی بجلی کی تیز اور صاف ہوتی ہے دھوئیں کا نام و نشان نہیں اور جلتا ہوا لیمپ جیب میں ڈال لینے سے کسی قسم کا ذرا بھی اندیشہ نہیں بلا شک و شبہ کے پبلک کے لئے یہ لیمپ کارآمد اور نافع تحفہ ہے۔ یہ ہو بہو سگرٹ کیس کیطرح بنا ہوا ہے سگرٹ کیس کیطرح سائیڈ پر کھلنے والا اور نکلہ مٹیل کا بنا ہوا نہایت خوبصورت ہے قیمت لیمپ مکمل معہ بلب اور بیٹری تین روپیہ چودہ آنے (۲) فالتو بیٹری کی قیمت ایک روپیہ فالتو بلب کی چار آنہ

بجلی کا دیوار گیر لیمپ



یہ لیمپ اس طرز کا بنا ہوا ہے کہ دیوار میں صرف ایک میخ گاڑ کر اسکو لگایا جاتا ہے جسوقت روشنی کی ضرورت ہو سوئچ پھیر دینے سے سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے جتنی دیر آپکا دل چاہے روشن رکھیں پھر سوئچ پھیر دینے سے بجھ جاتا ہے۔ روشنی بجلی کی تیز اور صاف ہوتی ہے دھوئیں کا نام و نشان نہیں۔ روشنی بجلی کی پھیل کر سارے کمرے میں خوب روشنی ہو جاتی ہے۔ نکلہ مٹیل دھات کا بنا ہوا نہایت عمدہ خوشنما کمرے بالاسٹین چیزوں کمرے کی سجاوٹ کیلئے خرید کرنیوالی کارآمد چیز اور فالمقدر تحفہ ہے قیمت لیمپ مکمل معہ بلب اور بیٹری پانچ روپیہ ہے (۲) فالتو بیٹری کی قیمت ایک روپیہ فالتو بلب کی چار آنہ

بجلی کا پھول

یہ بجلی کا پھول خوبصورت اور خوشنما ہے۔ اسکے ساتھ ڈورہ اور بلب وغیرہ سب سامان موجود ہے اور ڈورہ کے دونوں سروں پر دو چھلے لگے ہوئے ہیں پھول کو کوٹ یا واسکٹ کے بٹن کے سوراخ یا کسی موزوں جگہ لگا کر بیٹری کو جیب میں ڈالا جاتا ہے اب پھول کے چھلوں کو بیٹری کی تاروں میں لگانے سے پھول روشن ہو جاتا ہے۔ روشنی بجلی کی ہے یہ پھول نہایت ہی خوشنما اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ روشنی سامنے پڑتی ہے اور روشنی بجلی کی تیز اور صاف ہوتی ہے دونوں یا ایک چھلے کو بیٹری کی تار سے علیحدہ کر دینے پر پھول بجھ جاویگا ضرور منگوا کر ملاحظہ فرماویں قیمت پھول معہ بیٹری دو روپیہ فالتو بیٹری کی ایک روپیہ

بجلی کا جیبی لیمپ



یہ لیمپ ایک ڈبیا کی شکل کا بنا ہوا ہے اور بآسانی جیب میں رکھا جا سکتا ہے جسوقت روشنی کی ضرورت ہو لیمپ کا بٹن نیچے کھسکانے سے جھٹ روشن ہو جاتا ہے اور جتنی دیر آپکا دل چاہے روشن رکھیں پھر بٹن اوپر کر دینے سے بجھ جاتا ہے روشنی بجلی کی تیز اور صاف ہوتی ہے دھوئیں کا نام و نشان نہیں خاص قابل ذکر خوبی یہ ہے کہ لیمپ جلتا ہے مگر سینک کا نام و نشان نہیں اور جلتا ہوا لیمپ جیب میں ڈال لینے سے کسی قسم کا ذرا بھی اندیشہ نہیں لالٹین میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں۔ بلا شک و شبہ کے پبلک کیلئے یہ لیمپ کارآمد اور فالمقدر تحفہ ہے (۱) بجلی کا جیبی لیمپ بہت عمدہ قسم مکمل معہ بلب و بیٹری دو روپیہ آٹھ آنہ (۲) تین رنگ یعنی سرخ سفید اور ہری روشنی والا بجلی کا جیبی لیمپ بہت عمدہ مکمل معہ بلب اور بیٹری تین روپیہ آٹھ آنہ (۳) فالتو بیٹری کی قیمت ایک روپیہ اور فالتو بلب کی چار آنے

ملنے کا پتہ۔ جنرل ٹریڈنگ کمپنی لدھیانہ۔ پنجاب

تمام گھڑی فروشوں سے مقابلہ کریں

اور دیکھیں کہ عمدگی کے لحاظ سے سب سے سستی اور عمدہ گھڑیاں ہمارے سوائے کسی دوسری جگہ سے نہیں مل سکتیں۔ دیگر گھڑی فروش جن کو گھڑیاں کھولنا تک نہیں آتیں اپنی تعریف کر کے آپ کو اپنے دام میں پھنسا کر آپ کی تمام قیمت مٹی میں ملا رہے ہیں بلکہ - اس لئے ان سے بچنا چاہیئے۔ کیونکہ ان کے پاس

جب دقت فرمائشیں آتی ہیں۔ بازار سے جیسی گورہ کرکٹ گھڑیاں ملتی ہیں۔ بھیج دیتے ہیں۔ ہماری گھڑیاں **ولایت کے نامدار کارخانوں میں** نہایت عمدگی سے تیار ہوتی ہیں۔ جو صاحب ہم سے ایک بار گھڑیاں خرید فرماتے ہیں۔ کبھی کسی دوسری کمپنی کا نام نہیں لیتے۔ پس آپ بھی ہم سے منگوا کر فائدہ اٹھائیں۔ **نوٹ** ہر ایک گھڑی کے ساتھ چین مفت اور رسٹ واچ کے ساتھ تسمہ مفت روانہ ہوگا اپنا نام و پتہ صاف مکمل اور خوشخط تحریر کریں۔

انعام - ایک سو جن کے خریدار کو ایک گھڑی انعام چھ گھڑی کے خریدار کو ساتویں گھڑی نصف قیمت پر دیں گے۔ تین گھڑی کے خریدار کو محصولڈاک معاف۔

اندھیرے میں وقت بتانے والی انگلش رسٹ واچ

گارنٹی دس سال

مشینری بڑھیا اور فیگرز ریڈیم کے جو اندھیرے میں وقت بتاتی ہے۔ بازو دل ہیں ... نکل کیس ... سونے کی ... معہ جالیدار پروٹیکٹر۔

اعلیٰ کوالٹی کی پالٹ ریڈیم واچ

گارنٹی ... سال

یہ گھڑیاں گھپ اندھیرے میں بجلی کی طرح چمک کر صحیح وقت بتاتی ہیں لیور چال پائیدار ... چابی ... قیمت ... سکنڈ ... بڑھیا جولدار ...

اصلی آٹھ روزہ پالٹ واچ

گارنٹی پندرہ سال

ہمارے ہاں اصلی کارخانہ کی آتی ہیں۔ آٹھ دن میں ایک بار چابی دینے سے ایک منٹ کا فرق نہیں پڑتا۔ ڈائل خوبصورت بیل بوٹے دار نکل سلور کیس ... بند کیس چاندی کی ... چھوٹا سائز ... بند کیس قیمت ...

سنہری جوڑ بدار گھڑی پائیدار



گارنٹی دس سال

پائیدار اور خوبصورت

اس گھڑی کو عورت و مرد سب پہنتے ہیں۔ زیور کا زیور گھڑی کی گھڑی۔ جنٹلمینوں نے بہت پسند کی ہے۔ وقت کی سچی چابی ۴۸ گھنٹہ قیمت درجہ اول ... سات روپے۔ بارہ روپے ... رولڈگولڈ قیمتی ڈائل قیمت ... خوبصورت پائیدار۔ گارنٹی دس سال۔ قابل دید تحفہ ہے۔ جلد منگائیے۔

آٹھ روزہ چابی کی گنڈیدار رسٹ واچ

ریڈیم گارنٹی ۱۵ سال

سپیشل آرڈر سے منگواتی ہیں عمدہ اور اصلی آٹھ روزہ چابی۔ نہایت خوبصورت اور سچا وقت دینے میں لاثانی ایک بار قیمت خرچ نے تمام عمر کام دیتی ہے۔ ... گھپ اندھیرے میں بجلی کی طرح چمکنے والی ... بند کیس ... چاندی کی ہر گھڑی پر دو روپے زیادہ۔

جوڑیدار سپرنگ کی گھڑی اسٹاپ کیس کی دستی واچ

یہ چھوٹی بڑی کلائی پر فٹ آتی ہے۔ رنگ مانند سونے کے چمکیلا ہے۔ وقت میں ایک منٹ فرق نہیں پڑتا۔ چابی ۴۸ گھنٹہ کی۔ گارنٹی آٹھ سال۔ قیمت صرف نو روپے اور نگدار دس روپے آٹھ آنہ۔

یہ سٹیپ کیس کی گھڑی نہایت خوشنما مضبوط بنی ہوئی ہیں۔ پرزے نہایت مضبوط ہیں۔ قیمت کچھ بھی نہیں یعنی صرف آٹھ روپے بارہ آنہ۔ ہر کلائی پر فٹ آتی ہے اور سچا ٹائم دیتی ہے گارنٹی دس سال۔

خوشنما پائیدار جنتری کیلنڈر واچ



گارنٹی دس سال

اس جنتری واچ میں تاریخ مہینہ چاند گھنٹہ اور سیکنڈ اور رفتار علاوہ بھی معلوم ہوتی ہیں ... جواہر چال قیمت ... روپے بڑھیا اٹھارہ روپے گارنٹی دس سال۔

سفید سلور سنہری سٹنگ واچ

گارنٹی ... سال

بند کیس کی گھڑی پندرہ روپیہ کی معلوم دیتی ہے۔ کیس جلدار قیمت صرف ...

ریلوے گارڈ

گارنٹی ... سال

محکمہ ریلوے کے تمام ملازم خریدتے ہیں وقت سچا دیتی ہے قیمت ... بڑھیا ...

اصلی نڈین سلور نہایت خوبصورت لیور درباری واچ

قیمت ... مع عمدہ چین

یہ وہی اصلی گھڑی ہے جو بہت مشہور ہے۔ جس طرح درباری لوگوں کی عزت ہوتی ہے۔ اسی طرح پبلک کے درباروں میں اس گھڑی نے عزت پائی ہے۔ ... گارنٹی ... سال

قیمت پانچ روپے بارہ آنے ... مع محصولڈاک چین مفت

ریلوے گیئر واچ

گارنٹی ... سال

یہ گھڑی نہایت خوبصورت ہے ... قیمت ... روپے ... آنے

اصلی راسکوپ سسٹم واچ

اس گھڑی میں خاص خوبی یہ ہے ... صرف ...

رسٹ واچ

گارنٹی دس سال

خوبصورت کلائی پر باندھنے نہایت مضبوط قیمت نکل سلور کیس ... سنہری ... چاندی ...

پاکٹ لیور واچ

گارنٹی ... سال

وقت بالکل درست بتاتی ہے۔ نہایت خوبصورت پائیدار قیمت صرف ... بڑھیا ...

انگلش لیور واچ

گارنٹی ... سال

اسکا ہر ایک پرزہ کام کا ظاہر ہے۔ نکل کیس ... چاندی کی ... بڑھیا ...

اصلی کوک شاستر المشہور قانون عشرت

قیمت صرف عہ

اس وقت جبکہ ہر طرف کوک شاستروں کی بھرمار ہو رہی ہے۔ اور ہر شخص اپنی طبع شدہ کتاب کو اصلی اور سچی قرار دینے میں سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ اگرچہ وہ اصلی اور سچی ثابت نہیں ہو سکتیں اور بعض میں سنسکرت کے بہت سے مضمون کو ہضم کر لیا گیا ہے۔ ہم بڑے زور دار دعوے سے کہتے ہیں کہ جو شخص ہماری کتاب کو غیر مفید ثابت کر دکھائے۔ تو ہم ڈبل قیمت واپس کر دیں گے۔ یہ کوک شاستر وہ کتاب ہے جس کے اصلی ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اہل ملک نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہی ایک کتاب ہے۔ جس کی تلاش مدت سے ہر ایک آنکھ کو ہو رہی تھی۔ اور اس میں متعدد باب اور کئی فصلیں ہیں۔ جن میں سے چند ایک کا اس جگہ ذکر کیا جاتا ہے (۱) میاں بیوی کے تعلقات (۲) مباشرت کا اصلی لطف (۳) برہمچرج اور مرض جریان اور اس کے اسباب اور علاج (۵) نامردی کے اسباب اور اس کا مفید علاج (۶) تنگ علاج کے تاریخی حالات اسباب و علاج۔ علاوہ ازیں بے شمار نسخہ جات صدری۔ فقیروں اور سنیاسیوں کے اور وہ نسخہ جات جو دیر تک مطب میں مستعمل رہ چکے ہیں اور عورتوں کے عوارضات مثل انتقاق الرحم۔ سیلان الرحم۔ حسب خواہش اولاد نرینہ پیدا کرنا۔ اجتباس حیض۔ کثرت حیض یعنی پاؤں بھو اٹھنا وغیرہ درج ہیں۔ اس کی قیمت دو روپیہ ہے۔ مگر چونکہ اس کو ہر گھر میں پہنچانا مقصود ہے۔ اس لئے اس کتاب کی قیمت بجائے دو روپے کے ایک روپیہ چھ آنے مجلد معہ محصولڈاک کر دی ہے۔

چھ سو اکاسی بیوپار

(۶۸۱)

چھ سو اکاسی بیوپار میں چھ سو اکاسی ہنر مکمل درج ہیں۔ جن میں سے چند بطور نمونہ درج ذیل ہیں۔ ولایت کا کیچ۔ فرانس کے عجیب کھانے اور سو برس تک زندہ رہنے کے ۱۴ اصول۔ کئی قسم کے وارنش مکمل۔ تصویروں اور چیزوں کے وارنش۔ ہر قسم کے دیسی و ولایتی صابون و اسٹور۔ کمیل سوپ ہر قسم کی سیاہیوں کے بارہ عمدہ نسخے۔ چھاپہ خانہ کی سیاہی بنانا۔ کانچ وغیرہ پر لکھنے کی تیز سیاہیاں۔ پتھر پر نشان کرنے کی عمدہ سیاہی۔ ٹائپ مہر وغیرہ کی عمدہ سیاہیاں۔ علاوہ اس کے ہر قسم کی پکی اور سیاہ چمڑہ رنگنے کی سیاہیاں۔ خفیہ تحریر کی سیاہیوں کے نسخے۔ کپڑے۔ کاغذ اور جانوروں کے پر۔ ہاتھی دانت۔ ریشم۔ پشمینہ۔ ہر قسم کی لکڑی۔ دیواروں پر ہر قسم کے بیل اور پکا رنگ رنگنا۔ صابن بنانا۔ لیمونیڈ۔ مرکب البت ۔ ابری دار اور دانہ دار چمڑہ بنانا۔ ہر قسم کے دندانوں کی کھچاوٹ کو درست کرنا۔ پودوں کا درخت اور تصویروں کے سنہری اور ہر رنگ کے فوٹو بنا لینا۔ ہر قسم کی دھاتوں کا جوڑنا۔ سیمنٹ بنانا۔ کئی رنگوں کی روشنائی بنانا۔ آئینہ پر رنگ اور قلعی کرنا۔ موم بتی ہر قسم۔ ہر قسم کے کپڑوں سے داغ دور کرنا۔ اور تمام قسم کے سامان کو صاف کرنے کے عجیب و غریب نسخے۔ ہر قسم کی دھاتوں پر ملمع کرنا اور شراب بنانا۔ عطریات۔ روغن خوشبودار۔ مستی منجن وغیرہ کئی قسم کے بیماریوں کے مجرب نسخہ جات۔ فن گلٹ سازی۔ کل دھاتوں کا کشتہ اور پانی بنانا۔ ہر قسم کے ٹوٹے ہوئے سامان کو جوڑنا۔ سوکھی لکڑی۔ مردہ جانوروں کے پر دیال پر گلٹ کرنا۔ نقلی ملمع اور لوہے پر گلٹ کرنا۔ کاغذ پر سنہری اور روپہلی پانی پھیرنا۔ فوٹو گرافی مکمل۔ خود بخود جلنے والی دیا سلائی کے نسخے۔ ایک تجربہ کی کئی نقلیں چھاپنے کا چھاپہ خانہ۔ چند بیجوں میں بنانا۔ لیمونیڈ ہر قسم۔ مٹی کے برتن پر روغن۔ آتشبازی بنانا۔ شیشہ کے نئے ہنر مکمل۔ کانچ سازی اور رنگ دینے کے نسخے۔ چینی برتنوں پر ہر قسم کے رنگ کی ترکیبیں۔ آچار مربے۔ چٹنیاں۔ زہریلے جانوروں کے کاٹنے کا علاج۔ ہر سبزی کو مدت تک تازہ رکھنا۔ کئی قسم کے مجرب نسخے۔ سنگ مرمر وغیرہ۔ الغرض کہاں تک لکھا جاوے۔ مختصر یہ کہ یہ کتاب انگلستان۔ جاپان وغیرہ تمام دستکار ملکوں کے کاریگروں کا آئینہ۔

قیمت معہ محصولڈاک ایک روپیہ نو آنہ ...... عہ ۹ / ۱

خفیہ حکیم

قیمت مجلد معہ محصولڈاک عہ

مردوں اور عورتوں کے تمام پوشیدہ امراض جن کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وغیرہ اور پیشاب کا بند ہونا یا کثرت سے آنا۔ خونی پیشاب۔ بال گر جانا۔ عورتوں کا خون حیض بند ہونا یا کثرت سے آنا۔ رحم۔ حمل میں خون آنا۔ زخم رحم۔ خارش ۔ وغیرہ کے تیر بہدف نسخے یونانی اور ڈاکٹری درج کئے گئے ہیں اور علاوہ ازیں روغن۔ پالش وغیرہ کے نسخہ جات۔ حمل کے گرنے کے اسباب اور علاج۔ عورت کو بچہ ہوتے ہی دیکھنا۔ بچہ آسانی سے جننا۔ بے اولادی اور پوشیدہ امراض جات ہر قسم بنانے کی ترکیبیں۔

قیمت مجلد معہ محصولڈاک ایک روپیہ چار آنہ ...... عہ ۴ / ۱

گنجینہ حکمت عرف گھر کا ڈاکٹر و حکیم

قیمت معہ محصولڈاک صرف دو روپے سات آنے ...... ۷ / ۲

گارڈ لیوواچ

یہ وہی گھڑی ہے۔ جو سب محکموں کے ملازم بسبب اس کے سچا ٹائم دینے اور مضبوطی میں تمام گھڑیوں سے پائیدار اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے خریدتے ہیں۔ یہ گھڑی اوپن فیس لیور چال کیس یعنی موکے سے چابی والی ہے چینی کا ڈائل۔ جس پر سٹیل کی سوئیاں لگی ہیں ہندسے جلی۔ سکنڈ کی سوئی اور سوئیاں بھرا ہوا ہے کانٹا بھی لگا ہوا ہے۔ اس کی مشینری نہایت عمدہ۔ جالی۔ ۱۲ گھنٹہ کی۔ پچھلی طرف ڈبل ڈھکنہ اگر آپ تھوڑی قیمت میں نہایت عمدہ گھڑی خریدنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے منگوانے میں دیر نہ کریں۔ قیمت صرف چھ روپے آٹھ آنے محصولڈاک ۷ / کل ۱۵ / ۷ تین گھڑی کے خریدار کو محصولڈاک معاف ✽ چھ گھڑی کے خریدار کو ساتویں گھڑی مفت ✽

چھ گھڑی کے خریدار کو ایک گھڑی انعام

سوتوں کو جگانیوالا الارم ٹائم پیس اصلی



اس ٹائم پیس کو چابی لگا کر الارم کی سوئی اس ٹائم پر لگا دو۔ جس وقت کہ آپ بیدار ہونا چاہتے ہیں عین اسی وقت گھنٹی کی سریلی بلند آواز سے بج کر آپ کو جگا دیگی۔ نہایت کارآمد۔ خوبصورت اور دیرپا ہے قیمت ہے ۳ / پندرہ سنٹ الارم والا عمدہ ٹائم پیس قیمت ۶ عہ

یہ گھڑی تبدیل بھی ہو سکتی ہے

اگر یہ گھڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کی جائے تو مدت تک کام دیتی جاتی ہے تاہم اگر کسی خاص سبب سے ٹوٹ جائے۔ تو اس کو پچاس سال کے اندر خواہ کیسی حالت ہو ہمارے پاس بھیج دیں۔ ہم اس کے ساتھ چھ روپے آٹھ آنے اور لیکر اسی کے ساتھ کی نئی گھڑی تبدیل کر دیں گے اور تبدیل کرنے کا معہ پرچہ گارنٹی پچاس سال ہمراہ گھڑی کے روانہ کریں گے ✽

اقرارنامہ

امپیریل ریگولیٹر واچ

ہم نے یہ گھڑی ولایت کے مشہور کارخانہ سے عمدہ بنوا کر منگوائی ہے اس کی چال لیور۔ پرزوں میں ہر ایک مقام پر اصلی جول جڑے ہوئے ہیں۔ ۳۰ گھنٹہ کی چابی لیتی ہے۔ سوئیاں سوئی افسر سے چلتی ہیں۔ ۵۰ سال کی گارنٹی اور تبدیلی کا اقرار قبول کرنے والی ہے۔ اگر کوئی گھڑی ساز بجائے اس کے دوسری گھڑی پیش کرے تو اسے جعلی سمجھیں کیونکہ اس شکل کی گھڑی تمام گھڑی ساز فروخت کرتے ہیں مگر آپ پچاس سال کی گارنٹی اور تبدیلی کے اقرارنامہ والی گھڑی طلب کریں۔ یہ گھڑی سوائے ہمارے دوسری جگہ ہرگز نہ ملیگی قیمت صرف دس روپے آٹھ آنے معہ محصولڈاک ✽

حیرت انگیز جرمن میڈ جہاں نما سیر بین

اس سیر بین کے ذریعہ جس جگہ چاہو۔ انگلینڈ۔ جرمنی امریکہ جاپان پیرس وغیرہ تمام شہروں کی سیر بذریعہ دلفریب فوٹو کے کرسکتے ہیں۔ اور حسین لیڈیاں۔ کشمیری نظارے۔ جہازوں۔ ریلوے سٹیشنوں اور بندرگاہوں۔ پہاڑوں اور خندقوں کی سیر کے علاوہ عجیب و غریب نظارے دیکھ سکتے ہیں جو ہزاروں روپے خرچ کرنے پر بھی نہ دیکھے جاسکیں باوجود اتنی خوبیوں کے قیمت صرف ... معہ ۵۰ فوٹو کے معہ محصولڈاک زیادہ فوٹو درکار ہوں تو ... منگوالیں ✽

نہایت مضبوط و سُریلے ہارمونیم باجے

ہمارے باجوں کی شہرت چاردانگ عالم میں ہو چکی ہے - جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تیار کردہ باجے سریلے - بلند آواز - مضبوط اور خوبصورت ہوتے ہیں - اگر آپ کو نہایت نفیس باجوں کی ضرورت ہے - تو ذیل میں درج کئے ہوئے باجوں میں سے منگوا کر دیکھیں - کہ کیسا عمدہ باجہ آپ کو پہنچتا ہے ؛

سنگل اعلیٰ ریڈس ۳ سٹاپ - تیس روپیہ اور اٹھائیس روپیہ - گارنٹی ۳ سال سنگل سُر درجہ دوم اٹھائیس روپیہ اور چھبیس روپیہ ؛

ڈبل سُر امریکن ریڈس یا سٹار - ۴ سٹاپ نہایت خوبصورت قیمت درجہ اول ... درجہ دوم ... درجہ سوم ... گارنٹی ۵ سال و دو سال ؛

ڈبل سُر فولڈنگ ہاتھ اور پیر سے بجانے والا ۶ سٹاپ - اعلیٰ ریڈس قیمت درجہ اول ... درجہ دوم ... روپیہ ؛

کپلر ہارمونیم یعنی صرف ایک ہاتھ سے بجانے سے دوہری سُروں کی آواز دینے والا ۴ سٹاپ درجہ اول ... روپیہ - درجہ دوم قیمت صرف ... روپیہ ؛

سفری ہارمونیم نہایت خوبصورت ... بظاہر اٹیچی کی صورت ہے آواز بڑھیا پیٹی سے بھی زیادہ - اس کا وزن تھوڑا ہے - سفر میں لیجانے والے اصحاب کے لئے قابل قدر تحفہ ہے - قیمت درجہ اول ... روپیہ - درجہ دوم ... روپیہ - درجہ سوم ... روپیہ - درجہ چہارم ... گارنٹی ۵ سال

ڈبل سُر - فولڈنگ ہاتھ اور پیر سے بجانے والے - امریکن ریڈس درجہ اول ... - درجہ دوم ... روپیہ گارنٹی ۵ سال

نالی دار بڑھیا پیٹی چھ سٹاپ صرف پیر سے بجانے والا اعلیٰ ریڈس درجہ اول ... - درجہ دوم ... روپیہ گارنٹی ۵ سال

نالی دار ۶ سٹاپ امریکن ریڈس درجہ اول ... روپیہ - درجہ دوم ... روپیہ - کیسپل ریڈس والا پیٹی صرف پیر سے بجانے والا ... روپیہ فی باجہ زیادہ لئے جائیں گے - نوٹ :- باجہ کی فرمائش کے ہمراہ ... روپیہ پیشگی روانہ کریں۔

مستورات کی خوبصورتی کیلئے چند سنہری ہار

اس نایاب اور نو ایجاد



ہار کی اصلی حالت ہم اس کاغذی نقشہ میں تو دکھا نہیں سکتے مگر ہاں اتنا ضرور ہی سمجھا دیتے ہیں کہ اس پر سنہری ملمع کیا گیا ہے - جو مدت تک نہیں بگڑتا - اس کی چمک رنگ کا مقابلہ ہزار روپے کی لاگت کا اصلی ہار بھی نہیں کر سکتا ایک دفعہ صرف ایک ہار منگوا کر کسی صراحی دار نازک اندام کے گلے میں پہنا دیجئے - پھر دیکھئے کہ ایک نظارہ میں ایک درجن ہار کی قیمت وصول ہوتی ہے یا نہیں - حق تو یہ ہے کہ بنانے والے کے ہاتھ چوم لینے کے قابل ہیں ہار کیا ہے ایک نایاب بے بہا اور خوبصورتی کی عجیب ایجاد ہے قیمت بالکل تھوڑی یعنی صرف پانچ روپیہ (...)

عورتوں کا حسن بڑھانیوالا نو ایجاد گلوبند

یہ نہایت خوبصورت اور لاجواب گلوبند اعلیٰ درجہ کے سنہرے موتیوں کا بنایا گیا ہے - دیکھنے میں بالکل سونے کا معلوم ہوتا ہے اور سب سے زیادہ خوبی اس میں یہ ہے کہ اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا ہمیشہ سونے کیطرح رہتا ہے اسی سبب سے نازک مزاج بیگمات اپنے صراحی دار گلے میں پہنتی ہیں - پھر لطف یہ کہ قیمت کچھ بھی نہیں یعنی درجہ اول صرف ... - درجہ دوم صرف ۱۲ ؍ ؛

سنہرے شیر دہان کڑے

یہ کڑے عورتوں اور لڑکیوں کے ہاتھوں میں بڑا لطف دیتے ہیں - قیمت شیر دہان سنہرے کڑے درجہ اول ... - درجہ دوم ... - سادے ... علاوہ محصولڈاک

لاجواب سنہری پہنچیاں

اعلیٰ قسم کی سنہری ... پہنچیاں مانند سونے ... مستورات کی کلائی میں بڑا لطف دیتی ہیں ... فی جوڑا ...

سنہرے کرنپھول

یہ سنہرے کرنپھول جھمکے دیکھنے میں بالکل سونے کے معلوم ہوتے ہیں فی جوڑا ... بڑھیا جرمنی ساخت کے ... ؛

اعلیٰ درجہ کی سنہری جڑاؤ بینہ بندی

یہ سنہری لاجواب بینہ بندی جو بالکل سونے کی طرز اور بناوٹ کی ہے - اس کو عورتیں اپنے ماتھے پر پہن کر اپنے حسن کو دوبالا کرتی ہیں - یہ بہت لاجواب زیور ہے - ایک آپ بھی منگالیں - قیمت صرف دو روپیہ ہو بہو سونے کی ... - اعلیٰ ... ؛

سنہری ہمیل پہنچی

سنہری لاجواب پہنچیاں جو بالکل سونے کی معلوم ہوتی ہیں - عورتوں کی نازک اور گوری گوری کلائی بڑا لطف دیتی ہیں قیمت کچھ بھی نہیں فی جوڑہ صرف ... ؛

دیگر نفیس زیورات

سنہرے موتیوں کا نولکھا ہار - اصلی سونے کے ہار کو مات کرتا ہے تین لڑا - عورتوں کے گلے میں پہنانے سے حسن دوبالا ہوتا ہے - قیمت صرف دو روپے چار آنہ ... سنہری لاجواب جھومر قیمت ... سنہری طوق - لڑکے لڑکیاں گلے میں ڈالتی ہیں ... سنہری کیلیاں عورتوں کے کانوں میں بڑا لطف دیتی ہیں ... سنہری کچھیلے ... سنہری جیپا کلی ۵ لڑی ... سنہری کنٹھا مانند سونا ... - سنہری جوشن ... سنہری جڑاؤ لونگ قیمت ... ۱۰ ؍ - ۱۲ ؍ ہو بہو سونے کی مانند جڑاؤ انگوٹھیاں ساخت جرمنی ان کے نگ اصلی ہیرے زمرد اور سرخ نگوں کو مات کرتے ہیں قیمت فی انگوٹھی ... - ... اور ... سنہرے گلے کے بٹن زنجیری دار ہو بہو سونے کے معلوم ہوتے ہیں فی سٹ ... بازو کے بٹن فی سٹ ... زنجیری دار کانوں کے کانٹے سنہری ... بازوؤں میں پہننے کے سنہری بند اصل سونے کے بندوں سے مقابلہ کرو - دیکھنے والے سونے کے تصور کریں گے فی جوڑہ ... سر میں لگانے کے سنہری پاسے ہو بہو سونے کے قیمت فی جوڑی ... - کان کی کیل نگ دار ... گلے کی سنہری زنجیری ہو بہو سونا ... اور ...

پاکٹ گلاس بند کرنے سے ڈبی کی صورت ہو جاتا ہے قیمت صرف ...

مصر کا جادو اصلی

اس کتاب میں سورج چندرماں - زحل سنیچر وغیرہ سب سیارگان اور ہنومان اور کل دیوی دیوتاؤں حسب منشا لینے وجنات وغیرہ کو تسخیر کرنے اور اُن سے تمام کام اپنی کے علاوہ وہ راز درج ہیں - جو آج تک دیکھے نہ سنے ہونگے - مثلاً ہر قسم کی بیماریوں کو جادو کے ذریعہ دفعہ کرنا - گھر بیٹھے دوسرے ملکوں کی سیر کرنا ہوا میں اُڑنا - جس کو جی چاہنا - اپنے بس میں کر لینا - نظروں سے غائب ہو جانا - اور خود سب کو دیکھنا - دور دراز کی اشیاء گھر بیٹھے منگوا لینا - اپنی شکل بدل لینا وغیرہ - بعد میں ایسے راز - جو روزانہ ضروریات کے لئے مفید ہیں - مثلاً کشائش رزق - کسی اٹکے ہوئے کام کے لئے یا اولاد پیدا کرنے کے لئے - دولت بڑھانے - نوکری لگوانے - افسر کو خوش کرنے کے لئے اور کئی قسم کے طلسم جن کا ذکر اس تھوڑی سی جگہ میں آنا محال ہے درج ہیں - مختصر یہ کہ کتاب پڑھے بغیر آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے - کتاب دیکھنے پر ان باتوں کی سچائی معلوم ہو جائیگی - اگر کتاب مذکور ہماری تحریر کے خلاف ہو تو قیمت واپس دی جاویگی - قیمت معہ محصول ڈاک اُردو مجلد ایک روپیہ آٹھ آنہ - ہندی ناگری مجلد ایک روپیہ چودہ آنے (۱۴؍۱) - گورمکھی مجلد ایک روپیہ بارہ آنے ۱۲؍۱

دہوکہ سے بچو

دوسرے اشتہاری لوگ نقلی مصر کا جادو چھاپ کر آپ کو لوٹ رہے ہیں - اصلی کتاب سوائے ہمارے دوسری جگہ نہ مل سکیگی - اصلی کتاب لینی ہو تو مندرجہ بالا پتہ سے منگوائیں۔

تسخیر ہمزاد خفیہ یعنی طلسم خورشید

اصلی کتاب سوائے ہمارے دوسری جگہ سے نہ ملیگی شخص نہ خریدے

یقیناً ایسی مفید اور کارآمد کتاب آج تک نہیں چھپی - اس کو جو اس کے برابر کوئی اپنا دشمن نہیں ہے - کیونکہ اس سے دین و دنیا کا بھلا ہو جاتا ہے - اس میں سینکڑوں معجزات طلسمات - شعبدات جنتر - منتر - تنتر ایسے درج ہیں جن کے ذریعہ مہاتما لوگ من مانی مراد دیتے تھے - مثلاً مردہ زندہ کرنا - آدمی کو گدھا بنانا - بوتل میں گیند اتارنا - اعمال عجیبہ وغیرہ کے علاوہ ہمزاد کو تسخیر کرنے کے عمل اور ایسی خفیہ باتیں درج ہیں - جو ہزاروں روپے خرچ کرکے بھی نہیں ملتیں جو شخص اس کے عملوں پر قادر ہو جائے - وہ دین و دنیا کی دولت کا مالک بن سکتا ہے - اور ایسے کام کرتا ہے - کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے - علاوہ ازیں ہری الائچی - بے موسم پھول ترکاریاں - مثلاً کشمیر کے سیب ناسپاتی - کابل کے انگور - انار سردہ وغیرہ - سہارنپور کے آم - الہ آباد کے امرود - کلکتہ بمبئی کے کیلے اور دیگر مشہور مقامات کے تحفے غائب سے منگوا سکتا ہے - اور ہزاروں مریضوں کو تندرست کر دینا - دشمن سے اکیلے ہی مقابلہ کرکے اپنا مطیع کرنا - تمام خلق کو دیکھنا اور خود نظر نہ آنا - کئی آدمی کی خوراک ایک ہی برتن سے مہیا کرنا اور ہمزاد کو غلام بے دام بنا کر تمام دلی آرزوئیں پوری کرنا وغیرہ - اس کے علاوہ کل دیوی دیوتاؤں اور جنات وغیرہ کے سدھ کرنے کے منتر - جنتر - تنتر اس میں سے درج ہیں - کہ ہر مذہب کا آدمی بلا کسی تکلیف کے عامل بن سکتا ہے - قیمت معہ محصولڈاک ایک روپیہ چھ آنے ۶؍۱

بھان متی کا پٹارہ

سچ مچ یہ شعبدوں کا مجموعہ یوروپ اور ہندوستان کے مداریوں کا پٹارہ ہے اس میں انڈے - بوتل - رومال - گلاس - چھوڑی - روپیہ - تاش کے ہر قسم کے کھیل - بھوت پریت یا جن دکھلانا - جن بھوت اتارنا - تاریکی میں روشنی کر دینا - آگ منہ سے نکالنا - آگ ہاتھ پر رکھنے سے ہاتھ نہ جلنا - ہتھیلی پر چیانا - آدمی کو قتل کرکے پھر زندہ کر دینا - آم کا بوٹا لگانا - سرسوں اُگانا - بغیر بھٹی کے جوار وغیرہ غلہ بھون کر آگ پر کھانا - بندھے ہوئے انسان کو چھڑانا - قیدی کی بیڑیاں کھولنا - کڑاہی سے بھنے ہوئے جانور اڑ جاویں - کاغذ کی کڑاہی میں حلوہ وغیرہ پکانا - جادو کی سیاہیاں - کمرہ میں ہر رنگ کی روشنی کر دینا وغیرہ مزید برآں اور سینکڑوں شعبدے درج کرکے بہت آسان طریقے سے سمجھائے گئے ہیں جن سے بلا کسی کی مدد کے ہر شخص واقف ہو کر کھلے میدان لوگوں کو حیران کر سکتا ہے اور کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی - باوجود ان اوصاف کے قیمت معہ محصولڈاک ایک روپیہ چار آنے ۴؍۱

طلسمی عجائب خانہ

وہ طلسم درج ہیں جن سے سقراط ہیرن - جالینوس - افلاطون - ارسطاطالیس - بطلیموس وغیرہ حکما لوگوں کو دکھا کر فریفتہ کر لیتے تھے - آجکل بھی یہ طلسم جو ایجاد دکھائے جاتے ہیں وہ انگشت بدندان رہ جاتے ہیں جو کہ اس زمانہ میں ان حکما کے [illegible] منظر [illegible] اسلئے اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے [illegible] قیمت مجلد معہ محصولڈاک (۶؍)

ایکہزار روپیہ ماہوار شرطیہ کمالو

اس کتاب کا نام مجموعہ ہزاری ہے - اس میں تمام ہنر بڑی محنت اور کوشش سے تجربہ شدہ درج ہیں - جن میں سے ہر ایک آدمی بلا کسی کی مدد کے گھر بیٹھے ہزار روپیہ ماہوار شرطیہ کما سکتا ہے - یہ کتاب ہزاروں کی تعداد میں بک چکی ہے اس کے مصنف نے اعلان کیا ہے - کہ جس شخص کو میرے تحریر کردہ کسی نسخہ کے متعلق کچھ دریافت کرنا ہو تو مجھ کو خط لکھے - اس کے درج شدہ نسخوں میں سے چند بطور نمونہ مندرجہ ذیل ہیں - مثلاً مشک کافور - موتی - لال - دیسی و ولائتی صابن - نسخہ دافع جریان - دافع لکنت - چورن - اگنی سندیپ رس - منہ میں آگ جلانا - آگ کھانا - پانی میں آگ جلانا - بوتل میں بیل پلنگ وغیرہ اتارنا - سونے کا درخت - جادو کا قلم - انگریزی و دیسی ہر قسم کی سیاہیاں - سوڈا واٹر - سفری وغیرہ - کیک - بسکٹ - نان خطائی - ڈبل روٹی اور سب قسم کے کشتہ جات - شربت ہر قسم - خمیرہ - معجون - اچار مربے - چٹنیاں - سرکہ وغیرہ - مکمل فن گھڑی سازی اور فوٹوگرافی - رنگریزی اور سوتی ہر قسم کا کپڑا - ریشم وغیرہ رنگنا - مکمل فن شیشہ گری - بال اڑانے کا ہر قسم کا صابون پوڈر - روغن - بال عمر بھر پیدا نہ ہونے کے نسخے - مرقی فلتہ - بجلی کے تعویذ انگوٹھی اور سوئیاں - کاغذ - بٹن - لوہے اور کپڑے کے بٹن - ہر قسم کی لکڑی و مٹی کے برتنوں پر روشن کرنا - جواہرات بھری ڈگری - تار برقی - دیا سلائی ربڑ کا چھاپہ خانہ - مہریں بنانا - طلسمی سانپ - کاغذ ہر قسم - بلاٹنگ - رول - پنسل - چٹن - ہملک وغیرہ - گلاس - نمک کا پیالہ - ٹھنڈے کے کھلونے - چوڑیاں چاندی سفری - تکیاں - خضاب - گھڑی کا وارنش - گلٹ سازی - ملمع سازی - چینی کے برتنوں پر نقش - بدنما عورت کو خوبصورت بنانا - تارکول - تارپین - سوتی مالا - پھلجھڑی آتشبازی - دوربین - طلائی دلفریبی نقدی - بڑھیا قلمدان - گلوب - چینی وغیرہ پر پھول بنانا - ہر قسم کے پھولوں اور سبزیوں کو ہمیشہ قائم رکھنے کی ترکیب مطب نما گیس کی روشنی - ہاتھی دانت کے برتن بنانا غرضیکہ سیکڑوں روپیہ بنانے کی مشین ہے سو بیماریوں کی ایک دوا کا مفید نسخہ معہ ترکیب استعمال بھی اس میں درج ہے خریدیں اور مصنف کے بے بخل ہونے کی داد دیں - قیمت معہ محصولڈاک صرف ایک روپیہ نو آنہ ۹؍۱

عملیات ہمزاد طلسمی

اس آزمودہ طلسمی کتاب میں ایسے عملیات حب - تسخیر دشمن کی ہلاکی اور کشائش رزق اور ہمزاد جنات وغیرہ کو قابو کرنیکے سہل سے سہل خفیہ راز بتائے ہیں جن سے ہر ایک مذہب کا آدمی بلا تکلیف عامل ہو سکتا ہے قیمت معہ محصولڈاک صرف چودہ آنے ۱۴؍

مجموع الطب یعنی قرابادین یونانی

حجم ۳۰۰ صفحہ قیمت مجلد معہ محصولڈاک

جادوئے ہند

اس کتاب میں مسمریزم - علم تسخیر - جادو - کشش حیوانی - کشش روحانی - حب - تسخیر ہمزاد - تسخیر جنات - تسخیر الشیاطین - تسخیر ارواح - طلسم - جنتر - منتر - تنتر - تعویذ - نقش - اسم اعظم درج ہیں جو ہزاروں مرتبہ کے آزمودہ پُر تاثیر بہدف ہیں اس کتاب کا ہر ایک عمل ایک دوسرے سے بڑھکر ہے یہ وہی عمل ہیں - جن کے وسیلے سے مہاتما رشی منی درویش - جوگی - جتی - ستی - سنیاسی - نیاگی - بیراگی حیرت انگیز کرامات دکھاتے تھے - اور اس علم کی بدولت آج تک وہ بزرگ برتر مانے جاتے ہیں - اگر آپ اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں - تو اس کتاب کے منگانے میں دیر نہ کریں - کیونکہ اسکے ذریعہ چند روز میں ایسی قوت کے مالک بن جاوینگے جس کی وجہ سے لوگ آپ کے کرشموں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھینگے - کوئی مشکل سے مشکل کام جو اس وقت ناممکن نظر آتے ہوں - اس پر عمل کرنے سے معمولی بات ہو جاویگی - اس کتاب کے عمل کسی خاص مذہب کے لئے محدود نہیں بلکہ ہر ایک آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے - قیمت معہ محصولڈاک صرف ایک روپیہ چار آنے ۴؍۱

جامع التسخیر

اس کتاب میں عمل حب - تسخیر - نقش - تعویذ - جنتر - منتر - تنتر - فال اور گردش سیارہ و بروج - بانجھ عورت کے لڑکا پیدا کرنا - عامل کے اعمال - مالا مال کر دینے والی انگوٹھی بنانا وغیرہ صدہا ترکیبیں اور نقش درج ہیں - جو آج تک دیکھے نہ سنے ہونگے - قیمت معہ محصولڈاک صرف چودہ آنے ۱۴؍

بیسویں صدی کا جادو یا نصیور

اسکے سامنے دنیا جہاں کے تمام نئے اور پرانے جادو ہیچ و ناکارہ ہیں!!

امریکہ کا ایک آدمی ہندوستان آیا تھا۔ اور یہاں اپنے بیس سال کے عرصۂ قیام میں اسنے ہمالہ پربت کے جٹا دھاری جوگیوں اور تارک دنیا مہاتماؤں سے جو بھید حاصل کیں ان کو واپس جاکر کتابی شکل میں شائع کیا جو باتیں حیطہ تحریر میں نہیں آسکتیں جن کو اپنے سینہ میں لے کر اکثر ہندوستانی فقیر گوشۂ قبر میں جالیتے کئی صدیوں سے جو راز سینہ بسینہ چلے آتے تھے انہیں راز و نیکی پر وہ کشائی ان کورسوں میں کی گئی ہے۔

مخزن مسمریزم یا علم اشراق (مکمل تین حصوں میں) علم مسمریزم کے ذریعہ سے نہ صرف تجارت بلکہ تمام دنیوی معاملات میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کرنے کے نہایت آسان عام فہم اور بیشمار طریق درج کئے گئے ہیں نیز زندہ جادوگری یعنی فن ہپناٹزم کے درجنوں سہل تجربے اس ترکیب سے لکھے گئے ہیں کہ معمولی لیاقت کا آدمی بھی بلا استاد کی مدد کے انکی روزانہ مشق کر کے ایک ہفتہ کے اندر نہ صرف اپنے کاروبار میں غیر معمولی ترقی حاصل کر سکتا ہے بلکہ حیرت انگیز فوق الفطرت عجیب و غریب کام کر کے ساری دنیا کو محو حیرت بنا سکتا ہے۔ مثلاً (۱) معمول کو بغیر چھونے کے ہاتھ پاؤں باندھ دینا (۲) معمول کو آگے پیچھے گرا دینا (۳) معمول کی زبان بند کر دینا (۴) معمول کو خط کے ذریعہ سے جو بذریعہ ڈاک اس کے پاس بھیجا جائیگا سلا دینے کا عمل (۵) معمول دوسرے شہر کے کسی آدمی کے دل کا حال بتلائیگا (۶) معمول کو عالم ارواح میں بھیجکر مرحوم رشتہ داروں سے ملاقات کرانا (۷) معمول سے غیر زبان کی کتاب پڑھوا لینا (۸) معمول زمانہ گذشتہ و آئندہ کے حال بیان کریگا (۹) [illegible] [illegible]

[illegible]

اسکی لمبی تفصیل [illegible] والدین اولاد کو شاگرد دوں کو [illegible] قابو میں لا سکیں گے۔ امریکہ میں اب مسمریزم کا چرچا عام ہو گیا ہے وہاں ۹۵ فیصدی کاروباری آدمی [illegible] کامیاب زندگیاں بسر کر رہے ہیں ان لوگوں کے [illegible] اور سستا [illegible] کو جادو کا بنا دینا یہی شکل نہیں۔ مخزن مسمریزم کی زیادہ تعریف فضول ہے ایک لفظ [illegible] کے جو ہر کھلیں گے۔ مختصراً ہم کہہ دیتے ہیں فن مسمریزم ہپناٹزم اور تمام [illegible] کتاب آج تک زبان اردو میں شائع نہیں ہوئی۔ [illegible] اس نادر و نایاب کتاب کے مطالعہ سے آپ کی آنکھیں کھل جائینگی۔ اور بہت ممکن ہے کہ آپکی زندگی کا رخ پلٹ جائے۔

اگرچہ مخزن مسمریزم کی قیمت امریکن مصنف نے تین پونڈ رکھی تھی [illegible] ہندوستان [illegible] ہم نے ترجمہ کے حقوق حاصل کر کے [illegible] کی قیمت پہلے ۵۰ روپے رکھی تھی۔ پھر بھی تھوڑے عرصہ میں [illegible] پہلا ایڈیشن [illegible] کم صد جلدیں ہمارے سٹاک میں موجود ہیں۔ اب اس خیال سے کہ کم استطاعت کے لوگ بھی [illegible] کچھ عرصہ کے لیے قیمت میں نمایاں کمی کی گئی ہے یعنی ۳ پونڈ کی بجائے صرف ۳ روپے علاوہ محصول ڈاک

ضخامت ہر حصہ کی ۵۰۰ صفحات۔ ہر دلاتی کاغذ۔ لکھائی چھپائی [illegible] با تصویر اور جلد بندھی ہوئی ہے آج ہی آرڈر بھیج دیجئے۔ سردست ہم صرف پہلے سو خطوں کی تعمیل کر سکیں گے۔

نوٹ

مخزن مسمریزم کو عام بازاری کتابوں میں شمار کرنا سراسر ظلم ہوگا جو بالکل بے سرو پا اور لغو ہوتی ہیں اور جن کی خلاف قیاس اور بعید از عقل باتیں پڑھنے والے کا دل تو ضرور خوش کر دیتی ہیں۔ مگر عملی طور پر وہ ان سے کچھ حاصل کر سکیں یہ اسکے لیے ناممکن ہوتا ہے۔

احتیاط مخزن مسمریزم کے ساتھ راز داری کے علاوہ اس بات کی ایک حلفیہ تحریر آنی چاہیے کہ ہمیں بتلائے ہوئے عملیات سے آپ ہرگز ہرگز ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں گے ورنہ تعمیل ارشاد نہ ہوگی وجہ کیا کہ کتاب ہذا کے تمام عملیات نہایت آسان زود اثر اور سہل الحصول ہیں [illegible] یا قبرستان میں جانا نہیں پڑتا۔ ایک بچہ بھی چاہے گھر بیٹھکر دس پندرہ یوم کی معمولی مشق سے ایک عالم کو الٹ پلٹ کر سکتا ہے اور کہ وہ اپنی پوجا کرا سکتا ہو۔ اندریں صورت ہمارے لئے لازم ہے کہ ہر ایک خریدار سے نیک نیتی کی حلفیہ تحریر لی جائے۔

ایک بات اور

مخزن مسمریزم کی بدولت جو لوگ جنوں بھوتوں اور پریوں کو قابو میں لا کر ہر قسم کے جائز و ناجائز ارمانوں کی تکمیل کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ براہ مہربانی ہمیں معاف فرمائیں کیونکہ ہم صرف انسان کی سوئی ہوئی روحانی طاقتوں کو بیدار کر کے ان کی بدولت ہر قسم کی جائز خواہشات پوری کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ناپاک روحوں کو قابو میں لانا تو ایک شیطانی فعل ہے اور اس سے عامل کی روحانی ترقی ہمیشہ کے لیے رک جاتی ہے۔ جاہل [illegible]

ناواقف لوگ جو اپنی زندگی کو دائمی خطرے و عذاب میں ڈالکر

جنات اور بھوت پریتوں کے مسخر کرنے کا شوق رکھتے ہیں انکی حالت پر ہمیں تو رحم آتا ہے۔

ایک امریکن فلاسفر کا قول ہے کہ انسان خدا کا نائب ہے!

اگر اس کی روحانی طاقتیں بیدار ہو جائیں۔ تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مشکل کام ایسا نہیں جو چٹکی بجانے میں حل نہ ہو سکتا ہو۔ جب یہ بات ہے تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ چند روزہ زندگی کے لیے اپنی روح آزادی کو فروخت کر کے ہمزاد یا ناپاک ارواح کی خدمات حاصل کرے۔

لینے کا پتہ (فقط)

لاجواب ناول ہاؤس پوسٹ بکس نمبر ۶۴ لاہور

جمالِ یار کھینچتے ہو تم کہ ہاں دیکھا ۔ کلیم ہوش میں آؤ ابھی کہاں دیکھا

ماہوار رسالہ

جمالِ یار

(اپنی قسم کا لاجواب رسالہ)

جسے اردو رسالوں کا بادشاہ تسلیم کیا گیا ہے۔ جس نے نکلتے ہی ادبی دنیا میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔ سرورق پر تین رنگ کا خوبصورت بلاک باغِ بہشت کے اس دلکش نظارہ کی یاد دلاتا ہے۔ جب اول اول جمالِ یار کی جھلک نمایاں ہوئی۔ وہ تصویر ہے وہ جلوہ جسے دیکھ کر حضرت موسےٰ کوہ طور پر غش کھا گئے تھے۔ کون ایسا عاشق مزاج ہوگا۔ جو اسے نہ دیکھنا چاہے گا۔ جن کو حسن کا چسکا ہے۔ جو حسن کی آگ میں پروانہ وار جل رہے ہیں۔ جن کا دل کسی کافر ادا کی نذر ہو چکا ہے۔ ان کے لئے یہ جلوہ قیامت ہی توڑھائیگا۔ دلکش مضامین نظم و نثر۔ درد آلود جذبات میں ڈوبی ہوئی کہانیوں اور دلگداز پاک محبت کی لطافتوں سے لبریز غزلوں کے علاوہ عاشق مزاج طبیعتوں کے لئے سینکڑوں قسم کی دلچسپیوں کا سامان "جمالِ یار" میں مہیا کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو سب کچھ ملیگا۔ سراغرسانی کے پر اسرار قصے۔ مذاقیہ کہانیاں جن کو پڑھ کر ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ جائینگے۔ طبی ٹوٹکے جو سینہ بسینہ چلے آتے تھے سائنٹیفک نسخے۔ مسمریزم پامسٹری۔ رمل۔ نجوم۔ جادو وغیرہ غرضیکہ جمالِ یار کی موجودگی میں آپ کو کسی دوسرے رسالہ کی ضرورت نہ رہے گی۔ سالانہ چندہ تین روپے ۵ کے ٹکٹ بھیجکر نمونہ کا پرچہ مندرجہ ذیل پتہ سے طلب کریں۔

نوٹ ۔ صرف ایک سال کا چندہ ادا کر کے عمر بھر کے لئے آپ ہمارے رسالہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ سال بھر کا مکمل فائل واپس کرتے رہنے پر ہر نئے سال کے تمام پرچے مفت آپ کی خدمت میں پہنچتے رہینگے۔

راتوں کی نیند حرام کرنے والے ناول

مرہٹی۔ گجراتی۔ بنگالی۔ انگریزی اور فرانسیسی کے بہترین ناولوں کے انتخاب ہمارے ماہوار ناول سلسلہ میں آج کل نکل رہے ہیں۔ اگر آپ اردو کے واہیات اور لچر ناولوں کی بجائے عمدہ عمدہ دلچسپ سبق آموز اور پاک محبت کی لطافتوں سے لبریز سوشل ناول پڑھنے کے خواہشمند ہیں۔ اگر آپ کو میری کوریلی کے ناول دیکھنے کا شوق ہے۔ ہاں! اس عورت کے ناول جسکے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک ایک سطر ولایت میں ایک ایک پونڈ کو بکتی ہے۔ یا آپ تواریخی۔ تمدنی مجلسی و معاشرتی ناولوں کے گرویدہ ہیں۔ اگر آپ مذاق پسند ہیں یا فن سراغرسانی کے سنسنی خیز ناول دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو آج ہی ایک پیسہ کا کارڈ لکھ کر ہمارے ماہوار سلسلہ کے مستقل خریدار بن جائیے۔ ہر مہینے ایک نیا ناول آپکے پاس بذریعہ وی پی پہنچ جایا کریگا۔

ہمارے کتب خانہ کی خصوصیات ہمارا دعوےٰ ہے کہ ہم ہندوستان بھر میں سب سے عمدہ اور سستا لٹریچر مہیا کرتے ہیں آپ صرف ایک بار ہماری آزمایش کر کے اس دعوے کی تصدیق فرمائیے۔

(۱) ہمارے سلسلہ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا ناول ضخامت میں سو صفحات سے کم نہیں اور قیمت میں کوئی بڑے سے بڑا ناول ۱۰ سے زیادہ نہیں۔ (۲) اعلےٰ پلاٹ اعلےٰ وارفع خیالات ایک بار شروع کر دینے پر کیا مجال کہ بغیر ختم کئے ناول چھوڑنے کو دل چاہے (۳) سب کے سب ناول ولایتی کاغذ پر چھپتے ہیں۔ لکھائی چھپائی دیدہ زیب (۴) رنگ برنگی۔ ہاف ٹون تصویریں جا بجا دی گئی ہیں۔ لاجواب ناول سیریز میں اب تک حسب ذیل ناول شائع ہو چکے ہیں۔

پہلا ناول۔ جادو بھرے نین ایک بے بدن تڑپا دینے والا ناول۔ جس کا ثانی۔ آپ نے آجتک نہ دیکھا ہوگا حسن و عشق کے حقیقی جذبات دیکھتے ہی دیکھتے ایک خاص کیفیت دل پر طاری ہوتی ہے اور دل قابو سے نکل نکل پڑتا ہے۔ سہ ورق ہاف ٹون و بیر رنگین قیمت صرف ...... ۶؍

دوسرا ناول سلیمہ بیگم شاہجہان بادشاہ کی چہیتی بیگم کی آپ بیتی داستان۔ حرم سرا کے اندرونی حالات کا صحیح خاکہ۔ جہاں انسان تو کیا مجال ہے پرندہ بھی پھٹک نہ پاتا تھا بہت عمدہ ناول رنگ برنگی تصویروں سے مزین ایک دفعہ شروع کریں بغیر ختم کئے چھوڑنے کو جی نہ چاہیگا قیمت ۴؍

تیسرا ناول۔ کنچن لتا (با تصویر) پری جمال کنچن لتا کی داستان غم راجہ مان سنگھ کا کفارہ۔ اکبر کے مشیر باتدبیر فیضی کی پرائیویٹ زندگی کے عجیب و غریب حالات قیمت ۴؍

چوتھا ناول زلفوں کا جال (با تصویر) ایک بنگالی ناول کا ترجمہ ایک نوجوان بیوہ عورت کا حال۔ جس نے اپنے حسن کے جادو سے ایک ایماندار اور شادی شدہ مرد کو اپنی زلفوں کے جال میں پھانس لیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ طلسمی جال توڑ ڈالا گیا یا اس مرد نے اپنی زندگی کا سب کچھ اس حسینہ کے قدموں میں رکھدیا۔ نہایت اعلےٰ ناول ہے قیمت صرف ۴؍

چھٹا ناول پارلیمنٹ میں بم (با تصویر) سراغرسانی کے ایک بے بدل انگریزی ناول کا اردو ترجمہ۔ انارکسٹوں کی خفیہ سازشیں۔ ایک ممبر پارلیمنٹ کا پر اسرار قتل۔ نہایت عجیب و غریب ناول قیمت صرف چھ آنے ...... ۶؍

پانچواں ناول گوتم بدھ با تصویر ناول قیمت صرف ...... ۵؍

پتہ۔ لاجواب ناول ہاوس پوسٹ بکس نمبر ۶۴ لاہور

ڈاکٹر بنو

طبی دنیا میں حیرتناک انقلاب

زمانہ قریب میں بیمار آدمی دنیا کے عجائبات میں شمار ہوگا۔ جرمنی کے زندہ جاوید ڈاکٹر ولیم ہنرچ شوسلر کی حیرت انگیز طبی دریافت صرف بارہ ادویات سے دنیا جہان کی سخت

سے سخت اور لاعلاج بیماریوں کے

علاج کرنے کا طریق گھر بیٹھے بذریعہ طبع شدہ کورسوں کے سکھلایا جاتا ہے۔ ہمارا طریق

تعلیم ایسا موثر ایسا عام فہم اور

ایسا آسان ہے کہ معمولی لیاقت کے آدمی بھی قلیل عرصہ میں کامیاب ڈاکٹر بن کر صدہا

صدہا روپے ماہوار کی مستقل

آمدنی پیدا کرنے کے قابل ہو گئے ہیں کالج ہذا کی طرف سے کامیاب طلباء کو نقرئی

وطلائی تمغہ جات و نیز مندرجہ

ذیل ڈپلومجات برائے نام بہت ہی کم فیس تعلیم لیکر دئے جاتے ہیں۔ (۱) ایل بی ایم (۲) بی بی ایم (۳) ایم بی ایم۔ مزید حالات کے لئے دو پیسے کا ٹکٹ بھیجکر مکمل قواعد طلب کیجئے۔ اور اپنا مستقبل شاندار بنائیے۔

المشتہر

پرنسپل بی یا یوکیمک میڈیکل کالج انارکلی۔ لاہور

پوسٹ بکس نمبر ۶۴

شاہراہ ترقی

فن ڈاکٹری کا پیش رو — دولتمند بننے کا بہترین نسخہ

دولت عزت اور شہرت تمہارے پاؤں چومیگی!

اگر تم کچھ بھی لکھنا ۔ پڑھنا جانتے ہو ۔ تو گھر بیٹھے ایل ۔ ایم ۔ ایس ۔ ایچ + ایم ۔ بی ۔ ایچ + ایم ۔ ڈی ۔ ایچ ۔ طبیب حاذق راج وید کے ڈپلومہ جات بعد تعلیم حاصل کرکے ڈاکٹر ہو ۔ اور اس معزز و بہترین پیشہ کو اختیار کرکے علاوہ سینکڑوں روپے ماہوار کمانے کے دین و دنیا دونوں کا ثواب بھی حاصل کرو ۔ ہمارا طریق تعلیم ایسا آسان ۔ ایسا کم خرچ ۔ ایسا موثر اور ایسا عام فہم ہے ۔ کہ آپ ایک قلیل عرصہ میں اپنی طرز کے اس واحد مفید کالج کی تعلیمی کتب کورس کا مطالعہ کرکے باقاعدہ ڈاکٹر طبیب یا وید بن سکتے ہیں ۔ ہر ایک شایق طب ۔ کمپونڈر ۔ ڈریسر ۔ عطار ۔ ڈاکٹر وید ۔ ہومیوپیتھ ۔ بے روزگار ۔ مفلس اور آمدنی کو بڑھانے کے خواہشمند کا فرض ہے ۔ کہ اس نادر موقعہ سے فائدہ اٹھاوے ۔ مندرجہ ذیل پتہ پر ایک آنہ کا ٹکٹ برائے محصول بھیجکر مفصل قواعد کالج بمعہ فارم داخلہ مفت طلب کرکے اپنا مستقبل شاندار بنایئے ۔

المشتہر

ڈاکٹر دیوان مہندر نارائن ایم ۔ ڈی (ہومیو) پرنسپل

پنجاب ہومیوپیتھک میڈیکل کالج ۔ دیوان لکشمی نارائن بلڈنگ انارکلی لاہور

پیام صحت

زیر نگرانی ڈاکٹر دیوان مہندر نارائن صاحب ایم ۔ ڈی ۔ (ہومیو) میڈلسٹ پرنسپل ہومیوپیتھک و بایوکیمک میڈیکل کالج انارکلی لاہور ۔ شفاخانہ ہذا میں مایوس العلاج مریضوں کا علاج بطریق ہومیوپیتھک و بجلی بڑی توجہ اور محنت سے کیا جاتا ہے ۔ صرف یہی ایک واحد شفاخانہ ہے جسمیں امریکہ کی نئی ایجاد یعنی بذریعہ بجلی کل امراض کا علاج کرنے والی مشین موجود ہے جس سے

برسوں کے بیمار صرف چند روز میں بلا کسی قسم تکلیف کے

صحت پارہے ہیں ۔ قابل عمل جراحی امراض مثلاً ناسور ۔ بھگندر ۔ بواسیر ۔ موتیابند وغیرہ کا علاج بلا اپریشن ۔ پرانی بیماریوں کے علاج میں حیرت انگیز کامیابی ۔ بچوں ۔ عورتوں اور مردوں کے امراض کا علاج خصوصیت سے ۔ بیرونجات کے مریض بذریعہ خط وکتابت علاج کروا سکتے ہیں ۔ نوٹ مفصل حالات صاف اور خوشخط لکھیں ۔

المشتہر

سپرنٹنڈنٹ ہانیجیا ہومیوپیتھک ہسپتال انارکلی لاہور

دنیا والو (گوشۂ گمنامی سے نکلکر دیکھو)

طبی دنیا میں ایسی کتنی باکمال ہستیاں ہیں جنکے ہاتھ میں اعجاز ہے مسیحائی ہے ۔ یا جو کسی خاص مرض کا علاج کرنے میں یکتائے زمان ہیں ۔ جس کا راز انکے خاندان میں سینہ بسینہ چلا آتا رہا ۔ مگر گوشۂ گمنامی میں پڑے رہنے کی وجہ سے ان کو قدردانوں کا گھاٹا ہے یا عدم واقفیت کے باعث ضرورتمند لوگ اُن تک پہنچ نہیں سکتے ۔ ایسے لوگوں کو ہم بڑی خوشی سے اسبات کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنا مفصل پتہ بھیجکر ہماری میڈیکل ڈائرکٹری میں اپنا نام درج کرائیں جو بصرف زر کثیر بڑی آب وتاب کیساتھ شائع ہو رہی ہے اور چھپنے پر طبی دنیا میں ایک ناقابل فراموش اور ہمیشہ باقی رہنے والی یادگار سمجھی جائے گی ۔ کیونکہ اسمیں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں سے لیکر ہر بڑے سے بڑے شہر کے حامیان طب کے مکمل پتہ جات بمعہ انکے طریق علاج و مختصر حالات زندگی کے درج ہونگے آپ بھی مزید واقفیت کے لئے اپنا مفصل پتہ لکھ کر فوراً بھیجدیجئے ۔ تاکہ آپ کا نام نامی نہایت عمدہ جگہ پر چھپ سکے وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے ۔ اگر آپ ہماری میڈیکل ڈائرکٹری کی بدولت آسمان شہرت

المشتہر ڈائرکٹر میڈیکل ڈائرکٹری دفتر رسالہ مسیحا انارکلی لاہور

بہترین طبی کتب

مصنفہ ڈاکٹر دیوان مہندر نارائن صاحب ایم ۔ ڈی

مخزن بارہ اکسیر ۔ جرمنی کی حیرت انگیز طبی دریافت یعنے صرف بارہ ادویات سے جملہ امراض کا علاج بالتفصیل درج ہے ۔ کل امراض کا علاج ۔ تشخیص ۔ علامات وغیرہ نہایت سلیس عبارت میں واضح طور پر دیا ہے ۔ ہر ایک لکھے پڑھے آدمی کے گھر میں اس کتاب کی موجودگی ایک لایق ڈاکٹر کا کام دیگی قیمت (عہ)

آئینہ ہومیوپیتھی برائے افادہ طلباء ہومیوپیتھک کالجوں و شایقین طب یہ نہایت مفید اور کارآمد کتاب شائع کی گئی ہے ۔ عیالدار اپنے گھر میں اس کتاب کو رکھکر ہر ایک بیماری کا فوری علاج بخوبی کرسکتے ہیں قیمت صرف ایکروپیہ چھ آنہ (عہ)

لیبل بک بزبان اردو اس میں ۲۲۵۰ لیبل ادویات بزرنگ سرخ موجود ہیں ۔ تاکہ بروقت ضرورت اس کتاب میں سے نام دوائی کاٹ کر شیشی دوا پر چسپان کر دیا جائے قیمت چھ آنے (۶ ر) فی درجن چار روپے للعہ

چارٹ خواص لاڈویہ نمبر ۱ و نمبر ۲ اور چارٹ کلید شفا

ادویات کے خواص بشکل نقشہ درج کئے گئے ہیں ۔ تاکہ ایک نظر دیکھ کر ہر بیماری کی دوا تجویز کرلی جائے ۔ ایک دوائی کا دوسری دوا سے رشتہ اسکی تو بتی خوراک مفید ہے ۔ دوا کا اثر کس قدر عرصہ رہتا ہے ہر سہ نقشہ جات کا مجموعہ ہر ایک طبابت پیشہ کے کمرے کی بہترین کارآمد سجاوٹ ہے ۔ قیمت فی سٹ صرف ایک روپیہ ... (عہ)

ہانیجیا ہومیوپیتھک فارمیسی انارکلی لاہور سے طلب کریں

شمالی ہند میں ہومیوپیتھک ادویات ۔ کتب و دیگر ضروریات اطباء کا سب سے بڑا ۔ سب سے قدیم اور سب سے ارزاں و معتبر کارخانہ

ہانیجیا ہومیوپیتھک فارمیسی انارکلی لاہور

اعلےٰ درجہ کی ادویات کا تازہ سٹاک متواتر براہ راست امریکہ جرمنی و انگلینڈ سے منگوایا جاتا ہے ۔ ہومیوپیتھک ادویات بشکل مدر ٹنکچر ۔ سفوف ۔ عرق و گولی ۔ کتب بزبان اردو ۔ انگریزی و ہندی بارہ اکسیر یعنے بایوکیمک ٹشو ریمیڈیز ۔ خانگی و ڈاکٹروں کے استعمال کے لئے ادویات سے بھرے ہوئے خوبصورت بکس جن سے ہر ایک مرض کا علاج بآسانی ہو سکتا ہے ۔ اور انواع واقسام کا سامان ڈاکٹری بکفایت ملتا ہے ۔ ضخیم فہرست دواخانہ ایک آنہ کا ٹکٹ برائے محصول ڈاک بھیجکر مینجر فارمیسی ہذا سے مفت طلب کریں بیرونجات کے مریضوں کا علاج بذریعہ خط وکتابت کیا جاتا ہے ۔

رسالہ مسیحا

طبی دنیا کا لاجواب

تمہارا ہی کام کہ فی الفور مردے جی اٹھے
اے مسیحا ہمنے دیکھی ہے مسیحائی تیری

طبی دنیا کا ایک لاجواب رسالہ ہر ماہ کی یکم تاریخ کو شہر لاہور سے بڑی آب وتاب کے ساتھ شائع ہوتا ہے ۔ اس میں آیورویدک ویونانی ۔ ہومیوپیتھک اور بایوکیمک طریق علاج کی ماہیت ۔ فضیلت اور خصوصیات پر دلچسپ بحث ۔ نیز زمانہ قدیم و حال کے وید حکماء اور ڈاکٹروں کے مجربات شائع ہوتے ہیں ۔ آجکل مسیحا میں سقراط بقراط افلاطون ۔ ارسطو ۔ جالینوس دھنونتری ۔ ڈاکٹر ہنرج ۔ سوشلر اور سیموئیل ہنیمن جیسی قابل فخر ہستیوں کی زندگی کے عجیب وغریب معنی خیز اور باتصویر حالات سلسلہ وار چھپ رہے ہیں ۔ آپس کی بات چیت کے سلسلہ میں نہ صرف خریداران مسیحا کے ہر ایک سوال کا جواب مفت شائع کیا جاتا ہے ۔ بلکہ دریافت طلب امراض کے نسخہ جات بھی دئے جاتے ہیں ۔ باوجود ان خوبیوں کے سالانہ چندہ صرف عہ

المشتہر مینجر رسالہ مسیحا (انارکلی) لاہور

انگریزی امتحان انٹرنس میں یقینی طور پر کامیاب ہونے کے لیے سردار راجپال سنگھ بی اے - بی ٹی - ہیڈ ماسٹر مشن ہائی سکول لاہور کا ... نوٹس بقیمت ... مصنف سے طلب کریں - مدرسین کو معقول کمیشن -

[illegible]

[illegible]

طلسمی نجومی!

جرمن والوں کی ایک حیرت انگیز ایجاد - یہ عجیب غریب آلہ ہمیں حال ہی میں موصول ہوا ہے - اس کو اگر جادوگروں کا سرتاج کہیں تو بیجا نہ ہوگا - کیونکہ اس کی مدد سے بہت سی خفیہ اور پوشیدہ باتوں کے راز آشکارا ہوتے ہیں - نر و مادہ کی تمیز ہو سکتی ہے - نیز معلوم ہو سکتا ہے - کہ فلاں عورت کے حمل سے لڑکا ہوگا - یا لڑکی - بڑے کام کی چیز ہے - قیمت صرف ایک روپیہ (عہ)

مقصود ہستی

قیمت ...

شہ نہیں حرکت کا نام زندگی ہے - جہاں حرکت نہیں وہاں زندگی معدوم ... ہم بھی اگر زندگی کا حظ اٹھانا چاہتے ہو دنیا میں اور سرخرو ہونا چاہتے ہو عشقی میں تو کسی پری رخسار سے دل لگاؤ - عمل حب کا ایک نہایت سہل اصول پر تاثیر اور مجرب نسخہ ایک تعویذ سے ہمارے ہاتھ لگا ہے بشرطیکہ محبت پاک ہو صرف ایک رات میں کامیابی ہوتی ہے ... یا قبرستان جانا نہیں پڑتا معشوق خواہ کیسا ہی سنگدل ہو ... تڑپ رکھیگا جبتک ملاقات نہ کرلیگا ... قرار نہ آئیگا - رازداری کی حلفیہ تحریر ...

[illegible]

[illegible]

گنجینہ دولت کی پڑیا

نزدور پیشہ لوگوں کی قابل رحم حالت دیکھکر ہم نے اس کتاب کو مفت تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے - اسمیں بیسیوں قسم کے ایسے آسان اور مفید ہنر ظاہر کئے گئے ہیں جن سے کاروبار جاری کرنے کے لیے کسی سرمایہ کی ضرورت نہ ہوگی - جن لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں اور آزادانہ طور زندگی بسر کرنے کے خواہشمند ہوں تو اس کتاب کو منگوائیں - قیمت کچھ نہیں صرف ... ٹکٹ برائے محصول ڈاک آنا چاہئے ورنہ بیرنگ ارسال ہوگی - بہت خوبصورت ہے اسمیں رنگ برنگ تصویریں ... کا غذ ...

سرمہ طلسمی :- آنکھ کی ہر ایک بیماری کے لئے اکسیر ہے اسکا استعمال ... چھوڑا اور ... روپیہ کو بیسیوں قسم کے سرمہ آپنے استعمال کئے ہونگے یہ بھی ... چیز ...

پستول لائسنس!

بلا لائسنس - ہر گھر میں ہونا چاہیے - قیمت معہ محصول ...

آپ آزادانہ طور پر رکھ سکتے ہیں - چور ڈاکو ہمارے مال و متاع پر ہاتھ صاف کرتے ہیں جان جوکھوں نہیں ... اچھا ہے ان کو جانے دیجئے ہماری پستول سے آپ ان ظالم اور بے رحم رہزنوں کو گولی کا نشانہ بنائیں گے - جو چوری چھپے آپکے جسمانی طور پر حملہ آور ہوتے ہیں اور عالم بے خبری میں ... آپ ... ہمارا اشارا ... [illegible]

دنیا کی پیدائش کا طریقہ — ''خدائی پیغام'' — نجات کا علمی راستہ

روح انسانی کی شکل — رازِ حقیقت — نورِ حقیقی کی تصویر

سائنس فلسفہ و مذہب کو ایک کرنیوالی دنیا میں اکیلی کتاب کسی خاص مذہب سے تعلق نہیں محض بیانِ حقیقت

جہاں سائنس بھی حیران ہے وہاں کی باتیں بھی سائنس کے اصولوں کے مطابق ثابت کر خدا کی حقیقی نور کی تصویر - ایشور کا تکمیلہ درشن - اسکی ذاتِ عظیم سے دنیا کی پیدائش کا طریقہ جس کو آجتک کسی نے بھی صاف نہیں کیا تھا - اخلاق کردہ اصول جنکو سائنس بھی مانے - روح انسان کی شکل - غرضکہ عجیب و غریب مضمون جنکا لوگوں کو خیال بھی نہ تھا - شری جوالا پرشاد سنہل کی عجیب کتاب ''اٹرنل ٹرتھ'' کا ترجمہ (قیمت ۵/) ہم اپنی تعریف خود کیا کریں دیکھئے دوسرے مشہور عالم اصحاب کی رائیں

مشہور شاعر رابندر ناتھ ٹیگور کے قائم کردہ ''شانتی نکیتن'' بول پور کے پرنسپل شری ودھوشیکر شاستری لکھتے ہیں ''بہتر تصور … علمائے دہر کے سامنے پیش کرنے کے قابل''

شری پرتھم ناتھ مکرجی - ایم - اے - سابق پروفیسر رپن کالج - ایڈیٹر تھیروسٹ وغیرہ - کلکتہ - ''دربحث مدلل … طرز تحریر سادہ و دلکش … میرے خیال میں یہ کتاب ضرور … ست حقیقت کے فدائیوں کو فلسفہ کے متعلموں کو دلچسپ و آگاہی بخش ہوگی''

شری بھگوانداس - ایم - اے - بنارس ''کتاب نہایت معنی خیز و پُرمغز ہے اور آزاد خیال کی اعلیٰ قابلیت دکھاتی ہے … طرز بیان پر نمایاں تازگی اور سائنس کے مختلف اصولوں کا نیا استعمال … نہایت دلچسپ پڑھنے کے قابل … فلاسفی کے مشرقی و مغربی خیالات کو ملانے والے لئے بہترین نادر کتاب''

شری ہری ہر شاستری - ساہتیہ ادھیاپک سنسکرت پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن ''واقعی مصنف نے اس نہایت مفید کتاب کو لکھکر دنیا کی اعلیٰ خدمت کی ہے - ذات حقیقی اور روح انسانی کا ایسا صاف بیان … دنیا کی پیدائش کے طریقہ کو دکھانے میں مصنف نے بڑی علمیت دکھائی ہے''

شری سوریہ کانت شاستری - ودیا کرن تیرتھ - ودیا بھاسکر - میسور ضلع سہارنپور ''مغربی عالم مادی علوم … مشرقی فلاسفر روحانی سمندر … سب کو دلیل و انکساری سے ایک ہی ذات قدیم کے مزید بنانے میں مصنف نے کمال کیا ہے … مصنف کے خدائی پیغام نے بھول ہٹا دی - جھوٹ کا پردہ اٹھا دیا اور عشق حقیقی کے آب حیات کا اشارہ کر کے کام کر دیا … زندگی کے راستہ دکھانے کو جلتی مشعل ہے''

شری گوپی ناتھ کوی راج - ایم - اے - پروفیسر کوئنز کالج - گورنمنٹ سنسکرت لائبریری سرسوتی بھون بنارس ''عجیب و غریب علمیت کی کتاب … ملک کے فلسفہ کی ترقی میں نمایاں ترقی … غیر معمولی باریک بینی و قوت تشریح … اس منور کتاب میں ان قدرتی و دماغی طاقتوں سے صاف و مدلل بحث کی گئی ہے اور طرز تحریر میں لکھنے کی نادر لطافت دشوار ملتی ہے … ایسی کتاب شاذ و نادر کبھی خوش قسمتی سے پڑھنے کو ملتی ہے … میری امید ہے کہ یہ کتاب مشرق و مغرب دونوں میں خوب پھیلیگی اور عزت سے پڑھی جائیگی … کل فلاسفی و مذاہب کے اصلی و دوامی اصول معلوم کر کے ان کے مطابق اخلاقی اصولوں کا عالمگیر مجموعہ تیار کرنے کی کوشش ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس میں مصنف کامیاب ہوا ہے''

اپنے یہاں کے کتب فروش سے لیجئے ورنہ اس پتہ سے منگائیے - ست گیان پرکاشک منڈل محلہ مامو بھانجہ علیگڑھ سٹی

علمی و صنعتی نایاب اردو کتابیں جنکی تمام عالم میں شہرت ہے

انگریزی بول چال

یہ مسلمہ ہے کہ زمانہ موجودہ میں انگریزی کا جاننا ضروری اور لابدی ہے کوئی کام تجارت ملازمت وغیرہ بلا اسکے ترقی پذیر نہیں ہوتا سوسائٹی میں فروغ حاصل نہیں ہوتا اسی وجہ سے یہ کتاب ان اردو دان اصحاب کے لئے تیار کی گئی ہے جو کہ انگریزی گفتگو کے … روزانہ استعمال کے وہ چیدہ چیدہ فقرے اردو اور انگریزی زبان میں لکھے گئے ہیں جو کہ روزانہ آپ کو ہر معاملہ کی گفتگو میں پیش آتے ہیں علاوہ ازیں وہ انگریزی محاورات جو کہ اہل زبان گفتگو کرنے میں استعمال ہوتے ہیں اس خوبی سے درج کئے گئے ہیں کہ انگریزی سے ناواقف اشخاص دو تین ماہ کی کوشش میں انگریزی میں صاف صاف گفتگو کر سکیں - قیمت ایک روپیہ چار آنہ [illegible]

فنون امریکہ

یعنی یورپ اور امریکہ کی صنعت و حرفت کا مکمل ذخیرہ

اگر دولتمند بننا چاہتے ہو تو اس اردو زبان کے صنعتی ذخیرہ کو منگا لیجئے کیونکہ اس میں گنج سازی - زر سازی - ورق و مہر بنانا - ٹرنک رنگنا - پنسل سازی - برف سازی - جلد بنانا - کاغذ سازی - دیا سلائی بنانا - بجلی کی روشنی - فوٹو گرافی - بیراوں کا کھینچنا - شمع سازی - ہر قسم کے صابن اور رنگ روغن و پالش کا بنانا - ہر قسم کی بیل سیاہیاں - سیمنٹ بنانا - وغیرہ وغیرہ صدہا فن اور ہزارہا ترکیبیں جو کہ یورپ و امریکہ کے کاریگر استعمال کرتے ہیں اس طرح بتلائی ہیں کہ ہر شخص سو پچاس روپیہ ماہوار پیدا کر سکے اور دولتمند اپنی ضروریات کے لئے دوسروں کے محتاج نہ رہیں قیمت رعایتی مجلد ایک روپیہ چار آنہ

عجائبات عالم

اگر گھر بیٹھے دنیا کی سیر کا لطف اٹھانا چاہتے ہو تو اس کتاب کو ملاحظہ فرمایئے جس میں علاوہ دیگر عجائبات قطب جنوبی کے سفر کے اور بہت سے حیرت انگیز معلومات درج ہیں قیمت مجلد ۱۲/

گنجینہ ہارمونیم

شائقین ہارمونیم کیلئے ایسی مفید کتاب آجتک نہیں چھپی بلندی سے لیکر منتہی تک بہت مفید ہے کیونکہ اس میں سُر تال ہارمونیم بجانے کے قواعد - ہر قسم کی مشق اور ٹھیٹر کے گانوں کے نقشے وغیرہ بتلا کر اس طرح سمجھایا ہے کہ ہر شخص بلا امداد استاد ہارمونیم بجا سکے - قیمت مجلد ۱۲/

رہنمائے بائیسکل

ایسی بائیسکل کی سواری کے طریقے اور مرمت کرنے کی ترکیب آسانی درج ہیں - قیمت مجلد ۱۲/

آٹھ روزہ واچ



اس گھڑی کو آٹھویں روز چابی دی جاتی ہے نہایت مضبوط - کھلا منہ لیور خوبصورت - ڈائل پر سنہری نقش و نگار ٹھیک ٹائم دینے میں لاثانی ہے - گارنٹی ۸ سال - قیمت دس روپیہ عہ/

شب چراغ نیو فیشن رسٹ واچ



یہ کلائی کی مردانہ گھڑی انگریزی فیشن کی کنڈے دار نہایت مضبوط و خوبصورت وقت صحیح دیتی ہے علاوہ دن کے رات کو بھی وقت بتلاتی ہے اس میں ریڈیم لگا ہے جس کی وجہ سے اس کی سوئیاں اور ہندسے مثل چراغ روشن ہو جاتے ہیں - گارنٹی چھ سال قیمت آٹھ روپیہ عہ/ قسم دوم قیمت چھ روپیہ سے/

بجلی کا لیمپ - اس لیمپ میں نہ تیل کی ضرورت نہ بتی کی حاجت بٹن دبا دو تیز روشنی ہو جاوے گی - قیمت مکمل معہ بیٹری بلب وغیرہ چار روپیہ (للعہ/)

بجلی کا پھول - لیمپ بالا کے مطابق روشنی دیگا - کوٹ و اسکٹ میں لگایا جاتا ہے - قیمت تین روپیہ (سے/) ۱۶

جنتری نما واچ - دن - تاریخ - مہینہ - چاند کا گھٹنا بڑھنا بتلاتی ہے قیمت سولہ روپیہ

راسکوپ واچ - گارنٹی ۳ سال - قیمت چار روپیہ (للعہ/)

ریلوے واچ گارنٹی ۵ سال قیمت پانچ روپیہ (عہ/)

محصول ڈاک پیکنگ وغیرہ علاوہ ازیں ادا کرنا ہوگا

بوقت فرمائش اپنا نام و پتہ صاف و خوشخط تحریر فرمایئے گا

منگانے کا پتہ

گپتا جنرل ایجنسی کوچہ نل شہر میرٹھ

ان سے زیادہ مفید و کامل کتابیں دنیا میں ڈھونڈھے نہ ملینگی دریا کوزہ میں بند ہے

ان کو پڑھ کر پورے حکیم۔ ڈاکٹر۔ وکیل۔ نجومی بن جاؤ پھر کسی کو فیس دینے سے کام نہ خوشامد کرنیسے ذرا سی غلطی سے بیماری بڑھنے کا مقدمہ بگڑنیکا ڈر نہ رہیگا

جوہر حکمت

پچاس کتابوں کے برابر اکیلی کتاب میں تمام امراض کا علاج باقاعدہ و یدک۔ ڈاکٹری۔ ہومیوپیتھی

بارھویں بار چھپی ہے۔ بہت اضافہ کے ساتھ ۳۴۰ صفحہ خوبصورت فیجلد سے ؏

اس کو پڑھ کر پھر کسی اور کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہ رہیگی۔ نہ کسی سے کچھ پوچھنے کی۔ ہر ایک بیماری کا علاج خود کرلو۔ چاہے جس طریقہ پر قرابادین مخزن۔ سیر یا میٹیریکا۔ چرک۔ سوشرت وغیرہ صدہا انگریزی سنسکرت و فارسی کتابوں کا عطر و خلاصہ ہے ؞

باب ۱۔ اسمیں ۳۰۰ بیماریوں کے نام فارسی سنسکرت۔ انگریزی معہ تشخیص وغیرہ

باب ۲۔ ۳۰۰ ادویات کے نام چاروں زبانوں میں تاثیر و شناخت و معتاد

باب ۳۔ نام رگوں و ہڈیوں وغیرہ کے نام چار زبانوں میں تشریح جسمانی معہ تصاویر

باب ۴۔ تمام بیماریوں کا علاج ڈاکٹری و یدک یونانی معہ شناخت اسباب اقسام پرہیز وغیرہ

باب ۵۔ حفظ صحت کے اصول۔ طبی ہدایات کھانے کی چیزوں کے خواص ؞

باب ۶۔ ہر قسم کے جوہر اڑانا۔ تیل نکالنا۔ کشتہ بنانیکی ترکیب ایسنس وغیرہ ؞

باب ۷۔ حکماء قدیم کے مشہور نسخے۔ امریکہ و جرمنی وغیرہ کے ڈاکٹروں کی تحقیقات

باب ۸۔ قارورہ نبض۔ وغیرہ کی شناخت انگریزی ادویات و آلات وغیرہ ؞

ودیا ساگر کا انگلش ٹیچر

قیمت دو روپیہ

بلا استاد کے چند روز میں انگریزی سکھانے والی بہت ہی بہتر کتاب جس کو پڑھ کر انٹرنس کی لیاقت ہو جاتی ہے۔ اس اکیلی کتاب میں گرامر۔ ٹرانسلیشن۔ اڈیم۔ ڈکشنری سب شامل ہیں۔ اسمیں ہر ایک لفظ کا تلفظ اور معنی اردو میں لکھے ہیں۔ ترجمہ کرنے کے قواعد اور مثالیں بول چال کے فقرے۔ ہر محکمہ اور ہر نوع کے ہر قسم کے ہزاروں الفاظ و اصطلاحات سینکڑوں محاورے کے مخصوص الفاظ اور فقرے اور ان کے استعمال کے صحیح موقع و طریقے چٹھی۔ عرضی تار معنی و معنی وغیرہ اور صدہا باتیں جو کسی کتاب میں نہ ملینگی۔ اسی واسطے نو سال میں یہ نویں بار چھپ کر اکتیس ہزار کاپیاں بک چکی ہیں۔ بڑے بڑے عالموں۔ افسروں و ہیڈ ماسٹروں نے اسکی تعریف لکھی اور پنجاب کے تعلیمی اخبار نے اس کو آجکل کی سب کتابوں سے بہتر بتلایا ہے ؞ قیمت دو روپیہ (عہ)

انگریزی خالق باری ابھی ہم نے چھپوائی ہے ۴۲ صفحہ قیمت آٹھ آنہ۔ اس میں پندرہ سو کے قریب انگریزی الفاظ کے معنی دلکش نظم میں بتلائے ہیں۔ اور نیچے انگریزی ہیجے بھی لکھ دیئے ہیں۔ قیمت دو روپے (عہ)

اصلی کوک شاستر

معہ ۳۶ تصاویر

اس نام کی کتابیں آجکل بہت چل رہی ہیں اسکے جھوٹے اشتہار دیکر لوگ خوب پبلک کو لوٹ رہے ہیں ہماری کتاب کو انکے موافق نہ سمجھیں یہ اصلی ہے اسکی تعریف بہت سے اخبارات میں چھپ چکی ہے سنسکرت و فارسی میں بھی کئی قسم کے قلمی کوک شاستر ملتے ہیں اسمیں سب کا خلاصہ ہے نئہ جدید تحقیقات ڈاکٹری کی ہیں واسطے یہ اب تک ۲۳ بار چھپ کر ستر ہزار کاپیاں بک چکی ہیں۔ اسمیں وہ سب باتیں ہیں جنکی نوجوانوں کو تلاش یا ضرورت ہے مثلاً مرد و عورتوں کے اقسام قیافہ و خواص۔ چاند کا اثر متعلقات شہوت بڑھاپے تک جوان بنا رہنا۔ خوبصورت بننا۔ رنگ گورا جسم لمبا و موٹا مضبوط کرنا کمر اپنی سب بڑا بال سیاہ کرنا۔ اولاد حسب خواہ لڑکا یا لڑکی پیدا کرنا یا پیدائش بند کرنا نامرد و بانجھ کو صاحب اولاد بنانا۔ عورت کو خوش کرنے و قابو میں رکھنے کے عجیب عمل۔ حکماء سلف کے مخفی مصالحے۔ بسی کرن طلا۔ آسن وغیرہ عمر بھر عیش سے زندگی بسر کرنا اور کیل کانٹے سے درست رہنا چاہیں وہ مرد و عورت دونوں اسکو پڑھیں قیمت عہ

جوہر قانون

ایسے نام کی نقلی کتابوں سے بچو

اس اکیلی کتاب میں ۴۸ قوانین کا خلاصہ دفعہ وار لکھا ہے تمام ضروری قوانین جن سے سب کو کام پڑا کرتا ہے۔ تعزیرات ہند۔ ضابطہ فوجداری ضابطہ دیوانی نیا۔ قانون شہادت اسٹامپ۔ کورٹ فیس۔ رجسٹری۔ انکم ٹیکس خفیفہ میعاد سماعت۔ آبکاری۔ لگان۔ میونسپل ایکٹ۔ جیلخانہ۔ قمار بازی۔ مداخلت مویشی۔ ٹیکا۔ کورٹ آف وارڈس۔ پرمٹ۔ افیون۔ نمک۔ جنگل۔ سرائے۔ پڑاؤ۔ کرایہ گاڑی دفینہ۔ اسلحہ۔ تارک المذہب۔ کاپی رائٹ۔ پٹینٹ ایجاد۔ بیرحمی جانوراں دختر کشی۔ ڈاک۔ تار وغیرہ ایک ہائیکورٹ کے وکیل کا ترمیم شدہ ایسی عام فہم عبارت میں کہ ہر شخص سمجھ سکے۔ پھر وکیل سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ قیمت صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ (عہ)

قیمت میں رعایت کی نسبت لکھنا فضول ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اشتہار کے موافق نہ ہو تو فوراً واپس کر دیجئیگا ؞

ان سب کتابوں کے ملنے کا پتہ :۔ **ودیا ساگر ڈپو کارخانہ نمبر ۴۴ مقام علیگڈھ** :۔ اپنا پتہ صاف و مفصل لکھو

علمی مذاق کی بےنظیر کتابیں جنکی ولایت تک تعریف چھپی ہے

ان کو منگا کر تھوڑے خرچ میں پورا کتب خانہ بنا لو تھوڑی محنت سے تمام علوم فنون سیکھ لو۔ ہزاروں روپیہ پیدا کر لو۔ اُستاد کامل بن جاؤ

کرامات

جادو منتر۔ جنتر وغیرہ جنکو آجکل لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ پوری لکھی ہے بالکل سچے جو چاہے کرکے دیکھ لے جنکے کرنیوالے انکو سائنس کے موافق ثابت کرکے دکھایا اور ترکیب والے اس وقت موجود ہیں اس میں اتنے مضامین و باب ہیں۔

باب ۱۔ علم اشراق یعنی کراماتی جڑ۔ یوگ ابھیاس۔ پرانایام کے اصول جسم انسان میں کرامات کا مرکز ہے
باب ۲۔ مسمریزم۔ قوت خیالی کے کرشمے دوسروں پر اثر ڈالنا۔ فاصلہ پر خبر پہنچانا۔ بازیگر کی نظربندی
باب ۳۔ ٹیلیپتھی۔ گذشتہ واقعات۔ دور کی چیزیں۔ اور مخفی چیز کا دیکھنا کراماتی انگوٹھی جام جہاں نما۔ باب ۴۔ تسخیر ارواح۔ روحوں سے کام لینا۔ حاضرات کرنا۔ جادو کی تختی۔ حاضرات کی میز دبھوتوں کی دھونی وغیرہ سے ہی آرام ہوتا ہے۔

باب ۵۔ سحر سامری یعنی اشیاء کی مخفی خاصیتیں خزانہ تلاش کرنا۔ ادویات کا قیافہ۔ منتر بدیا جادو دراز
باب ۶۔ علاج روحانی صرف ہاتھ پھیر کر یا پھونک مار کر چنگا کرنا۔ فاصلہ پر مریض ہوش کا علاج کرنا وغیرہ
باب ۷۔ مسمریزم کے قواعد اور عملی جانوروں کو قابو میں کرنا انسان کو نظر سے بیہوش کرنا۔ کٹھ پتلی بنانا
باب ۸۔ عملیات۔ تسخیر ہمزاد۔ دستِ غیب۔ اسم اعظم۔ بسی کرن۔ سانپ بچھو کا زہر اُتارنا۔ بخار۔ پھوڑا وغیرہ کو آزمودہ منتر۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ عہ

ہر فن مولا

گھر بیٹھے ہر قسم کے ہنر سکھانیوالی سب سے اچھی مکمل کتاب جس میں ہر ایک ترکیب صحیح و پوری لکھی ہے نقشہ سے سمجھائی ہے بلا استاد کے معمولی آدمی سمجھ لے دوسرا اشتہاری کتابوں کے موافق اسکو نہ سمجھو۔ جس میں اتنے مضمون ہیں۔ انگریزی ہنر۔ تار برقی۔ گھڑی سازی۔ فوٹوگرافی۔ صابون بنانا وغیرہ۔ دیسی دستکاریاں۔ کافور کی ڈلا۔ پارہ کا کشتہ۔ موم کے پھول۔ کھانڈ کے کھلونے بنانا۔ کاریگر عطار۔ حلوائی۔ رنگریز۔ چھاپہ۔ جلد سازی۔ آئینہ کا کام وغیرہ۔ سوئی کا کام گوٹہ۔ پیک۔ چکن۔ گلوبند۔ بنیان۔ موزہ وغیرہ بنانا سکھایا ہے۔ لڑکیوں کو کشیدہ سکھلاؤ۔ خود تار بابو۔ فوٹوگرافر۔ گھڑی ساز بن جاؤ۔ صابون کا کارخانہ کھول لو۔ قیمت عہ
سونے کی چڑیا۔ امرت دھارا۔ نمک سلیمانی۔ خضاب۔ پان کا مصالحہ۔ کراماتی شیشہ وغیرہ بنانے کے پکے نسخے۔ ایسے ایک سو ایک کام قیمت ۸ر

ہندوستان قدیم

عجیب تواریخی تحقیقات قدیم یونان مصر۔ ایران وغیرہ میں ہندوؤں کی عملداری تھی۔ امریکہ ہندوؤں کو لاکھوں برس سے معلوم تھا۔ ہندو ہر علم کے اُستاد تھے خوبی میں شہرہ آفاق تھے قیمت صرف عہ

علاج مفتی

ہر قسم کی بیماریوں کے لئے ایسی ادویات جن میں کوڑی خرچ نہ ہو۔ اور ہر جگہ کی درختوں کی چھال پھل پھول جنگل کی بوٹیاں۔ نمک وغیرہ سے ہی سخت امراض کا حکمی علاج۔ ایک ہزار سے زیادہ فقیری مجرب نسخے قیمت ۸ر

ملک عدم

مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے فرشتے کیسے ہوتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں چاند سورج میں آبادی۔ خدا کے گھر کا پتہ۔ تقدیر اور تدبیر کا فیصلہ۔ ہر بات کا ثبوت سائنس کے مطابق۔ قیمت ۸ر

صلاح قانون

قانون معاہدہ۔ ہر جہ۔ شرح دھرم شاستر وغیرہ کے اصول ہر قسم کے مقدمات کے متعلق سب کارروائیاں۔ قیمت ۸ر

طبیب خلوت

نامردی۔ جریان۔ سوزاک۔ آتشک۔ بواسیر۔ گٹھیا وغیرہ کا علاج بقاعدہ یونانی۔ ویدک۔ ڈاکٹری۔ ہومیوپیتھی۔ عطائی۔ فقیری ہر مرض کے واسطے سب سے بہتر حکمی ادویات جو آزمائی ہوئی ہیں گشتے۔ لوئیں پھل وغیرہ سے پرہیز دستور مقام مرض و تصاویر اپنا علاج خود کر لو۔ ڈاکٹر کو دکھانے و فیس کی ضرورت نہیں ہوتی قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ عہ

زچہ و بچہ

عورتوں کی تمام مخصوص بیماریوں کا علاج بقاعدہ یونانی۔ ویدک۔ ڈاکٹری صدہا مخفی نسخے۔ دائیوں کے۔ لیڈی۔ ڈاکٹروں کے تجربات حیض و حمل کی خرابیاں دور کرنا بچوں کا علاج۔ عجیب ٹوٹکے۔ قیمت ۸ر

جوہر غیب

قیافہ۔ سامدرک۔ علم کاسۂ سر۔ شگون۔ سروپہ۔ تعبیر خواب۔ موسمی پیشینگوئی۔ اتنے علوم کے فوائد مفصل اس میں نقشہ دیکر سمجھائے اور دلائل سے ثابت کئے ہیں۔ بلا استاد کے سیکھ لو۔ اور مخفی حالات بتلانے لگو۔ ہر ایک کارآمد باتیں ہیں۔ قیمت ۸ر

جڑی بوٹی

جنگل کی ان جڑی بوٹیوں جو کثرت سے دیہات میں ادویات میں کام آتی ہیں جس کا بیان مع تصاویر و شناخت پتہ و پھول۔ بیج۔ ذائقہ۔ موسم۔ جائے پیدائش۔ خواص۔ فوائد ہر ایک مرض کا علاج اور ہر ایک کشتوں کا پھونکنا بوٹی سے بتایا ہے۔ ملاحظہ فرمایئے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ عہ

خزانہ کیمیا

ہفت احباب کا خلاصہ۔ گورکھ ناتھ کی ساکھیاں پارہ کے سنکار۔ کیمیا گروں کے تجربات۔ مہاتماؤں کے عطیات۔ قلمی بیاضوں کی نوٹ۔ جنتروں کی تصاویر۔ کیمیا کی تصدیق کے دلائل۔ دھاتوں کی ماہیت قیمت عہ

دنیا کی سیر

چین۔ جاپان۔ روم۔ روس۔ ایران مصر امریکہ وغیرہ تمام ملکوں کے حالات مع تصاویر۔ صدہا سیاحوں کے سفرناموں کا انتخاب عجیب دلچسپ رسمیات۔ نرالے قانون ہر ملک کے جن کو پڑھ کر ہنسی آوے۔ قیمت عہ

عقل کل

واقعی عقل کوٹ کر بھر دی ہے۔ حکمت قانون تواریخ وغیرہ سارے علوم و فنون کا بیان ہے قیمت عہ

قیمت میں رعایت کے لئے لکھنا فضول ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اشتہار کے موافق نہ ہو۔ تو فوراً واپس کر دو۔

ان سب کتابوں کے ملنے کا پتہ:۔ **ودیا ساگر ڈپو نمبر ۴۴ مقام علیگڈھ** :۔ اپنا پتہ صاف و خوشخط مفصل لکھو

ایک حیرت میں ڈالنے والی دریافت یعنی علاج بے دوا

انگلستان کے مشہور و معروف سائنسدان مسٹر گیلے کی نئی ایجاد

چنبک ۔ بواسیر ۔ بدہضمی ہر قسم ۔ سردرد ۔ سستی ۔ نامردی ۔ جریان ۔ احتلام ۔ بدخوابی ۔ دماغ کا پریشان رہنا ۔ نسیان ۔ کمزوری دماغ ۔ کمزوری بصر ۔ کمزوری دل ۔ لاغری بدن ۔ جملہ امراض مستورات کی کل امراض کا بغیر کسی قسم کی دوائی کے علاج ۔ صرف ایک بجلی کی انگوٹھی کے پہننے سے نہ صرف آپ مندرجہ بالا بیماریوں سے ہی شفا پا جاوینگے ۔ بلکہ اس انگوٹھی کی بجلی کا اثر آپکے تمام جسم میں سرایت کر کے ہیضہ ۔ تپدق ۔ جنگی بخار ۔ طاعون وغیرہ موذی امراض کے کیڑوں کو مار دیگا ۔ اور ان امراض کو آپکے نزدیک تک نہ پھٹکنے دیگا ۔ یہ انگوٹھی موجد نے بہت سی دھاتوں کو ملا کر بجلی کے ذریعہ تیار کی ہے نیز یہ انگوٹھی چھوٹے سے لیکر بڑے تک کو یکساں مفید ثابت ہوئی ہے ہماری سابقہ ملکہ معظمہ ملکہ وکٹوریہ نے بذات خود اس کا استعمال کر کے اس کی از حد تعریف کی ہے ۔ علاوہ ازیں اس کو بہت سے لارڈز نے آزمایا اور بہت مفید پایا ۔ ملکہ ماڈ اوف ناروے نے اس کے موجد کو اسکے شاندار نتائج سے خوش ہو کر ایک بڑی خلعت عطاء کی تھی باوجود اتنی خوبیوں کے اسکی قیمت بالکل واجبی رکھی گئی ہے ۔ قیمت فی انگوٹھی بمع محصولڈاک صرف دو روپے آٹھ آنے ... ۸/۲ (پنجاب)

ملنے کا پتہ :- ایس ایل سود اینڈ برادرس کمیشن ایجنٹس پٹیالہ سٹریٹ اندرون دروازہ شیرانوالہ لاہور

گرمیوں کا موسم اگر آرام سے گذارنا چاہو تو فوراً ایک جیبی پنکھا ہم سے منگاؤ



حضرات ! واقعی یہ نو ایجاد جیبی پنکھا نہایت مفید اور کار آمد چیز ہے موجد نے اسکو ایسی ترکیب سے بنایا ہے کہ دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے ہوا اسکی ایسی تیز ہے کہ خواہ کیسا ہی پسینہ گرمی سے بہ رہا ہو دو منٹ کے اندر پسینہ خشک کر کے دل کو نہایت مسرور کر دیتا ہے ۔ شکل بالکل بجلی کے پنکھے کی طرح ہے ۔ صرف ایک بٹن دبانے سے بجلی کے پنکھے کی طرح تیز چلتا ہے ۔ اس میں کسی مصالحہ کے ڈالنے کی ضرورت نہیں اس کو ہر وقت جیب میں رکھ سکتے ہیں ۔ جب ضرورت پڑے فوراً جیب سے نکالکر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے دل کو خوش کر لو ۔ قیمت اس کی مقابلہ اس کے فوائد کے بالکل کم رکھی گئی ہے ۔ ایک دفعہ ضرور منگاؤ ۔

قیمت صرف دو روپیہ آٹھ آنہ بمعہ پیکنگ و محصولڈاک وغیرہ (۸/۲)

جرمنی کی نئی ایجاد سائنس کا حیرت انگیز کرشمہ

نر و مادہ کی پہچان کا آلہ



اس نو ایجاد سائنس کے آلہ کا ہر گھر میں ہونا نہایت ضروری ہے اس سے کئی قسم کے مشاہدے ہو سکتے ہیں مثلاً ایک انڈا لیکر میز پر رکھو اور اس آلہ کو حسب ترکیب لگاؤ پس فوراً پتہ لگ جاویگا کہ اس کے انڈے سے بچہ نر نکلیگا یا مادہ کسی چمڑے بالڈی یا بالوں کی چیز پر آلہ لگاؤ ۔ فوراً معلوم ہو جاویگا ۔ کہ چمڑہ یا ہڈی نر کی ہے یا مادہ کی ۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے کوڑے مکھیوں پر لگانے سے ان کے نر و مادہ ہونے کا پتہ لگیگا ۔ اس آلہ کو ہاتھ میں لیکر کسی کا نام پکاریں ۔ اس کی حرکات سے فوراً اس کا نر یا مادہ ہونا ظاہر ہو جاویگا ۔ غرضیکہ اس آلہ سے کئی قسم کے مشاہدے ہو سکتے ہیں جلد منگا کر تجربہ کرو ۔

قیمت صرف دو روپیہ بمعہ محصولڈاک .. ۲/

ملنے کا پتہ :- مدن منوہر اینڈ برادرس جنرل مرچنٹس موتی بازار لاہور

علم جوتش کی بے نظیر رمل کی لپیدز جفر و طلسمات کی پُر تاثیر نادر و نایاب کتابیں

مصنفہ و مرتبہ پنڈت گردھاری لعل صاحب منجم و جفار سیالکوٹی مصنف مشہور عالم جنتری لاہور

مہربانو قدردانو۔ علم راز کے مندرجہ ذیل کتب کو مصنف نے ایسا مدلل اور بالتشریح لکھا ہے۔ اور ان علوم کے مخفی اصولوں کو ایسا آسان طور پر حل کر کے دکھلایا ہے۔ کہ جن کے مطالعہ سے ہر شخص علم جوتش در مل پر کامل مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں کوئی ایسی بات درج نہیں کی گئی۔ جس کے سمجھنے کے لئے آپ دوسروں کے محتاج ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ معزز احباب نے ان کو بہت پسند کیا۔ عوام میں ان کی بڑی بھاری تعریف ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے مشہور اخبارات نے ان کتابوں پر عمدہ ریمارک کئے ہیں۔ مبتدیوں کے لئے یہ کتابیں استاد کامل کا کام دیتی ہیں۔ ہزاروں آدمی ان کتابوں کی بدولت علم جوتش وغیرہ سے پورے واقف ہو چکے ہیں۔ ہر ایک کتاب تئی کئی مرتبہ چھپ کر فروخت ہو چکی ہے۔ پس اگر آپ کو ان نادر علوم کے مطالعہ کا شوق ہے۔ تو فوراً ان کو خرید فرما کر فائدہ اٹھاویں۔ جن کتابوں کے ساتھ لفظ مجلد لکھا گیا ہے۔ ان کی نہایت عمدہ جلد بنی ہے۔ محصولڈاک وغیرہ سب بذمہ خریدار ہے۔

علم جوتش کی نادر کتابیں

سر رشتہ قسمت

یہ اسم بامسمیٰ رسالہ ہے جس کا ہر ورق انسانی قسمت کا دفتر ہے۔ اس رسالہ کے ذریعہ ہر ایک شخص کی جنم کنڈلی یعنے زائچہ پیدائش دیکھ کر اُس کی تمام عمر کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس میں گرہوں کے معزز و مرکب علامتیں بخوبی سے درج کئے گئے ہیں۔ کہ جس سے ہر ایک شخص جنم کنڈلی کو دیکھ کر انسان کی قسمت کا فوٹو کھینچ سکتا ہے۔ معزز احباب کی فرمائش سے بڑی محنت و کوشش سے یہ رسالہ عام فہم لکھا گیا ہے۔ بایں ہمہ خوبی کے اس کی قیمت صرف مجلد ایک روپیہ آٹھ آنہ ہے۔ (ے۸؍)

آئینہ حیات حصہ اول و دوم

انسانی سرگذشت یعنی جنم پتری تیار کرنے اور اوقات رنج و راحت دیکھنے کے لئے یہ ہر دو رسالہ جات قابل دید ہیں حصہ اول میں جنم کنڈلی بنا کر سیاروں کی اوستھا یعنی حالتیں جن میں وہ کبھی جاگتے۔ کبھی کودتے۔ کبھی سوتے ہیں۔ اس طرح تمام حالتیں نکالنے کے اصول اور ان کا نیک و بد ثمرہ درج کیا گیا ہے۔ غرضیکہ جنم پتری تیار کرنے کے لئے یہ ہر دو رسالہ جات مکمل ہیں۔ قیمت حصہ اول ۲ر حصہ دوم ۸ر ہر دو حصہ جات مجلد ... ے۸

آئینہ تقدیر حصہ اول

علم جوتش کے معتقد وہ ہر سال آپ جوتشیوں سے اپنا ورش پھل بنواتے ہیں۔ آپ کی خاطر جنم کنڈلی سے ورش پھل تیار کرنے کا مفصل رسالہ آپ کی نظر ہے۔ جس کے اصول و قواعد کو پڑھ کر آپ خود بخود اپنا ورش پھل بنا لینگے۔ بلکہ تمام سال کی دشا، انتر دشا وغیرہ نکال کر سال بھر کے حالات رنج و راحت آئینہ کی طرح معلوم کر لینگے۔ اور جوتشیوں کے سالانہ ٹیکس سے بچ جائینگے۔ قیمت صرف آٹھ آنے ... ۸ر

حصہ دوم اس رسالہ کے حصہ دوم میں ورش کنڈلی سے گرہوں کے یوگوں یعنے اجتماع و قران سیارگان سے سال بھر کے احکام نکالنے کا مفصل بیان درج ہے۔ قیمت حصہ دوم آٹھ آنے ۸ر

کلید جوتش

یہ گنت ودیا یعنی علم ریاضی کی بے نظیر کتاب ہے۔ جس کے ذریعہ آپ ہر سال کے تنتھ۔ نچھتر و یوگ معہ ان کی گھڑی و پلوں کے بلا امداد دیگرے خود بخود نکال سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے جنتری بنانے کے متعلق بہت سی باتیں اس میں درج ہیں۔ جن کو ہر شخص بآسانی حل کر سکتا ہے۔ قیمت آٹھ آنے ... ... (۸؍)

(نوٹ) اس رسالہ کا دوسرا حصہ بھی جلد تیار ہونیوالا ہے جس میں گرہوں کو سپشٹ کرنے کی جدولیں اور اس کا طریقہ گرہوں کی نچھتروں میں تبدیلی اور نظرات سیارگان دیکھنے کے اصول ہیں۔

مخبر آسمانی حصہ اول

آسمانی علامات اور گردش کواکب کو دیکھ کر اگر آپ تمام سال کے حالات رنج و راحت۔ ابر و باراں۔ اندیشہ ی۔ ارزانی۔ گرانی اجناس و بیماری وغیرہ کی نسبت پیشینگوئی کرنا چاہو تو اس رسالہ مخبر آسمانی کو منگوا لو۔ واقعی یہ رسالہ اسم بامسمیٰ ہے۔ جو کہ آپ کو تمام دنیا کے حالات سے قبل از وقت خبردار کر دیگا۔ قیمت صرف بارہ آنے ... ۱۲ر مجلد

حصہ دوم اس رسالہ کا حصہ دوم بھی تیار کیا گیا ہے جس میں گرہوں کے بکری و مارگی ہونے۔ راشی تبدیل کرنے اور طلوع و غروب سیارگان کے ذریعہ سال کے حالات دیکھنے اور آئندہ ۳۰ سال کے ادھکاری گرہوں کا نقشہ اور پیشینگوئی کرنے کے لئے اور ادرکئی طریقے درج کئے گئے ہیں۔ قیمت صرف آٹھ آنے ۸ر ہر دو رسالہ ایک جلد میں مجلد قیمت ایک روپیہ چھ آنہ ے۶ر

رسالہ علم کبرل

علم راز کا بے نظیر رسالہ ہے۔ اس کا عامل دریافت کنندہ سے کسی پھل۔ پھول۔ ندی یا دیوتا کا نام کہلوا کر اس کے نیک و بد حالات اور کارج سدھ یا نہ سدھ ہونے کی بابت بتلا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہوگی۔ اس کی قیمت صرف دس آنے ہے ... ... (۱۰ر)

لگن رتناگر

لگن یعنی طالع وقت معلوم کرنے کے لئے یہ چھوٹا سا رسالہ قابل دید ہے۔ علاوہ طالع وقت کے مختلف شہروں کا تفاوت وقت دریافت کرنے کا قاعدہ اور تقریباً ۸۰ شہروں کے وقت کے تفاوت کا نقشہ بھی دکھلایا گیا ہے۔ قیمت صرف چار آنے ۴ر

مفتاح الغیب

حقیقت میں یہ غیب دانی کا بے نظیر رسالہ ہے۔ اگر اس کو آئینہ جہاں نما کہیں تو بجا ہے۔ اس میں حواس خمسہ کے پانچ جانوروں یعنے شکرا۔ ٹنگل۔ کوا۔ مرغا۔ مور کے ذریعہ ہر قسم کے سوالات کے جوابات معلوم کرنے کا اصول بتلایا گیا ہے جو قابل دید ہے۔ ہمزاد کو سدھ کر کے اس کے ذریعہ حل مشکلات کے مفصل قواعد اس میں درج ہیں۔ قیمت ۱۲ر

نظارہ تقدیر

یہ علم سامدرک کا رسالہ ہے جس کے ذریعہ انسان کی شکل و شباہت۔ رفتار و گفتار۔ ہاتھ پاؤں کی بناوٹ اور ہاتھ کی ریکھا یعنی خط و خال کو دیکھ کر اس کی زندگی کے تمام حالات رنج و راحت۔ ترقی و تنزل وغیرہ وغیرہ معلوم ہو سکتے ہیں۔ قیمت صرف چھ آنے ۶ر مجلد

رازدان یعنے زندہ جادوگر

اس میں شک نہیں۔ کہ علم راز کے کئی ایک رسالے آپ نے دیکھے ہونگے۔ مگر یہ رسالہ بالکل نئے ڈھنگ اور نرالی طرز کا ہے۔ اور ایسے آسان طریقہ سے لکھا گیا ہے کہ جس سے معمولی اردو خواں بھی دل کی پوشیدہ بات حرف بحرف بتلا کر اس کے نیک و بد نتائج قبل از وقت ظاہر کر سکتا ہے یہ رسالہ شوقینوں کو غیب دان بنانے کا آلہ ہے۔ کیونکہ اس میں علم راز کا وہ پوشیدہ اصول بتا دیا گیا ہے۔ جس سے دوسرے کے دل کی مخفی بات فوراً معلوم ہو جاتی ہے۔ زیادہ تعریف فضول منگوا دیکھئے۔ قیمت مجلد ایک روپیہ چار آنہ ے۴ر

ملنے کا پتہ: مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور ٹیلیفون نمبر ۲۳۴۷ تار کا پتہ مشہور لاہور

پیکنگ محصولڈاک بذمہ خریدار ہے

تمام فرمائشیں بنام مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور ہوں۔

علم جفر طلسمات رمل مسمریزم وغیرہ کی نادر و نایاب کتابیں

مصنفہ ومرتبہ پنڈت گردھاری لعل صاحب منجم و جفار سیالکوٹی مصنف مشہور عالم جنتری لاہور

اسرار الطلسمات

طلسمات کا علم وہ علم ہے جس کا عامل تمام عالم کو اپنا دامن گرفتہ بنا سکتا ہے مصنف نے اس رسالہ میں رموز طلسمات کا پردہ اس خوبی سے اٹھا دیا ہے جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں حل مشکلات کے قواعد۔ محبت و الفت پیدا کرنے تسخیر خواتین عظمہ و تعبیہ دشمنان مغلوبی حاسدان۔ ہر دلعزیزی کشائش رزق و بلندی مرتبہ۔ نزول بردباراں۔ نفاذ نسل۔ ترقی حافظہ دفعیہ بیماری وغیرہ وغیرہ کے نہایت بے نظیر پر تاثیر طلسم درج کیے گئے ہیں۔ اور قریباً چار سو نقشہ و پراشکال فلکی و طلسمات کی دکھلائی گئی ہیں۔ درحقیقت یہ رسالہ عاملان علم طلسم کے لئے بےنظیر چیز ہے۔ قیمت مجلد ایک روپیہ آٹھ آنہ (ع۸ر)

مجبوب الطالبین

یہ علم جفر کا بےنظیر رسالہ ہے۔ جس میں علم کے آثار کے ذریعہ حصول مطلب وحل مشکلات کی عجیب و غریب ترکیبیں درج ہیں تسخیر مطلوب و بلندی مرتبہ کے قواعد حل کرنا چاہو۔ تو اس رسالہ کو منگوا کر دامن امید کو گوہر مقصود سے بھر لو۔ قیمت آٹھ آنے ... (۸ر)

کلید غیب دانی

یہ علم رمل کا وہ بےنظیر رسالہ ہے جو کہ دوسرے کے دل کی مخفی بات اور اس کے نیک و بد نتائج سے چشم زدن میں آگاہ کر دیتا ہے اس رسالہ میں اس پوشیدہ راز کا پردہ اٹھا دیا گیا ہے جس کے ذریعہ اس فن کے لوگ ہزاروں روپیہ کماتے تھے۔ دلی راز بتلانے کے لئے اس میں وہ طلسم درج ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ چھ مرتبہ چھپ چکا ہے قیمت مجلد ایک روپیہ چار آنہ (عہ)

فالنامہ حروفی

ناظرین! یہ وہی حروفی فالنامہ ہے جس کا مضمون مشہور عالم جنتری میں کئی سالوں سے درج ہوتا چلا آ رہا ہے۔ شائقینوں کی فرمائش سے اس کو علیحدہ کتابی صورت میں بھی چھاپ دیا گیا ہے اور آخر میں کچھ دلچسپ مضامین ایزاد کئے گئے ہیں۔ قیمت صرف (۴ر)

قرعہ حروفی

حروفی فالنامہ کو دیکھنے کے لئے یہ قرعہ ضروری چیز ہے۔ لوگوں کی رفع تکلیف کی خاطر یہ قرعہ دفت پر تیار کرائے گئے ہیں۔ قیمت صرف آٹھ آنے ... (۸ر)

جامع الرمل

علم رمل کے شائقینوں کی خاطر اس رسالہ کو ایسا آسان لکھا گیا ہے۔ کہ جس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکے۔ علم رمل کے تمام زائچوں کا لب لباب ایک ایسی ترکیب سے اس میں درج کر دیا گیا ہے۔ جو دیکھنے کے قابل ہے۔ اس میں علم رمل کے تمام زائچہ جن کی انتہا (۶۵۵۳۶) ہے ہے۔ جو احکام ایسی نادر ترکیب سے اس میں درج کئے گئے ہیں جن کو دیکھنے والے حیران رہ جائینگے بوقت ضرورت زائچہ رمل بنا کر اس کو اس کتاب میں سے نکال لیں۔ اور اپنے سوال کا جواب معلوم کر لیں۔

قیمت فی جلد ایک روپیہ بارہ آنے (عہ۱۲)

آئینہ مہورت

اہل ہنود میں ہر ایک شبھ کام کے اجرا کے وقت مہورت کا دیکھنا لازمی ہے۔ اس کے شوقینوں کی خاطر یہ رسالہ تیار کیا گیا ہے۔ جس سے ہر طرح کے مہورت دیکھنے کے لئے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑیگا۔ بلکہ آپ خود بخود ہر قسم کا درست مہورت دیکھ سکینگے۔ قیمت مجلد عہ

علم رمل کی نادر کتابیں

کاتب تقدیر

ہر شخص اپنا برش پھل یعنی حالات سالانہ معلوم کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی جنم پتری موجود ہو۔ وہ تو بذریعہ علم جوتش اپنا برش پھل بنوا سکتے ہیں۔ لیکن جن کی جنم پتری موجود نہ ہو ان کے لئے بڑی مشکل ہے۔ پس ایسے لوگوں کی مشکل حل کرنے کے لئے یہ رسالہ تیار کیا گیا ہے۔ اس رسالہ کے طریق و قواعد پر عمل کر کے قرعہ رمل ڈال کر جس شخص کے چاہو سال بھر کے حالات نیک و بد ایک ساعت میں معلوم کر لو۔ علم رمل کے شوقین اس رسالہ کو منگوا کر دیکھیں۔ کہ کس طرح دریا کو کوزہ میں بند کیا گیا ہے۔ قیمت بارہ آنے (۱۲ر)

جام جمشید

یہ علم مسمریزم کا نادر رسالہ ہے۔ اس میں ان تمام مخفی اسراروں کا پردہ کھول دیا گیا ہے۔ جن پر عمل کرنے سے عامل قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ مفقود الخبروں کے پتہ نشان اور ہر شخص کے زمانہ ماضی و حال و مستقبل کے حالات جان سکتا ہے۔ سنگدلوں کو موم کرنا اور تمام موجودات عالم کو مسخر کر لینا اس کے عامل کے لئے کوئی بڑی بات نہیں۔ قیمت مجلد ایک روپیہ ... (عہ)

علم رمل کا ضروری کارآمد آلہ

یعنی

قرعہ رمل

علم رمل کے جاننے والوں کے لئے قرعہ رمل ایک نہایت ضروری چیز ہے جس سے زائچہ رمل تیار کیا جاتا ہے۔ پس اگر آپ کو علم رمل کا شوق ہے تو کتب رمل کے ہمراہ ایک جوڑی قرعہ رمل جو اوقات معینہ پر دھاتوں کی باقاعدہ ملاوٹ سے تیار کئے جاتے ہیں۔ خرید فرماویں۔ اس سے زائچہ تیار کرنے میں آپ کو آسانی رہیگی۔ قیمت فی جوڑی ایک روپیہ چار آنہ (عہ)

مجبر تقدیر حصہ اول و دوم

ان ہر دو رسالوں میں علم رمل کے وہ اصول درج ہیں۔ جن پر عمل کرنے سے ہر ایک آدمی کے حالات خیر و شر ضمیر و احکام اور موجودات عالم کی اصلیت و کیفیت فوراً معلوم ہو جاتی ہے اور ہر شخص کے حالات زمانہ ماضی و مستقبل آئینہ کی طرح نظر آ جاتے ہیں۔ قیمت حصہ اول دس آنے حصہ دوم ہر دو حصہ منگوانے سے صرف ایک روپیہ (عہ)

رسالہ علم الخواب

کون شخص ہے کہ جس کو رات کو سوتے ہوئے خواب نہ دکھائی دیتا ہو۔ اس میں شک نہیں۔ کہ اگر انسان کا دل تفکرات سے پاک و صاف ہو۔ اور کسی طرح کا عارضہ جسم میں نہ ہو تو خواب بمنزلہ ایک الہام کے ہے۔ جس کے ذریعہ قدرت کی طرف سے انسان کو آئندہ پیش آنیوالے نیک و بد واقعات سے قبل از وقت آگاہ کر دیا جاتا ہے ہر شخص کے لئے خواب کی تعبیر کرنا مشکل ہے۔ اس لئے ہم نے اس رسالہ میں ہر قسم کے خواب اور ان کی نیک و بد تاثیر ردیف وار درج کر دی ہے۔ جو دیکھنے کے قابل ہے قیمت آٹھ آنے ... (۸ر)

موہنی منتر یا منتر ودیا کا بھنڈار

جو لوگ حصول مدعا کے لئے جنتر منتر کے بڑے بڑے گنٹھ بنا دھن کرکے بعض الغرض مجنون جاہلوں کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرکے مسانوں۔ قبرستانوں میں شب بیداری کرکے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر ناکامیابی پر کف افسوس ملتے ہیں۔ انکے لئے یہ موہنی منتر تیار کیا گیا ہے اسکی زیادہ تعریف فضول ہے قیمت عہ

ملنے کا پتہ: مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور ٹیلیفون نمبر ۲۳۴۷ تار کا پتہ مشہور لاہور

پیکنگ و محصول ڈاک بذمہ خریدار ہے۔

نوٹ، پتہ صاف اور نہایت خوشخط لکھنا چاہئے ورنہ فرمائش کی تعمیل نہ ہوگی اور بوقت تحریر درخواست مشہور عالم خبری کا حوالہ ضرور دیں

روح جیون بوٹی

ایجاد کردہ شاہی حکیم محمّد علی رضا

معالج خاندان شاہی ریاست جمّوں و کشمیر

روح جیون بوٹی کا اکسیر ... کے استعمال سے ایک مہینے میں تین سیر خون صالح بدن انسان میں پیدا ہو جاتا ہے

اسکے استعمال سے پہلے اور پیچھے اپنے بدن کو وزن کرکے ہمارے دعوے کی تصدیق کریں۔ طاقت اصلی چہرے کی سُرخی اور بدن کی تازگی عمر طبعی تک قائم رکھنا اس کا ادنے کرشمہ ہے

روح جیون بوٹی کا استعمال معدہ اور دماغ کو کمزور ہونے اور خون کو بگڑنے اور پتلا ہونے سے بالکل صیانت رکھتا ہے اس کے استعمال کرنے والے کا چہرہ چونیاں کھاتے ہوئے بادشاہوں کی طرح عمر بھر چمکتا دمکتا رہتا ہے ✣

فوائد

روح جیون بوٹی وہ خاص جوہر ہے جس کے استعمال سے ہزاروں بے اولاد اور نامراد کی مراد بفضلہ حاصل ہو گئی۔ اور کتنے اُجڑے ہوئے گھر آباد ہو گئے اچھے اچھے صاحبان علم و اقتدار جو طاقت مردمی کے سلب ہو جانے کی وجہ سے گویا زندہ درگور تھے دوبارہ زندوں میں شمار ہونے لگے۔

روح جیون بوٹی کا اثر خاص دماغ پر پڑتا ہے۔ جسکی صحت پر بقائے نسل انسان کا دارومدار ہے اور تمام اجزوم بدن کی حس و حرکت کا منبع ہے اس کے استعمال سے تمام بدن کے رگ و پٹھے خواہ وہ بچپن کی عادات قبیحہ یا کسی اور بے احتیاطی سے بیکار او ڈھیلے پڑ گئے ہوں فوراً اپنی اصلی حالت پر آجاتے ہیں

روح جیون بوٹی کا جن جن لوگوں نے استعمال کیا ہے وہ ہمیشہ کے لئے اس کے گاہک ہو گئے اور ان سینکڑوں روپے کے خرچ سے جو وہ ہمیشہ مقوی بالوتیوں اور مفرح و مُبہی معجونوں پر برباد کیا کرتے تھے بچ گئے۔ اور پھر بھی وہ فائدہ ان سے حاصل نہیں ہوتا۔ جو اس کے استعمال سے ہوتا ہے ✣

روح جیون بوٹی کے استعمال سے چانڈو۔ افیون۔ شراب وغیرہ منشیات کی بُری عادت بالکل چھوٹ جاتی ہے۔ طُرّہ یہ کہ چانڈو اور افیون کے استعمال سے تو بدن خشک اور لاغر ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں رگ اور پٹھے بالکل بیکار اور سُست پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اس روح کے استعمال سے بدن دن بدن سُرخ اور فربہ ہوتا ہے۔ اور حوصلہ اور طاقت اتنی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کہ خود بخود اُچھلنے کو جی چاہتا ہے ✣

روح جیون بوٹی کے مستحق زیادہ تر وہ اُمّ المریض ہیں نیز وہ امیر جو حدِ اعتدال سے تجاوز کرنے کے باعث یا وہ نوجوان جو چھوٹی عمر میں شادی ہونے کی وجہ سے طاقت مردمی کھو چکے ہوں اور جو طعام کی بو سے ہی سیر ہو جاتے ہیں۔ چہ جائیکہ معدہ میں کچھ ڈال سکیں اس روح کے استعمال سے خشک غذا کا تو ذکر ہی کیا۔ دودھ اور گھی جسقدر کھاؤ ہضم ہو کر جزوِ بدن بنتا جاتا ہے۔ چہرہ اور بدن پر سُرخی اور رونق بڑھتی چلی جاتی ہے ✣

روح جیون بوٹی یرقان۔ زردی چہرہ۔ خشکی و بے رونقی بدن۔ وسواس کم خوابی۔ پراگندہ خیالات۔ مالیخولیا۔ وجع المفاصل اعضاء شکنی۔ دردسر۔ دوران سر وغیرہ کو بتدریج رفع کرکے انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے اسکے استعمال کرنیوالا بخار۔ تلی۔ بواسیر سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے گندے خون کو صاف کرتا ہے اور قوت باصرہ قوت ہاضمہ قوت سامعہ کو اعلیٰ درجہ کی طاقت بخشتا ہے

الغرض ہر قسم کی کمزوری پھلبہری فساد خون کو دور کرنا اور بدن کو چست چالاک بنانا روح جیون بوٹی ہی کا کام ہے

قیمت میں خاص رعایت

اس خیال سے کہ امیر و غریب برابر ہماری ایجاد سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم نے روح جیون بوٹی کی قیمت للعہ ہے اور طلاء استمنا کی قیمت صہ رکھدی ہے۔ خرچ ڈاک وی۔ پی۔ وغیرہ علاوہ

طلاء استمناء

جن اصحاب کے رگ و پٹھے مادر زاد نامردی کے سوائے خواہ کسی سبب سے نرم۔ کمزور سیر دا اور سُست پڑ گئے ہوں۔ انہیں چاہئے کہ روح جیون بوٹی کے ہمراہ اس طلاء کا ضرور استعمال کریں۔ آبلہ۔ پھنسی وغیرہ ہرگز نہیں پڑتی ✣

تمام درخواستیں بنام :- مینیجر دفتر روح جیون بوٹی نمبر ۵ وارث روڈ لاہور آنی چاہئیں

مصر کا سلیمانی جادو

جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے یہ ہے خاص مطلب کی یہ ایک جادو کی مشہور کتاب ہے۔ اسمیں غرضمندوں کیلئے تمام ضروری باتیں نقشے اور تصویریں بکر سمجھائی گئی ہیں اسکا عامل گھر بیٹھے سب کچھ حاصل کر سکتا ہے بیشک سب سے پہلے آپنے جادو کی کئی کتابیں دیکھی ہونگی۔ مگر دلی مطلب کسی سے پورا نہ ہوا ہوگا یقین کریں کہ اس کتاب سے آپکو وہ کچھ حاصل ہوگا جو در اصل آپکا دلی مطلب ہے۔ سچ یا نہیں کہ اس میں آپکے کام اور مطلب کے ایسے ایسے بیخطا نقش تعویذ گنڈے۔ نقش سلیمانی۔ تعویذ سلیمانی مجربات سلیمانی۔ سحر طلسم۔ جادو چلانا وغیرہ لکھے ہیں کہ جس مطلوبہ شے کو چاہنا فوراً اپنے پاس حاضر کر لینا۔ دشمن کو دیکھنا آپ غائب رہنا۔ جہاں چاہنا چلے جانا دوسرے کے سوال کا جواب اور دل کی خبر بتا دینا۔ دفینہ یا گمشدہ چیز کا پتہ بتانا۔ حاضر کرنا گنڈے۔ تعویذ بکر غرضمند کا مطلب حل کرنا۔ مریض کو پھونک مار کر یا دم کر کے راضی کر دینا۔ دشمن کو زیر کرنا۔ مقدمہ میں فتح پانا۔ حاسد و نکامنہ کالا کرنا۔ جسکو چاہنا اپنی طرف رجوع کر لینا۔ افسر کو اپنا مہربان بنا لینا۔ عزت۔ حشمت۔ رزق۔ دولت۔ اولاد حاصل کرکے خدا کے فضل و کرم سے کاروبار میں برکت چاہنا ہو تو مشہور کتاب مصر کا سلیمانی جادو خریدیں قیمت مجلد عہ

نوٹ۔ ناگری۔ گورمکھی میں بھی موجود ہے قیمت عہ جادو کی کراماتی انگوٹھی۔ جو دلی خواہش ہو پوری کرو جسکو دیکھنا ہو دیکھ لو فیمت دیہ عہ

کرامات بنگالہ

جن بھوت چڑیل اتارنا۔ جادو کا بیخطا نشانہ ہاں ہاں آپ کی وہ کونسی دلی خواہش رہ گئی ہے۔ کونسا مطلب یا پیچیدہ کام ہے آپکی وہ کونسی دلی مراد ہے جو اس کتاب سے پوری نہ ہوگی۔ یاد رکھیں کہ یہ کتاب ایک باکمال جادوگر کی بنائی ہوئی ہے۔ جادو چلانا۔ گھر بیٹھے سب کچھ حاصل کرنا۔ جادو کے نقش تعویذ۔ گنڈے لکھ کر ہر ایک کام پورا کرنا ہو تو کیا خبر چھ ماہ پہلے دریافت کرنا ہو تو کیا۔ کرامات بنگالہ ضرور منگائیں۔ خوبی یہ کہ غرضمندوں کیلئے سب باتیں تصویریں دیکر سمجھائی گئی ہیں قیمت مجلد ایک روپیہ آٹھ آنے عہ۔ کلید نوشتہ قسمت۔ امر نیک و بد کی پہچان نفع نقصان کی فال دیکھنا قیمت بارہ آنے ۱۲ + ۔

جرمن رنگسازی

صرف چھ پیسے میں ایک پونڈ رنگ بنا لو۔ اس لاجواب کتاب میں مختلف قسم کے فشنگ رنگ بنانے کے قریب چار سو ایسے بلیش قیمت نسخے لکھے ہیں جو آجتک نہ کسی کتاب میں پائے گئے اور نہ کسی اُستاد نے بتائے۔ خوبی یہ کہ رنگ کپڑا۔ سوت۔ ریشم۔ اون چمڑا لکڑی۔ نگینے کے ہر کام میں استعمال ہوتے ہیں کسی لالچی رنگریز نے خوبی نہیں پائی گئی دوکاندار بیوپاری لوگ اس کتاب کے ذریعے سو دیشی رنگ بنا کر ہزاروں لاکھوں روپے پیدا کر رہے ہیں۔ کتاب چھپوائی کاغذ کے دام نہیں بلکہ پوشیدہ نسخوں کی قیمت ہے۔ قیمت پانچ روپیہ سے ایک پائی کم نہ ہوگی۔ قیمت پانچ روپے (صہ) +

لاالٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ

تعویذی قرآن شریف

مومن مسلمانوں کے لئے برکات الٰہی کا خزانہ پورا قرآن شریف بالکل تعویذ کے مطابق وزن صرف نو ماشہ بازو پر کمر بنکا لاکٹ بنا ہیں بچوں کے گلے پہنائیں ہر مشکل مصیبت۔ تنگدستی۔ بیکاری دور ہو کر خوشی و خوشحالی ہوگی۔ عزت حشمت۔ رزق۔ دولت۔ اولاد۔ کاروبار میں برکت ہوگی۔ ہدیہ ہدیہ دیتے + حمائل شریف مترجم رنگین چھاپہ اسلامیہ للعہ ہفت سورہ۔ مترجم رنگین (۱۲ آر) پنجسورہ۔ مترجم رنگین (۱۲ آر) +

کیا اب بھی آپ کی حسرت باقی رہجائیگی

خفیہ کوک شاستر

شوقین مزاج مہربان عیش پسند حضرات عیش و عشرت کے متوالے۔ امیر رئیس جاگیردار جو کام و مطالب کے چیدہ چیدہ ٹوٹکے حاصل کرنیکی خواہش رکھتے ہیں۔ یا رازداری کی باتیں۔ پرائیویٹ رمز و کنایہ سے واقفیت حاصل کرکے اور اپنی طاقت انسانی کو دوبالا کرکے بڑھاپے تک خوش و خرم اور شادمانی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہوں۔ تو ایک مرتبہ خفیہ کوک شاستر کو ضرور آنکھوں سے دیکھیں۔ ہاں ہاں۔ یہ وہی بیش بہا خفیہ خزانہ ہے جس کا نام ہی نام یار دوستوں سے سنا کرتے تھے مگر کسی سے دستیاب نہ ہوتی تھی۔ اب ہم سے منگا کر اپنی دلی حسرتیں پوری کریں۔ خوبی یہ کہ اس میں چاند کی تاریخوں کا حساب عورتوں مردوں کی ۳۶ رنگین تصویریں بھی دکھا دی گئی ہیں۔ اور تمام سربستہ راز صاف صاف کھول دئے گئے ہیں۔ یہ ایک ایسی نایاب کتاب ہے کہ ہر شخص اپنی جان کے سنبھالکر رکھیگا بس اس سے زیادہ کوئی بات دریافت نہ کریں قیمت مجلد ... +

میری حسرت پوری ہوگئی

نوجوان طالب علم۔ رنڈوے۔ کنوارے عیاش بفضل پست درخواست نہ کریں امیروں۔ رئیسوں۔ جاگیرداروں۔ خاصکر ایسے ناکارہ مریضوں کے لئے جو اپنی بیوی کو ترستے اور حسرت بھری آہیں کھینچتے رہتے ہوں انکے لئے عیش بہار گولیاں واقعی عیش بہار ہیں۔ از سر نو قوت پیدا کرکے جانبیں جان ڈالکر نئی جوانی نئے جوبن کا لطف دکھائینگی۔ چند روزہ استعمال سے آپکو خود بخود معلوم ہو جائیگا کہ پہلے آپ کیا تھے اور اب کیا بنگئے زیادہ تعریف فضول قیمت نمونہ بیس گولیاں للعہ۔ پورا بکس ۶۰ گولیاں ہے روغن تحفہ جوانی۔ اسکی مالش کرنے سے بزدل اور سست سوار ...... اور چست ہوگا قیمت فی شیشی ہے۔ نمونہ عہ +

چلت گولی

یہ ہر وقت ضرور منہ میں رکھنے والی گولی ہے خواہ دودھ یا پانی سے کہیں اسکا اثر زائل نہ ہوگا قیمت فی ڈبیہ عہ

جادو کی گولی

ہر وقت اپنے ہاتھ پر ہتھیلی پہ رکھکر کھیلا کریں بے حد لذت و خوشی حاصل ہوگی قیمت فی ڈبیہ (عہ) +

شوکت خضاب

اگر آپ شوکت جیسے پرشوکت خوبصورت جوان بننا چاہتے ہیں تو شوکت خضاب ہمیشہ اپنے پاس رکھیں۔ یہ سفید عرق ہی خوبی یہ ہے کہ لگاتے ہی لگاتے ایک منٹ میں سفید بالوں کو شوخ سیاہ چمکدار بنا دیتا ہے۔ بڑھاپے کا نام و نشان نہ رہیگا قیمت فی شیشی ایک اونس عہ ۲ اونس ایک روپیہ بارہ آنے +

گنجینہ طبیب حصہ اول

یہ علم طب کی نادر کتاب تقریباً تین سو صفحہ کی خوشخط اردو زبان میں چھپی ہے مصنف کا چالیس سالہ تجربات کا ذخیرہ ہے گویا حکمت کا دریا کوزے میں بند ہے جو کہ بندہ مرتبہ چھپکر چالیس ہزار فروخت ہو چکی ہے اس میں تشریح جسم انسان با تصویر۔ خوبی یہ کہ مردوں۔ عورتوں۔ بچوں کی سر سے پاؤں تک کل بیماریوں کا مفصل بیان انکا علاج مکمل لکھا ہے خصوصاً نوجوان اور ناکارہ مردوں کے لئے ایسے چیدہ چیدہ نسخے لکھے ہیں جو کبھی خطا نہ کریں۔ نبض۔ قارورہ دیکھنے کی پہچان۔ انگریزی۔ ہندی وزنوں کا نقشہ دیا ہے۔ مخزن الادویات۔ یونانی نام۔ ادویات کے نام۔ انگریزی۔ اردو۔ ہندی عربی۔ فارسی زبان میں۔ قوت باہ بڑھانے اور کیمیا کے نسخے۔ دنیا کے عجوبے جوہر اڑانا۔ تیل نکالنا کشتہ جات بنانا۔ کوئی مطلب کی بات باقی نہیں قیمت ایک روپیہ بارہ آنے +

گنجینہ طبیب حصہ دوم

تمام جڑی بوٹیوں کی رنگین تصویریں پھل پھول پتیاں انکے نام اردو۔ ہندی فارسی۔ بنگلی زبانوں میں دیئے ہیں۔ مقام موسم پیدائش شناخت وغیرہ قیمت مجلد ۱۲ آر

گنجینہ طبیب حصہ سوم

یہ کتاب کیا ہے گویا حکمت کا نچوڑ ہے۔ کوئی ضروری بات باقی نہیں چھوڑی۔ قیمت دو روپے چار آنے مجلد +

گنجینہ عطاری

دنیا بھر میں اول کتاب ہے۔ جو آجتک کبھی نہیں چھپی تھی۔ اس میں عرق شربت۔ سکنجبین۔ سرکہ۔ معجون۔ جوارش۔ اطریفل۔ خمیرے۔ ماء اللحم۔ تیزاب۔ نوشادر جوارش۔ دوا المسک بنانے کے نسخے۔ گلقند۔ مربے۔ یاقوتیاں۔ سفوف۔ حلوے۔ گولیاں قرص۔ سفوف۔ انجن۔ پراتی سلائیاں کاجل مرہم وغیرہ کے کئی ہی نسخے لکھے ہیں کوئی بات باقی نہیں چھوڑی۔ قیمت مجلد عہ +

صابون سازی

ہر قسم کے دیسی۔ انگریزی۔ رنگدار۔ خوشبودار خالص۔ بلا ملاوٹ صابون بنانے کے نسخے لکھے ہیں کہ جنکو ہر شخص گھر بیٹھے آسانی سے تیار کر سکتا ہے۔ اگر ایک نسخہ بھی آپکے مطلب کا نکل آیا تو سینکڑوں روپے پیدا کروگے قیمت ۱۲ آر۔ نوٹ۔ ناگری گورمکھی میں بھی موجود ہے قیمت ۱۲ آر

نورانی کتب

تذکرہ اولیائے ہند کامل مجلد للعہ۔ تذکرہ غوثیہ کامل مجلد للعہ۔ تذکرہ مصطفےٰ کامل مجلد عہ۔ اکرام محمدی للعہ۔ قصص انبیا کامل للعہ۔ تصص المحسنین۔ کلاں للعہ۔ داستان امیر حمزہ ۱۲ آر۔ الف لیلہ کامل ۔ میلاد اکبر مشہور کتاب ۱۲ آر نعت محبوب خدا قیمت ۱۰ آر

بیربل ملا دو پیازہ

اکبری دربار کے وزیر بیربل۔ ملا دو پیازہ کی چھیڑ چھاڑ۔ بات چیت کے لطیفے عقل سلیم کو تیز کرنے والے لطیفے قیمت دو آنے +

بابو غلام محمد قادری مومن منزل شہر لودیانہ

نفیس پائدار گھڑیاں خریدنیکا شوق ہو تو گھڑیاں ہم سے خریدیں۔ ہم اپنی گھڑیوں کے ہر طرح ذمہ دار ہیں ناقص یا خراب ہو نے پر بلا اجرت مرمت کر کے دینگے۔ یا فوراً نئی گھڑی تبدیل کر کے دینگے۔

گلفام رسٹ واچ

یہ سچ مچ خوبصورت اور بانکے جوانوں کیلئے ہاتھ پر لگانیوالی تحفہ گھڑی ہے۔ دونوں طرف کنڈے لگے ہوئے ہیں اسکی مضبوطی اور خوبصورتی کو دیکھکر تمام جنٹلمین فوج اور پولیس کے بانکے جوان بڑے شوق سے ہاتھ پر لگاتے ہیں تاکہ خوبصورتی اور سجاوٹ کے علاوہ وقت دیکھنے میں بار بار تکلیف نہ ہو۔ خوبی یہ کہ بہت خوشنما پرزے مشین مضبوط اور وقت بالکل ٹھیک دیتی ہے دیکھنے والے دوست متوالے ہو جاتے ہیں۔ گارنٹی ۱۰ سال قیمت نمبر ۱ بلا سیکنڈ ۹ روپے۔ سیکنڈ کی سوئی والی ۱۰ روپے۔ نمبر ۲۔ چاندی کیس ۱۲ روپے۔ نمبر ۳۔ بجلی والی ۱۴ روپے چاندی کیس ۱۵ روپے

حسن بانو سنہری چوڑیدار۔ کمایندار رسٹ واچ۔ زیور کا زیور۔ گھڑی کی گھڑی قیمت درجہ اول نگینہ دار ۱۲ روپے۔ نمبر ۲ سادہ ۱۰ روپے

ریلوے گارڈ واچ



اسکی زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بالکل ٹھیک وقت دینا ہی اسکا کام ہے یہی وجہ ہے کہ محکمہ ڈاکخانہ تار۔ ریلوے والے اور ٹھیک وقت دیکھنے کے خواہشمند اسکو بہت شوق سے خریدتے ہیں گارنٹی ۱۰ سال قیمت ۷ روپے۔ ریڈیم بجلی والی ۸ روپے

ریلوے ریگولیٹر واچ۔ اسکا وقت بالکل ریل و تار کے مطابق ہوتا ہے اسلئے اسکا نام ریلوے ریگولیٹر واچ ہے۔ گارنٹی ۱۰ سال قیمت ۷ روپے۔ ریڈیم بجلی والی ۸ روپے

خاص ولڈ گولڈ سونیکی آئینہ رسٹ واچ

یہ نہایت خوبصورت فیشن ایبل اعلیٰ درجہ کی رولڈ گولڈ سونیکی رسٹ واچ ہے جو کبھی بدرنگ نہیں ہوتی امیرزادیاں شریف زادیاں اور معزز عہدیدار اسکو شوق سے خریدتے ہیں خوبی یہ کہ ریڈیم بجلی والی ہے گارنٹی ۵ سال قیمت درجہ اول ۱۲ روپے درجہ دوم ۱۰ روپے

تار بابو

اگر آپ چند دنوں میں ۵۰ روپیہ کے تار بابو بننا چاہتے ہیں تو ہماری تار سیکھنے کی ڈائل اور کتاب ٹیلیگراف منگوا کر سیکھیں۔



انجن پیتل کے بیٹ پر انگریزی حروف۔ بی سی ڈی کے مقابل میں تار کی آواز دینے کا نشان درج ہیں۔ نمبر ۱ پلیٹ درمعہ کتاب ۶ روپے نمبر ۲ سادہ ۴ روپے۔ کتاب ٹیلیگراف پیپر قیمت ۲ روپے

ہفت وزرہ رسٹ واچ



یقین کریں کہ تمام رسٹ واچ گھڑیوں میں یہ سرتاج رسٹ واچ ہے۔ اسکے شیشے میں مشین چلتی ہوئی ایسی پر لطف بہار دکھاتی ہے کہ ہر وقت دیکھتے رہنے کو دل چاہتا ہے ایسی خوبصورت ایسی خوشنما ایسی دلفریب کہ دیکھ دیکھکر طبیعت خوش ہوتی ہے۔ خوبی یہ کہ پورے آٹھ دن کے بعد چابی دیجاتی ہے مشین بڑی مضبوط پائیدار اور چال وقت میں ایک منٹ کا فرق نہیں پڑتا۔ خدا کی قسم ہاتھ پر لگانے سے نوابی شان پیدا ہوگی۔ یہی خاص وجہ ہے کہ شریف خاندانی معزز صاحب نازک مزاج لیڈیاں۔ عہدیدار اسکو بہت پسند کرتے ہیں۔ گارنٹی ۵ سال قیمت نمبر ۱ نکل کیس ۱۴ روپے۔ نمبر ۲۔ چاندی ۱۶ روپے۔ نمبر ۳۔ ریڈیم بجلی والی چاندی کی اصلی امیرانہ ۲۰ روپے

ہفت وزرہ پاکٹ واچ

یہ اصلی کارخانہ کی بنی ہوئی جیب میں لگانے والی چھوٹا ناند ہفت روزہ پاکٹ واچ ہے اسکے شیشے میں بھی مشین چلتی ہوئی عجیب پر لطف بہار دکھاتی ہے اور اسمیں وہ سب خوبیاں ہیں جو ہفت روزہ رسٹ واچ پر بیان کیگئی ہیں۔ گارنٹی ۵ سال قیمت نمبر ۱ نکل ۱۴ روپے۔ نمبر ۲۔ چاندی کیس ۱۸ روپے۔ نمبر ۳۔ ڈبل چاندی کیس ۲۰ روپے

باجا بجانیوالا ٹائم پیس

عورتیں اور بچے تو کیا بڑے عقلمند بزرگ اسکی خوبصورتی اور کاریگری کو دیکھکر حیران رہجاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں پندرہ منٹ تک ایسا سریلا مزیدار باجا بجتا ہے کہ دیکھنے والے سننے مست ہو جاتے ہیں۔ خوبی یہ کہ بالکل ٹھیک وقت دیتے ہیں ایک منٹ کا فرق نہیں پڑتا۔ ہر گھر کی سجاوٹ بال بچے والوں کے لئے خوشی سامان۔ گارنٹی ۱۰ سال قیمت ۱۶ روپے۔ محصول ڈاک وغیرہ ایک روپیہ زائد

میرٹھ کی مشہور قینچی



خاص پختہ لوہے کی مضبوط آٹھ دس برس تک اسکی دھار نہیں بگڑتی۔ گھر میں کام کرنیوالی عورتوں درزیوں کے لئے بڑی کارآمد ہے قیمت فی عدد ایک روپیہ آٹھ آنے

جنٹلمین رسٹ واچ

شوقین مزاج جنٹلمین بابو۔ محکمہ اور مشہور کارخانوں کے ملازم جو بالکل ٹھیک وقت پر اپنی ڈیوٹی پر آنا جانا چاہتے ہیں اسکو بہت شوق سے خریدتے ہیں۔ کیونکہ وقت ریل اور تار کے مطابق ہی ہوتا ہے علاوہ ازیں بگڑنے کا نام نہیں لیتی آج ہی منگوا دیں پھر ایسی گھڑی نہ ملیگی۔ گارنٹی ۱۵ سال۔ نمبر ۱ نکل کیس ۱۰ روپے۔ بجلی والی ۱۲ روپے نمبر ۲۔ چاندی کیس بجلی والی ریڈیم بیور چال ۱۵ روپے

جنٹلمین پاکٹ واچ



جیب میں لگانیوالی پاکٹ واچ ہے اس میں بھی وہی خوبیاں ہیں جو جنٹلمین رسٹ واچ میں ہیں نہایت خوبصورت فیشن ایبل گارنٹی ۵ سال قیمت نمبر ۱۔ آٹھ روپے۔ نمبر ۲۔ عمدہ قسم لیور چال بارہ روپے

اصلی اسکوپ سسٹم پیٹنٹ واچ

خبردار دھوکہ نہ کھائیں نقلی۔ اسکوپ تین چار روپے میں بھی بکجاتی ہے مگر جیب میں ۵ منٹ سے زیادہ نہ چلیگی۔ ہماری یہ وہ گھڑی جسکا نام بچہ بچہ جانتا ہے اپنی خوبصورتی مضبوطی اور ٹھیک وقت بتانیمیں ہندوستان سے لیکر انگلستان تک ڈنکا بجا چکی ہے۔ اگر آپ کو عمدہ نگینہ گھڑی لگانیکا شوق ہو تو اسکو ضرور خریدیں۔ گارنٹی دس سال قیمت ۵ روپے۔ ریڈیم بجلی والی چھ روپے آٹھ آنے

سوتوں کو جگانے کیلئے گھنٹی والا ٹائم پیس

ٹھیک ڈیوٹی پر جانیوالوں سکول ماسٹروں طالب علموں۔ کارخانوں کے ملازموں کے لئے یہ نہایت خوبصورت بالکل ٹھیک وقت بتانیوالا الارم دار ٹائم پیس ہے دیر تک زور سے گھنٹی بجتی ہے گارنٹی ۶ سال قیمت درجہ اول ۵ روپے۔ ۴ روپے

خاص امیرانہ پندرہ منٹ گھنٹی بجانیوالا قیمت ۸ روپے۔ بی ٹائم پیس۔ جو اپنی مضبوطی اور ٹھیک وقت بتانے کیلئے دنیا بھر میں مشہور ہے اصلی مارکہ ۵ روپے۔ نقلی مارکہ ۳ روپے

لودیانہ کے مشہور تحفے

سرداری لٹھے کی صافے۔ سنگھ سردار۔ رئیس فوج۔ پولیس کے چوڑے بڑے عہدیدار بہادر جوان بہت شوق سے سر پر باندھتے ہیں۔ چہرہ شیر کی طرح اچھا معلوم دیتا ہے قیمت درجہ اول ۵ روپے۔ درجہ دوم ۴ روپے

جنٹلمین لٹھے کی صافے۔ رنگدار اور داغ سے پاک خوشرنگ۔ فوج پولیس کے بانکے سپاہی اور عام شوقین بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ قیمت درجہ اول ۳ روپے

ریشمی لنگی امیرانہ۔ اگر آپ بہادر پرشوکت اور خوبصورت جوان بننا چاہتے ہیں تو ہماری مشہور ریشمی لنگی کو سر پر باندھکر اپنی جوانی اور جوبن کی بہار دیکھیں طول ۷ گز قیمت ۱۲ روپے۔ عمدہ بنارسی ریشمی مشہدی لنگی طول ۹ گز قیمت ۲۵ روپے

چینی یا ماشی صوفیانی لنگیاں

نوجوان۔ خوبصورت بچے۔ امیرزادے صوفی طبیعت کے بزرگ۔ فوج۔ پولیس کے بانکے جوان خاص طور پر شوق سے سر پر باندھتے ہیں خوبی یہ کہ جسقدر دھلائی پڑتی جاتی ہے عمدہ سے عمدہ نکلتے ہیں طول ۷ گز قیمت ۱۰ روپے۔ ۸ روپے۔ ۶ روپے

لنگی چینی یا ماشی۔ دوپٹے اور پگڑی والی پشاوری وضع

لنگی سوتی چار خانہ۔ ریشمی کنارہ برائے کمرلنگی وضع

لنگی سوتی تمام رنگوں کے۔ کلاہ خلی سجا زرین امیرانہ۔ کلاہ پشاوری وضع قنادیزی زرین

ازار بند خاص ریشمی خسروی اعلیٰ قسم امیرانہ

پرانده جینی جوتی زنانہ ریشمی

تولیہ کا بستر۔ پوستیں بلنکٹ کا پلنگ پوش دیکھنے میں عمدہ ایسا خوبصورت خوشنما کہ پلنگ پر بچھانے سے پلنگ کی شان دوبالا ہو جاتی ہے۔ قیمت پانچ روپے ہاتھ منہ صاف کرنیکا تولیہ

دری غالیچہ پھولدار امیرانہ پلنگ پر بچھانے سے خاص شان پیدا ہوتی ہے فرش پر بچھانے سے دربار معلوم ہوگا طول ۳ گز عرض ۲ گز قیمت

دری پلنگ پوش مضبوط پختہ رنگ

مینیجر کارخانہ لنڈن واچ ایجنسی لودیانہ

جیبی پنکھا۔ چھوٹا سا ڈبیہ میں بند بٹن دبانے سے بجلی کے پنکھے کی طرح فرفر ٹھنڈی ہوا دیتا ہے قیمت پانچ روپے۔ بجلی کا پنکھا قیمت پانچ روپے

محبوب لقمانی انمیں خوبیاں ہیں کہ ایک گولی روزانہ اکیس اکیس روز کھانے سے سیاہ بال پیدا ہونگے عمر بھر تو بال سفید ہونگے نہ نظر کمزور ہوگی۔ قوت باہ بہت پیدا ہوگی۔ ۳۰۰ گولیاں عہ

انگلستان امریکہ میں مردے زندہ ہوتے ہیں

ناظرین۔ کوئی دھوکہ فریب نہیں نہ کوئی اشتہاری چال ہے بلکہ آپکے فائدے کی خاطر سچی بات سچا کام ہے۔ تمام خطوط پوشیدہ رکھے جاتے ہیں اب شرم میں اپنی زندگی مت برباد کرو۔ خوب دیکھو دکھاؤ۔ آزماؤ۔ ڈاکٹروں حکیموں سے تصدیق کراؤ۔ ہاں ہاں یاد رہیں کہ یہ وہ مشہور لاجواب الیکٹرک ٹانک یعنی بجلی کی طاقت کی گولیاں ہیں کہ جرمن۔ فرانس۔ انگلینڈ۔ امریکہ وغیرہ میں اپنی زود اثر اور زیادہ تر ہونیکے باعث ایسی شہرت اور نام پیدا کیا ہے کہ جنکی بدولت آج وہاں کوئی ناکارہ اور نامرد نظر نہیں آتا ہندوستان پنجاب میں تقریباً ۔ نوٹیس دھیم مچادی ہے کہ بجلی کی طاقت کی گولیوں کو جن مریضوں نے آزمایا بس جانیں جان پڑ گئی۔ سچ مانیں بلکہ یقین کریں کہ بجلی کی گولیاں پہلے تین دن نہیں قبض۔ معدہ کی خرابی کو دور کرکے بھوک بڑھاتی ہیں۔ خراب خونکو صاف کرکے تازہ خون پیدا کرتی ہیں۔ خونکے ہر قطرہ میں۔ بال بال زیر جسم کی رگ رگ میں بجلی کی ایسی طاقت بھرتی ہیں کہ بالکل گیا گذرا مایوس اور ناکارہ مریض چند روز کے استعمال سے اپنے آپکو اپنی جوانی اور جوبن کو دیکھکر مسکراتا اور مٹکا بکارہتا ہے۔ سستی۔ کمزوری۔ نامردی۔ جریان۔ احتلام سرعت۔ سر درد۔ کمر درد کے بدقسمت اور مایوس مریض جو تھوڑے کام کرنے میں تھک جاتے ہیں جسم کا پسینے لگ جاتا ہو۔ سانس پھولجاتا ہو اور دل میں دھڑکن پیدا ہو جاتی ہو تو ایسے مریض میدان میں آکر الیکٹرک ٹانک یعنی بجلی کی طاقت کی گولیوں کا استعمال کرکے قوت مردانگی حاصل کرکے قدرت خدا کا تماشہ دیکھیں۔ اپنی تمام پوشیدہ شکایات جنکے بتانے اور کہنے میں آپ شرماتے ہیں سب دور ہوکر کمزور جسم فولاد مثل لوہے کی لاٹھ بنجائیگا۔ قیمت ۵۰ عدد گولیاں بند شیشی دو روپے بارہ آنے۔ نمونہ ۲۵ عدد گولیاں ایک روپیہ آٹھ آنے +

کام وری گولیاں } یہ ایک گولی خاص ضرورت کے وقت استعمال کیجاتی ہیں۔ یہاں زیادہ لکھنا فضول ہے قیمت فی درجن عہ +

طلائی نادری اسکی تعریف میں یہاں ایک لفظ لکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ جو بدقسمت اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کر چکے ہوں۔ کثرت عیاشی نا تجربہ کاری کی بیہودہ غلطیوں کے باعث اگر عضو مخصوص میں نقص پڑ گئے ہوں تو طلا نادری کے استعمال سے سب شکایات دور ہوکر نادر شاہی طاقت پیدا ہوگی قیمت فی شیشی نصف تولہ لکھو نمونہ عہ +

مہاراجہ خضاب رجسٹرڈ نمبر ۴۴

مہاراجہ خضاب میں سب سے بڑی خوبیاں یہ ہیں کہ رجسٹری شدہ اور صرف ایک شیشی کا عرق ہے لگانے میں بہت آسان۔ لگانے ہی دو منٹ میں سفید بال بھورے سے جیسے شوخ سیاہ چمکدار ہو جاتے ہیں نہ لگانے میں دردسری کرنی پڑتی ہے نہ پٹی باندھنے کی ضرورت نہ کئی گھنٹے کالے کرنے پڑتے ہیں ادھر لگاؤ ادھر کام میں لگجاؤ۔ بڑھاپے میں جوانی کی بہار۔ برش ہمراہ ہوگا قیمت ایک اونس ۱۲ آنے دو اونس ایک روپیہ بارہ آنے +

سرمہ نورانی } جو آنکھوں میں نور پیدا کریگا۔ دکھ کو سکھ اور بے نور کو نور بخشتا ہے جنکی نظر کمزور یا آنکھ کم نظر آتا ہو آنکھوں میں دھند۔ جالا۔ غبار ہو۔ سرخی چشم۔ یا پانی بہتا ہو انکے لیے حقیقی رحمت ہے تھوڑا عرصہ متواتر لگاتے رہنے سے پہلے کی نسبت دوگنی تین گنی نظر بڑھ جائیگی۔ یا پھر روپیہ تولہ کو بھی ایسا قیمتی سرمہ نہ ملیگا۔ قیمت فی تولہ عہ +

سرمہ پھولا چشم۔ خاصکر پھولا چشم کو دور کرنے میں اکسیر ہے۔ بشرطیکہ چیچک کا نہ ہو قیمت فی شیشی تولہ دو روپے آٹھ آنے

کالا کاجل۔ بچوں عورتوں کے لئے خصوصاً بچوں کے لیے بیحد مفید۔ قیمت ایک روپیہ چار آنے +

صفائی کا واٹر نمبر ۱ } اگر آپکو نوبت ہو یہ کسی قسم پوشیدہ مقام پر تمام عمر بال پیدا نہ ہوں تو ہمیشہ صفائی کا واٹر نمبر ۱ ضرور طلب کریں۔ ایک دو چار مرتبہ لگانے سے آئندہ عمر بھر قطعی بال پیدا نہ ہونگے یہ خوبی ہے کہ لگانے میں دردسری کرنی پڑتی ہے نہ کوئی تکلیف یا جلن۔ داغ دھبہ پیدا ہوتا ہے۔ عورتوں کے لئے خوبصورت تحفہ ہے قیمت فی شیشی تین روپے +

مہاراجہ بال صفا صابن صابن کی طرح پانی لگانے سے ۵ منٹ میں بال صاف اڑ جاتے ہیں۔ خوبی یہ کہ جلد نرم ملائم رہتی ہے قیمت فی بکس تین ٹکیہ عہ +

بال صفا پوڈر } یہ بہت آسان ہوتا ہے اس لئے شریف گھرانوں میں شوق سے استعمال کیا جاتا ہے۔ قیمت فی بکس ایک روپیہ چار آنے +

بال اڑانیکا تیل } یہ تو بہت ہی آسان ہے لگاتے ہی دو منٹ میں میدان صفا چٹ قیمت فی شیشی کلاں ایک روپیہ +

کھانسی کی گولیاں } کھانسی تر ہو یا خشک۔ نزلہ زکام ہو بلغم آتی ہو حلق میں پھنسیاں ہوگئی ہوں فوراً آرام ہوگا۔ قیمت ۵۰ عدد گولیاں (عہ) +

اکسیر دمہ } کھانستے کھانستے دم چڑھ جاتا ہو۔ طبیعت بے چین ہو جاتی ہو انکے لئے دمہ کی اکسیر گولیاں ہیں قیمت تین روپے چار آنے

بخار کی گولیاں } نامراد بخار کو دور کرنے میں اکسیر گولیاں ہیں قیمت ۲۵ عدد گولیاں عہ
قبض کشا گولیاں ۵۰ عدد عہ +
جلاب کی گولیاں ۲۵ عدد عہ +

نسوار لقمانی } سر درد یا آدھے سر کا درد۔ نزلہ زکام نہ ہونے میں دیر ہوگا۔ روزانہ یا باری کا بخار ہچکی۔ مرگی۔ آنکھ درد۔ بہرہ پن۔ فالج لقوہ وغیرہ کیلئے بھی بیحد مفید ہے قیمت عہ +

منجن دندان } دانت۔ داڑھ ہلتے ہوں۔ درد ہوتی ہو۔ کرم خوردہ۔ پائیوریا۔ مسوڑھوں سے خون منہ سے بدبو۔ بدبودار پانی نکلتا ہو بہار دندان تمام شکایات کو دور کرکے دانت موتی کی طرح چمکدار بنا دیگا قیمت فی بکس عہ +

عشرت } بن عورتوں کے پستان ڈھیلے پڑ گئے یا لٹکنے لگے ہوں ... سے بحیثیت قدرتی سخت ہو جائینگے قیمت فی بکس تین روپیہ +

بہرہ پن کا تیل } بہرہ پن کتنا ہی پرانا ہو ... شائیں شائیں اور بہرہ پن فوراً دور ہوگا فی شیشی عہ

حسن افزا ابٹن } جس عورت مرد کو ایکبار یہ لگا دیا وہ اسپر فریفتہ ہو جائینگے۔ نہایت خوشبودار ہے۔ چہرے کے سیاہ داغ۔ جھریاں۔ چھائیاں سیاہی بدصورتی کیل۔ مہاسے سب دور ہوکر چہرہ گلاب کے پھول کی مانند خوبصورت نکل آتا ہے قیمت فی بکس دو روپے آٹھ آنے +

حسن کشمیر } جس عورت کو دیکھو شیدا ہو جائیگی یہ مکھن کی طرح ملائم خوشبودار شاہی فیس کریم ہے امیر زادیاں شریف زادیاں شاہی بیگمات اسکو چہرہ پر لگا کر اپنے حسن جمال کو چار چاند لگاتی ہیں چہرہ کی سیاہی بدصورتی جھریاں چھائیاں دور ہوکر چہرہ سیب کی مانند سرخ نکل آتا ہے قیمت فی شیشی تین روپے آٹھ آنے +

لیڈی سوپ } جنتا میں معزز اصحاب نازک مزاج لیڈیوں۔ امیر زادیوں شریف زادیوں کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے کے لئے یہ خاص طور پر امیرانہ اور پاکیزہ صابون ہے فی بکس آٹھ آنے

رانی ہیر آئل } واہ واہ کیا ہی مست اور عطر ہے تیل ہے نہیں ... امیر زادیوں شریف زادیوں کیلئے مخصوص بال پیدا کرتا اور گھنگریالے بناتا ہے۔ ... قیمت فی شیشی تین اونس ایک روپیہ آٹھ آنے

خوبصورتی کا صابن } نہایت خوشبودار تمام خاص کیلئے مفید کارآمد۔ قیمت فی بکس ۳ ٹکیہ عہ +

اٹو گل چمن } ایک یا دو قطرے رومال یا کپڑے پر لگا کر پھر ایسی بھینی بھینی ایسی مست خوشبو آتی ہے گویا چمن ہے نظیر کے مزے لے رہی ہو فی شیشی عہ +

تیل سوہنی موہنی } جنتا میں شوقین مزاج نازک عورتیں بڑے شوق سے بالوں پر لگاتی ہیں قیمت فی شیشی دو اونس عہ +

گنج دور کرنیکا تیل } سر میں یا جس جگہ بال پیدا نہ ہوتے ہوں اسکو لگاتے رہنے سے بال سر پر پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ قیمت فی شیشی ایک روپیہ چار آنے +

اصلی نیم کا صابن } پھوڑا پھنسی خارش کو فوراً دور کرتا ہے قیمت فی بکس ۳ ٹکیہ عہ +

بواسیر کی گولیاں } بواسیر خونی ہو یا بادی خون آتا ہو۔ درد اور کھجلی سے طبیعت پریشان رہتی ہو تو ہماری بواسیر کی اکسیر گولیوں سے بواسیر کا نام و نشان نہ رہیگا۔ ۲۱ گولیاں عہ
مرہم بواسیر۔ مسوں پر لگاتے ہی فوراً ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ قیمت ایک روپیہ چار آنے +
جوگی مرہم۔ داد۔ چنبل۔ پھوڑا پھنسی کو دور کرنے میں اکسیر ہے۔ قیمت فی شیشی عہ +

اکسیر سوزاک } سوزاک خواہ کتنا ہی پرانا ہو زخم پڑ گیا ہو خون پیپ آتا ہو پیشاب رک رک کر درد تکلیف اور جلن سے آتا ہو تو فوراً اکسیر سوزاک استعمال کریں ۳ دن میں آرام اور ہفتہ میں نام و نشان نہ رہیگا قیمت عہ

رام چورن } پیٹ درد۔ بد ہضمی۔ ترش ڈکار آنا۔ دائمی قبض سب دور ہوکر منوں کھایا پیا ہضم ہو جائیگا اور دودھ جس قدر دل چاہے پی جاؤ۔ قیمت فی شیشی دو اونس آٹھ آنے +
ہاضمہ کی میٹھی گولیاں۔ ۱۰۰ گولی عہ +

اسنہری جیون گولیاں } خون حیض خواہ کتنا ہی درد تکلیف یا بے قاعدگی سے آتا ہو۔ ان گولیوں کے استعمال سے خون حیض وقت بلا تکلیف آئیگا قیمت ۲۱ عدد گولیاں عہ +

جیون سپاری پاک } پرسوت۔ جریان۔ رحم بہنے عورتوں کو سفید بد طوبت جاری رہنے کی نامراد مرض فوراً دور ہوکر تندرستی ہوگی۔ فی بکس عہ

منیجر دفتر مہاراجہ خضاب رجسٹرڈ ۴۴ لدھیانہ

جوبن بوٹی یہ میٹھی دوائی ہے اسکے استعمال سے کمزور دبلے پتلے بیمار بچے تندرست خوبصورت موٹے تازے ہونگے۔ قیمت فی بکس ... مفید ہے قیمت عہ +

سستا روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار | ارزان بعلت گران بحکمت

بہار جوانی

ایجنٹ صاحبان کو واضح ہو کہ
نمونۃً ہماری ادویات کو ایک دفعہ منگوا کر تجربہ کریں - اور خلق خدا کو فائدہ پہنچائیں - دوائی خالص اور عمدہ روانہ کی جاویگی

پچاس روپیہ انعام
ہماری دوائی بہار جوانی، میں سے اگر کوئی شخص ایک جزو دوائی کی بھی کم ثابت کرے تو اسکو پچاس روپیہ انعام دیا جاویگا

ہر چہ ترکیب ہر ایک بیماری کا استعمال علیحدہ علیحدہ ہوگا

لیجئے صاحبان - ہم نے آپ کی خاطر اس سال ایک نہایت عجیب جادو اثر مجرب المجرب دوائی معجون بہار جوانی تیار کی ہے - جو بچوں - بوڑھوں - جوانوں - و کمزور لڑکیوں اور عورتوں کے لئے ہر ایک قسم کی بیماریوں کو یکساں فائدہ دیتی ہے - جن میں چند ایک کے نام درج ذیل کرتے ہیں - مثلاً طاقت مردمی کو از حد پیدا کرتی ہے - دل و دماغ و روح کو تر و تازہ و خوش رکھتی ہے - سستی و کمزوری کو دور کرتی ہے - جریان نیا ہو یا پورانا جڑھ سے اکھیڑ کر پھینک دیتی ہے - جو لوگ سوتے سوتے خواب میں ناپاک ہو جاتے ہیں انکو از حد فائدہ دیتی ہے - کلرک یا طالب علم یا دہ لوگ جن کے دماغ اور نظر کا کام کرنے کرتے کمزور ہو گئے ہوں اور سر چکراتا ہو اور کسی کام کے کرنے کو دل نہ چاہے اور تھوڑا سا کام کرکے بدن تھک جاوے انکے واسطے یہ اکسیر اعظم ہے - جن لوگوں کے کمزوری کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کانپتے ہوں - انکے واسطے بہار جوانی سے بڑھ کر کوئی مفید دوائی نہیں ہے - جن لوگوں کا خون کسی خرابی کی وجہ سے خراب ہو گیا ہو اور پھوڑے پھنسیاں اور خارش ہوتی ہو - اسکو استعمال کرنے سے خون صالح پیدا ہو کر اور چہرے کا رنگ کندن کی طرح سرخ اور گورا نکل آتا ہے اور پھوڑے پھنسیاں دور ہو جاتے ہیں - انتڑیوں کی تمام بیماریوں کو دور کرتی ہے - وہ لوگ جو اپنی نا کردنی حرکات سے کمزور ہو کر ہمیشہ کے لئے اپنی زندگی کے لطف سے اور اولاد پیدا کرنے سے زندہ درگور ہو گئے ہوں انکے واسطے خصوصاً عجیب تحفہ ہے - وہ لوگ اس کے استعمال سے مراد ہو کر از سر نو بہار جوانی کے مزے لوٹنے لگتے ہیں - غرض کھانے والے کے بدن میں کوئی نقص نہیں رہتا - بدن مثل لوہے کی لاٹھ کے مضبوط ہو جاتا ہے - اگر پورے پورے فوائد اسکے لکھے جائیں تو ایک دفتر درکار ہے - آپ کو ضرورت ہو تو اسکے تمام فوائد حکمت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں - ہم نے ان صاحبان کی خاطر یہ دوائی تیار کی ہے جو دور دراز رہتے ہیں اور کل دوائی انکو دستیاب نہیں ہو سکتی - اس کو منگوائیں اور فائدہ اٹھائیں - اگر اب بھی آپ بیمار رہیں - تو اس میں حکیم حاذق کا کیا قصور + یہ دوائی ہر موسم میں استعمال کی جاتی ہے - خصوصاً موسم سرما کے لئے تو عجیب تحفہ ہے + بعض صاحبان اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ دوائی میں کیا کیا اجزا ڈالے گئے ہیں - اسلئے ہم اصل نسخہ ذیل میں درج کرتے ہیں - اور ہم انکو ایمانا یقین دلاتے ہیں کہ ہم کوئی کسی دوا میں خلاف مذہب دوائی استعمال نہیں کرتے - ہمارے تمام نسخہ جات ملازم عموماً ہندو صاحبان اپنے ہاتھ سے تیار کرتے ہیں - اور وہ ہی باہر روانہ کرتے ہیں - آپ تسلی رکھیں - اور اب ذرا غور سے نسخہ ملاحظہ فرمائیں :-

نسخہ :- موصلی سفید - موصلی سیاہ - موصلی سنبھل - بہمن سرخ - بہمن سفید - تودری زرد - تودری سرخ - ستاور - تخم گندنا - تخم گزر - تخم پیاز - تخم شلغم - اندر جو - ثعلب مصری - شقاقل - مغز پستہ - مغز فندق - مغز چلغوزہ - مغز اخروٹ - مغز تمر ہندی - مغز بادام - مغز نارجیل - مغز پنبہ دانہ - مغز خربوزہ - مغز چار مغز - کدو - گوند کیکر - تالمکھانہ - بہیدانہ - تخم سرس - موچرس - سنگھاڑا - کمرکس - گوند ڈھاک - لاک مغسول - گوکھرو - کباب چینی - آرد ماش - سمندر سوکھ - تخم کاہو - تخم خرفہ - زیرہ سفید - خشخاش - مصطگی - بزرالبنج - تخم کرفس - افیمون - نشاستہ - رب السوس - گل ارمنی - بہی دانہ - طباشیر - دار چینی - زعفران - ابریشم مقرض - صندل سفید - آملہ مقشر - عود ہندی - کشنیز - سنبل الطیب - گلسرخ - کہربا - گل گاؤزبان - الائچی خورد - زرنباد - تخم ریحان - الائچی کلاں - تخم کاسنی - تخم بالنگو - تخم پودینہ - اسگند ناگوری - عاقرقرحا - فلفل سیاہ - فلفل دراز - حب السمنہ - حب الخضرا - مصری - کستوری - مروارید ناسفتہ - عسل مصفا + قیمت - اصل لاگت - ۶ چھٹانک - پانچ روپیہ علاوہ محصول ڈاک -

اکسیر سوزاک یا قرحہ

خواہ کتنی مدت کا زخم احلیل یا مثانہ میں بیٹھ گیا ہو - یا قرحہ ہو گیا ہو یا پیپ آتی ہو - پیشاب رک رک کر آتا ہو یا پیشاب کی حاجت ہو اور پیشاب آتا ہو اور مارے درد کے جان نکل رہی ہو یہ دوائی سوزاک جڑھ سے کھوتی ہے - قیمت تین روپیہ ہے

اکسیر جریان

جریان ایسی نامراد مرض ہے کہ جس سے انسان دن بدن دبلا پتلا اور کمزور ہوتا جاتا ہے اور طبیعت بے چین رہتی ہے پیشاب بار بار آتا ہے اور اسکے ساتھ آگے یا پیچھے سفید رطوبت بہتی ہے اور دل کسی کام کو نہیں چاہتا - غرضیکہ بہت بری مرض ہے - قیمت دو روپیہ

طلائے خاص

بچپن کی غلط کاریوں اور اپنی ناکردنی حرکات سے اپنے ہاتھوں اپنا ستیاناس کرکے بالکل ناامید ہو گئے ہوں - سستی وغیرہ وغیرہ ان تمام نقائص کو دور کرنے میں لاثانی ثابت ہوا ہے - اور چند دن کے استعمال سے تمام نقص دور ہو جاتے ہیں - قیمت فی شیشی ...

افیون چھوڑنے کی گولیاں

قیمت ...

جو لوگ حد سے زیادہ بڑھ کر افیون کھانے کے عادی ہو گئے ہیں - اب ہماری تیار کردہ دوائی کو منگوا کر استعمال کریں - یہ دوائی افیون کو یقیناً چھوڑا دیگی - بے فائدہ ثابت ہونے سے دھڑا دھڑ بک رہی ہیں - افیون کا وزن ضرور تحریر کریں

خوشبودار منجن

دانت ہلتے ہوں دانتوں کو کیڑا لگ گیا ہو - منہ سے بدبو آتی ہو - اور دانت درد کرتے ہوں - انکے لئے مفید منجن ہے جلد منگوائیں - قیمت ...

ناسخورہ دہن

اس بیماری میں دانتوں سے ہر وقت خون بہتا رہتا ہے اور دانتوں کے نیچے کا گوشت سڑ جاتا ہے اور منہ سے بدبو آتی رہتی ہے - ہماری دوائی کو منگوائیں - قیمت ...

نوٹ ہماری جس دوائی سے جس صاحب کو فائدہ نہ ہو وہ ہم کو اسکی کیفیت صاف صاف تحریر کرے - تاکہ پھر سوچا جاوے - اور پھر مناسب دوا ارسال کی جاوے - بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے - کہ مریض صاحبان بیماری کے خلاف دوائی طلب کر لیتے ہیں اور فائدہ نہ ہونے پر اپنے گھر بیٹھے حکیم پر بدظن ہو جاتے ہیں - اور دھوکے کا حکم لگا لیتے ہیں یہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے حکیم کو پھر دوبارہ سہ بارہ لکھنا چاہئے تاکہ اسکو معلوم ہو حکیم اتنی طاقت رکھتا ہے کہ گھر بیٹھے سینکڑوں کوس پر مریض کا علاج بذریعہ خط و کتابت کر سکتا ہے بشرطیکہ مریض اپنی بیماری کی اچھی طرح تشخیص کروا کر لکھے تشخیص پر صحت کا دارومدار ہے - ہم نے اسقدر اسلئے لکھا ہے کہ یونانی حکمت بدنام ہو رہی ہے اور آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دوائی فائدہ نہیں کرتی - ہم کہتے ہیں کہ آپ دل کھول کر دوائی پر پیسے نہیں خرچتے تو اتنی قیمت میں نسخہ مکمل بنایا ہو سکتا ہے - اور نہ آپکو فائدہ ہوتا ہے - اسواسطے ہم نے اپنے فائدہ کو بالائے طاق رکھ کر محض آپ لوگوں کی خاطر بیڑا اٹھایا ہے کہ آپکو جہاں تک ممکن ہو عمدہ دوا پہنچ سکیں - جانبا - ہماری تسلی نہ ہوگی - آپکو ہرگز ہرگز دوا نہ بھیجی جاویگی - ہم آپکے پیسوں کو فضول ضائع کرانا نہیں چاہتے کیونکہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے - پھر یہ دھوکہ کس لئے

ملنے کا پتہ - حکیم محمد فاضل فرسٹنی سند یافتہ حکیم حاذق - موتی بازار - لاہور

(محصول ڈاک ہر ایک دوائی کا بذمہ خریدار)

(نوٹ) پانچ روپیہ کی کتب منگوانے پر ایک ناول قیمتی رومال مفت انعام ملیگا۔ قیمت پیشگی آنے پر محصول ڈاک معاف۔

سب سے بڑا مکمل ایک سو رنگین تصویر والا

شہنشاہی کوک شاستر

۳۲۰ صفحہ

یہ کوک شاستر سولہ سالہ لگاتار محنت کرنے کے بعد تیار ہوا ہے۔ اس نے تمام کوک شاستروں کو مات کر دیا ہے۔ اصل کی تصاویر اس قدر عمدہ و دلکش اور سبق آموز و مفید مطلب ہیں۔ کہ ہر مرد و عورت۔ بوڑھا۔ جوان۔ دیکھ کر خوشی و راحت حاصل کر کے اپنی مطلب براری کر سکتا ہے۔ اس کی خوبیوں کو بیان کرنے کے بجائے ہم یہ عرض کر دینا ضروری خیال کرتے ہیں۔ کہ اگر آپ نے اس سے پہلے کوئی دیگر کوک شاستر پڑھا ہو۔ تو اس کا ایک بار ضروری مطالعہ فرما دیں۔ باوجود ان تمام صفات کے اس کی قیمت کچھ بھی نہیں۔ یعنی صرف ایک روپیہ تیرہ آنہ (۱۳؍) مع محصولڈاک رکھی ہے۔ (۲؍)

سراغرسانی کے زبردست ناولوں وصنعت وحرفت کے ذخیرہ کا جاتی

ہندو دھرم کے تاج سری گورو گوبند سنگھ جی — قیمت ۱۲؍

اعلان

شبہ دان امند مکمل — قیمت ۱۲؍

اگر آپ گھر بیٹھے حکیم۔ ڈاکٹر۔ وید۔ ہومیوپیتھسٹ۔ کیمونیر۔ بایو کیمسٹ بننا چاہتے ہیں تو مندرجہ ذیل کتب منگوا کر پڑھیں

نام کتاب	قیمت
بایو کیمسٹری ۱۲ اکسیریں سے تمام امراض کو دور کرنیوالی ایک کتاب	۱۲
انند ساگر مجلد	۶؍
مخزن اکسیر طبیہ	۸؍
کامل فقیر	۱۲؍
کامل طلسم یا دید	۱۲؍
دار الشفا	۱۲؍
گنج حکمت	۸؍
حکیم حاذق	۲؍
بوٹی پرکاش	۱۲؍
جراحی پرکاش	۱۲؍
مکمل ہومیوپیتھک	۸؍
قرابادین ویدک	۱۲؍
طب متعلقہ علالت	۸؍
رسالہ بواسیر	۴؍
علاج پانی	۴؍
رسالہ سل دق	۴؍
آئینہ امراض	۲؍
انگریزی دوائی سازی	۱۰؍
مخزن حکمت مکمل	۶؍
جیبی ڈاکٹر	۱۰؍
گنجینہ طب مکمل	۸؍
ڈاکٹر حصہ اول	۱۲؍
۔۔ حصہ دوم	۱۲؍
تریاق اعظم	۴؍
تحفہ لقمان	۸؍
مجربات لقمان	۸؍
سدا جوانی	۲؍
لغات طبی	۱۲؍
آئینہ قوت باہ	۲؍
رسالہ معجون گلقند	۱۰؍
تریاق مجلوق	۱۲؍
مجربات طبی	۸؍
رسالہ دندان سازی	۸؍
علاج المستورات	۲؍
علم کیمیا	۱۰؍
علم کیمیا ویدک	۱۰؍
علاج چشم مکمل	۲؍
بہ قسم کے عرق شربت	۴؍
علاج بے دوا	۸؍
علاج بالا ڈاکٹر	۱۰؍
۱۲ اکسیر کی مکمل کتاب	۱۲؍
تدبیر کامل	۸؍
رہبر زندگانی	۲؍
کلید المقامات طبی	۸؍
رسالہ سخت انزال	۱۲؍
رسالہ سوزاک	۸؍
فاور زہر	۴؍
حبیب الحیوانات	۱۴؍
محبوب اسپال	۸؍
علاج اسپال	۸؍
حفظ صحت حیوانات	۸؍
چارٹ فارماکوپیا	۲؍
علاج پانی حصہ دوم	۴؍

اگر آپ گھر بیٹھے کروڑپتی بننا چاہتے ہیں تو آپ مندرجہ ذیل کتب میں سے جو چاہیں منگوا کر پڑھیں

کتاب	قیمت	کتاب	قیمت	کتاب	قیمت	کتاب	قیمت
پانچ سو بیوپار مکمل	۸؍	رنگریز مکمل	۸؍	باورچی	۸؍	گلٹ سازی	۵؍
سونے کا بیڑا	۱۴؍	بیکری کنفکشنری	۶؍	مکمل فوٹوگرافی	۸؍	ہند کا جرنیل	۸؍
مجربات پیرس	۵؍	نانبائی	۶؍	اتالیق فوٹوگرافی	۱۲؍	فن گھڑی سازی	۱۲؍
شیشہ گری	۱۲؍	حلوائی گری	۸؍	مکمل صابون سازی	۱۲؍	ربڑ سٹیمپ میکر	۶؍
عطر سازی	۱۴؍	رسوبیا	۸؍	کیمیائے برقی	۶؍	بھارت انتی مجلد	۶؍

بہادر مرد میدان

اس میں بہادر نیسی کی زندگی کے تمام حالات اور جنگ جرمنی۔ قیصر۔ فرانس کی اشغال۔ چالیں۔ نپولین کو قید کرنا۔ جنگ — قیمت ۶؍

فاتح نیگال

اس میں معقول اور نیچھالوں کے جنگ۔ نیگال کے ہتھیاروں کی پولیٹیکل چالیں وغیرہ وغیرہ درج ہیں یہ کتاب مردہ دلوں کو زندہ کرنے میں اکسیر ہے۔ قیمت ۸؍

جادوگر

اس میں ایک بکس پنچے کی تکالیف سرخ بالوں والی عورت کے فریب۔ اس کی مقناطیسی اور جادو بھری آنکھیں۔ مسمریزم کے شعبدے۔ مسمریزم کے ذریعہ راز دل کا انکشاف وغیرہ وغیرہ درج ہیں۔ قیمت صرف ۸؍

غدار کنیز

ایک نہایت ہی دلچسپ ناول ہے جس میں حسن وعشق کے جذبات کے علاوہ فراق و وصال کے سچے واقعات وغیرہ وغیرہ درج ہیں۔ قیمت درد ہے ۶؍

سیواجی مرہٹہ

ہندو دھرم کی لاج عزت رکھنے والے بہادر سیواجی مرہٹہ کے مکمل حالات درج ہیں ایک بار ضرور پڑھیں۔ آپ کو معلوم ہو جاویگا۔ کہ ایک معمولی انسان کہاں تک نام پیدا کر سکتا ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ ۸؍

انتقام مکمل

ایک آرکٹ انگریز کی خوفناک عیاریوں اور مکار یوروپینوں کا رقت آمیز نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ ۸؍

فسانہ یورپ

اگر آپ گھر بیٹھے ہی لنڈن کی سیر کرنا چاہتے ہیں لنڈن کے پوشیدہ حالات سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ اس کتاب کا ضروری مطالعہ فرما دیں۔ قیمت صرف ایک روپیہ ایک آنہ ۸؍

ڈاکٹر صاحب کے بیس خون

اس عالم کی حیرت انگیز چکردار واردات میں خونی ایک نہیں پورے بیس خون کرتا ہے ساتھ ہی کھلا چیلنج جاسوس سردار کو جاکمار کے نام بھیجتا ہے کہ ایک ہفتہ کے اندر تمہیں بھی جہنم رسید کر دونگا۔ اگر حوصلہ ہو۔ تو پکڑ لو۔ جاسوس اور خونی کی سانپ اور نیولے جیسی لڑائی۔ سراغرسانی کا چکردار معاملہ حیرت انگیز دلچسپ ناول۔ قیمت ۶؍ رعایتی ۸؍

خونی عندونا کا گروہ

چکردار عجیب وغریب ڈیٹکٹو ناول جس کے ہر بیان میں راز ہے۔ قیمت ۸؍ رعایتی ۶؍

طلسمی نازنین

یا

اچھیادھاری کالا سانپ

ایک اچھیادھاری سانپ کی کہانی جو رات کو حسین عورت بن جاتا تھا۔ عجیب ناول۔ قیمت ۴؍

ڈاکوؤں کا گورکھ دھندا

یا نوجوان جاسوس لڑکی

اس میں نوجوان لڑکی کی جاسوسی دکھائی گئی ہے۔ قیمت صرف ۴؍

خوفناک ہوائی سیر

یا

دیووں کا لال شہر

دیووں کا لال شہر کہاں ہے۔ یہ اس میں لکھا گیا ہے۔ قیمت ۸؍

مایا ناول باتصویر

یہ ایک اللہ آبادی پنڈت کے گھر کی چکردار کہانی ہے۔ آپ ضرور پڑھیں۔ قیمت صرف ۸؍

حسین نازنین کے پانچ خون

یا

جادوگرنی کا جال

یہ کتاب بھی ناول کی طرز پر بہت حیرت انگیز ہے۔ قیمت ۸؍

تاج تجارت

آجکل ہر ایک انسان کو ہنر سیکھنے بیوپار کرنے کا شوق ہے۔ یہ کتاب انکو بیوپار کرنے میں مدد دیگی۔ ہندوستان کے تمام خطے ودیگر ممالک کا حال مفصل درج ہے۔ کتاب مجلد در روپیہ ۸؍

شاہی جاسوس

سراغرسانی کا زبردست ناول۔ دلچسپی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ قیمت ۸؍ رعایتی ۱۴؍

سندرپارس

یا

بھیانک بھانڈہ پھوڑ

عجیب وغریب جاسوسی ناول قیمت ۸؍

قتل عشاق ۸؍	دو حور ونکا راز ۲؍	خونی حور قیمت ۸؍	جہنمی حور قیمت ۸؍
ناول دلگداز ۸؍	نظارہ ساگر ۸؍	شعلہ عشق قیمت ۸؍	اسرار لنڈن قیمت ۸؍
جتائے بدر ۸؍	سندر لیلیٰ کا خون ۸؍		

لاش کا چکر

قابل دید ناول قیمت ۴؍

علم جوتش کی بے نظیر کتابیں — تقدیر ہند

اس کتاب میں علم جوتش کے متعلق بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اناج کی تیزی مندی کا دیکھنا۔ جنم کنڈلی بنانا۔ ورش پھل بنانا۔ ہاتھ کی ریکھا کا بیان۔ ہر ایک مہورت بنانا۔ اور آسمان کے حالات دیکھنے کی بے نظیر کتاب ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ ۴؍

کتاب	قیمت	کتاب	قیمت	کتاب	قیمت	کتاب	قیمت
رسالہ علم غیب	۶؍	گنجینہ اختر شناسی	۶؍	مردہ روحوں سے ملاقات	۸؍	کھیل مداریاں نمبر ۲	۴؍
چمتکار جوتش	۸؍	گھر کا جوتش مجلد	۱۲؍	مصر کا جادو	۱۲؍	کھیل مداریاں نمبر ۳	۸؍
ہونی تنتر	۸؍	رسالہ علم سیر نجات	۶؍	مقفل	۶؍	بھوت سدھی گورکھی	۱۴؍
گنجینہ بھنی	۸؍	افریقہ کا جادو	۸؍	چلتا جادو	۸؍	کلید جفر	۱۰؍
بنگال کا جادو	۸؍	کشمیر کا جادو	۱۰؍	کھیل مداریاں	۸؍	القدیر کی تصویر	۱۲؍

ہمارے ہاں سے ہر ایک قسم کے ناول۔ ناٹک۔ ڈرامات۔ کتب حکمت۔ صنعت وحرفت ہر ایک زبان میں بارعایت مل سکتے ہیں۔ قیمت پیشگی روانہ کرنے پر محصولڈاک معاف ہوگا۔

ملنے کا پتہ: رسا دھورام اوستھی اینڈ کمپنی شاہ عالمی گیٹ لاہور

حیرت انگیز اکسیر الاثر مسیحائی ادویات

صاحبان فرمائش اپنا پورا پتہ صاف حروف میں معہ ڈاکخانہ و ضلع کے خوشخط تحریر فرمادیں

ہر ایک مرض کی ادویات منگانے کے وقت مرض کا پورا پورا حال تحریر فرمادیں نہایت خوشخط الفاظ میں ۔

طاقت مردمی کا عجیب بکس

جس میں ایک سو گولی طاقت کی اور ایک شیشی طلاء ہوتی ہے جو کہ نامردی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکدیتی ہے اس بکس کی موجودہ ادویات کے استعمال سے طاقت مردمی کے متعلق تمام خرابیاں دور ہو جاتی ہیں وہ نوجوان جو کہ بیہودہ شرمناک افعال کے باعث قوت متناسلہ سے بالکل ہاتھ دھو چکے ہوں ۔ اور بوجہ شرم اپنی حسرتناک حالت کے اظہار سے مجبور و مایوس علاج سے غافل اور اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ درگور رہنے کا سامان کر چکے ہوں وہ بہت جلد اس طاقت مردمی کے بکس کو طلب کر کے اپنی کھوئی ہوئی طاقت از سر نو بحال کر سکتے ہیں یہ بکس عجیب الاثر بکس ہے جو کہ نامردوں کو مرد اور بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانا اس کا ادنیٰ کرشمہ ہے ۔ کمزوری سستی جریان اور دیگر تمام نقائص کو دور کرتا ہے ۔ قیمت پانچ روپیہ

سوزاک

ہماری تیار کردہ دوائی جو ایک تیر بہدف نسخہ ہے ۔ اس مرض کو بہت جلد دور کر دیتا ہے ۔ خواہ سوزاک نیا ہو یا پرانا ۔ اس کے استعمال سے فوراً دور ہو جاتا ہے ۔ اور علاوہ ازیں تر سنہ کے لئے بھی نہایت مفید ہے ۔ قیمت عگار

بال پیدا کرنیکی دوا

یہ دوا بالوں کو بڑھاتی ہے ۔ اور جہاں بال نکلتے ہی نہ ہوں یہ دوائی وہاں پر بھی بہت جلد بال نکالتی ہے ۔ مفید اور مجرب قابل قدر دوائی ہے ۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ

کیمیائے بدن

یہ وہ بے نظیر پُر تاثیر دوائی ہے ۔ جو حلق سے اترتے ہی صالح خون پیدا کرتی ہے جس سے انسان کا جسم کندن کی طرح ہو جاتا ہے ۔ کمزوری ۔ سستی ۔ لاغری ۔ ناطاقتی دور کر کے قوت مردانگی پیدا کرتی ہے ۔ جسم فربہ اور توانا بناتی ہے ۔ بچپن کی بے اعتدالیوں کو دور کر کے پیران ہشتاد سالہ میں بھی بادہ حیات پیدا کرتی ہے ۔ مقوی معدہ اور قوت باہ کے لئے اکسیر کا حکم رکھتی ہے ۔ اگر آپ ہمیشہ کے لئے تندرستی اور عالم شباب کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ۔ تو فوراً اس کیمیائے بدن کو منگا کر استعمال کیجئے ۔ پرچہ ترکیب ہمراہ جائیگا ۔ قیمت فی شیشی تین روپیہ ۔

دمہ

یہ نامراد مرض بہت ہی سخت ہے مگر ہماری تیار کردہ دوائی سے بہت جلدی دور ہو جاتا ہے ۔ یہ دوائی نہایت ہی مفید ہے ۔ قیمت ۱ ع ۸ ر

مرض جریان

مرض جریان کو سب جانتے ہیں کہ جس انسان کو لگ جاتا ہے اندر ہی اندر گھن کی طرح سے کھانا شروع کر دیتا ہے ۔ اور پھر اس قدر کمزور کر دیتا ہے کہ ہر دست بدن سست ہی رہتا ہے اور کام کرنے کو جی نہیں چاہتا ۔ دماغ اسقدر کمزور ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سی دیر کے بعد بات بھول جاتی ہے اس کا نسخہ جنگل کی جڑی بوٹیوں اور کشتوں سے تیار کیا گیا ہے ۔ اسلئے بدن کی تمام کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں ۔ اور آدمی از سر نو جوان ہو جاتا ہے ۔ قیمت فی شیشی عگار نصف شیشی عہ

منجن

یہ منجن دانت کو صاف اور سفید کرتا ہے ۔ اور دانت کے درد کو و دیگر امراض دانت کو نہایت مفید ہے ۔ قیمت فی ڈبیہ عہ ر

افیون چھڑانیکی گولیاں

یہ گولیاں افیون چھوڑانیکے لئے نہایت مفید ثابت ہو چکی ہیں ۔ جو لوگ حد سے بڑھ کر افیون کھانے کے عادی ہیں ۔ اس دوائی کے استعمال سے ان کی افیون چھوٹ جاتی ہے یہ نہایت ہی مجرب گولیاں ہیں ۔ جو کہ نہایت محنت سے تیار کیگئی ہیں ۔ قیمت عہ

بواسیر

خونی ہو یا بادی بیماری کو دور کرنے میں اکسیر اعظم سے بھی زیادہ مفید ہے ۔ اور ہر قسم کی بواسیر کو بہت جلد دور کرتی ہے ۔ قیمت صرف ۔ عہ

امرت نین

یہ امرت نین سرمہ ہم نے بڑی کوشش اور بہت ہی جانفشانی سے تیار کیا گیا ہے ۔ اور اس میں سچے موتی بھی ڈالے گئے ہیں ۔ جو کہ ہر قسم کے امراض چشم کو از حد مفید اور مجرب ہے ۔ مثلاً جالا ۔ پھولا ۔ گرد و غبار ۔ پڑبال موتیابند ۔ دھندھ ۔ نزلہ ۔ اور گرمی چشم ۔ سرخی چشم ۔ شب کوری وغیرہ کو از حد مفید ہے قیمت فی تولہ ے ر ۶ ماشہ عہ ۳ ماشہ ۱۲

بہرہ پن کی دوا

جو کہ بڑی جانفشانی سے تیار کی گئی ہے ۔ اور تیر بہدف دوا ہے ۔ قیمت صرف ... (عہ)

گولیاں تنابقیہ کے لئے جادو اثر

یہ گولیاں حکمی تاثیر رکھتی ہیں انکی تعریف فضول ہے ۔ اگر زیادہ تشریح کیفیت ہو تو ہم سے دریافت کر فرمائیں

تلی

یہ دوائی تلی کے واسطے نہایت ہی مجرب ثابت ہوئی ہے ۔ ہزارہا آدمی آرام پا چکے ہیں ۔ قیمت فی بکس عہ ر

منیجر کارخانہ حکیم بدری داس مسمریزر لاہور

تقدیر کے عجائب حالات تسخیر بدیا کی تاثیرات عجائبات عالم کی مشاہدات

تقدیر کی تصویر قیمت ۱۰/

شائقینو! یہ وہ قابل دید اور نایاب رسالہ ہے جو شاید بیشتر اس کے آپ کی نظر سے نہ گذرا ہو۔ اگر آپ کو اپنی یا کسی شخص کی رفع تکلیف اور فکر و تشویش کے نامعلوم نتائج کو بذریعہ فال غائب دیکھنے کا شوق ہو۔ تو اس رسالہ تقدیر کی تصویر کو منگا کر ملاحظہ کیجئے۔ جو پردہ غیب سے روزمرہ کے کارآمد سوالات کے نیک و بد نتائج کو فوراً بتلا دیتا ہے۔ اس بے نظیر رسالہ کو ہم نے برائے فائدہ عام ہندوستان کے ایک مشہور (جوتشی) سے ایک ایسی ترتیب اور ڈھنگ سے تیار کرایا ہے۔ کہ جس کے دیکھنے سے ہر ایک شخص خود بخود نیک و بد نتائج کو معلوم کر کے دامن امید سے گوہر مقصود بھر لیتا ہے۔ اور پھر اس کو کسی جوتشی یا رمال غیب دان سے استفسار کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس اسم بامسمی رسالہ میں غیب دانی کا پردہ نہایت خوبصورتی سے اٹھا دیا گیا ہے۔ اور قیمت بھی بہت قلیل ہے یعنی فی جلد دس آنے ۱۰/ معہ محصولڈاک ۱۵/ ❊

شرط۔ اگر پسند نہ ہو تو پہنچتے ہی فوراً دیکھ کر محصولڈاک و دورفت چھوڑ کر اصل قیمت منگا لیں ❊

موہنی تنتر

یعنی تنتر بدیا کا بھنڈار دنیا میں کوئی ایسا بشر نظر نہیں آتا جو عجائبات کا مشتاق نہ ہو۔ بلکہ بعض لوگ اس میں مبتلا ہو کر حصول مدعا کے لئے جنتر۔ تنتر کے بڑے بڑے کٹھن سادھن کرتے ہیں۔ بعض الغرض مجنون جاہلوں کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے **مسانوں۔ قبرستانوں** میں شب بیداری کر کے اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ناکامیابی پر کف افسوس ملتے رہجاتے ہیں۔ ان کی کلارج سدھی کے لئے اہل ہنود کے مہنتوں رشیوں نے تنتر بدیا کو پرگٹ کیا جس کے ذریعہ بغیر کسی تکلیف کے طالب اپنے دلی مقصود کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس گپت بدیا کے گرنتھ فی زمانہ نایاب اور اس کے سربستہ راز سینہ بسینہ چلے آتے ہیں جن کو بڑی محنت اور کوشش سے حاصل کر کے اس رسالہ میں درج کیا گیا۔ اس کے ذریعہ ہر ایک فرد وحشی بھوت یعنی **موہت** اور **دشمن مغلوب** ہو جاتے ہیں۔ بچھڑے ہوئے اور بگڑے ہوئے سدھر جاتے ہیں۔ پس حب و بغض کے شائقینو! کوئی کارج سدھ کرنا چاہتے ہو یا دشمنوں کو زیر و زبر کرنا اور حصول مدعا کے عجائبات دیکھنا چاہتے ہو۔ تو جنتروں منتروں کو بالائے طاق رکھ دو۔ اس رسالہ موہنی تنتر کو جس میں پانچسو عجیب و غریب چٹکلہ درج ہیں منگا کر گوہر مقصود سے دامن امید بھر لو۔ اسمیں وہ بے نظیر پُر تاثیر تنتر درج ہیں۔ جن کی مخفی تاثیر میں خطا نہیں ہوتی۔ صداقت کے لئے ہم شرط کرتے ہیں منگا کر دیکھ لو۔ اگر پسند نہ ہو۔ تو بعد ملاحظہ بواپسی ڈاک فوراً واپس کر کے اصل قیمت اپنی واپس لے لو ❊

قیمت اس دُر نایاب کی معہ محصولڈاک صرف ایک روپیہ تین آنہ (۱؎۳) جلد منگائیے۔ ورنہ ایڈیشن دوم کا انتظار کرنا پڑے گا ❊

جادوگری کے عجائبات

مشہور عالم

بھوتنی انگشتری

علم عجائبات کے شائقینو!! اس جادو اثر معجز نما انگوٹھی کی زیادہ تعریف فضول معلوم ہوتی ہے مگر اس قدر بتلا دینا ضروری ہے کہ اس کے موجد نے روحانی طاقت پر اس کو ایک ایسی نادر ترکیب سے تیار کیا ہے جس سے بذریعہ معمول وہ عجائبات عالم اور روحانی کرشمات معلوم ہوتے ہیں جس کے دیکھنے والے صاحب بے اختیار کہدیتے ہیں۔ کہ اس کی تابع جن۔ بھوت ہیں جو مردہ روحوں کو بلاتے اور پوشیدہ حالات بتلاتے گمشدوں کا پتہ و نشان دکھلاتے مریضوں کی جنات و جمات اور دفعیہ بیماری کی ترکیب سمجھاتے بچھڑے اور بگڑے ہوؤں کو ملانے کی ترکیب بتلاتے اور مہاتماؤں کے دیدار متبرک جگہوں کی زیارت کراتے بلکہ عالم علوی و سفلی کے عجائبات دکھلانے میں معجزہ کا کام دیتے ہیں علم حاضرات کے شائقین آئیں اس بے نظیر پُر تاثیر انگوٹھی سے راز مخفی کا انکشاف کر کے دیکھ لیں۔ اور گوہر مقصود سے دامن امید بھر لیں اس تحفہ نادرہ ہمہ صفت موصوف انگوٹھی کی خوبیوں کے لحاظ سے قیمت کچھ بھی نہیں۔ یعنی صرف معہ محصولڈاک ایک روپیہ ۱؎

پرچہ ترکیب حروف گورمکھی و اردو ہمراہ دیا جائیگا ❊

ملنے کا پتہ:- منیجر کتب خانہ پنڈت بھاگ مل ایشر داس تاجران کتب بازار تلواڑاں شہر راولپنڈی

ہماری بڑی فہرست آدھہ آنہ کا ٹکٹ بھیجکر طلب فرمایئے - اسکے آگے کے ۵ صفحہ بغور پڑھیئے

کل فرمایشین نام سیٹھ شیولال پروپرائٹر بک ڈپو نمبر ۵ ا جھانسی سٹی آنا چاہیئے - اپنا نام و پتہ بخط صاف لکھیئے -

کتاب کیجے دام واپس اس شخص کو دے جائینگے جو کتاب روپیہ بنانے کی مشین یا

ہزار فن مولا

ہزار فن ... سینکڑون ... کیمیا ...

بال عمر بھر نہ پیدا ہونے کا مجرب نسخہ - بال اُڑانیکا اعلیٰ ولایتی صابون بنانا - بال اوڑانیکا عرق و پوڈر بنانا - پانچ منٹ مین بال سیاہ کرنیکا عمدہ خضاب بنانا - ربڑ کی مُہرین بنانا - کھانے پکانے کے متعلق کئیں ہندو مسلمان انگریزون کے کھانے پکانے - اچار مُربہ چٹنیاں تیار کرنا - ربڑکے پریس ور دوسری اشیا بنانا - دیسی انگریزی ہاتھ مُنھ دھونیکے کارنگدار خوشبودار صابون بنانا - موم بتیان اور موم کی دیگر کارآمد اشیا تیار کرنا - بیسیون قسم کی سیاہی تیار کرنا - مثلاً پریس کی - سیاہ لکھنے کی - بلوبلیک - بوٹ کی - سُرخ زرد وغیرہ لکھنے کیواسطے نیز ہر قسم کی وارنش - رنگریزی کا فن - ہر قسم کا کپڑا رنگنا - اون رنگنا - ہر قسم کے خوشبودار عطر - مصالحہ اور خوشبو مین ادر مصالحہ کے تیل تیار کرنا - انگریزی اور دیسی طرق سے لیونڈر بنانا - روح اور جوہر اوڑانا - علم کیمیا گری - نقلی لعل - یاقوت - ہیرا - جواہرات بنانا وغیرہ وغیرہ - غرضکہ ایسی ہزارون ترکیبین درج ہین کہ انسان گھر بیٹھے صرف کسی ایک نسخہ سے مالدار بن سکتا ہے - اب وقت آگیا ہے کہ لوگ مُلازمت چھوڑ کر صنعت مین ترقی کرین - یہ کتاب بھی جادوگری کریگی - اسکو بہت جلد منگاؤ - اور دولتمند بن جاؤ - قیمت فی جلد صرف ایکروپیہ چھ آنہ ۱؎ یہی کتاب بزبان گورمکھی ایکروپیہ بارہ آنہ ۱۲؎ اور بزبان شاستری ایکروپیہ بارہ آنہ ۱۲؎ - محصول ہر ایک کا معاف -

دنیا مین نئی ایجاد یعنی چلتی پھرتی تصویرونکا جیبی سینامیٹوگراف

یون تو آپنے اکثر تماشے بائیسکوپ اور میجک لالٹین وغیرہ کے دیکھے ہونگے - لیکن اس جیبی تماشے کی ایجاد نے دنیا کو حیرت مین ڈال دیا ہے - یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت چوکھٹا ہے اوسکے اندر تصویر کو لے جانے سے تصویر چلتی پھرتی نظر آتی ہے جسکو دیکھکر دل خوش ہوجاتا ہے - آپ ایک عدد منگاکر دل خوش کیجیئے اور اپنے احباب کو بھی دکھایئے - اسکے ہمراہ ۶ عدد تصویرین مفت - قیمت صرف ایکروپیہ آٹھ آنہ ۱؎ محصول معاف

سوانگ تماشے اور شکلین بدلنے کے لیئے ہر قسم کے بال

زنانے بال

یہ وہی بال ہین جنکو لڑکے تھیٹر مین لگاکر عورت معلوم ہوتے لگتے ہین اصل اور نقل مین تمیز نہین ہوتا قیمت

فقیرانہ جٹا

یہ فقیرانہ جٹا بہت نایاب ہے جو سادھو مہاتما کے سوانگ مین کام آتی ہے اصل اور نقل مین تمیز نہین ہوتا قیمت ۶؎

لانبے بال شہزادی کے

یہ بال شہزادی کے سوانگ مین کام آتے ہین اور بہت عمدہ ہین قیمت صرف

ڈاڑھی لانبی

یہ لانبی ڈاڑھی مانند اصلی کے ہے اسکے لگانے سے اصل اور نقل مین تمیز نہین ہوتا - فیدد ایکروپیہ سات آنہ

گول ڈاڑھی

یہ گول وضع کی ڈاڑھی بہت خوبصورت اور لاجواب ہے جو سوانگ تماشے مین بہت کام آتی ہے سیاہ منگایئے خواہ سفید فیدد سوا روپیہ

مردانے سر کے پٹے

یہ مردانے پٹے ڈاکو وغیرہ کے سوانگ مین کام آتے ہین قیمت مع محصول ۱۲؎ بابری یا شہزادے کے سوانگ کے لیئے قیمت

رعب دار گلمچھ

یہ گلمچھ بہت خوشنما اور نایاب ہے قیمت ایکروپیہ چار آنہ

رعب دار لانبی مونچھ

یہ مونچھین بہت لانبی اور بہت شاندار ہین سیاہ یا سفید قیمت فیدد چار آنے

سر کے بال کاٹنے کی مشین

قیمت ... روپیہ

اس مشین سے بڑھکر انگریزی بال دوسری طرح کٹ ہی نہین سکتے - آپ بھی منگوالین کار آمد ہے

ولایتی بر قدم اُسترے

بال کی کھال نکال دو

بر قدم اُسترے بہت اصلی ہین الن سے خط خوب صاف بن جاتا ہے فیدد ... محصول معاف

ملنے کا پتہ - سیٹھ شیولال پروپرائٹر بک ڈپو نمبر ۵ ا جھانسی سٹی

اگر آپ کو مقویات کا شوق ہو تو عجیب طاقت کی دوا کا استعمال کیجیے جو تجربہ کی ہوئی ہے - اسکے آگے کا صفحہ ضرور پڑھیئے

کل فرمائشین بنام سیٹھ شیولال واچ مرچنٹ نمبر ۱۵ جھانسی سٹی آنا چاہئے - اپنا نام و پتہ بخط صاف لکھیئے - محصول ہر گھڑی کا ۷ ہوگا -



وہ دوائی تیار ہوئی جسکی آج تمام دنیا کو سخت ضرورت ہے - دیکھئے

عجیب مشہور طاقت کی دوا

بوڑھوں کی پران

کمزوروں کی جان

قیمت فی ڈبہ دو روپیہ

جاؤ اور فوراً سکھ ساگر اوشدھالیہ شہر جھانسی سے عجیب و غریب طاقت کی دوا منگا کر استعمال کرو - میرا ساتھی بھی تندرست ہو چلا ہے اور مجھے پوری صحت اسی دوا سے حاصل ہوئی ہے - اگر اسوقت اشتہاری دھوکہ سے بچانے والی اصلی کوئی دوائی ہے تو یہی ہے بلکہ

کمزوری - سستی وغیرہ کا شرطیہ علاج ہے

قیمت معہ محصول صرف دو روپیہ ۲؍

ہم آپ کو یقین دلاتے اور ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب طاقت کی دوا دوسرے اشتہاری ادویات کی طرح فرضی نہیں ہے بلکہ اس دوا نے تمام دنیا میں دھوم مچا دی ہے جسکو تندرست آدمی بھی استعمال کرکے زندگی کا لطف اوٹھا سکتا ہے اور خاص کر اُن مریضوں کے لیئے تو آبحیات سے کم نہیں جو اپنی غلط کاریوں سے اپنی زندگی خراب کر چکے ہوں - ہم اونسے ایمانا عرض کرتے ہیں کہ یہ دوا چندہی روز میں کل طاقت از سر نو بحال کر دیگی - گویا خشک درخت میں آبحیات کا پانی پڑ جاویگا - درد کمر - کمزوری - سستی - کاہلی - گھبراہٹ - اولاد سے مایوسی - تنبدیلی - خیالات پراگندہ - جسم میں حرارت - حافظہ ندارد - ہاتھ پیروں میں رعشہ تھوڑی محنت کرنے پر زیادہ تھکاوٹ - چہرہ زرد و بے رونق ہو جانا وغیرہ وغیرہ دور ہو کر جسم میں بیحد قوت و طاقت پیدا ہو جاویگی - پھر لطف یہ کہ کسی قسم کا کشتہ اسمیں نہیں ڈالا گیا ہے بلکہ قیمتی دواؤں اور جڑی بوٹیوں کا مرکب ہے - قیمت فی بکس معہ محصول ڈاک وغیرہ صرف دو روپیہ ۲؍

عجیب طاقت کی دوا بہترین غذائے روح مفرح ملطف مقوی اعصاب اور سرمایۂ شباب ہے جو ہر موسم میں بلا قید مذہب استعمال کی جاتی ہے -

عجیب طاقت کی دوا اعضاء رئیسہ کی طاقتوں اور روح کی قوتوں کو بڑھانے اور مادہ تولید و خون صالح پیدا کرنے میں عجیب قوت بخش ہے -

عجیب طاقت کی دوا چہرہ کو بارونق سرخ و سپید بنانے اور رنگ بدن کو نکھارنے میں انتخاب ہے - عجیب طاقت کی دوا کی مداومت نزلہ سے بالوں کو سفید ہو جانے اور قبل از وقت آثار ضعیفی کے ناگوار حملوں کو روکنے کے لیئے ایک مستحکم آلہ ہے

اگر آپ اس کمیاب اور نادر مرکب کو استعمال کریں تو پھر اسکے بعد کسی مقوی دوا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی - عجیب طاقت کی دوا کو ڑیوں مول فروخت کرنے کا اصلی راز یہی ہے کہ ہمنے بصرف زر کثیر یکمشت بہت وسیع پیمانہ پر یہ مرکب تیار کیا ہے ورنہ علیحدہ ایک بکس پانچ روپیہ کی لاگت سے بھی تیار نہیں ہو سکتا جو ہر موسم میں یکساں مفید ہے قیمت فی بکس صرف دو روپیہ ۲؍

روغن عجوبۃ الدہر یعنی طلاء بے نظیر - اگر خدانخواستہ کسی عضو کے رگ و پٹھہ بیکار و سست پڑ گئے ہوں تو اس طلا کی مالش سے سب نقص دور ہو کر اصلی حالت اور تیزی پیدا کر دیتا ہے چھالہ وغیرہ نہیں پڑتا قیمت معہ محصول ڈاک فی شیشی نمبر اول ۲؍ نمبر دوم ۱؍

حسن افزا - اس مجرب دوا کے چہرہ پر لگانے سے داغ دھبے مہاسے دور ہو کر چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے قیمت معہ محصول ۱؍

پوڈر بال صفا - نازک سے نازک حصہ جسم پر اس پوڈر کے لگانے سے ۵ منٹ میں بال صاف ہو جاتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی قیمت معہ محصول ۱؍

منجن دندان - اس منجن کے استعمال سے گندہ دہنی - ورم مسوڑھا - درد ٹیس دور ہو کر دانت موتی کے مانند ہو جاتے ہیں معہ محصول ۱؍

بواسیر - بواسیر خونی ہو یا بادی اس دوا کے استعمال سے جڑ سے جاتی رہتی ہے بارہا کی مجرب ہے - قیمت معہ محصول ڈاک ۲؍

ملنے کا پتہ - سکھ ساگر اوشدھالیہ بڑی بازار نمبر ۱۱ جھانسی سٹی -

سارٹیفکیٹ - جناب ... کلرک ... تحریر فرماتے ہیں کہ ... طاقت کی دوا منگائی جیسی صفت ویسی خاصیت پائی -

کل فرمایشین بنام سُکھ ساگر اوشد ھالیہ جھانسی سٹی نمبر۱ آنا چاہیے - اپنا نام و پتہ بخط صاف لکھیے - محصول ذمہ خریدار ہوگا -

سُکھ ساگر اوشد ھالیہ شہر جھانسی کی مجرب اور تیر بہدف دوا جس سے صدہا مایوس العلاج اچھے ہو چکے ہین

کھانسی

کھانسی خشک ہو یا تر اس دوا کے استعمال سے بہت جلد جاتی رہتی ہے قیمت معہ محصول ایکروپیہ سات آنہ عہ/

امرت سنجیونی دھارا

یہ ایک ایسی دوا ہے جسکے فوائد بیشمار ہین انسان تجربہ کرکے حیران رہ جاتا ہے اسکے موجود ہونے پر حکیم ڈاکٹر و وید کی ضرورت نہ رہیگی یہ پینے اور لگانے دونو طرح کام آتی ہے - طاعون ہیضہ - نزلہ زکام - درد سر درد دانت - درد ڈاڑھ درد بدن - درد اعضا - اسہال پیچش قبض - بخار وغیرہ اور زہریلے جانور کے کاٹے ہوئے پر فوراً آرام کرتا ہے قیمت فی شیشی معہ محصولڈاک ۵ آنہ

دمہ کی شرطیہ دوا

یہ ایک ایسا تکلیف دہ اور خراب مرض ہے کہ اسکی کیفیت مریض سے پوچھیے کہ وہ اپنی زندگی سے بیزار ہوکر مرنے کو ترجیح دیتا ہے - لہذا اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ مجرب دوا تیار ہوئی ہے اس سے دم کا دورہ فوراً رک جاتا ہے اور چند یوم کے استعمال سے دم کا مرض جڑ سے جاتا رہتا ہے اور پھر نہین ابھرتا قیمت معہ محصول صرف تین روپیہ آٹھ آنہ ۳ للعہ

نمبر۱ اور سچے موتی کا بیمثل سرمہ

یہ سرمہ سچے موتی اور جواہرات سے تیار کیا گیا ہے جسکے استعمال کرنے سے بینائی مین بہت ترقی ہوتی ہے - عینک کی حاجت نہین رہتی - اور کمزور نگاہ سے چند روز مین سوئی مین تاگا پرو لیجیے - آنکھ کے جملہ امراض مین اکسیر ہے - اگر آپ اشتہاری سرمے سے نقصان اوٹھا چکے ہین تو اس سرمہ کا ضرور امتحان کیجیے فی تولہ نمبر۱ سے فی تولہ نمبر۲ عہ محصول معاف

نمک سلیمانی

یہ مشہور و معروف اصلی نمک سلیمانی ہر جو پیٹ کی جملہ بیماریون کو دور کرتا ہے قیمت معہ محصول ڈیڑھ روپیہ عہ/

مونچھ بڑھانیکا تیل

اس روغن کے لگانے سے مونچھین بڑی شاندار اور موافق مرضی ہو جاتی ہین فی شیشی ڈیڑھ روپیہ عہ/ محصول معاف -

برقی فیتہ

اس برقی فیتہ کے گلے مین پہنانے سے بچہ کے دانت باسانی نکل آتے ہین - قیمت معہ محصول ایکروپیہ پندرہ آنہ ۱۵ آنہ

بال بڑھانیکا تیل

اس تیل کے استعمال سے دماغ مین طاقت آتی ہے اور بال خوب بڑھتے ہین لاجواب ہے قیمت معہ محصول ڈیڑھ روپیہ عہ/

کثرت حیض

اس دوا سے حیض کا زیادہ آنا دور ہوکر ٹھیک مقدار سے ہوتا ہے اور خدا کے فضل سے اولاد ہوتی ہے قیمت معہ محصول ۳ روپیہ

احتباس حیض یعنے حیض جاری کرنے کی مجرب دوا

اکثر عورتون کا ماہواری بند ہو جاتا ہے جس سے ہاتھ پیرون مین جلن اور درد کمر - درد دست درد اعضا - حرارت وغیرہ رہتی ہے بلکہ مالیخولیا اور جنون تک نوبت پہونچتی ہے - جسکے خاص طور پر یہ دوا تیار کی ہے جس سے ہمیشہ اپنے اصول کے موافق ہوتا ہے اور جملہ خرابیان دور ہو جاتی ہین اور اولاد پیدا ہوتی ہے - ضرور منگوایئے - قیمت معہ محصولڈاک صرف چار روپیہ للعہ

خضاب لاجواب

ہمیشہ یہی خضاب استعمال کرو

ہندوستان اور دیگر ولایتون مین آجتک بیشمار خضاب ایجاد ہوئے لیکن کوئی خضاب عیب یا ضرر سے خالی نہین پایا گیا - دنیا کے تمام خضابون کے مقابلہ مین یہ ایجاد کردہ خضاب ہر لحاظ سے اپنا آپ ہی نظیر ہے - اسمین چاندی - پارہ - گندھک کاسٹک اور رانگ کا کوئی جز نہین بلکہ بعض مفید ادویہ کا خاص ترکیب سے جوہر نکالا گیا ہے - اسکے لگانے سے تین منٹ مین بال بالکل سیاہ مثل قدرتی رنگ کے ملائم اور چمکدار ہو جاتے ہین - جلد پر دھبہ نہین آتا - نہ سوزش - نہ بدبو - نہ نزلہ پیدا ہوتا ہے - اگر کوئی صاحب اس خضاب سے بہتر دوسرے خضاب کا نسخہ بتلائین گے تو ہم سو روپیہ انعام دینگے - قیمت فی شیشی معہ محصول ۱ روپیہ ۳ شیشی معہ محصول ۳ روپیہ ۶ شیشی معہ محصول ۵ روپیہ

سیلان الرحم یعنی عورتونکا جریان

بعض عورتون کے بدرنگ و بدبودار رطوبت جاری رہتی ہے جس سے وہ کمزور اور بیمار رہتی ہین - اولاد سے مایوسی ہو جاتی ہے - لیکن اس دوا کے استعمال سے جملہ شکایتین دور ہو جاتی ہین اور جسم مین خون صالح پیدا ہوکر اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے جلد منگا کر استعمال کرایئے - عورتون کو تندرست کرنے کی یہ بڑی لاجواب دوا ہے قیمت معہ محصولڈاک چار روپیہ آٹھ آنہ للعہ

بوٹیونکا تیل

یہ تیل خارش اکوتہ پھنسی کو دور کرتا اور آگ سے جلے ہوئے کے لئے اکسیر ہے قیمت معہ محصول صرف عہ

موم کا تیل اصلی

جوڑ اور ہڈی کے درد اور کمر و پسلی وغیرہ کے درد کو دور کرنے مین مشہور ہے قیمت معہ محصول عہ/

سوزاک

نیا اور پرانا ہر قسم کا سوزاک اس مجرب دوا سے جاتا رہتا ہے اور پھر نہین ابھرتا قیمت معہ محصولڈاک عہ/

آتشک

اس دوا سے آتشک بغیر تکلیف کے دور ہو جاتی ہے اور پھر نہین ابھرتی مجرب ہے قیمت معہ محصول عہ/

ملنے کا پتہ - سُکھ ساگر اوشد ھالیہ بڑی بازار نمبر۱ جھانسی سٹی -

ہماری بڑی فہرست آدھ آنہ کا ٹکٹ بھیجکر طلب فرمایئے -

اسکے آگے کا صفحہ ضرور پڑھیے

پانچسو روپیہ انعام - جو صاحب اس دوا کو غیر مفید یا فرضی ثابت کریگے اونکو مبلغ پانچسو روپیہ انعام دیا جائیگا -

ویدک کی ایک لاثانی اور انمول موتی اور جواہرات مین تولنے کے قابل دوا

سدھ مکردھوج

جس سے بڑھکر اسوقت کوئی اکسیر دوا دنیا مین نہین

اسی وجہ سے

اسکا مختصر طور پر اشتہار درج ذیل کیا گیا ہے

معزز ناظرین! - یہ ایک ایسی دوا کا اشتہار آج آپکے پیش نظر ہے جو آجتک آپکی نظر سے نہ گذرا ہوگا - کیونکہ یہ ایک ایسی بیش بہا اور قابل قدر انمول چیز ہے جو فی زمانہ قریب قریب ناپید ہے جسکی وجہ خاص یہ ہے کہ نہ اسقدر محنت شاقہ کرکے اسکو کوئی بناتا ہے اور نہ قدر کرتا ہے - مگر جو لوگ اسکو جانتے اور اسکے فوائد سے آگاہ ہین وہ اسکو ہردم اپنے گھر مین رکھتے اور اسکا استعمال کرکے ہمیشہ جوان - تندرست اور زندگی کا لطف اوٹھاتے ہین - بسبب علم گنجایش اسکی مختصر طور پر حالت درج کی جاتی ہے تاکہ پبلک آگاہ ہو کر اس سے فیضیاب ہو - یہ دوا ویدک طریقہ سے پورے دو سال مین کئی آدمیون کی محنت شاقہ اور صرف زر کثیر سے تیار ہوتی ہے - اسمین وہ مجرب دوائین - جنگلی جڑی بوٹیان اور بڑے بڑے ست - جوہر اور قیمتی اجزا شامل ہین جنکی تفصیل اس جگہ نا ممکن ہے - اسی سبب سے یہ حلق سے اوترتے ہی اپنا معجزنما اثر دکھاتی ہے - مختصر اً یہ کہ یہ ہر بیماری کا مکمل اور شرطیہ علاج ہے - ہیضہ - پلیگ - انفلوئنزا - بخار - کھانسی ہر قسم - نزلہ - تپ دق - سرسام - سل - جذام - کوڑھ - فالج - لقوہ - مالیخولیا - کنٹھ مالا - گٹھیا - سوزاک - آتشک - قرص - اسہال جدید و کہنہ - پیچش - سو ہضمی - قراق - اور کل اندرونی و بیرونی بیماریون مین اسکو بلا تکلف استعمال فرمائین اور پھر **مکردھوج** کے حیرت انگیز کرشمون کو ملاحظہ فرمائین - نظام دوران خون مین خرابی واقع ہوئی ہو - اعضاء رئیسہ کمزور ہو گئے ہون **دق** شروع ہو گئی - پھیپھڑے مین زخم پڑ گیا ہو - خون آنے لگا ہو - کھانسی رات کی نیند حرام کرتی ہو - ایسے موقعون پر **مکردھوج** کی دو تین ہی خوراک سے آرام شروع ہو جاتا ہے - فی زمانہ جو لوگ اپنی قوت کو خود زائل کر بیٹھے ہون جنکے اعصاب و اعضاء رئیسہ اسقدر کمزور ہو گئے ہون کہ بعض اوقات ندامت و پشیمانی اوٹھانا پڑتی ہو حقیقۃً کیمیا ہے - تھوڑے دنون کے استعمال سے شجر امید بارور ہوتا ہے - وہ لوگ جو ثمر اولاد سے مادہ منویہ مین خرابی و نقصان پیدا ہو جانے کی وجہ سے محروم رہتے ہون اور لطف حیات و عشرت اگر حاصل کرنا منظور ہو تو **مکردھوج** کو باقاعدہ متواتر استعمال کیجئے - اگر کوئی شخص کسی مہلک بیماری سے صحتیاب ہونے کے بعد بھی کمزور ہو اور نبض کچے سوت کی طرح چلتی ہو تو مکردھوج کا استعمال کرین - اس سے نشاط اور سرور آجاتا ہے - رگون اور پٹھون مین بجلی بھر جاتی ہے - چہرے پر جلال آجاتا ہے - جسم کا وزن بڑھ جاتا ہے اور مادہ منویہ کا قوام غلیظ ہو جاتا ہے **قوت امساک** مین اضافہ ہوتا ہے جوانون کو عیش و عشرت اور بوڑھون و کمزورون (نامردون) کو حظ شباب حاصل ہوتا ہے - اسی طرح پر جو عورتین اندرونی خرابیون و پیچیدہ شکایتون مین مبتلا ہین اونکے لیئے **مکردھوج** کا استعمال بےنظیر ہے - اس سے ایام وقت پر ہونگے - پیڑو کا درد - درد کمر - سیلان الرحم وغیرہ دور ہو کر اولاد نرینہ پیدا ہوگی - زچہ کو **مکردھوج** دینے سے جملہ قسم کی مہلک بیماریان زچہ کے قریب نہین آتین اور بچہ کو جھوگے و پسلی وغیرہ کا عارضہ نہین ہوتا - اس سے افیون وغیرہ نشون کی بد عادت چھوٹ جاتی ہے - اگر خدانخواستہ کوئی زہریلا جانور مثلاً بورہا سیاہ یا کتا کاٹ کھائے تو اسکے چند روز استعمال کرلے سے زہریلا مادہ خارج ہو جاتا ہے - **غرضکہ** یہ عجیب بیبہا چیز ہے جو امیر امرا - راجون - مہاراجون - جاگیردارون کے واسطے تیار کی جاتی ہے اور خاصکر اطبا - ویدا اور ڈاکٹر اسواسطے اپنے پاس رکھتے ہین کیونکہ اونکو بہت سے اہم موقعون سے سامنا پڑتا ہے - جب کوئی امید نہ رہی ہو بول بند ہو گیا ہو اوسوقت ایک دو خوراک دینے سے دس منٹ تک مریض ہوش و حواس کی باتین کرلیتا ہے اور اگر زندگی ہوتی ہے تو بچ جاتا ہے - اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ دوا کیسی قابل قدر ہے - بطور امتحان ضرور منگوائیے - قیمت بغرض فائدہ رسانی پبلک صرف خوراک بیس یوم کی صرف **سات روپیہ** - امرا اور جاگیردارون سے اونکی قدردانی پر موقوف ہے - پرچہ ترکیب استعمال ہمراہ روانہ ہوگا -

کشتہ جات مقومی بلا ضرر - کشتہ فولاد کئی سو آنچ کا ۵ تولہ - کشتہ طلا للعہ ماشہ - کشتہ چاندی للعہ تولہ - کشتہ رانگ للعہ تولہ - سورن بنگ ۵ تولہ - کشتہ مونگا ۸ تولہ - کشتہ پارہ سنگیا للعہ تولہ - کشتہ سیسہ للعہ تولہ - کشتہ ابرک کئی سو آنچ کا ۵ تولہ -

ملنے کا پتہ سکھ ساگر اوشدھالیہ بڑی بازار نمبر ۱ جھانسی سٹی -

ہماری بڑی فہرست آدھ آنہ کا ٹکٹ بھیجکر مفت طلب فرمائیے -

انگلینڈ۔ امریکہ افریقہ جرمن۔ جاپان ہندوستان دنیا بھر میں ہماری ادویات فروخت ہو رہی ہیں

ہماری دفتر داکاری جبکہ ہزاروں خریدار اور سرٹیفکیٹ ہیں۔ بوجہ قلت جگہ گنجائش نہیں ہے۔ چند خطوط یہاں پر درج کئے جاوینگے۔ آپ صاحبان کو ان ادویات سے فائدہ اٹھانا چاہیئے +

اپنے اپنے دوستوں۔ مہربانوں رشتہ داروں وغیرہ وغیرہ کو ہماری ادویات خرید کر بطور تحفہ دیں۔ اور جہاں تک آپ سے ہو سکے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں +

سولوٹن

یہ گولیاں اعصابی طاقت جسمانی کمزوری۔ لاغری۔ موٹاپا۔ چہرے کی زردی وغیرہ وغیرہ کے لیئے دنیا بھر کی مقوی دوائیوں سے بڑھکر مفید ثابت ہوئی ہیں۔ جو لوگ مرض کمزوری وغیرہ وغیرہ پیدا کرکے دنیا بھر کے لطف سے محروم ہو چکے ہیں۔ یا خلاف قدرت ہونے سے طاقت کھو بیٹھے ہوں انکے واسطے تیر بہدف علاج ہے۔ بوڑھوں کو جوان مرد بنا دیتی ہے۔ زیادہ تعریف فضول ہے قیمت فی بکس (عہ) +

سرٹیفکیٹ طفیل احمد صاحب جعفری ازاد جہانی۔ ضلع بدایون۔ تحریر فرماتے ہیں۔ مکرمی بندہ جناب ڈاکٹر صاحب زاد عنایتکم۔ تسلیم۔ بندہ خیریت سے ہے خیر و عافیت آنجناب کی نیک دست دعا ہوں عرصہ اشت مند جہ ذیل ہرا دہیں آپکا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور بہت ممنون و مشکور ہوں واقعی بات تو یہ ہے کہ اب اسکو چاہے کوئی بناوٹ اور مبالغہ کی بات تصور کرے لیکن میں قسمیہ تحریر کرتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ فضول روپیہ حکیموں اور ڈاکٹروں کو نہ دے بلکہ کسی غریب کو دے تاکہ اسکا ثواب پاوے اور اگر علاج کرنا چاہے اور یہ بھی خیال کرے کہ میرا روپیہ بیکار نہ جاوے۔ تو میں اپنے ہر ایک ملنے والے اور دوست احباب سے رات ملاقات اور بضرورت کسی امراض کہونگا کہ اگر تمکو صحت کی ضرورت ہو تو ہمارے مہربان جناب ڈاکٹر دیو چند صاحب کا علاج کیجئے اب مجھکو کسی قسم کی شکایت نہیں ہے درج بھی بہت سخت ہو گئی اور مرض اصلی یعنی جریان بھی دور ہو گیا ہے گلیٹون جسکی وجہ سے میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فقط والسلام +

پیہنگ

یہ پیرانی علاج کیلئے طلا ہے نامرادی جیسی مہلک مرض کو عام اشتہاری دوا سے فائدہ نہیں ہوتا بیس سالہ تجربہ کا یقینی علاج ہے جس سے پٹھوں کی سستی۔ کمزوری دور ہو کر اعضا کو توانا اور طاقتور بنا دیتا ہے یہ ایک بے نظیر بے ضرر سہل دوا اثرا اور مستقل علاج مانا گیا ہے نامرد کو بامراد بنا کر ہمیشہ طاقت کو قایم رکھتا ہے پوری صحت مکمل علاج۔ ایک بکس کا دام صرف دو روپیہ ہے۔ بیشمار سرٹیفکیٹ موجود ہیں +

سرٹیفکیٹ۔ حکیم داؤد خان صاحب مقام ونڈلی پوسٹ و ڈ ضلع امراوتی تحریر فرماتے ہیں۔ بعد آداب کے واضح ہو کہ میں خوراک سیتی پیٹال دوائی آتشک تین شیشی گولی ہدیہ طلا دو بکی سامری اور ایک شیشی طلا بذریعہ وی پی روانہ کریں اور فہرست دوا خانہ ارسال کریں آپ کی یہ ادویات بہت مفید ثابت ہوئی ہیں +

سینو

اسکے استعمال سے بغیر منہ آئے اور دست کے آتشک کے زخم بالکل سوکھ جاتے ہیں کچھ درد بھینی کا خوف اور دوبارہ مرض کے پھوٹنے کا اندیشہ نہیں رہتا سمیت کو خون میں ہرگز پھیلنے نہیں دیگی۔ خواہ بیماری نئی ہو یا پرانی بلا پرہیز چودہ ایام میں آتشک کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے۔ ہزاروں سرٹیفکیٹ موجود ہیں۔ قیمت ۲۸ گولی دو روپے +

سرٹیفکیٹ۔ پورن سنگھ طبیب چک ۲۷ شمالی ڈاکخانہ سرگودھا ضلع پشاور تحریر فرماتے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب بعد تسلیمات کے عرض ہے کہ پہلے بھی ایک عدد شیشی سینو برائے آتشک منگوائی گئی تھی جو کہ نہایت ہی مفید ثابت ہوئی تھی۔ کہانتک تعریف کروں قلم سے باہر ہے اسلئے ایک عدد اور سینو کی شیشی وی پی کر دیں +

بال جوبن

جو بچے سوکھے ہوئے ہوں اور طرح طرح کی امراض میں مبتلا ہوں انکی تمام امراض کو دور کرکے انکو موٹا تازہ اور طاقتور بنا تا ہے چونکہ یہ دوائی میٹھی اور ذائقہ دار ہے اسلیئے اسکو چھوٹے اور بڑے بچے بڑی خوشی سے پیتے ہیں دانت نکلنے کی سب تکلیفیں اس کے پلانے سے دور ہو جاتی ہیں اور دانت سہولیت سے نکل آتے ہیں۔ ہزاروں سرٹیفکیٹ موجود ہیں قیمت فی بکس ایک روپیہ (عہ) +

سرٹیفکیٹ۔ حکیم جنگ بہادر سند یافتہ ساکن مٹیالی ضلع ایٹہ تحریر فرماتے ہیں:۔ جناب ڈاکٹر صاحب تسلیم۔ مزاج شریف میں آپکی عنایت کا نہایت مشکور ہوں۔ کیونکہ میرے بچہ کو جسکی عمر قریب دو ماہ کی تھی اور امراض معدہ میں مبتلا تھا اور نہایت علیل تھا۔ آپکے بال جوبن کے تین ورکے استعمال سے اسکو بالکل فائدہ ہو گیا۔ بال جوبن کی زیادہ تعریف لکھنا فضول ہے۔ یہ آپکی دوا بال جوبن نہیں بلکہ امرت جوبن ہے لہذا آپکو تکلیف دیتا ہوں کہ میرے عزیز کے بچہ کو بھی یہی شکایت ہے آپ ایک پارسل اسکے نام روانہ کر دیجئے گا۔ اسکے چند کارڈ میرے پاس آچکے ہیں بہت جلد اس پتہ سے بھیجدیجئے گا اور آپ اپنے کارخانہ کی فہرست میرے پاس بھیجدیجئے گا عین نوازش ہوگی۔ زیادہ کیا تحریر کروں +

سامری رجسٹرڈ

منگلی پھپھولا چنبل داد پھلبہری۔ کھجلی ڈنگ۔ اسی قسم کی بیشمار جلدی امراض کا مجرب اور شرطیہ علاج ہے۔ اپنی خوبی کے باعث ہر جگہ فروخت ہو رہی ہے۔ اگر مفید ثابت نہ ہو تو قیمت واپس اور پچاس روپیہ انعام۔ ہزاروں سرٹیفکیٹ موجود ہیں۔ قیمت فی بکس ایک روپیہ

سرٹیفکیٹ۔ ڈاکٹر ابو الحسن محمد پور ضلع بجنور تحریر فرماتے ہیں۔ آپکی دوا سامری واقعی تیر بہدف ہے میں نے اپنی ۲ سے چند امراض پر اور متعدد مریضوں پر استعمال کیا مجرب اور پر اثر پایا میں سفارش کرتا ہوں کہ اس سے کوئی گھر خالی نہ رہنا چاہیے +

نندنا

اگر عورت چالیس یوم ہماری ہدایت کے بموجب ان گولیوں کو استعمال کرے تو اسی میعاد کے اندر تمام امراض مخصوصہ زنان دور ہو جاتے ہیں اور حمل قرار پاتا ہے بیشمار گھر آباد ہو چکے ہیں قیمت چالیس گولی امیروں سے پچاس روپے۔ عوام سے دس روپے۔ غرباء سے دو روپے آٹھ آنے بیشمار سرٹیفکیٹ موجود ہیں

سرٹیفکیٹ۔ رادھا کشن اسسٹنٹ کلرک کوتوالی شہر جالندھر تحریر فرماتے ہیں۔ مکرم بندہ تسلیم عرض ہے کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے دوائیں منگوائیں اور اپنے دوستوں کو بھی منگوا کر دیں جس سے مکمل فائدہ ہوتا رہا اب برائے مہربانی بتفصیل ذیل ہر دو جگہ حمل قرار پانے کی گولیاں بھیجدیں (۱) کا پتہ بمقام خاص اجیانوالہ ضلع گوجرانوالہ پاس سدا دیال (۲) احاطہ بنگال ضلع ... بخدمت سردار بھاگ سنگھ صاحب ٹھیکہ دار +

لال گولی

بخار خواہ کسی قسم کا ہو۔ ملیریا ہو یا موسمی روزانہ۔ تجیہ۔ چوتھیا ہر قسم کے بخار کو چوبیس گھنٹہ میں اتار دیتی ہے اور روک دیتی ہے بیچینی گھبراہٹ یا گرمی ہرگز محسوس نہیں ہوتی ہزاروں سرٹیفکیٹ موجود ہیں۔ قیمت فی بکس ایک روپیہ +

گلیٹون

نئے پرانے سوزاک کیلئے اس دوائی سے بڑھکر کوئی دوائی نہیں ہے اس دوائی کے استعمال میں نہ ہمارے پچکاری لگانی پڑتی ہے سلائی پاس کرانی پڑتی ہے پیپ وغیرہ اگر آتی ہو تو فوراً بند ہو جاتی ہے پیشاب کی دھار باریک یا دو دھاروں میں آتی ہو وغیرہ وغیرہ بالکل آرام ہو جاتا ہے بیشمار سرٹیفکیٹ موجود ہیں۔ قیمت فی بکس تین روپے +

ساگر انجن

آنکھ قوت بصارت کا خاص آلہ ہے۔ اس خاکسار کو ساگر انجن کا نسخہ سردار اندر سنگھ صاحب جاگیردار طفل نے نہایت مہربانی سے عنایت کیا جملہ امراض چشم کو دور کرکے بینائی تیز اور عینک چھڑا دیتا ہے۔ فی بکس ایک روپیہ نمونہ کیلئے ۵ ٹکٹ آنے چاہئیں

بھد پہلز

دافع قبض۔ جلاب کیلئے مجرب ہے بلا تکلیف اجابت کھلکر ہوتی ہے۔ اسکی ایک گولی سے ایک دست اور چار گولی سے چار دست آتے ہیں۔ دیگر بہت سی امراض کو دور کرتی ہے قیمت فی بکس ایک روپیہ (عہ) +

کتب ہائے

ڈاکٹری۔ انگریزی۔ اردو۔ اور ویدک یونانی نئی اور سیکنڈ ہینڈ بکفایت مل سکتی ہیں +

ڈاکٹر ڈی۔ سی۔ سامری۔ لودیانہ

دوائی تریاق پھولا پھوڑے گے واسطے اکسیر ہے پانچ شیشی آپ سے خرید چکا ہوں چند اشخاص کو بہت فائدہ پہنچا ہے اسلئے مہربانی ۵ شیشیاں اور بذریعہ وی۔ پی پارسل ارسال کرا دیں +

پلانچھٹ یعنی بے جان منشی

یورپ کے سائنسدانوں کی ایجاد



تجربہ بتلا رہا ہے۔ کہ زمانہ حال کے سائنس دانوں نے اپنی عجیب و غریب ایجادوں سے ایک عالم کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ وہ وہ باتیں جن کے وجود سے ہی کسی وقت انکار تھا۔ یا جن کو لوگ بھوت پرست کی کرامات سحر و افسون کی برکتیں خیال کرتے تھے آج وہ تمام باتیں علم سائنس کی طفیل سر بازار ظاہر ہو رہی ہیں۔ علم غیب کے متلاشیو! دیکھو یہ آلہ علم سائنس کی ایک عجیب و غریب ایجاد ہے۔ جس کو پلانچھٹ کہتے ہیں اس پر حسب ترکیب چند روز مشق کرنے سے اس پر ہاتھ رکھنے سے یہ دل کے راز کا اظہار کر دیتا ہے اور تھوڑی دیر میں صاف کھلے الفاظ میں کاغذ پر لکھ کر سب کچھ بتلا دیتا ہے۔ ہر شخص بلا تمیز عمر اس پر مشق کرنے سے دل کی مخفی باتیں اور ان کے نیک و بد انجام معلوم کر سکتا ہے پہلے پہل چھوٹے چھوٹے سوالات کی مشق کرو۔ پھر آہستہ آہستہ بڑے بڑے سوالات اور ان کے جواب اس کے ذریعہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ غرضیکہ یہ آلہ علم مسمریزم کی ایک عجیب و غریب ایجاد ہے۔ اس کو منگوا کر اور دیر تک مشق رکھ کر قدرت کے عجائبات دیکھیں۔ قیمت صرف تین روپیہ .. .. (سے ؏)

سیر بین جہاں نما

صاحبان یہ نو ایجاد جیبی سیر بین بالکل تازہ چالان کی بھی ہمارے ہاں آئی ہیں۔ اس کے ذریعہ دریا۔ پہاڑ۔ جنگل بڑے بڑے مشہور شہروں کی مشہور عمارت کے فوٹو۔ خوبصورت لیڈیوں کی تصویریں۔ سبزہ زاروں کی سیر ریل و سمندر و جہازوں کے نظارے نہایت عمدگی سے اس طرح نظر آتے ہیں کہ اصل چیز کا نظارہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ واقعی اصل چیز سامنے کھڑی ہے۔ چونکہ ہم نے براہ راست بڑی بھاری تعداد میں مال منگوایا ہے اس لئے نہایت ارزاں قیمت پر فروخت کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ منگوا دیکھئے۔ پچاس عدد تصاویر سیر بین کے ہمراہ مفت دی جاویگی۔ نہایت دل خوش کن نظارے۔ سینریاں وغیرہ وغیرہ۔ قیمت معہ محصول ڈاک و پیکنگ صرف دو روپیہ .. .. .. (؏؍)

انگوٹھی تصویردار



اس حیرت انگیز انگوٹھی کے بنانے میں کاریگر نے کمال کر دکھایا ہے۔ اس کے ایک طرف چھوٹا سا نگینہ لگا ہے۔ جس میں آنکھ لگا کر دیکھنے سے نہایت اعلےٰ درجہ کی تصویر نظر آتی ہے۔ عمارتوں کے اعلےٰ اعلےٰ فوٹو پر جمال لیڈیوں کے دلفریب نظارے۔ بزرگوں مہاتماؤں اوتاروں کے فوٹو وغیرہ وغیرہ کی تصویریں موجود ہیں۔ ایک انگوٹھی منگوا کر دیکھو۔ ۱۲؍

وزن کرنیوالا طلسمی کانٹا

اب ترازو باٹوں کے رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ نو ایجاد کانٹا نمبروں کے ذریعہ ٹھیک وزن بتلا دیتا ہے جو چیز وزن کرنا ہو اس کے نیچے کنڈے میں لٹکا دو۔ اور اوپر سے وزن دیکھ لو۔ قیمت ۲۵ پونڈ والا کانٹا ایک روپیہ .... ؏ ۵۰ پونڈ وزن کا دو روپیہ ؏ (۱۰۰) پونڈ سے ۵۰۰ پونڈ تک وزن کرنیوالا پانچ روپیہ .. .. صہ

جیبی فوارہ

مجلس بیاہ شادی کیلئے یہ فوارہ نہایت عجیب چیز ہے اسمیں رنگ یا گلاب یا کیوڑہ وغیرہ بھر کر جیب میں رکھو جب ذرا نکال کر دباؤ قیمت ڈیڑھ روپیہ ؏

بجلی کا جیبی لیمپ

یہ لیمپ زمانہ حال کی نئی ایجاد ہے۔ اس میں تیل یا بتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بجلی کی بیٹری اس میں رکھی ہے۔ ذرا بٹن دباؤ۔ جھٹ چاند کی طرح روشن ہو جاویگا۔ جیب میں ڈال رکھو۔ بوقت ضرورت نکال کر کام لو۔ مینہ۔ آندھی میں یہ بجھ نہیں سکتا۔ نہ اس کی گرمی محسوس ہوتی ہے قیمت صرف چار روپیہ .. .. .. (للعہ؍)

خالص دودھ کی پہچان کا آلہ



اگر آپ کو دودھ خالص لینا ہو اور دودھ بیچنے والوں کے فریب سے بچنا ہو۔ تو یہ آلہ ہم سے منگوالو۔ جب اس آلہ کو دودھ میں ڈالوگے۔ تو یہ آلہ فوراً بتادیگا کہ دودھ خالص ہے یا اس میں پانی ڈالا گیا ہے۔ قیمت صرف دو روپیہ .. .. ؏

بخار دیکھنے کا تھرمامیٹر

بخار کے درجہ دیکھنے کے لئے نہایت کار آمد چیز ہے۔ اس کو بغل میں لگانے سے فوراً بخار کی حرارت کی کمی زیادتی بذریعہ نمبروں کے معلوم ہو جاویگی قیمت صرف دو روپیہ .. .. ؏

ریڈنگ گلاس

اس آتشی شیشہ سے آپ کئی کام لے سکتے ہیں۔ باریک سے باریک حروف بھی اس سے بڑے بڑے موٹے نظر آتے ہیں۔ پانی میں سے باریک کیڑے اس کے ذریعہ دیکھ سکتے ہیں۔ سورج کے مقابل اس آئینہ کو رکھ کر کپڑا اس کے نیچے رکھو۔ تو اس میں آگ پیدا ہو جاویگی۔ غرضیکہ یہ آئینہ بڑا کام کی چیز ہے۔ ضرور خریدو۔ قیمت صرف دو روپیہ .. .. ؏

جیبی مقراض

مقراض کیا ہے۔ ایک تماشہ ہے۔ جب کام کرنا ہو۔ کھول کر کام کرو۔ پھر چھلے الٹا کر بند کر کے جیب میں ڈال لو۔ معلوم بھی نہ ہوگا کہ کیا چیز ہے۔ قیمت بارہ آنے ۱۲؍

ملنے کا پتہ:- مدن منوہر اینڈ برادرس جنرل مرچنٹس موتی بازار لاہور

محصولڈاک بذمہ خریدار ہوگا

مندرجہ ذیل اشیاء میں سے جو چیز آپ چاہیں ہم سے طلب کریں

نادر و نایاب کتابیں

آئینہ دستاویز

اس کتاب میں ہر قسم کے مسودہ دستاویزات۔ درخواست عرضی۔ پرامیسری نوٹ۔ ہنڈی۔ نقشہ۔ رسوم اسٹامپ نمونہ اسٹامپ ہر قسم مثلاً رہن نامہ۔ بیعنامہ۔ اقرار نامہ وغیرہ وغیرہ ردیف وار درج ہیں۔ اسکے ذریعہ ہر ایک شخص عرضی نویسی۔ وثیقہ نویسی کا کام بہت جلد سیکھ سکتا ہے۔ زمیندار سیٹھ۔ ساہوکار لوگ جن کو ہر وقت دستاویزات تحریر کرانے کا کام رہتا ہے اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قیمت صرف ایک روپیہ عہ

مردہ روحوں سے ملاقات

اگر آپ کو مردہ روحوں سے ملاقات کر کے انکے حالات دریافت کرنے کا شوق ہو تو اس کتاب کو منگوا لو اسکے ذریعہ آپ پورے طور پر مسمریزم سیکھ سکتے ہیں قیمت عہ

بنگال کا جادو

اس میں عملیات جنتر۔ منتر تنتر۔ سحر۔ طلسمات وغیرہ درج ہیں جو کبھی خطا نہیں کرتے قیمت ۱۰ ار

چین و برھما کا جادو

تسخیر و حب کے واسطے خواہ شمند ہو دیکھو۔ اس کتاب کا عامل گھر بیٹھے تمام دنیا کا حال جان سکتا ہے۔ جن۔ بھوت۔ دیوتاؤں کو قابو کر کے ان سے تمام کام لے سکتا ہے۔ قیمت ایک روپیہ عہ

آئینہ طلسمات فرنگ

آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت لوگ سٹیج پر مسمریزم کے تماشے کرتے ہیں مثلاً خالی گملہ میں پھول اگانا۔ گھڑی یا انگوٹھی کو ہاون دستہ میں کوٹ کر پھر ثابت کر دینا۔ رومال کے اندر روپیہ انگوٹھی۔ گلاس وغیرہ گم کر دینا۔ تاش کے پتے جلا کر سالم کر دینا۔ تاش کے کئی قسم کے کھیل وغیرہ وغیرہ۔ اس کتاب میں اس قسم کے سینکڑوں کھیلوں کی ترکیب درج ہے۔ اس کے مطالعہ سے آپ پورے میجک پروفیسر بن سکتے ہیں قیمت مجلد کتاب عہ

تسخیر ہمزاد

اس کتاب میں اپنے ہمزاد کو قابو کر کے اس سے ہر قسم کا مشکل سے مشکل کام لینے کے طریقے درج ہیں قیمت ۱۲ ار

جوتش رتن بھنڈار چاروں حصہ

اس کتاب میں ہر قسم کے سوالات کے جوابات دینے کے آسان طریقے۔ سیاروں کی گردش اور ان کا اثر انسان پر۔ مہینہ کا پھل دیکھنا۔ اور جنتش کے کئی کار آمد مضامین درج ہیں۔ قیمت صرف آٹھ آنے ۔۔۔ ۸ ر

رام جیون چرتر یعنی بھجن رامائن ساتوں کانڈ

جس میں مریادا پرشوتم سری رام چندر جی مہاراج کی زندگی کے حالات کا فوٹو اول سے آخر تک ایسے دلکش پیرایہ میں اتارا گیا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ ماتا سیتا کی اگنی پریکشا۔ بھرت کی بھاؤ بھگتی۔ اسروں کی گوشمالی۔ ست دھرم وغیرہ وغیرہ مضامین میں بڑے زور و شور سے بحث کی گئی ہے اور دکھلایا گیا ہے کہ ہندو کے بزرگان کیسے شائستہ الشعور کا سروپ ہو گذرے ہیں۔ اور انہوں نے کن کن کٹھن مصیبتوں کا سامنا کر کے بھارت ورش خاص کر ہندو جاتی میں دھرم کو قائم رکھا ہے۔ قیمت مجلد دو روپے ... ۲ عہ

بھجن مہابھارت ۱۸ پرب

جس میں مہاراجہ شانتنو پردادا پانڈوں سے لیکر آخیر تک یعنی پانڈوں کے ہمالہ جانے تک کا تمام حال مختصر پیرایہ میں درج کر کے بھیشم پتامہ کا برہم چریہ اور زنگیا پالن درونا چاریہ۔ ارجن۔ کرن۔ بھیشم وغیرہ دلاوروں کے کرتب جنگ۔ اور مرتے وقت بھیشم پتامہ کا اپدیش وغیرہ مضامین پر بڑی لیاقت سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ قیمت فی جلد ایک روپیہ بارہ آنے ۔۔۔ ۱۲ ع

جیون چرتر سری کرشن چندر مہاراج کی بھجن میں

جس کو مکمل مگر مختصر پیرایہ میں تیار کر کے سری کرشن چندر مہاراج کا جنم بال لیلا۔ کنس کو مار کر سین کو راج دلانا۔ رکمنی کو بیاہ کرلانا۔ جراسندھ و شیشپال و راجہ شلو وغیرہ بلوانوں کے ساتھ لڑائیاں۔ مہابھارت میں دریودھن کو نصیحت کرنا اور نہ ماننے پر پانڈوں کو ساتھ دینا۔ پربھاس چھیتر کے میلے کی کیفیت۔ شری کا تیاگ وغیرہ جملہ دیگر دلکش واقعات کا اظہار۔ اعلیٰ درجہ کی خوبی سے کیا گیا ہے قیمت [illegible]

بھجن لٹائی راناراج سنگھ والئے میواڑ

ہمراہ اورنگ زیب و دہلی۔ قیمت صرف آٹھ آنے ۸ ر

ایک پتیا ایلو رکنواری کنیاں کی لوکا پر اجکمار امیر سنگھ کی ہمدردی کا ثبوت بھجنوں میں۔ قیمت ۶ ر

قابل قدر و نایاب نسخے

جاپانی خضاب

یہ خضاب ۵ منٹ میں سفید بالوں کو سیاہ و خوبصورت کر دیتا ہے کوئی داغ دھبہ نہیں دیتا۔ دس منٹ میں بالوں کو کھڑے کھڑے لگایا جا سکتا ہے رنگ پختہ اور بالوں کو مثل ریشم کے ملائم کر دیتا ہے قیمت صرف ایک روپیہ ۔۔۔ عہ

گیسوئے دراز تیل

یہ بالوں میں لگانے کا نہایت عمدہ خوشبو دار تیل تیار کیا گیا ہے اس کے استعمال سے بال لمبے۔ استعمال سے تمام امراض دور ہو جاتے ہیں۔ بالوں کو مضبوط اور سیاہ رکھتا ہے۔ خوشبو نہایت عمدہ ہے ایک شیشی ضرور منگوا کر تجربہ کریں۔ قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ چار آنہ عہ

اب مونچھیں بڑھالو

مونچھیں لمبی کرنے کے شوقین آئیں۔ اس بے نظیر روغن کو استعمال کر کے دیکھیں کہ اس کے لگانے سے مونچھیں کتنی لمبی ہو جاتی ہیں۔ قیمت فی شیشی بارہ آنے (۱۲ ر)

پھوڑے پھنسی دور کرنے کا صابن

یہ صابن خاص طور پر ادویات کی اجزاء ڈال کر تیار کیا گیا ہے۔ اگر جسم پر پھوڑے پھنسی نکلتے ہوں یا خارش ہو تو اس کو ملکر نہاؤ اس کے استعمال سے تمام روگ دور ہو جائینگے۔ قیمت فی ٹکیہ بارہ آنے ۔۔۔ (۱۲ ر)

بال صفا صابن

یہ بال صفا کرنے کا صابن بھی قابل قدر چیز ہے۔ جسم پر لگاؤ۔ ۵ منٹ میں بال اڑا دیگا۔ جلد پر کسی طرح کا داغ یا دھبہ وغیرہ نہیں ڈالیگا۔ اور نہ کسی قسم کی تکلیف ہوگی۔ قیمت فی بکس ۱۲ ٹکیہ ایک روپیہ ۔۔۔ عہ

دانتوں کا منجن خوشبودار

یہ منجن خاص طور پر بنایا گیا ہے جو دانتوں کی تمام بیماریوں کو دور کر کے دانت موتی کی لڑی کی طرح سفید کر دیتا ہے نہایت خوشبو دار ہے۔ قیمت فی ڈبیہ ۸ ر

عطر دان جیبی

عطر کے شائقین کی خاطر یہ جیبی عطردان تیار کیا گیا ہے جس میں نہایت اعلیٰ درجہ کا عطر ہر قسم کا موجود ہے ہر وقت جیب میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ عطر نہایت اعلیٰ ہے۔ قیمت ۱۲ شیشی [illegible]

المشتہر بی۔ جی۔ ایل اینڈ کو نمبر ۱۸۰۳ لاہور

محصول ڈاک بذمہ خریدار ہوگا

نو ایجاد قابل دید بے نظیر روزمرہ کے کارآمد تحائف

ربڑ پریس انگریزی حروف



یہ جیبی پریس قابل تعریف ہے اس سے لفافہ اور ملاقاتی کارڈ اور مہریں وغیرہ جو دل چاہے چھاپ لیں۔ ایسی کارآمد چیز کو منگانے میں ہرگز دیری نہ کریں۔ قیمت نمبر ا تین روپے نمبر ۲ دو روپے نمبر ۳ ایک روپیہ عہ

برقی فیتہ

اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دانت نکلنے کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔ تو آپ فوراً یہ برقی فیتہ ہم سے طلب کریں۔ اسکے پہننے سے دانت آسانی سے بغیر تکلیف کے نکل آتے ہیں۔ قیمت ایک روپیہ عہ

خوش گلو

گانے والوں کے لئے عجیب تحفہ ہے یہ ایک چھوٹی چھوٹی ٹکیاں ہیں۔ ان کو پان میں رکھ کر کھائیے یا چاہے خالی منہ میں رکھئے۔ دماغ خوشبو سے معطر ہوجائیگا۔ گلا بیٹھ گیا ہو۔ تو اس کے استعمال سے کھل جاویگا۔ اور صاف و خوش الحان ہوجاویگا۔ قیمت ۱۲ ار

سر کے بال کاٹنے کی مشین

یہ کارآمد مشین زمانہ حال کی نئی ایجاد ہے سر کے بال نہایت صفائی سے کاٹتی ہے انگریزی وضع کے بال رکھنے والے شائقین کے لئے نایاب تحفہ ہے۔ اس سے اپنی حسب مرضی بال بڑے چھوٹے رکھ سکتے ہیں۔ قیمت نمبر ا صہ نمبر ۲ للعہ

طلسمی کنگھا

یہ کنگھا کل کا بنا ہوا ہے اس کے اوپر ایک ایسا سوراخ ہے۔ جس میں تیل بھر کر سر میں پھیرنے سے تیل خود بخود بالوں میں لگ جاتا ہے۔ قیمت ۱۰ ار

انڈی پینڈنٹ قلم

یہ قلم نہایت ہی عجیب ہے ایک ہی مرتبہ اس کے اندر سیاہی بھر لیجئے۔ اور پھر جس قدر چاہو مضمون کے صفحے لکھ لو۔ نہ دوات کا فکر اور نہ سیاہی کے خراب ہونے کا اندیشہ۔ جب مدت کے بعد سیاہی ختم ہوجاوے۔ تو اور بھر لو۔ انڈی پینڈنٹ قلم جس کے آگے نب لگی ہوئی ہے۔ قیمت نمبر ا عہ نمبر ۲ ۱۲ ار۔ انڈی پینڈنٹ سوئی والا نمبر ا عہ نمبر ۲ سہ نمبر ۳ عہ

پاکٹ گلاس



مسافری میں یہ گلاس بڑی بھاری خدمت دیتا ہے۔ جب دل چاہے اس کو کھول کر پانی پی لیں کیسی بے نظیر اور عمدہ چیز ہے۔ یہ گلاس بند کرنے سے ڈبیہ کی طرح بن جاتا ہے پھر اس کو جیب میں رکھ لیں۔ قیمت سہ

خارش دور کرنیکا صابن

اس صابن کے استعمال سے داد۔ چنبل۔ پھوڑا۔ پھنسی وغیرہ دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ قیمت نمبر ا سہ قیمت نمبر ۲ ۸ ر

چہرے کی حجامت بنانیکی مشین

اس نو ایجاد مشین سے ہر شخص خود بخود چہرہ کی حجامت بنا سکتا ہے۔ حجام کی ضرورت نہیں۔ نہایت عمدہ حجامت بنا سکتا ہے۔ جلد کو کاٹتا نہیں۔ جلد منگاؤ قیمت درجہ خاص ٹے ر درجہ ۲ عہ درجہ ۳ سہ

بالوں میں لگانے کا خوشبودار تیل

جو بالوں کو لمبا نرم ریشم ملائم چمکدار اور جڑوں کو مضبوط کرنے میں لاثانی ہے دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے دماغی امراض سر درد۔ بال گرنا۔ نزلہ زکام وغیرہ دور ہوتے ہیں خوشبو ایسی اعلےٰ کہ تمام دل و دماغ معطر رہتا ہے قیمت فی شیشی سہ

محافظ دنداں

جن لوگوں کے دانت خراب ہوگئے ہوں۔ یا کیڑا لگ گیا ہو یا ہلتے ہوں یا دانتوں میں درد ہوتی ہو۔ ان کو چاہیئے کہ ہمارا پوڈر محافظ دنداں استعمال کریں اسکے استعمال سے تمام شکایتیں دور ہو کر چاندی کی طرح دانت سفید نکل آتے ہیں۔ قیمت آٹھ آنے ۸ ر

فضول خرچوں کا محافظ

یہ حیرت انگیز سیونگ بنک کا کام دیتا ہے۔ چونی والے میں جب تک چالیس چونی اور اٹھنی والے میں جب تک بیس اٹھنی نہ پڑینگی۔ ہرگز نہ کھلیگا۔ قیمت ۲۰ چونی والا بارہ آنے ۱۲ ار اٹھنی والا عہ چالیس چونی والا عہ

چربی شیر

اسکی صورت کو دیکھ کر کون ایسا آدمی ہے جو خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اس کے گوشت و پوست اور رگ وریشہ و استخوان میں عجیب و غریب طاقت موجود ہے۔ ماسوائے دیگر چیزوں کے ہم نے اس کی چربی بڑی سخت کوشش سے منگائی ہے۔ جو شخص اس کی خاصیت سے واقف نہیں وہ جان لیں کہ شیر کی چربی انسان کے مردہ اعضاؤں کو زندہ کرنے میں تیر بہدف ہے۔ اس کی مالش ہر قسم کے دردوں کے لئے نہایت مفید ہے کمزور اور سست اعضاؤں کو طاقت بخشتی ہے قیمت فی تولہ ایک روپیہ عہ

انگوٹھی کا نشان لگانیکی ڈبیہ

قیمت فی ڈبیہ ایک روپیہ عہ

کپڑوں پر نشان لگانیکی سیاہی

یہ سیاہی نہایت کارآمد چیز ہے۔ جو کہ کپڑوں پر نشان لگانے کے کام آتی ہے۔ اور دھوبی کے دھونے سے اس کا نشان نہیں اترتا۔ اس کارآمد چیز کو ضرور منگانا چاہیئے قیمت فی شیشی دس آنے ۱۰ ار

سفری چولہا

یہ چھوٹے سے قد کا سفری چولہا سفر میں بڑا آرام دیتا ہے۔ اس میں ذرا سی سپرٹ ڈال کر اس کو روشن کرلو۔ اور جو چیز چاہو اس پر رکھ کر گرم کرلو۔ بڑی کارآمد چیز ہے۔ قیمت صرف دو روپیہ آٹھ آنہ ﷲ

ریٹھا کا جھاواں

نہاتے وقت بدن پر صابن ملکر اوپر سے اس جھاوان سے بدن کو ملو۔ تو یہ بدن کی تمام میل اتار کر بدن نہایت صاف کر دیتا ہے شوقین عورات اور جنٹلمینوں کو نہایت پسند ہے قیمت صرف عار

ملنے کا پتہ: پنڈت رگھناتھ داس آرٹسٹ فوٹو نگر پور لاہور

(محصول ڈاک ہر چیز کا ذمہ خریدار ہے)

۱۱۴ اسنہ رجہ ذیل اشیا پنڈت رگھناتھ داس آرٹسٹ فوٹوگرافر لاہور سے طلب کریں

روزانہ ضروریات کے بےنظیر تحائف

سنہری زیورات ملمع کے

سنہری گلوبند

عجیب اور خوشنما جڑاؤ گلوبند ہے جو گلے میں پڑا ہوا خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ اگر کسی کو تحفہ دینا ہے تو ایک منگا دیکھئے۔ گلے میں پڑا ہوا سونے کا معلوم ہوتا ہے۔ قیمت ۱۲ بڑھیا قسم [illegible]

کانوں کے بندے

کانوں میں پہنے ہوئے ایسے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ کانوں سے اتارنے کو جی نہیں چاہتا۔ قیمت فی جوڑہ عہ و ۱۸

سنہری جڑاؤ کرن پھول

کرن پھول پینے جھکے ایسے خوبصورت ہیں کہ مستورات کے کانوں میں پہنے ہوئے نہایت خوبصورت اور سونے کے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی قیمت فی جوڑہ جڑاؤ ایک روپیہ [illegible]

سنہری انگوٹھی قیمت عہ ۱۲ ۸ ۱۴

ہاتھ منہ پھٹنے کی دوا

لگانے ہی آرام ہو جاتا ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ [illegible]

داڑھی وغیرہ کا صابن

اس کے لگانے سے داڑھی جڑ سے جاتا رہتا ہے۔ پھر نہیں اگتا۔ قیمت بارہ آنے ۱۲

پھولوں کا عرق

قیمت فی شیشی [illegible]

اعلیٰ درجہ کے صابن

قیمت فی ٹکیہ [illegible] عہ و ۱۲ ۸ و ۱۴

نوٹ — چونکہ محصول ڈاک میں زیادتی ہونے کی وجہ سے ہر ایک محصول میں کوئی وی۔ پی پارسل روانہ نہ ہوگا [illegible] صاحب چیز کی قیمت اور محصول ڈاک کے ٹکٹ بذریعہ لفافہ بھیج [illegible] منگوانے میں [illegible]

خوبصورت بننے کا بکس

خوبصورتی خدا نے ایسی چیز بنائی ہے کہ ہر فرد بشر اس پر شیدا ہے۔ پس اگر آپ کو خوبصورت بننے کا شوق ہے تو آپ ذرا ہم سے خوبصورتی کا بکس طلب کریں۔ اس میں خوبصورتی کا صابن۔ عرق۔ پوڈر وغیرہ موجود ہے [illegible] چہرہ صاف [illegible] چھائیاں [illegible] قیمت فی بکس [illegible]

خضاب بےنظیر

۵ منٹ میں سفید براق بالوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ کوئی داغ دھبہ نہیں پڑتا [illegible] قیمت [illegible]

مونچھیں بڑھانے کا تیل

نہایت محنت سے بنایا گیا ہے۔ اس کے لگانے سے داڑھی اور مونچھیں لمبی ہو جاتی ہیں [illegible] قیمت فی شیشی بارہ آنے ۱۲

خوبصورتی کا صابن

اگر آپ چاہتے ہیں کہ چہرے کی رنگت چمکدار اور نرم و صاف ہو جاوے۔ تو یہ صابن منگوائیں۔ اس کے استعمال سے چہرے کے کیل۔ چھائیاں۔ داغ۔ اور سیاہی دور ہو کر حسن دلفریب پیدا ہوتا ہے۔ اور چہرہ صاف و چمکدار [illegible] قیمت فی بکس [illegible]

گلے میں لگانے کے کالر [illegible]

بال اڑانے کا صابن

یہ صابن ۵ منٹ میں نازک مقام کے بال بلا کسی تکلیف کے صاف کر دیتا ہے۔ جسم پر کسی قسم کا داغ دھبہ نہیں پڑتا۔ جلن بھی نہیں ہوتی۔ جلد ملائم رہتی ہے۔ قیمت ۳ ٹکیہ کا بکس ایک روپیہ۔ ایک ٹکیہ ۶ آنے۔ اکیلا صابن ایک بکس سے کم کا وی پی نہ ہوگا

نیم کا صابن

پھوڑے پھنسی وغیرہ کو دور کرنے میں اکسیر ہے۔ قیمت فی بکس ایک روپیہ۔ ایک ٹکیہ ۶ آنے۔ اکیلا صابن ایک بکس سے کم کا وی پی نہ ہوگا

آملہ کا صابن

بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے۔ بالوں کو سیاہ و ملائم رکھتا ہے۔ قیمت ۳ ٹکیہ ایک روپیہ۔ ایک ٹکیہ ۶ آنے۔ اکیلا صابن ایک بکس سے کم وی پی نہ ہوگا

سنگترہ کا صابن

چہرہ کی خشکی دور کرتا ہے [illegible] قیمت فی بکس [illegible] ایک بکس سے کم کا وی پی نہ ہوگا

بال صفا عرق و پوڈر

بلا تکلیف ۵ منٹ میں بال صاف [illegible] قیمت عرق کی شیشی [illegible] پوڈر کی ڈبیہ [illegible] کم کا وی پی روانہ نہیں ہوگا

روز کریم

چہرے کو صاف رکھنے [illegible] قیمت [illegible]

جیبی عطردان

[illegible] قیمت [illegible]

کار آمد بکس

اس میں [illegible] صابن اور ایک شیشی [illegible]

گلگونہ حسن افروز

[illegible] گلاب کے پھول کی طرح [illegible] قیمت ایک روپیہ [illegible]

رومال سوتی کلاں [illegible]

ملنے کا پتہ: پنڈت رگھناتھ داس آرٹسٹ فوٹوگرافر لاہور

(محصول ڈاک ہر چیز کا ذمہ خریدار ہے)

زندہ جادوگری کے شعبدات و عجیب و غریب طلسمات

یہ وہ سامان ہے - جس کے ذریعہ بعض لوگ دوسروں کو حیرانی میں ڈال دیتے ہیں - اور دیکھنے والے ان کرتبوں کو دیکھ کر ان کو جادوگر یا جنات یا بھوت پریت کے عامل سمجھتے ہیں - لیکن دراصل یہ سب کرتب ہاتھ کی صفائی سے ہوتے ہیں - شائقین لوگ اسرار مخفی کے جاننے کے لئے ہزار کوشش کرتے ہیں - اگر وہ لوگ ان کا بھید بتلانے سے کوسوں بھاگتے ہیں - اس لئے ہم نے پبلک کے شوق کو بڑھتا ہوا دیکھ کر ایک بڑے مشہور پروفیسر او بھاری شعبدہ باز کی وساطت سے ایسا سامان بنوایا اور منگوایا ہے - جس کے ذریعہ ہر ایک شخص جادوگری کے کرتب کر سکتا ہے - جن میں سے چند اشیاء بطور نمونہ مشتے از خروارے ذیل میں درج کی جاتی ہیں - یہ ہتھ ناٹک کے کرتب کوڑیوں کے دام لٹ رہے ہیں - ہر چیز ترکیب ہر ایک کرتب کا ساتھ دیا جائیگا - اور فروخت شدہ مال ہرگز واپس نہیں لیا جائیگا +

چھلانگ مارنے والا پتہ

تاش ہاتھ میں لیکر کسی شخص سے یہ کہو کہ ایک پتہ دیکھ لے - پھر وہی پتہ اس سے لیکر تاش میں رکھ کر پھر تاش ہاتھ میں لیکر اس سے کہو کہ وہ اپنے پتہ کو آواز دے - بس اس کے آواز دیتے ہی پتہ اچھل کر باہر آ جاویگا - عجیب شعبدہ ہے - قیمت ایک روپیہ عہ/

جادو کا ہتھوڑا

یہ ایک ڈبہ ہے جس کے اندر لکڑی کا گولہ رکھا ہے اور ساتھ ہی اس کے لکڑی کا ایک چھوٹا سا ہتھوڑا ہے - ہتھوڑے کو گولہ پر مارو - تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاویگا - اور ڈبی خالی رہ جاویگی - نہایت عجیب کرتب ہے - قیمت دو روپیہ للعہ/

بنگالہ کی لکڑی

یہ دو لکڑیاں علیحدہ علیحدہ ہیں اگر ایک کا ڈورا کھینچو تو دوسری کا ڈورا خود بخود کھنچ جاتا ہے دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں - قیمت ایک روپیہ عہ/



گولہ غائب ہوگا

دیکھو عجیب و غریب ڈبیہ میں ایک چھوٹا سا گولہ ہے جو سب کو دکھلا دو پھر اس کو بند کر دو - تو گولہ غائب اور ڈبی خالی ہوگی - پھر اس سے گولہ برآمد ہوگا - قیمت ایک روپیہ چار آنہ عہ/

جادو کا ہاون دستہ

یہ نہایت عجیب و غریب کھیل ہے - سب کے سامنے اس میں گھڑی یا کوئی اور چیز مثل انگوٹھی وغیرہ لیکر کوٹو اور اسکو دستہ کے ساتھ کوٹ کر مار ریزہ کر دو - دو ڈکوٹے کسی کپڑے میں باندھ کر گملہ وغیرہ میں ڈالدو تو بعد میں پھر وہ چیز سالم برآمد ہو جاویگی - یہ نہایت حیرت انگیز کھیل ہے - قیمت دو روپے آٹھ آنے ۸/

جادو کا بکس

اس بکس میں سب کے سامنے تماش کا پتہ یا کاغذ کا پرزہ جلا کر اس کی راکھ ڈال دو - اور بکس کو بند کر کے پھر کھولو - تو جلا ہوا کاغذ یا پتہ اس میں سے سالم برآمد ہوگا - نہایت اعلےٰ کھیل ہے - قیمت دس آنے ... (۱۰/)

ہتھ ناٹک کا کرتب

یہ وہ عجیب و غریب نادر چیز ہے جس میں سب کے سامنے پھونک مارو اور اس کا چکر چلیگا - اور جب کوئی دوسرا شخص اس میں پھونک ماریگا تو بجائے چکر چلنے کے اس کا چہرہ سیاہ ہو جائیگا اور سب اس کو مذاق کرینگے - قیمت ایک روپیہ بارہ آنہ ۱۲/ عہ



گولے کا رنگ بدلنا

یہ ایک لکڑی کا گولہ ہے - جو کہ ایک ڈبیہ کے اندر رکھا جا سکتا ہے - یہ گولہ سب کو دکھلا کر اس ڈبیہ کے اندر رکھدو اور منہ ڈھکنا بند کر دو - پس جب اس کو پھر کھولوگے - تو گولہ بجائے پہلے رنگ کے دوسرے رنگ کا ہو جاویگا - نہایت عمدہ کھیل ہے - قیمت ایک روپیہ چار آنہ عہ/

حیرت خیز گلاس

یہ عجیب حیرت انگیز کھیل ہے سب کے روبرو اس گلاس میں سے سیاہی نکال کر سب لوگوں کو دکھلا دو - پھر وہی گلاس کسی شخص کے اوپر الٹ دو - تو بجائے سیاہی کے اس میں سے پھول گرینگے - لوگ حیران ہونگے - کہ سیاہی کے پھول بن گئے - قیمت ایک روپیہ چار آنہ عہ/

سیاہی پانی ہو جاوے

یہ جادو کا گلاس ہے - جس کے اندر سیاہی بھر دو - اور پھر اوپر رومال ڈالکر تھوڑی دیر کے بعد رومال ہٹا دو - تو بجائے سیاہی کے گلاس کے اندر پانی بھرا ہوگا - حیرت انگیز کھیل - قیمت ایک روپیہ چار آنہ ... ... (عہ/)

شعبدائی پیک

اس جادو کی پیک کو پانی سے بھر دو - تو وہ پانی کسی کو پلا دو اور پیک سب کو خالی دکھلا دو پھر کہو کہ اس شخص نے ہمارا پانی پی لیا ہے - ہم پانی اس کی ناک سے یا کان کی راہ سے نکالیں گے - یہ کہہ کر پیک اس مقام کے ساتھ لگا دو - تو پیا ہوا پانی وہیں سے دھار باندھ کر نکلنا شروع ہوگا - جس کو سب لوگ دیکھ کر حیران ہونگے - قیمت ایک روپیہ چار آنہ ... عہ/

بھانمتی کے عجیب و غریب کھیل

ذیل میں چند عجیب و غریب کھیلوں کی مختصر فہرست دی جاتی ہے - ان کی خوبی منگوانے پر معلوم ہوگی :-

انڈا گم کرنے اور نکالنے کی تھیلی - قیمت آٹھ آنے ۸/

رومال روپیہ اڑانے والا اور پھر نکالنے والا قابل دید ہے - قیمت ایک روپیہ عہ/

رومال گلاس کے گم کرنے والا اور پھر نکالنے والا قابل دید ہے - قیمت ایک روپیہ عہ/

رومال اس سے انگشتری گم ہو جاتی ہے - اور پھر اس سے نکلتی ہے - قیمت ۸/

جادو کی کراماتی ڈبیہ سب کے سامنے اس میں روپیہ پیسہ ڈالو - فوراً غائب ہو جب چاہو اس سے نکل جاوے - نادر شعبدہ ہے - قیمت ایک روپیہ چار آنہ ... عہ/

جادو کے گولے

یہ لکڑی کے گولے ہیں - پہلے ایک گولا ہوتا ہے - پھر سب کے سامنے دو ہو جاتے ہیں - اور پھر تین اور پھر چار - پھر اسی طرح گم ہوتے ہوتے ایک ہو جاتا ہے - اس عجیب و غریب کرتب کو دیکھ کر لوگ حیران و ششدر رہ جاتے ہیں - شوقین جلد منگائیں - قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ ... عہ/ ۸

ملنے کا پتہ :- پنڈت رگھناتھ داس آرٹسٹ فوٹو انگریور لاہور

(محصول ڈاک ہر چیز کا بذمہ خریدار ہے)

ااامندرجہ ذیل اشیا پنڈت رگھناتھ داس آرٹسٹ فوٹو انگرپور سے طلب کریں

روپیہ کا حرکت کرنا

یہ ایک ایسا مخفی بھید ہے جس سے کہ روپیہ اُلٹے ہاتھ پر رکھنے سے خود بخود اوپر کو چڑھیگا۔ جادوگری کا عجیب کرتب ہے جس کو استاد لوگ ہرگز نہیں بتلاتے۔ مگر ہم صرف ایک روپیہ میں کھیل کا بھید بتلاتے ہیں۔ قیمت ایک روپیہ عہ

تاش کے رومال



یہ ایک چھوٹی سی ڈبیہ ہے جس میں تاش کا بنڈل آسکتا ہے۔ سب کے سامنے اس میں تاش کا بنڈل بند کردو۔ پھر کھولنے پر اس میں سے بجائے تاش کے رومال برآمد ہونگے۔ نہایت عمدہ قابل دید شعبدہ ہے۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ

حکم تاش کا پتہ نمودار ہونا

اس کو آنرنگ کارڈ کہتے ہیں۔ کارڈ کو سب کے سامنے میز پر رکھدو۔ اور آپ دور کھڑے ہو کر حکم دو۔ کہ فلاں پتہ باہر آوے۔ بس حکم دیتے ہی وہ پتہ باہر نکال لیگا۔ جس کو دیکھ کر لوگ حیران ہونگے۔ قیمت صرف دو روپیہ آٹھ آنہ

جادو کی بوتل



یہ کھیل اس طرح ہوتا ہے۔ کہ ایک بوتل لیکر تاش کا پتہ اس کے منہ پر سیدھا کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور پتہ کے اوپر پانی کا گلاس بھر کر رکھ دیا جاتا ہے۔ پتہ ہرگز نہیں ٹوٹتا۔ اور گلاس اوپر بغیر سہارے کے کھڑا رہتا ہے۔ نہایت عجیب کھیل ہے۔ قیمت ایک روپیہ دو آنہ

طلسمی گلاس

اس گلاس کو سب کو دکھلا دو پھر ایک روپیہ لیکر اور رومال میں رکھ کر اس گلاس کے اوپر رکھدو پھر روپیہ ہاتھ سے چھوڑ دو۔ تاکہ وہ گلاس میں گر جاوے اور اس کو گرنے کی آواز سب کو سنائی دیوے پھر جب رومال گلاس سے اٹھاؤ تو گلاس خالی ہوگا۔ قیمت ۱۲ار

جادو کا گملہ

یہ ایک چھوٹا سا گملہ ہے سب کے سامنے اس کو کھول کر خالی دکھلا دو۔ اور پھر بند کردو۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ڈھکنا اٹھاؤ۔ تو اس کے اندر نہایت اعلیٰ درجہ کے پھول اُگے ہوئے ہونگے سب لوگ دیکھ حیران ہونگے۔ نہایت حیرت انگیز کھیل۔ قیمت ۸ر

طلسمی بیگمیں

یہ چاروں رنگ کی بیگمیں ہیں۔ ہاتھ پھیرنے سے چاروں بادشاہ بنجاوینگے اور پھر ہاتھ پھیرنے سے بیگمیں بن جاوینگی قیمت صرف چھ آنے (۶ر)

عجیب و غریب گلاس

قیمت ایک روپیہ

دو خالی گلاس برابر رکھو اور ایک میں سگرٹ کا دھواں بھر کر اس کا منہ پیالی سے بند کردو اور دوسرا جو خالی گلاس ہے اس کو بھی پیالی سے ڈھک دو۔ پس دھوئیں والے گلاس کا دھواں خود بخود نکل کر خالی گلاس میں جا کر بھر جاویگا اور پہلا گلاس خالی رہجاویگا۔ اور کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ دھواں کس طرح دوسرے گلاس میں چلا گیا۔

گلاس سے پانی نہ گرے

یہ عجیب و غریب کھیل ہے سب کے سامنے گلاس میں پانی بھر دو اور گلاس کو الٹا کردو۔ پانی گلاس سے ہرگز نہ گریگا۔ نہایت عمدہ کھیل قیمت ۱۲ار

تاش کے کھیلوں کا طلسماتی بکس

اہل مجلس دوستوں کو خوش کرنے اور دیکھنے والوں کو حیرانی میں ڈالنے کے عجیب و غریب کھیل



دوستو اگر آپ لوگ کسی میجک پروفیسر سے یہ کھیل سیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو دس روپیہ دینے پر بھی نہ بتلائیگا مگر ہم آپ کو صرف دو روپیہ میں مندرجہ ذیل کھیلوں کا بکس دیتے ہیں۔

(۱) چاروں نہنجے ایک یکہ اور ایک سفید پتہ ہے (۲) یہی چاروں پنجے دیکھتے دیکھتے چاروں یکے بن جاوینگے۔ (۳) پھر چاروں پتے سفید۔ (۴) پھر چاروں نہنجے بن جاوینگے۔ (۵) نہلا کا پتہ ہے۔ جو کہ دیکھتے دیکھتے پنجہ بن جاویگا۔ پھر نہلا ہو جاویگا (۶) غلام کا پتہ مگر کھینچنے سے بادشاہ بن جاوے گا۔ (۷) تاش کا باجہ بنانا۔ (۸) آنکھ بند کرکے دیکھا ہوا پتہ بتلانا۔ (۹) ہاتھ پھیرنے سے پتہ کا بدل جانا۔ (۱۰) چند پتے علیحدہ علیحدہ تاش پر رکھنا۔ مگر سب کا اکٹھا نکلنا (۱۱) کسی کا دیکھا ہوا پتہ تاش میں سے نکال کر دکھانا۔ خواہ خود نکالو یا دیکھنے والا آپ پتہ کھینچے وہی پتہ نکلیگا۔ (۱۲) تاش کے پتہ کی تین حالتیں بدلنا۔ سب سے بڑا۔ پھر اس سے چھوٹا اور بالکل چھوٹا ہو جاویگا۔ یہ ہاتھ کے کرتب و صفائی کے کھیل ہیں۔ جو کہ کوڑیوں کے دام لٹ رہے ہیں۔ بمقابلہ کرتب کے اس کی قیمت صرف دو روپیہ ہے (عہ)

ملنے کا پتہ: پنڈت رگھناتھ داس آرٹسٹ فوٹو انگرپور لاہور

(محصولڈاک ہر چیز کا بذمہ خریدار ہے)

کارآمد تحائف

خوشبودار سپاریاں

ان کے استعمال سے حلق صاف منہ معطر اور دانت مضبوط رہتے ہیں۔ دوستوں کی دلنوازی کے لئے نادر تحفہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد چبانے سے پان کھانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ قیمت صرف پانچ آنے ۵/

دانت صاف کرنیکا برش

دانتوں کی صفائی جیسی اس برش سے ہو سکتی ہے دوسری چیز سے نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص کو دانت اور مسوڑے صاف رکھنے چاہئیں۔ تاکہ دانتوں کو کوئی بیماری نہ ہو۔ اسلئے یہ برش آپ ضرور منگائیں۔ قیمت فی عدد نمبر ۲ ۱۲/ و ۸/ و ۴/

خوشبودار پوڈر

کشمیری بیوٹی پوڈر اس کے چھڑکنے سے چہرہ خواہ کیسا ہی بدنما ہو خوبصورت بن جاتا ہے۔ نازک مزاج عورتوں بچوں اور ایکٹروں کے لئے نایاب تحفہ ہے قیمت فی بکس بارہ آنے ۔۔ ۱۲/

پت مار پوڈر

گرمیوں میں اکثر شخصوں کے بدن پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں سی نکل آتی ہیں۔ جس کو پت کہتے ہیں۔ ہمارا یہ پوڈر اس کے دفعیہ کے لئے جادو کا اثر رکھتا ہے اس کے استعمال سے پت دور ہو کر بدن سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ قیمت بارہ آنے ۱۲/

ریشمی کپڑے صاف کرنیکا مصالحہ

ریشمی کپڑا اگر میلا ہو گیا ہو۔ یا اس کو داغ دھبہ لگ گیا ہو۔ یا چکناہٹ لگ گئی ہو تو اس مصالحہ سے دھونے سے بالکل صاف ہو جاویگا۔ کپڑا خواہ کیسا ہی باریک اور ہلکے رنگ کا ہو۔ اس مصالحہ سے دھونے سے اسکی اصلیت میں فرق نہ آویگا۔ چکنائی میل۔ دھبہ۔ دور ہو جاویگا۔ قیمت بارہ آنے ۔۔ (۱۲/)

سر دھونے کا مصالحہ

اگر سر کے بالوں میں میل پڑ گئی ہو۔ یا جوئیں پڑ گئی ہوں تو اس مصالحہ سے بالوں کو دھونے سے جوئیں مر جائینگی اور بال صاف ہو کر بدبو بھی دور ہو جاویگی۔ نہایت مفید چیز ہے۔ قیمت ایک روپیہ ۔۔ ۔۔ ۔۔ (۱عہ)

۱۲ کھیل

صرف بارہ آنے میں
جرمن والوں کی عقل کے کرشمے

ناظرین! یہ کاغذ کے بنے ہوئے نوایجاد کھیل حال میں ہی جرمن سے تیار ہو کر آئے ہیں۔ جن کو دیکھ کر عقل حیران ہوتی ہے۔ تفصیل ملاحظہ فرماویں ٭

(۱) ایک کتاب میں رنگدار تصویریں بنی ہیں۔ اُس کو دیکھنے سے جو تصویر نظر آتی ہے۔ الٹا کر دیکھنے سے وہی تصویر شکل بدل لیتی ہے ٭

(۲) ایک پنہ ہے۔ جس پر کچھ کوریکیوں کی تصویریں بنی ہیں۔ اُس کو شمار کرو۔ کبھی وہ چھ شمار ہونگی۔ اور کبھی سات غرضیکہ ان کا درست شمار نہیں ہو سکیگا ٭

(۳) دو تصویریں ہیں اگر نیچے اوپر رکھ کر ناپو تو بالکل برابر ہیں۔ لیکن جب پاس پاس رکھدو۔ تو ایک بڑی اور دوسری چھوٹی ہو جاویگی ٭

(۴) کاغذ کا ایک کارڈ ہے اسکو تصویر پر رکھ کر سرکاؤ تو تصویر شکلیں بدلتی ہے ٭

(۵) ایک تصویر ہے جو کہ پانچ چھ شکلیں بدلتی ہے۔ اور چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے (۶) ایک تصویر ہے جو کہ دیکھنے دیکھنے ذراسی حرکت دینے سے بارہ قسم کے لباس اور شکلیں تبدیل کرتی ہے (۷) لفافہ میں کچھ تصویریں پڑی ہیں پہلے دیکھنے سے وہ کچھ اور ہے۔ لیکن ایک سرخ کاغذ جو لفافہ میں ساتھ ہے۔ تصویر اوپر کرنے سے وہ تصویر فوراً کچھ اور کا اور بن جاتی ہے (۸) ایک تصویر ہے جو کہ ذراسی حرکت سے دوسری شکل بدل لیتی ہے۔ (۹) کاغذ کے ۶ ٹکڑوں پر جو ملا کر دیکھنے سے کئی طرح کی تصویریں بنتی ہیں (۱۰) ایک مذاقیہ تصویر جو عجیب و غریب حرکت کرتی ہے۔ (۱۱) کاغذ کے ٹکڑوں پر کچھ خط کھنچے ہیں جن کو ملا کر رکھنے سے تصویریں مختلف قسم کی بنتی ہیں (۱۲) تصویروں والی کالی جیب کو دیکھنے سے تصویر حرکت کرتی نظر آتی ہے ٭

غرضیکہ یہ کھیل منگوا کر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں کوزہ میں دریا بند کیا گیا ہے۔ ان کا کاغذ نہایت مضبوط عمدہ اور پائدار ہے۔ باوجود ان باتوں کے قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی بارہ کھیلوں کے صرف ۱۲/

آگ جلانے کی جیبی مشین

اس چھوٹی سی نوایجاد مشین میں ایک گول چکر لگا ہے اس چکر کو حرکت دینے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اسکے ساتھ ہی ایک بتی لگی ہے جب چکر کو حرکت دوگے اس سے آگ پیدا ہو کر بتی روشن ہو جاویگی۔ دیا سلائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قیمت صرف دو روپیہ (۲عہ)

جادوگری کے کھیل

گولا حکم پہ چلے

یہ عجیب و غریب کھیل ہے۔ دھاگا میں ایک گولا پڑا ہوا ہے اسکو دونوں ہاتھوں میں پکڑ لو۔ اور گولے کو حکم دو کہ چلو۔ بس گولا حکم دیتے ہی اوپر کی طرف چلنا شروع ہو جاوے گا۔ قیمت صرف ایک روپیہ (۱عہ)

جادو کا بیل

یہ ایک بیل کا سر مٹی کا بنا ہوا ہے اس کو ہاتھ میں لیکر سب کو دکھلاؤ تو اس کے جیسے سینگوں والا بیل نظر آئیگا۔ پھر ذرا ہاتھ پھیرو۔ تو چھوٹے چھوٹے سینگوں والا بیل نظر آوے گا۔ قیمت صرف ۶/

جادو کی لکڑی

اس لکڑی میں دھاگا پڑا ہے۔ جو کہ سیاہ رنگ کا ہے۔ لیکن جب اس دھاگا کا دوسرا سرا پکڑ کر کھینچو گے۔ تو وہی دھاگا سرخ رنگ کا ہو جاویگا۔ نہایت عجیب کھیل قیمت ۱۲/

جادو کی چھڑی

یہ ایک چھوٹی سی جادو کی چھڑی اور ساتھ ایک ڈبیہ ہے چھڑی اندر سے کھوکھلی ہے ایک رومال لیکر چھڑی کے اندر بھر دو۔ اور ڈبیہ سب کو خالی دکھلا دو۔ پھر ڈبیہ بند کر کے چھڑی اس کے اوپر مارو تو رومال ڈبیہ میں چلا جاویگا۔ اور چھڑی خالی رہجاویگی۔ پھر رومال ڈبیہ میں بند کر کے خالی چھڑی اس پر مارو تو رومال پھر چھڑی میں آ جاویگا۔ اور ڈبیہ خالی ہو جاویگی۔ دیکھنے والے حیران ہونگے۔ قیمت ۔۔ ۶/

طلسمی بادشاہ

جو دیکھتے دیکھتے چار دن کیسے بن جاوینگے اور دوبارہ پیسے بالکل خالی ہو جاوینگے۔ اور پھر بادشاہ بن جاویگے حیرت انگیز کھیل۔ قیمت ۔۔۔ ۶/

ملنے کا پتہ:- پنڈت رگھناتھ داس آرٹسٹ فوٹو انگریور لاہور

محصول ڈاک ہر ایک چیز کا بذمہ خریدار

 مندرجہ ذیل اشیاء پنڈت رگھناتھ داس آرٹسٹ فوٹو انگر پورہ لاہور سے طلب کریں۔

حیرت انگیز طلسمات جادوگری کے شعبدات

میجک بکس

اس بکس میں جادو کے حیرت انگیز کھیل ہیں۔

قیمت صرف دو روپیہ آٹھ آنے بمعہ محصولڈاک علاوہ

دوستو! آپنے اکثر انگریزوں اور ہندوستانی لوگوں کو جادو کے کھیل کرتے دیکھا ہوگا۔ جس سے وہ ہزاروں روپیہ پیدا کرتے ہیں۔ اور لوگوں کو حیرت میں ڈالدیتے ہیں۔ اس بکس میں بھی ایسا ہی سامان ہے۔ جو کہ غریب لوگوں کا ذریعہ معاش اور امیر لوگوں کے لئے دل کو خوش کرنے اور دوست احباب کو حیرت میں ڈالنے کا عمدہ شغل ہے۔ بکس کے کھیلوں کی تفصیل ذیل میں ملاحظہ فرمادیں:۔

طلسمی نگینہ } دعا کا یہ پردہ ہاتھ کی انگشتری پر چلیگا۔ اور جب کہو گے چھٹ جا تو بس وہیں ٹھیر جائیگا:۔

طلسمی ڈبیا سلائی } ڈبی کھول کر سب کو دکھلاؤ۔ بھری ہوئی ہوگی۔ اسی وقت بند کرکے پھر کھولو۔ تو بالکل ڈبی خالی ہوگی:۔

طلسمی کتاب حیرت انگیز } اس کتاب میں پیسہ وغیرہ رکھ کر بند کردو۔ تو غائب ہو جاوے۔ جب چاہو۔ پھر اس میں سے برآمد ہو:۔

جادو کا سوا } لوہے کا سوا سب کے سامنے زمین پر مارا جاوے تو دوسری طرف نکلا ہوا نظر آوے اور لوگ حیران ہوں:۔

جادو کا روپیہ } اس کے درمیان میں سوراخ ہے۔ سوراخ میں مضبوط دھاگا ڈال کر روپیہ باندھ دو۔ پھر ذرا چھڑی کا اشارہ کرنے سے روپیہ بلا دھاگہ ٹوٹے دھاگہ میں سے نکل کر باہر جا پڑے:۔

جادو کی چھری } سب کے سامنے اپنی ناک پر مارو اور ناک کٹ کر دکھلاؤ۔

جادو کی بیگم } تاش کی چاروں بیگمیں ہاتھ میں دیکھتے دیکھتے چاروں بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر بیگمیں بن جاتی ہیں:۔

جادو کا پتہ } تاش کا پتہ لیکر سب کو دکھلا دو۔ تو چوکی کا پتہ ہوگا۔ اور ذرا اوپر تک ہاتھ ڈالو۔ تو وہ پتہ چھکی کا پتہ ہو جاوے گا:۔

جادو کی کتاب } سب کے سامنے اس کے تمام ورق اٹھاؤ۔ بالکل کورے کاغذ ہونگے۔ ذرا پھر ناک مار کر دوبارہ کھولو تو اس میں کئی قسم کے رنگدار بیت ہوئے ہونگے:۔

جادو کی سوئی } سب کے سامنے کپڑے میں سوئی آر پار کر کے دکھلا دو۔

حیرت انگیز کھلونا

کھلونا کیا ہے۔ ایک جادو ہے جو کہ ہندوستان کی کاریگری کا ایک نمونہ حیرت انگیز کرشمہ ہے۔ یہ دو کھلونے الگ الگ ہیں۔ ایک میں مہارانی رکمنی جی ہاتھ جوڑے کھڑی ہے دوسری میں ایک طرف سری کرشن جی مہاراج کی تصویر ہے۔ جو نہی ملاؤگے تو مہارانی لکشمی ہاتھ جوڑے کھڑی ہوگی۔ لیکن جب اسکو ہٹا کر راجہ شو پال کی تصویر سامنے کی جاویگی۔ تو مہارانی رکمنی فوراً اسکی طرف پیٹھ پھیر دیگی۔ اور منہ موڑ لیگی اسی طرح سے مہارانی سیتا۔ مہاراج رامچندر جی اور راجہ راون کی تصویر لیا گیا۔ کون شخص ہے جو اس کو دیکھ کر حیران نہ رہجاوے۔

قیمت صرف دو روپیہ ۲ علاوہ محصولڈاک۔ چاہے سری کرشن جی کی تصویر منگاؤ۔ چاہے مہاراجہ رامچندر جی کی۔ قیمت ایک ہی ہے:۔

باسدیو پیالہ

ہندوستانی کاریگروں کی کاریگری کا نمونہ جس کو دیکھ کر عقل حیران رہجاتی ہے۔ یہ ایک پیتل کا پیالہ ہے جس میں باسدیو سری کرشن جی مہاراج کو کاندھے پر اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں۔ پیالہ میں بظاہر کوئی سوراخ نہیں ہے۔ اس پیالہ میں پانی ڈالو۔ جب تک سری کرشن جی مہاراج کے چرنوں کے نیچے رہیگا۔ تب تک پیالہ بھرا رہیگا۔ لیکن جب پانی پاؤں کو چھو جاویگا۔ تو تمام پانی فوراً پیالہ میں سے باہر نکل جاویگا۔ اور پیالہ میں ایک بوند پانی نہ رہیگا۔ ضرور منگواؤ۔ اور کاریگر کی محنت کی داد دو۔ قیمت دو روپیہ ۲ا

چھچھر مار پوڈر

یہ پوڈر رات کو سوتے وقت تھوڑا سا بچھونے پر ملدو۔ یا اپنے بستر پر چھڑک دو۔ تو اس کی خوشبو سے مچھر ہرگز نزدیک نہ آوینگے۔ نہایت عمدہ چیز ہے۔ قیمت بارہ آنے ۱۲ار

لیونڈر واٹر

نہاتے وقت اس کے چند قطرے پانی میں ڈالکر نہانے سے طبیعت کو عجیب فرحت حاصل ہوتی ہے۔ بیاہ شادیوں اور مجلسوں میں چھڑکنے کے لئے بڑی اچھی چیز ہے۔ قیمت فی شیشی بارہ آنے ۱۲ار

ناخن کاٹنے کی مشین

یہ مشین بالکل نوایجاد ہے قد بالکل چھوٹا سا جو کہ جیب میں آسکے۔ اس کے ذریعہ شخص ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن بلا کسی تکلیف و اندیشہ کے خود بخود کاٹ سکتا ہے۔ اس قابل قدر کارآمد مشین کو ضرور منگوالو۔ قیمت عہ

خارش دور

خارش دور کرنیکے لئے عجیب چیز ہے قیمت فی شیشی ۲ار

کیٹوگراف یعنی کتابی بائسکوپ

قیمت عہ

ولایت والے بھی جو بات کرتے ہیں۔ کمال کر دیتے ہیں خیال ہی میں یہ کیٹوگراف تیار ہوا ہے یعنی بائسکوپ کو کتاب کی شکل میں بنا دیا ہے چھوٹی چھوٹی فوٹو کی کتاب ہے جس میں تصویریں چھپی ہیں جب آپ کتاب کو کھولیں گے۔ تو وہ تصویریں زندوں کی طرح حرکت کرتی نظر آوینگی۔ [illegible]

چند عجیب دوائیاں جن کے ساتھ کی کہیں دوسری جگہ نہ ملینگی

پاس رکھکر مشہوری حاصل کرو

ہر ایک دوائی کا نمونہ بھی دیا جاتا ہے

بیٹا چھوٹا (رجسٹرڈ)

لڑکا ہی پیدا ہوگا ورنہ قیمت واپس

یہ ایک عجیب دوائی ہے حمل کے ۲ ماہ یا تیسرے ماہ کے شروع میں ایک دن یہ دوائی دودھ سے کھلائی جاتی ہے بس لڑکا ہی پیدا ہوگا عجیب بات جان کر کوئی شک کرتے ہیں اسواسطے اقرار ساتھ ہے کہ لڑکی پیدا ہو تو قیمت واپس کردی جاویگی قیمت ... ہے عجیب دوائی ہے ایک سند بھی لکھتے ہیں بابو ٹھاکر داس کلکتہ سے لکھتے ہیں "میں آپکی سیوا میں نہایت خوشی سے عرض کرتا ہوں کہ ۲۴ مارچ کو میرے گھر میں فرزند ارجمند تولد ہوا یہ آپکی دوائی کا کرشمہ ہے اس دوائی کی قیمت اگر دس ہزار روپیہ بھی ہو تو تھوڑی ہے میں تو دل سے دھنباد دیتا ہوں ..." ایسی سینکڑوں سندات موجود ہیں

عرق بخار (رجسٹرڈ)

موسمی بخار، ملیریا، جو تیسرے روزانہ آنیوالا، دن میں دو بار آنیوالا، تپ چوتھیا وغیرہ سب اس ایک شیشی کے تین دن کھانے سے قطعی دور ہو جاتے ہیں۔ حکما ہیں سینکڑوں شیشیاں اسکی منگوا کر اپنے پاس رکھتے ہیں قیمت فی شیشی ۸ر۔ حکیم ذاکر علی خان صاحب مالک دواخانہ یونانی موضع جھکا سے لکھتے ہیں :- آپکا عرق بخار ملیریا و تاپ تلی والے بخاروں کیواسطے اکسیر کا حکم رکھتا ہے میں نے دو شیشی زاید منگوایا ... مجھے دعویٰ ہے کہ اسکے مقابل ملیریا بخار کیلئے کوئی دوائی زود تر رفع کرنیوالی نہیں ہے اگر میری تعریف کو لوگ بیجا خیال نہ کریں تو میں کئی صفحہ لکھوں ..."

درد شکن (رجسٹرڈ)

اس دوائی کے ایک ہی پوڑیہ کے کھانے سے ۵ منٹ کے اندر چاہے کسی قسم کا درد ہو اور آنکھ۔ دانت کان۔ کمر۔ جوڑ وغیرہ کسی جگہ بھی درد ہو جاتا رہتا ہے پرانا درد ہو تو چند دن استعمال کرنا چاہیے۔ قیمت ۸ر نمونہ ۴ر لالہ دنی چند دیش لب گڑھ سے لکھتے ہیں :- "میری عورت کو عرصہ سال سے درد سر کا عارضہ تھا اور ایک قسم کا درد ہو جاتا رہتا تھا۔ مگر درد شکن سے یہ عارضہ دور ہو جاتا رہا مگر کبھی کبھی معمولی کا سا درد ہو جاتا تھا۔ درد شکن موجود تھی اسکو دیتے ہی فوراً ۵ منٹ میں درد رفع ہو جاتا ہے۔ نیز کمر درد پیٹ درد نیز ہر قسم کے درد میں مفید پایا ہے"

بچھو و چھلا (رجسٹرڈ)

یہ سو کھیا مسان کی دوائی ہے بچہ جب سوکھتا جاتا ہے اس دوائی کو اسکی کمر پر ملا جاتا ہے کمر سے بار یک کیڑے نکلتے ہیں بچہ ترو تازہ ہونا شروع ہوتا ہے قیمت امرا سے ۱۰ روپیہ عوام سے ۲ر غریبوں سے ۸ر بابو نانک پرشاد جی ہیڈ کلرک ریلوے انسٹیٹیوٹ لکھنو لکھتے ہیں :- "دوائی سوکھیا مسان بہت ہی مفید ودرد اثر ثابت ہوئی ہے تمام اشخاص جنہوں نے اس کی تاثیر دیکھی متعجب ہوا اور کہا کہ ایسی دوائی دیکھنے سننے میں نہیں آئی۔ اول روز ہی استعمال کئے جانے پر لڑکا دلڑکی دونوں کے کیڑے برآمد ہوئے تھے"

گولی امرت (رجسٹرڈ)

یہ گولیاں قبض۔ درد شکم۔ بدہضمی۔ کھانسی۔ تپ باری۔ درد جوڑ۔ سانپ بچھو کا ڈنگ۔ گنٹھیا۔ جلودھر۔ مرگی۔ ہیضہ۔ پیچش۔ درد دندان۔ زکام۔ نزلہ۔ سوزاک۔ آتشک۔ پرمیہ۔ درد سر۔ یرقان وغیرہ ستر امراض کے واسطے مفید ہے قیمت ۸ر ۶۰ گولی نمونہ ۱۰ گولی ۲ر بابو رام چندر جی اوورسیئر قانونگو تحصیل فتح آباد سے لکھتے ہیں :- "عرصہ تقریباً دس سال سے آپکے کارخانہ سے میں نے گولی امرت منگوائی تھیں مجھے اس بات کے اظہار میں بہت خوشی ہے کہ میں نے امرت گولیوں کو اس بارہ سال کے تجربے میں ۱۰۰ فیصدی مفید اور ۹۵ فیصدی اکسیر پایا ہے"

اکسیری (رجسٹرڈ)

شکر آنے کو دور کرکے ساتھ ... ہی تمام مردمی کی خرابیاں دور کرنے کے قابل ... قیمت ... نمونہ ... سکہ کر شربت ... خون کیواسطے ایک قبض کشا شربت ہے آتشک یا کسی وجہ سے خرابی ہو دور ہو کی قیمت ... روغن طلسم ... سر پر مالش کرنے سے بال ہی اچھے ہوتے ہیں دماغ بھی اور طرفہ یہ کہ عرصت دور ... قیمت فی شیشی ... سکہ جنا ... دیوا ایک پوٹلی ہے بوقت وضع حمل عورت کی کمر میں باندھ دینے سے بچہ باسانی پیدا ہوتا ہے قیمت ... سر سوب ... دلائتی ناروں کا فیتہ نہیں بلکہ ایسی دوائی ہے جسکو گلے میں باندھنے سے انت باسانی نکلتے ہیں قیمت ... گنڈا رسم ... جسکی ایک ہی گولی سے خونی بواسیر بند ہوتی ہے ... جو ناخن کو نکلنے سے روکتا ہے۔ دیگر دوائی وغیرہ وغیرہ کتنی بے نظیر ادویات ہیں جنکا کمی جگہ کے باعث مفصل ذکر نہیں کیا جاسکتا ہے

امرت دھارا کے مقابلہ دنیا میں کوئی عجیب دوائی نہیں ہے۔ ایک ہی دوائی تقریباً کل امراض کو اکسیر ہے اور جسکو اسوقت تک لاکھوں انسان استعمال کرکے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسکا حال پڑھو صفحہ ...

ایک ضروری اطلاع

اگلے دو صفحوں میں ہم صرف ادویات کے نام ان کے مختصر اوصاف اور قیمتیں درج کرینگے جس دوائی کی ضرورت ہو بلا شک و شبہ منگوا دیں یہ ادویات ۹۹ فیصدی بے خطا ہیں جو کہ مشہور و معروف دوائی امرت دھارا کے موجد اور طبی اخباروں کے ایڈیٹر اور تین درجن طبی کتب کے مصنف پنڈت ٹھاکر دت شرما وید کی زیر نگرانی تیار ہوتی ہیں اور کسی صاحب کو اپنی بیماری کے متعلق دوائی تجویز کرانی ہو تو اپنے حالات لکھکر ۸ر روپیہ اول خط پہنچنے کی فیس ساتھ بھیج دیں۔ دوائی تجویز کرکے جیسا آپکی مرضی ہو بھیجدی جاویگی یا لکھدی جاویگی۔ یہ فیس صرف ایک بار لیجاتی ہے پھر جب تک علاج جاری ہے مفت ہر بات دریافت کر سکتے ہیں اگر چاہیں قواعد علاج ... منگوا لیں۔ ہزاروں انسان بذریعہ خط و کتابت علاج کرا کر فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ جو لوگ پوشیدہ امراض کے مریض ہیں وہ رسالہ امراض مخصوصہ مردان ... منگوا کر اس کے مطابق علاج شروع کرادیں یہ رسالہ طالب علم طلب نہ کریں

خط یا تار کیواسطے پتہ :- امرت دھارا (۵۶) لاہور

صفحہ ۱۱۷ - ۱۱۹ - ۱۲۰ بھی ملاحظہ فرماویں

پنڈت جی کی تیار کردہ بے خطا ادویات جن سے ہزاروں مرد عورت فایدہ اٹھا چکے ہیں

ہر ایک دوائی کا نمونہ بھی دیا جاتا ہے۔ جو چاہیں اول نمونہ منگوا کر یقین کرلیں ؞

اکسیر ۱ — کمزوری و ضعف کی یہ بے نظیر دوائی ہے تمام مردانہ طاقتیں بحال ہوجاتی ہیں۔ سب نقائص دور ہوتے ہیں۔ قیمت ۴۰ گولی للعہ۔ نمونہ ۸

اکسیر ۵ — کمزوری و ضعف کیواسطے یہ نمبر ۱ سے بھی زیادہ مفید ہے۔ امیروں کے کام کی چیز ہے۔ قیمت ۴۰ گولی [illegible] نمونہ دو گولی ایک روپیہ (عہ)

اکسیر ۴۴ الف — یہ دوائی جریان کے واسطے اکسیر ہے۔ خواہ کسی وجہ سے ہو۔ نیز بدخوابی کو بھی نافع ہے۔ قیمت ۴۲ گولی [illegible] نمونہ ۴

اکسیر ۴۴ — یہ دوائی بدخوابی کے واسطے ہے۔ غیر شادی شدہ طالب علموں کی حفاظت کرتی ہے۔ قیمت سہ روپیہ۔ نمونہ ۴

اکسیر ۴۴ مجوب — تیسرے پہر کو ایک گولی کھائی جاتی ہے۔ . . . .

طلاء ۳ — جس نے اپنے پاؤں آپ کلہاڑا مارا ہے۔ انکے واسطے عام طلاء ہے۔ قیمت ایک روپیہ عہ۔ نمونہ دو آنے (۲)

طلاء ۴ — یہ اپاٹر کرتا ہے اور تمام کمزوریوں کو نکالتا ہے۔ رگ و پٹھے درست۔ قیمت تین روپے (سے) نمونہ بارہ آنے (۱۲)

طلاء ۸ — ایک چاول بھر ہی ایک بار جس نے آزمایا۔ تعریف کی . . . .

ان کے علاوہ کشتہ شنگرف درجہ اول سو روپیہ تولہ۔ درجہ دوم [illegible] روپیہ تولہ۔ کشتہ قلعی درجہ اول [illegible] تولہ۔ درجہ دوم [illegible] تولہ۔ کشتہ سنکھیا درجہ اول ۴۸ روپیہ تولہ درجہ دوم [illegible] تولہ کشتہ فولاد درجہ خاص سو روپیہ تولہ۔ درجہ اول [illegible] تولہ۔ درجہ دوم [illegible] روپیہ تولہ۔ کشتہ سونا درجہ اول [illegible] روپیہ تولہ درجہ دوم [illegible] روپیہ تولہ کشتہ چاندی آٹھ روپے تولہ۔ وغیرہ کشتہ جات طاقت کیواسطے ملتے ہیں ؞

اہلارام — کثرت حیض کی بیماری کسی قسم کی اور کسی درجے میں ہو اس سے آرام ہوتا ہے کوئی بے قاعدگی نہیں رہتی ؞ قیمت [illegible] روپے۔ نمونہ چار آنے

تپالی — یکی حیض کیواسطے خواہ کسی وجہ سے ہو اکسیر ہے طاقت بخشتی ہے۔ قیمت [illegible] نمونہ [illegible]

سوماوتی — عورتوں کے سفید پانی۔ جریان۔ لیوکوریا سیلان رطوبت کی اکسیر دوائی ہے۔ قیمت [illegible] نمونہ چار آنے (۴)

گود بھری — جن کے اولاد نہیں ہوتی ان کے ۲ یا ۳ ماہ کے اندر اندر گود ہری ہوتی ہے قیمت پانچ روپے (صہ) ۴ ماہ کے واسطے ؞

بال سکھ — بچوں کی عام امراض بدہضمی قبض۔ دست۔ کھانسی۔ بخار وغیرہ کیواسطے بے نظیر دوائی ہے۔ قیمت ایک روپیہ (عہ) نمونہ دو آنے (۲)

دوائی آتشک ۱۴ — نئے آتشک و بادی کو ۴ دن میں آرام آتا ہے اور پھر کبھی نہیں ہوتا ہے قیمت للعہ نصف [illegible] روپے۔

سارسا پرلا مرکب — پرانا آتشک جب خون خراب کر دے یہ دوائی خون صاف کرکے جسم کو کندن کرتی ہے۔ قیمت [illegible] نمونہ [illegible]

سکھ کر شربت — تمام جلدی اور خونی امراض کے دفعیہ کیواسطے یہ دل خوش کن قیمتی شربت تیار کیا گیا ہے قیمت فی شیشی [illegible] (ڈیڑھ روپیہ) فی پونڈ

سوزو شاف — سوزاک کی بے نظیر دوائی جلن۔ سوزش وغیرہ اول دن ہی موقوف چند دنوں میں بالکل آرام آتا ہے۔ قیمت [illegible] نمونہ ۲

دوائی بواسیر ۴۴ — خونی و بادی ہر قسم کی بواسیر کے واسطے بے نظیر ہے سالوں کی بیماری دنوں میں دور۔ قیمت [illegible] نمونہ ۴

دوائی تلی ۲ — تاپ تلی کے واسطے بے نظیر دوائی ہے۔ ہاضمہ تیز ہوتا ہے قیمت دو روپے فی شیشی (عہ) نمونہ چار آنے (۴)

کرکول — ہاضمہ کی بے نظیر دوائی۔ بھوک بڑھاتی اور معدے آنتوں کی تمام تکالیف دور کرتی ہے قیمت ۶۰ گولی [illegible] ۳۰ گولی ایک روپیہ۔ نمونہ ۴

دنت ویرچن — جلاب کیواسطے یہ دوائی بے نظیر ہے جتنے جلاب لینے ہوں اچھی طرح ہو جاتے ہیں۔ قیمت ایک روپیہ (عہ) نمونہ ۲

آرام جان — جن کو قبض دائمی رہتی ہے وہ ان کو کھایا کریں۔ آہستہ آہستہ بیماری دور ہو جاویگی قیمت ۳۲ گولی ایک روپیہ (عہ) ۱۶ گولی ۸

منڈور ٹیکا — یرقان۔ زردی و سفیدی رنگت یعنی ضعف جگر کی دوائی۔ رنگ سرخ کرتی ہے۔ قیمت ۱۶ گولی عہ

سنگ توڑ — پتھری کنکری گردہ یا مثانہ کو بلا تکلیف ریزہ ریزہ خارج کرتی ہے قیمت ۱۶ [illegible]

بلا دور — ان گولیوں سے افیون چھوٹ جاتی ہے۔ سینکڑوں چھوڑ چکے ہیں قیمت [illegible] فی شیشی

اکھ دوش — آنکھوں کی عام امراض۔ دھند۔ جالا۔ پانی۔ خارش سرخی وغیرہ کے واسطے مفید ہے۔ قیمت ۱۲ نمونہ ۱

پھولا کیورا — پھولا کیواسطے خاص دوائی ہے نیز دھند جالا وغیرہ کو مفید ہے قیمت فی تولہ [illegible]

سرمہ ۱۱ — نگروں کیواسطے بے نظیر دوائی ہے یہ لا علاج مرض سلائی سرمہ ڈالنے سے کافور ہوگی قیمت [illegible] تولہ

مردوں کی خفیہ امراض کی وجہ تسمیہ اور علاج مفصل دیکھنا ہو تو رسالہ امراض مخصوص مردمان ٹکٹ بھیجکر مفت منگوالیں

ادویات کی فہرست طلب کرنے پر مفت بھیجی جاویگی تقریباً ۲۵۰ مجرب ادویات ہمیشہ تیار رہتی ہیں

کرن تیل — کان کی امراض درد۔ پیپ۔ زخم، شائیں شائیں، کمی سماعت کے واسطے بہت اعلےٰ تیل ہے۔ قیمت عہ روپیہ۔ نمونہ چار آنے (۴ر)

دت لسنوار — لسنوار لینے سے بلا چھینک آنے کے درد سر۔ آدھا سیسی۔ داڑھ درد کان درد۔ نزلہ زکام وغیرہ دور ہوتے ہیں قیمت فی تولہ عہ ر نمونہ ۴ر

گیر سس — داد کی لاثانی دوائی۔ نہ جلن نہ درد اور چند دن میں بیماری دور قیمت عہ ایک روپیہ۔ نمونہ چار آنے (۴ر)

تجبہ چھیب — اس کے لگانے سے ہم چھیب، سفید داغ سب دور ہوتے ہیں قیمت فی تجبہ آٹھ آنے (۸ر) جو ایک انچ جگہ کو کافی ہے۔

مالا ہر — یہ خنازیر یعنی کنٹھمالا (بد ہجیروں) کی دوائی ہے۔ ۴۰ دن کے اندر بند یا پھٹی ہوئی دونو ہی دور ہوتی ہیں قیمت چار روپے (للعہ)

دوائی پلیگ — اس کے استعمال سے ۹۰ فیصدی آرام ہوتا ہے اور ہر ماہ ۵۔۷ گولی کھالینے سے خطرہ بیماری کا نہیں رہتا ہے قیمت ۴۰ گولی صرف ۸ر

کالا لیپ — یہ لیپ طاعون کی گلٹی پر لگانے کے واسطے ہے۔ گلٹی کو جلا دیتا ہے۔ قیمت فی شیشی آٹھ آنے (۸ر)

گولی کھانسی — منہ میں رکھ کر چوستے رہنے سے کھانسی خشک ہو یا تر دور ہو جاتی ہے۔ قیمت ۶۰ گولی عہ ر نمونہ دو آنے ۲ر

اکسیر بدن — کھانسی نئی یا پرانی، خشک و تر۔ دمہ کی کھانسی۔ دمہ وغیرہ سب کے واسطے بے نظیر ہے قیمت فی شیشی عہ نصف ۱۲ر

نسبت مالتی رس — پرانے بخاروں کے واسطے چاہے وہ کسی قسم کے ہوں۔ یا وشم جور کی قسم کے آرام دیتی ہے قیمت ۸ گولی عہ ر

کمیر رس — مرگی نئی ایک ماہ کے اندر پرانی تین ماہ کے اندر ضرور دور ہوتی ہے قیمت ۳۰ گولی عہ

درشنی — گنٹھیا، درد جوڑ۔ سوجن وغیرہ کے واسطے نہایت مفید گولیاں ہیں قیمت ۶۰ گولی دو روپے (عہ) نمونہ چھ آنے (۶ر)

سورج گھرت — خارش خشک و تر یعنی پھوڑے پھنسیاں سب اسکے ملنے سے دور ہوتی ہیں۔ بچوں والے گھر میں ہمیشہ رہے قیمت فی شیشی عہ ر نمونہ ۴ر

پینٹر آئیل — یہ تیل دردوں پر مالش کرنے کے واسطے ہے۔ کسی مقام پر کہیں بھی درد ہو اسکی مالش کرنی چاہیے۔ قیمت عہ ر نمونہ ۸ر

سرسوتی — دماغی کمزوری۔ کمی حافظہ۔ زکام نزلہ۔ دائمی وغیرہ کے واسطے دودھ میں ابال کر پینا چاہیے۔ قیمت ۵ تولہ ایک روپیہ (عہ ر)

بلپوروٹی — یہ گولیاں آتشک۔ سوزاک۔ بواسیر۔ گنٹھیا۔ درد کمر۔ کمزوری۔ درد سر۔ لقوہ۔ فالج۔ مرگی وغیرہ کئی امراض کے واسطے مفید ہیں قیمت ۴۲ گولی عہ ر

خط و کتابت کے واسطے پتہ ہر دو۔ امرت دھارا ۵۶ لاہور

ادویات متعلقہ خوبصورتی

مکھ ریب (رجسٹرڈ) مونچھیں بڑھانے کا تیل — یہ تیل نہ صرف مونچھوں کو بلکہ ہر جگہ کے بالوں کو بخوبی بڑھاتا ہے۔ ان کی سیاہی کو قایم رکھتا ہے قیمت فی شیشی ۱۳ اونس دو روپے (عہ) نمونہ چار آنے ۴ر

ابٹن (چت موہنی) رجسٹرڈ — چہرے کے بدنما داغ، کیل، چھائیاں وغیرہ دور ہو کر چہرہ صاف ہوتا ہے۔ جھریاں نہیں پڑتیں۔ قیمت صرف ایک روپیہ (عہ ر) نمونہ دو آنے (۲ر)

دل سندری رجسٹرڈ (حسن افزا) — یہ تیل ہے چہرہ کو چمکاتا ہے اور داغ کیل وغیرہ کو دور کرتا ہے قیمت فی شیشی ۱۴ ر نمونہ ۲ر

بال اڑانے کی بے نظیر دوائی — اس دوائی کو پانی میں گھول کر لگانے سے ایک منٹ کے اندر سخت سے سخت اور نرم سے نرم جگہ کے بال بہ صفائی کمال جڑھ سے دور ہوتے ہیں قیمت فی ڈبیہ چھ آنے (۶ر) نمونہ ایک آنہ ار

بال دور کرنے کی دوائی — (بال عمر بھر نہ اگیں) بال دور کرنے کی دوائی ملنے سے بال پھر عمر بھر نہیں اگتے۔ قیمت فی شیشی للعہ ر۔ نمونہ نہیں۔

مصالحہ پان — ایک چٹکی پان پر رکھ دیجیے۔ پان تیار ہے ویسا ہی رنگ ویسا ہی مزا اسکے علاوہ بدبوئے دہن کو دور کریگا۔ قیمت عہ ر نمونہ ۲ر

گولی پان — ایک گولی منہ میں رکھنے سے پان کا مزا بھی آویگا۔ فایدہ بھی ہوگا۔ قیمت ۶۰ گولی عہ ر نمونہ دو آنے (۲ر)

انٹی میڈ (رجسٹرڈ) — موٹا ہونا ایک تکلیف دہ بیماری ہے اسکو استعمال کرنے سے ایک ہفتہ کے اندر ہی فایدہ ہوتا ہے قیمت فی شیشی خوراک ایک ماہ للعہ ر۔ ۱۵ دن عہ ر

منجن ۱ — دانتوں کی امراض مثل خون جانا۔ درد دندان بدبوئے دہن کو دور کرتا ہے قیمت ۴ر نمونہ ار

منجن ۲ — خاص کر دانتوں کی صفائی کے واسطے بنایا گیا ہے اسکے ملتے رہنے سے دانت موتیوں کی طرح ہوتے ہیں قیمت ۴ر۔ نمونہ ایک آنہ (ار)

باغ پھول تیل رجسٹرڈ — بالوں پر تمام تیلوں کا سرتاج ہے بالوں کو نرم و ملایم کرتا ہے بڑھاتا ہے سر کو ٹھنڈا رکھتا۔ سیاہی کو قایم رکھتا۔ صرف خوشبو ہی نہیں مفید بھی ہے۔ قیمت فی شیشی ایک روپیہ (عہ ر)

کوملپری (رجسٹرڈ) — پاؤں کی بوائی پھٹی ہو یا ہاتھ پھٹ رہے ہوں استعمال سے بہت جلد آرام آتا ہے۔ قیمت فی ڈبیہ ایک روپیہ (عہ ر)

حسن ملائی رجسٹرڈ — چہرہ کو نرم و ملایم اور خوبصورت کرتی ہے۔ چھائیاں وغیرہ دور ہوتی ہیں۔ قیمت عہ روپے۔ (نمونہ آٹھ آنے (۸ر)

پران سکھ — (رجسٹرڈ) چھاتیوں کو ڈھلکنے سے بچاتا ہے اور ڈھلکے ہوؤں کو اصلی حالت پر لاتا ہے قیمت سالم چار روپے (للعہ ر) نمونہ (عہ ر)

ہر دل عزیز (رجسٹرڈ) — الائچی کی طرح چوسنے سے منہ میں بدبو دور ہو کر خوشبو پیدا ہوتی ہے قیمت ۳ ر گولی

 اس کے پہلے صفحہ ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ بھی ضرور دیکھئے

[illegible] ں مادہ تولید [illegible] الیا ہے۔ [illegible] ان کی زندگی
[illegible] ار ہے۔ جب اس میں [illegible] نقص پیدا ہو جا [illegible] تو انسان کے
[illegible] امراض پیدا ہو جاتے ہیں طبیعت ہر وقت پژمردہ [illegible] تی ہے۔ حوصلہ
وبہادری کافور ہو جاتی ہے۔ ذرا سی آواز پر دل دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ جسم میں
ہر وقت تھکاوٹ و سستی رہتی ہے۔ بھوک نہیں لگتی۔ خیالات ہر وقت پراگندہ اور چہرہ
زرد بے رونق رہتا ہے۔ سر و کمر میں ہر وقت درد رہتا ہے۔ خاصکر اولاد سے جو دنیا میں نعمت
غیر مترقبہ ہے۔ مایوسی ہو جاتی ہے۔ اور انسان اپنی زندگی کو وبال جان خیال کرتا ہے۔
ایسے لوگوں کے لئے ہم ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں۔ کہ ہم نے سالہاسال کی محنت سے تنتر
شاستروں کے انسار اس دھات پشٹ دوائی کا نسخہ تیار کیا ہے۔ اور بموجب جوتش شاستر گرہوں
کی سعادت و نحوست کو مد نظر رکھ کر خاص خاص سعد وقتوں میں یہ دوائی تیار کیجاتی ہے اس کے
باقاعدہ استعمال کرنے سے مندرجہ بالا تمام خرابیاں دور ہو کر تمام مردہ طاقتیں از سر نو زندہ ہو کر انسان
کی تمام دلی امیدیں پوری ہونگی۔ دل میں سرور۔ چہرے پر بشاشت۔ آنکھوں میں نور اور دل میں جوانی
کی امنگیں پیدا ہونگی۔ جریان۔ سستی۔ کمزوری وغیرہ کی تمام شکائتیں دور ہو جاوینگی۔
پوری تشریح کرنا خلاف تہذیب ہے۔ تندرست آدمی بھی اگر اس کو استعمال کرے۔ تو
اس کے تمام اعضائے رئیسہ کو قوت دیکر حافظہ کو بڑھاتی ہے۔ خون صالح بدن میں پیدا کر کے
آدمی کو طاقتور پہلوان بنا دیتی ہے۔ چہرہ مانند کندن کے چمکنے لگتا ہے ٭
قیمت فی ڈبیہ دو روپیہ ۲ر جو ایک ماہ کی خوراک کے لئے کافی ہے۔ محصولڈاک ۶ر کل قیمت ۲ر۶

ملنے کا پتہ:۔ مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور (تار کا پتہ "مشہور" لاہور) (ٹیلیفون نمبر ۲۳۴۷)

١٢٠ اس کے پہلے صفحہ ١١٧ - ١١٨ - ١١٩ بھی ضرور دیکھئے

امرت دھارا

کوئی نودویہ بھوشن پنڈت ٹھاکردت شرما وید کی اس ایجاد نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے ایک ہی دوائی خوراک بھی چند بوند اور پھر دنیا بھر کی امراض کا علاج کیسی عجیب بات ہے مگر سچ ہے۔ لاکھوں استعمال کرنے والوں میں سے ٢٦ ہزار لکھ کر بھیج چکے ہیں کہ امرت دھارا ہر وقت ہر شخص کو موجود رکھنی چاہیے۔ کیونکہ یہ اکیلی دوائی کھانے یا لگانے سے تقریباً کل امراض جو عام طور پر گھروں میں بوڑھوں بچوں یا جوانوں کو ہوتی ہیں حکمی علاج ہے۔ امرت دھارا کا اسقدر شہرہ دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ اسکے ڈاک خانہ نے ایک خاص ڈاک خانہ بنام امرت دھارا ڈاک خانہ امرت دھارا کی عالیشان عمارت میں ہی کھول دیا ہے۔ کمیٹی نے سڑک کا نام بھی امرت دھارا ... ہے بچہ بچہ کی زبان پر ... کا نام جاری ہے۔ جھوٹے اشتہار بازوں نے ایسے ہی اشتہار دینے شروع کر دیئے۔ مگر پبلک جلد ہی آگاہ ہو گئی اسلئے لوگوں نے جھوٹے نسخے ... امرت دھارا کا نام دن بدن روشن ہی ہوتا گیا عقلمند وہ شخص ہے جو ہر وقت اسکو پاس رکھتا ہے۔ یہ بہت سے خرچ بچاتا ہے۔ پلیگ ہیضہ ... انفلوئنزا۔ ذات الجنب۔ تپ دق۔ دمہ۔ سانپ و بچھو کا ڈنگ۔ سنگرہنی۔ جلودھر گنٹھیا ... ک۔ بواسیر وغیرہ ... کام۔ کھانسی ... کی بھی اکسیر ثابت ہو رہی ہے۔ درد ... بخار۔ گڑگڑاہٹ۔ بدہضمی قبض ... کا دکھنا۔ دھند۔ درد ... بھڑ کھیل وغیرہ کا ڈنگ

اس کے سیاہ ...

PUNDIT
GIRDHARI LALL
MUNAJIM & JAFFAR
SIALKOTI-1896-LAHORE

پنڈت گردھاری لعل منجم و جفار سیالکوٹی لاہور

١٨٩٦ء

مینجر بھارگو کول اینڈ کو لکھنؤ

میاں احمد حسین فضل الرحمن دہلی

کلیان مل ... لال راولپنڈی

مرلی داس گپتا سلطانپور

حاجی غنی احمد لکھنؤ

کشن لال اگروال دہلی

لالہ کنہیا لال ... آگرہ

احمد حسین امان اللہ کلکتہ

نند لال رام لال پٹیالہ

مولوی ... احمد ... بازار ...

لکھنؤ ... میرٹھ

رام چرن لال اگروال بریلی

چند لال ... لال میرٹھ

...کشیتر جنتری

مؤلفہ و مرتبہ شنکر نما بنیرہ پنڈت روی پنڈت گردھاری لال جوتشی متوطن قصبہ تراوڑی ضلع کرنال

پبلشرز

گپتا اینڈ کمپنی - نئی سڑک دہلی

تعداد اشاعت ۳۵۰۰۰ پینتیس ہزار

دی نیو یونیورسل الیکٹرک پرنٹنگ ورکس اجمیری گیٹ دہلی میں باہتمام جیوتی پرشاد گپتا چھپی

اتنے زیادہ مفید و کامل کتابیں دنیا میں ڈھونڈھی نہ ملیں گی دریا کوزہ میں بند ہے

ان کو پڑھ کر پورے حکیم۔ ڈاکٹر۔ وکیل۔ نجومی بنجاؤ۔ پھر کسی کو فیس دینے سے کام نہ خوشامد کرنیسے نہ ذراسی غلطی سے بیماری بڑھنے کا مقدمہ بگڑنے کا ڈر نہ رہیگا

جوہر حکمت

پچاس کتابوں کے برابر اکیلی کتاب میں تمام امراض کا علاج باقاعدہ ویدک۔ ڈاکٹری۔ ہومیوپیتھی۔

چودھویں بار چھپی ہے۔ بہت اضافہ کے ساتھ ۴۲۰ صفحہ۔ خوبصورت قیمت فی جلد (عہ)

اس کو پڑھ کر کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہ رہیگی۔ نہ کسی سے پوچھنے کی۔ ہر ایک بیماری کا علاج خود کرلو۔ چاہے جس طریقہ پر۔ قرابادین۔ مخزن۔ میٹریا میڈیکا۔ چرک۔ سشروت وغیرہ صدہا انگریزی۔ سنسکرت و فارسی کتابوں کا عطر و خلاصہ ہے۔

باب (۱) جسمیں ۲۰۰۰ بیماریوں کے نام فارسی۔ سنسکرت۔ انگریزی معہ تشخیص وغیرہ۔
باب (۲) ۲۰۰۰ ادویات کے نام چاروں زبانوں میں تاثیر و شناخت و معتاد۔
باب (۳) رگوں و ہڈیوں وغیرہ کے نام چار زبانوں میں تاثیر و شناخت و معتاد۔
باب (۴) تمام بیماریوں کا علاج۔ ڈاکٹری ویدک یونانی میں شناخت اسباب اقسام پرہیز وغیرہ
باب (۵) حفظ صحت کے اصول طبی ہدایات۔ کھانیکی چیزوں کے خواص۔
باب (۶) ہر قسم کے جوہر اڑانا۔ تیل نکالنا۔ کشتہ بنانے کی ترکیب۔ ایسنس وغیرہ
باب (۷) حکماء قدیم کے مشہور نسخے امریکہ و جرمنی وغیرہ کے ڈاکٹروں کی تحقیقات۔
باب (۸) قارورہ۔ قبض وغیرہ کی شناخت۔ انگریزی ادویات و آلات وغیرہ۔

ودیا ساگر کا انگلش ٹیچر

قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ (عہ)

بلا استاد کے چند روز میں انگریزی سکھانیوالی سب سے بہتر کتاب جس کو پڑھ کر انٹرنس کی لیاقت ہوجاتی ہے۔ اس اکیلی کتاب میں گرامر۔ ٹرانسلیشن۔ ایڈیم۔ ڈکشنری سب شامل ہیں۔ اسمیں ہر ایک لفظ کا تلفظ اور معنی اردو میں لکھے ہیں۔ ترجمہ کرنیکے قواعد اور مثالیں بول چال کے فقرے۔ ہر محکمہ اور ہر موقع کے ہر قسم کے ہزاروں الفاظ و اصطلاحات۔ سینکڑوں محاورے کے بالخصوص الفاظ اور فقرے اور ان کے استعمال کے صحیح موقع اور طریقے چٹھی۔ عرضی۔ معنی در معنی وغیرہ اور صدہا باتیں جو کسی کتاب میں نہ ملیں گی۔ اسی واسطے دس سال میں یہ دسویں بار چھپکر ۲۲ ہزار کاپیاں بک چکی ہیں۔ بڑے بڑے عالموں۔ افسروں و ہیڈ ماسٹروں نے اسکی تعریف لکھی۔ اور پنجاب کے تعلیمی اخبار نے اس کو آج کل کی سب کتابوں سے بہتر بتلایا ہے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ (عہ)

انگریزی خالق باری بھی ہمنے چھپوائی ہے۔ ۴۲ صفحہ قیمت آٹھ آنے۔ اس میں پندرہ سو کے قریب انگریزی الفاظ کے معنی دلکش نظم میں بتلائے ہیں۔ اور نیچے انگریزی ہجے بھی لکھ دئے ہیں۔ قیمت آٹھ آنے (۸/)

اصلی کوک شاستر

معہ ۳۶ تصاویر — قیمت (عہ)

اس نام کی کتابیں آجکل بہت چل رہی ہیں اور اسکے جھوٹے اشتہار دیکر لوگ خوب پبلک کو لوٹ رہے ہیں۔ ہماری کتاب کو انکے موافق نہ سمجھیں یہ اصلی ہے اسکی تعریف بہتسے اخبارات میں طبع ہوچکی ہے سنسکرت و فارسی میں بھی کئی قسم کے قلمی کوک شاستر ملتے ہیں اسمیں سب کا خلاصہ ہے معہ جدید تحقیقات فرنگی عالموں کی اسواسطے یہ اب تک ۳ بار چھپکر ستر ہزار کاپیاں فروخت ہوچکی ہیں اسمیں وہ سب باتیں ہیں جن کی جوانوں کو تلاش یا ضرورت ہے مثلاً عورتوں کے اقسام قیافہ دخواص چاند کا اثر مقامات شہوت پر۔ بڑھاپے تک جوان بنا رہنا۔ خوبصورت بننا رنگ گورا جسم لمبا و موٹا و مضبوط کرنا۔ کمر پتلی سینہ بڑا۔ بال سیاہ کرنا اور حسب دلخواہ لڑکا یا لڑکی پیدا کرنا۔ پیدائش بند کرنا۔ نامرد و بانجھ کو صاحب اولاد بنانا۔ عورت کو خوش کرنے و قابو میں رکھنے کے عجیب عمل حکماء سلف کے مخفی معالجے۔ بسی گرن طلا۔ آسن وغیرہ۔ عمر بھر عیش سے زندگی بسر کرنا اور کیل کانٹے سے درست رہنا چاہیں وہ مرد و عورت دونو اسکو پڑھیں قیمت (عہ)

جوہر قانون

قیمت (عہ)

اس اکیلی کتاب میں ۸۴ قوانین کا خلاصہ دفعہ وار لکھا ہے۔ تمام ضروری قواعد جن سے سب کو کام پڑتا ہے۔ تعزیرات ہند۔ ضابطہ فوجداری۔ ضابطہ دیوانی۔ نیا قانون شہادت۔ اسٹامپ۔ کورٹ فیس۔ رجسٹری۔ انکم ٹیکس۔ خفیہ۔ میعاد۔ [illegible]۔ آبکاری۔ لگان۔ میونسپل ایکٹ جیلخانہ۔ قمار بازی۔ مداخلت مویشی۔ ٹیکا۔ کورٹ آف وارڈس۔ پرمٹ۔ افیون۔ نمک۔ جنگل۔ سرائے۔ پڑاؤ۔ کرایہ گاڑی۔ دفینہ۔ اسلحہ۔ تارک المذہب۔ کاپی رائٹ۔ پیٹنٹ۔ ایجاد۔ بیرحمی جانوران دختر کشی۔ ڈاک۔ تار وغیرہ۔ ایک ہائیکورٹ کے وکیل کا ترمیم شدہ۔ ایسی عام فہم عبارت ہے کہ ہر شخص سمجھ سکے۔ پھر وکیل سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑیگی۔

قیمت میں رعایت کی نسبت لکھنا فضول ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اشتہار کے موافق نہ ہو تو فوراً واپس کردیجئے گا۔

ان سب کتابوں کے ملنے کا پتہ:- **ودّیا ساگر ڈپو کارخانہ نمبر ۸۰ مقام علیگڈھ**

اپنا پتہ صاف و مفصل تحریر فرمایئے

مضمون اشتہار رجسٹری شدہ ہے

فہرست تعطیلات دیوانی فوجداری عدالتہائے پنجاب سنہ ۱۹۳۰ء

نام تیوہار	بہ تاریخ انگریزی	بہ تاریخ بکرمی	بہ تاریخ اسلامی	بروز	تعداد ایام
نیو ایرز ڈے	یکم جنوری ۱۹۳۰ء	۱۸ پوہ	۳۰ رجب	بدھ وار	۱
لوہڑی	۱۲ جنوری	۲۹ پوہ	۱۱ شعبان	اتوار	۱
شب برات	۱۵ جنوری	۳ ماگھ	۱۴ شعبان	بدھ وار	۱
بسنت پنچمی	۳ فروری	۲۲ ماگھ	۳ رمضان	سوموار	۱
شیوراتری	۲۶ فروری	۱۵ پھاگن	۲۶ رمضان	بدھ وار	۱
جمعۃ الوداع	۲۸ فروری	۱۷ پھاگن	۲۸ رمضان	جمعہ	۱
عید الفطر	۲ مارچ	۱۹ پھاگن	یکم شوال	اتوار	۱
ہولی	۱۴ مارچ	یکم چیت	۱۳ شوال	جمعہ	۱
دہولنڈی یا پھاگ دہولی	۱۵ مارچ	۲ چیت	۱۴ شوال	شنی وار	۱
درگا اشٹمی ۱	۶ اپریل	۲۴ چیت	۶ ذیقعدہ	اتوار	۱
رام نومی	۷ اپریل	۲۵ چیت	۷ ذیقعدہ	سوموار	۱
بیساکھی	۱۳ اپریل	یکم بیساکھ	۱۳ ذیقعدہ	اتوار	۱
سومتی اماوس	۲۸ اپریل	۱۶ بیساکھ	۲۸ ذیقعدہ	سوموار	۱
عید الضحیٰ	۱۰ مئی	۲۸ بیساکھ	۱۰ ذی الحجہ	شنی وار	۱
نرسنگھ چودس	۱۱ مئی	۲۹ بیساکھ	۱۱ ذی الحجہ	اتوار	۱
ایسٹر ہالیڈے	بموجب گزٹ				
ایمپائر ڈے	۲۴ مئی	۱۱ جیٹھ	۲۴ ذی الحجہ	ہفتہ	۱
سالگرہ قیصر ہند	۳ جون	۲۹ جیٹھ	۵ محرم	منگلوار	۱
نرجلا اکادشی	۷ جون	۲۵ جیٹھ	۹ محرم	شنی وار	۱
محرم الحرام تعزیہ	۸ جون	۲۶ جیٹھ	۱۰ محرم	اتوار	۴
بینک ہالیڈے	۳۰ جون	۱۷ اساڑھ	۳ صفر	سوموار	۱
بیاس پوجا	۱۰ جولائی	۲۷ اساڑھ	۱۳ صفر	گورو وار	۱
آخری چہار شنبہ	۲۳ جولائی	۸ ساون	۲۶ صفر	بدھوار	۱
بارہ وفات	۸ اگست	۲۴ ساون	۱۲ ربیع الاول	شکروار	۱
سلونو رکشا بندھن	۹ اگست	۲۵ ساون	۱۳ ربیع الاول	شنی وار	۱
جنم اشٹمی	۱۷ اگست	۲ بھادوں	۲۱ ربیع الاول	اتوار	۱
باون دوادشی	۴ ستمبر	۲۰ بھادوں	۱۰ ربیع الآخر	گورو وار	۱
اننت چودس	۶ ستمبر	۲۲ بھادوں	۱۲ ربیع الآخر	شنی وار	۱
سومتی اماوس	۲۲ ستمبر	۷ اسوج	۲۸ ربیع الآخر	سوموار	۱
درگا اشٹمی ۲	۳۰ ستمبر	۱۵ اسوج	۷ جمادی الاول	منگلوار	۱
بجیا دشمی دسہرہ	۲ اکتوبر	۱۷ کوار	۹ جمادی الاول	گورو وار	۴
دیوالی مہا لکشمی پوجن	۲۱ اکتوبر	۵ کارتک	۲۸ جمادی الاول	منگلوار	۳
بھیا دوج	۲۳ اکتوبر	۷ کارتک	۳۰ جمادی الاول	گورو وار	۱
دیو اٹھان	۲ نومبر	۱۷ کارتک	۱۰ جمادی الآخر	اتوار	۱
گنگا سنان کاتکی	۶ نومبر	۲۱ کارتک	۱۴ جمادی الآخر	گورو وار	۱
کرسمس ڈے	۲۴ دسمبر تا ۳۱ دسمبر	۱۰ پوہ سے ۱۷ پوہ تک	۳ شعبان سے ۱۰ شعبان تک	بدھ وار تا بدھ وار	۸
پرتھودک سنان	۳۰ مارچ	۱۷ چیت	۲۹ شوال	اتوار	۱
میلہ [illegible]ہ	۶ نومبر	۲۱ کارتک	۱۴ جمادی الآخر	گورو وار	۱

نوٹ - ہر ماہ میں ہر اتوار اور آخر شنبہ کی تعطیل ہوتی ہے مگر آخر شنبہ کی تعطیل بوجہ زیادتی کام بعض اوقات افسران مقامی بند کر دیتے ہیں۔ اور بعض اول شنبہ کی دے دیتے ہیں بوجہ کمی کام کے۔ عدالتہائے دیوانی ماہ ستمبر میں بند رہتی ہیں سوائے پہاڑی مقامات کے جہاں عموماً اگست میں بوجہ برسات بند رہتی ہیں۔

فہرست تعطیلات عدالتہائے ممالک متحدہ آگرہ و اودھ سنہ ۱۹۳۰ء

نام تیوہار	بہ تاریخ انگریزی	بہ تاریخ بکرمی	بہ تاریخ اسلامی	بروز	تعداد ایام
نیو ایرز ڈے	یکم جنوری	۱۸ پوہ	۳۰ رجب	بدھ وار	۱
مکر سنکرانت	۱۳ جنوری	یکم ماگھ	۱۲ شعبان	سوموار	۱
شب برات	۱۵ جنوری	۳ ماگھ	۱۴ شعبان	بدھ وار	۱
بسنت پنچمی	۳ فروری	۲۲ ماگھ	۳ رمضان	سوموار	۱
شیوراتری	۲۶ فروری	۱۵ پھاگن	۲۶ رمضان	بدھوار	۱
جمعۃ الوداع	۲۸ فروری	۱۷ پھاگن	۲۸ رمضان	جمعہ	۱
عید الفطر	۲ مارچ	۱۹ پھاگن	یکم شوال	اتوار	۱
ہولی	۱۴ مارچ	یکم چیت	۱۳ شوال	جمعہ	۱
دہولنڈی دیول پھاگ	۱۵ مارچ	۲ چیت	۱۴ شوال	شنی وار	۱
درگا اشٹمی	۶ اپریل	۲۴ چیت	۶ ذیقعدہ	اتوار	۱
رام نومی	۷ اپریل	۲۵ چیت	۷ ذیقعدہ	سوموار	۱
میکھ سنکرانت	۱۳ اپریل	یکم بیساکھ	۱۳ ذیقعدہ	اتوار	۱
سومتی اماوس	۲۸ اپریل	۱۶ بیساکھ	۲۸ ذیقعدہ	سوموار	۱
عید الضحیٰ	۱۰ مئی	۲۸ بیساکھ	۱۰ ذی الحجہ	ہفتہ	۱
نرسنگھ چودس	۱۱ مئی	۲۹ بیساکھ	۱۱ ذی الحجہ	اتوار	۱
ایسٹر ہالیڈے	بموجب گزٹ				
ایمپائر ڈے	۲۴ مئی	۱۱ جیٹھ	۲۴ ذی الحجہ	شنی وار	۱
سالگرہ قیصر ہند	۳ جون	۱۹ جیٹھ	۵ محرم	منگلوار	۱
نرجلا اکادشی	۷ جون	۲۵ جیٹھ	۹ محرم	شنی وار	۱
محرم الحرام تعزیہ	۸ جون	۲۶ جیٹھ	۱۰ محرم	اتوار	۴
بیاس پوجا	۱۰ جولائی	۲۷ اساڑھ	۱۳ صفر	گورو وار	۱
چہلم شہدائے کربلا	۱۷ جولائی	۲ ساون	۲۰ صفر	گورو وار	۱
ناگ پنچمی	۳۰ جولائی	۱۵ ساون	۳ ربیع الاول	بدھوار	۱
بارہ وفات	۸ اگست	۲۴ ساون	۱۲ ربیع الاول	جمعہ	۱
سلونو رکھشا بندھن	۹ اگست	۲۵ ساون	۱۳ ربیع الاول	شنی وار	۱
کرشن جنم اشٹمی	۱۷ اگست	۲ بھادوں	۲۱ ربیع الاول	اتوار	۱
اننت چودس تیرودشی	۶ ستمبر	۲۲ بھادوں	۱۲ ربیع الآخر	شنی وار	۱
سومتی اماوس	۲۲ ستمبر	۷ کنوار	۲۸ ربیع الآخر	سوموار	۱
سرسوتی آباہن	۲۹ ستمبر	۱۴ کنوار	۶ جمادی الاول	سوموار	۱
بجیا دشمی دسہرہ	۲ اکتوبر	۱۷ کنوار	۹ جمادی الاول	گورو وار	۴
تعطیل کلاں بموجب گزٹ					
دیپ مالا	۲۱ اکتوبر	۵ کارتک	۲۸ جمادی الاول	منگلوار	۳
دیوپربودھنی اکادشی	۲ نومبر	۱۷ کارتک	۱۰ جمادی الآخر	اتوار	۱
کاتکی سنان	۶ نومبر	۲۱ کارتک	۱۴ جمادی الآخر	گورو وار	۱
کرسمس ڈے	۲۴ دسمبر تا ۳۱ دسمبر	۱۰ پوس سے ۱۷ پوس تک	۳ شعبان سے ۱۰ شعبان تک	بدھوار سے بدھوار تک	۸

نوٹ - گوٹی پڑوا ۳۱ مارچ بروز سوموار میلہ گیارھویں شریف ۵ ستمبر بروز جمعہ یعنی ۱۱ ربیع الآخر ہوگا۔ میلہ بدھو بابا ۹ اپریل بروز بدھوار ہوگا تیوہار اہل اسلام رویت قمر پر انحصار رکھتے ہیں جو بعض اوقات ایک روز پیش و پس ہو جاتے ہیں مگر جنتری ہذا میں چاند کی رویت کو بالکل ٹھیک دیکھکر تعطیلات و تیوہار درج کئے گئے ہیں جنکو مندرجہ جنتری ہذا دیکھکر منایا جاوے۔

راقم مصنف جنتری ہذا

برش لگن یعنی برش پرویش زائچہ مندرجہ ذیل ۲۱ گھڑی پل



اُس پورن برہم پرماتما کی عنایت و مہربانی کا ہم ہزار بار شکر کرتے ہیں کہ جس نے زمین و آسمان کرہ ہوائی میں ہمارے لئے لاکھوں قسم کی نعمتیں پیدا کیں خواہ آپ معدنیات حیوانات جمادات نباتات وغیرہ میں سے کسی شے کو شمار کیجئے علاوہ ازیں تمام حشرات الارض میں سے حضرت انسان کو وہ عطیہ جسکو عقل سلیم کہتے ہیں عطا کیا جسکی وجہ سے اشرف المخلوقات کا خطاب عطا ہوا اور عقل سلیم کیوجہ سے حضرت انسان کے دماغ میں تمام فضل و کمال کا خزانہ سمایا جسکی وجہ سے ان تمام علموں کے عمیق سمندروں میں غوطہ لگا کر درجہ کمال کے اسرارات کا معادن بنا چنانچہ علم جوتش کی ابتدا پہلے پہل بھارت ورش میں ہمارے قابل قدر رشیوں منیوں کی محنت کا ثمرہ ہے جسکو بعد ازاں اہل روم نے بھارت ورش سے حاصل کیا علم جوتش میں تمام کرہ ارض جسکو گول مانا جاتا ہے ۳۶۰ درجہ میں تقسیم کیا۔ اسی وجہ سے اہل ہنود نے دائرہ کو ۳۶۰ درجہ میں منقسم کیا جب آفتاب اس کرہ یعنی دائرہ کے گرد گردش کرتا ہوا اس چکر کو ۳۶۵ دن میں پورا کرکے درجہ صفر یعنی نقطۂ اعتدال پر پہنچتا ہے یعنی فلک البروج کی پہلی شکل جسکو اہل ہنود میکھ راس اور اہل روم و یونان برج حمل کہتے ہیں داخل ہوتا ہے اسکو اہل روم و یونان نوروز عالم افروز مانتے ہیں جو ۲۱ مارچ کو جب آفتاب برج حمل میں داخل ہوتا ہے یہ وقت ہر قسم کی دعاء و تعویذات کے نقل کرنے کا ہے۔ اسوقت کو ہری پد یعنی اتراین یا سمر سولسٹس بھی کہتے ہیں اہل ہند اسکے ۲۲ روز بعد آفتاب کو برج میکھ میں قائم کرتے ہیں اس تفاوت کا نام عین انش ہے پس بھارت ورش میں آجکل بوجہ متفرق مذاہب و متفرق حکومتوں کیوجہ سے بہت نوروز ہیں جس کا پورا حال لکھنا ایک علیحدہ مضمون چاہتا ہے پس ہم اپنے ناظرین کے سامنے مشہور مشہور نوروزوں کا ذکر کرینگے۔ اول اہل فرنگ کا نوروز یکم جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا اہل ہند یعنی اہل ہنود جن کا نوروز میکھ شنکرانت کا پہلا دن ہوتا ہے جو ۱۳ اپریل سنہ ۱۹۳۰ء مطابق چیت شدی پورنماشی سمت ۱۹۸۷ کو ہوگا جس کا طالع ولادت زائچہ حسب ذیل اسی روز بیساکھی کا اشنان بھی ہوتا ہے۔ سویم اہل اسلام کا نوروز محرم کے پہلے دن سے ہوتا ہے جو ۳۰ مئی سنہ ۱۹۳۰ء بروز جمعہ سنہ ۱۳۴۹ ہجری شروع ہوگا۔ چونکہ ہندوستان میں بہت سے سمت رائج ہیں جن کا نوروز لکھنا ضروری ہے۔ مگر بوجہ عدم گنجائش تمام کا اوقات ولادت نوروز ایک اہم کام ہے اس لئے ہم صرف اہل ہنود کے نوروز کی نسبت مفصل تحریر کرتے ہیں جس کا دارمدار علم جوتش پر ہے اور جس سے سال کے نیک و بد نتائج ہم ہر سال پبلک کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ روز میکھ کی شنکرانتی کا پہلا دن کہلاتا ہے۔ اس روز کسی قسم کا تعویذ یا کوئی دعا کسی کے واسطے کیجائے تو پھر پرماتما کی مہربانی سے جلد قبولیت ہوتی ہے۔

تقویم نوروز عالم افروز مورخہ ۱۳ اپریل سنہ ۱۹۳۰ء مطابق چیت شدی پورنماشی بروز اتوار سمت ۱۹۸۷ بکرمی بوقت ۲۳ گھڑی ۱۰ پل ۲ بجکر ۵ منٹ بعد دوپہر

حالات نوروز - آفتاب ۲ بجکر ۵ منٹ پر بعد دوپہر برج میکھ میں داخل ہوگا۔ بروز اتوار مطابق چیت شدی پورنماشی سمت ۱۹۸۷ بکرمی۔ پروشٹہ بارانت ۳۔ سنکرانت ۴۔ بارنام گھوڑا۔ برہمن بیانی دیشیان ہنتی شودر درلگیہ ہی۔ چال جنوب بائیں۔ نظر جنوب مغرب۔ سواری چیتا اوپ سواری گھوڑا بھید کارگ۔ پوشاک زرد رنگ۔ گدا یدھ۔ چاندی کا برتن لئے۔ دودھ پیتی ہوئی۔ روئی کا تلک۔ بھوت جاتی۔ چنبیلی کا پھول لئے۔ کمار اوستھا یعنی نوجوان عمر بیٹھی حالت ۳۰ بھورت پر سنکرانت پرویش کریگا۔ غلہ کا بھاؤ سم۔ پروشٹہ پھل مدھم۔

حالات سال

راجہ سال چندرمان یعنی قمر مالک فلک دوم پوشاک برنگ موتیا پہنے ہوئے تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوگا چندرمان کے راجہ ہونے سے بہر سنسار کا آنند ہوئے۔ بارش زیادہ ہو۔ غلہ کی افراط ہو۔ پرجا کو ہر طرح کا سکھ ہو۔ اور راجہ کی ہر طرح کی ہمدردی کی شانتی کرے اور پرجا پالن کرے۔

(۲) منتری یعنی وزیر آفتاب یعنی سورج مالک فلک چہارم پوشاک برنگ سفید زیب تن کئے منتری پد کو گرہن کریگا جس سے راجہ بھید۔ چوروں اور لشکروں کو معقول سزائیں ملیں۔ اور جو چوری کا مال و دھن زمین کے اندر گاڑیں جو لوگ سب آمد کرے۔ واردات چوری و نقب زنی و لوٹ مار کی زیادہ ہوں۔ اور اگنی سے بھید ہوئے۔ بارش کم کرے۔

(۳) سپہ سالار بدھ مالک فلک دوم پوشاک برنگ زرد زیب تن کئے فوج کی کمان کرے گا۔ اور اپنی دانائی عقلمندی سے معاملات ملکی کے فیصل کرنے میں ہر طرح کی آئندہ مدد کرے گا۔ اور نئی فوج کی بھرتی کریگا اور اسکی ترتیب و تکمیل میں دھن کا خرچ زیادہ ہوگا۔ بارش کی زیادتی کریگا۔ پرجا کو سکھ شانتی دیگا۔ ویش لوگ خوشحال ہونگے۔ برہمن لوگ دھرم پالن سے دھن کا لابھ ہوگا۔

(۴) دہانیس چندرمان یعنی قمر بحیثیت راجہ مندرجہ بالا دہانیش پد کو گرہن کریگا۔ دھن دہانیہ پرجا ہی کرے۔ سب پرکار کے چوپایہ یعنی جانوروں کی ترقی و بڑھوتی کرے۔ دودھ دہی کی افراط۔

(۵) میگھیش یعنی جل کا راجہ شنیچر یعنی زحل مالک فلک ہفتم دلالت کرتا ہے کہ بارش سال میں کم ہو۔ اور بارش دیر سے بیوقت کرے۔ پرجا کو کشٹ دے۔ اور راجہ من میں پشیمان ہوئے۔ اور طرح طرح کے امراض کا بھید دیوے۔ اور پرجا کو دکھی کرے۔

(۶) رسیش یعنی رسوں کا مالک شکر مالک فلک سوم پوشاک برنگ سبز پہنے ہوئے۔ یگیہ کرنے اور یگیوں کی بڑھوتی ہوئے۔ اور جل برشا کرے۔ سکھ کارک۔ سوبھاگیہ کارک ہے۔

(۷) شیش منگل مالک فلک پنجم ہے اسلئے موتی مونگہ لعل وغیرہ گراں ہوں سرخ چندن و ترامبا گراں ہو۔

(۸) پھلیش یعنی پھلوں کا مالک شنیچر بحیثیت میگھیش کے جس کا ثمرہ پھلوں کی گرانی اور دلیل نقصان کی ہے پھول پھل اور درختوں کو نقصان پہنچے۔ اور برف یعنی سردی کے پڑنے سے پھلوں کو زیادہ نقصان ہو۔

(۹) دھنیش یعنی دھن و مال کا مالک منگل جو شیش مذکور ہے اس لئے سردی و گرمی زیادہ کرے اور دہانیہ کو نقصان کرے۔ اور بہر شتے دوگنے مول سے بکے۔ اور پرجا کو شوک پراپت ہو۔

(۱۰) درگیش یعنی گڑھ پتی یعنی قلعہ کا مالک شنیچر جو شیش مذکور کیا ہے جس کا ثمرہ بگڑہ یعنی جنگ فساد اور تمام دیش کی حالت خراب و ناقص کرے اور چاروں طرف دشمن پیدا کرے جس سے نقصان کا احتمال ہے اور کھیتی کیاری سے کسی کو لابھ نہ ہوئے۔ کپاس اور تیل وغیرہ بہت گراں ہوں۔ اور بارش اسوج کارتک و منگسر میں جاکر ہوگی۔ دوہنی تو اس برس پر بارش بہت ہوگی۔ سمیہ یاسن کمہار کے گھر۔ نتیجہ سال پرجا بھاگ سے اچھا ہو جاوے تو مالک کی مہربانی ہوگی ورنہ سال ناقص ہی سمجھو کیونکہ دس ادھیکاریوں میں سے ۵ اچھے اور ۵ ناقص ہیں اس لئے آدھا سال اچھا اور آدھا ناقص ہوگا۔ کیونکہ دیر جا بھاگ بڑا ہے اس سال دھرم کم اور ادھرم زیادہ ہوگا۔ گئو برہمن اور دیوتاؤں کا مان کم ہوگا۔ روہنی تو اس پہاڑ پر ہے۔ اس لئے بارش اساڑھ ساون میں ضرور ہوگی۔ بھادوں میں بارش کم۔ اسوج میں بارش کم۔ کارتک میں منگسر یعنی کنوار میں بارش اچھی ہوگی۔ سمیہ یاسن کمہار کے گھر چاک پر ناقص ہے۔

ملکی حالت - راجہ چندرمان اور سورج منتری یعنی وزیر اور دہانیہ پتی بھی چندرمان ہوا اسلئے پرجا کا مان مالک ہی رکھیگا۔ راجہ دربار سے بھارت کو کوئی خاص فائدہ نہ ہوئے بلکہ ٹیکس اور دیگر محصول کی ادائیگی کا بار زیادہ ہوئے۔ پرجا کو سکون مشکل ہے۔ آب و ہوا۔ سردی میں سردی زیادہ ہوگی اور برف پڑنے کا یوگ ہے جس سے فصل اور پرجا کو نقصان ہوگا۔ گرمی میں گرمی ادھک ہوئے۔ استریوں کو روگ بڑا زیادہ ہوئے۔ ہوا تیز پڑے اور درختوں اور پھلوں کو نقصان پہنچے جس سے کھیتی باڑی کو نقصان ہووے۔ **فصلی حالت** اس سال تین علامت قحط ہے۔ صرف خشک سالی ہوگی۔ کھیتی کیاری کسی بھاگ پر تر کی ہوگی ورنہ اکثر کم ہے۔ دونوں فصل بیوقت اور ناکافی بارش سے کم ہونگی۔ پرجا دکھی ہوگی مالک اپنی کرپا سے سال کو آنند اور خوشی سے نکال دیں۔ اوم شانتی۔ شانتی۔

سواری نوروز عالم افروز سنہ ۱۹۳۰ء



نقشہ اوقات مشہور مقامات مطابق گرینیچ اوبزرویٹری انگلستان
کورکشیتر، دلی، جیپور، اُجین اوبزرویٹری ہندوستان مطابق لگن میکھ سنکرانت

نمبر	مقام	وقت	گھنٹہ	منٹ	نمبر	مقام	وقت	گھنٹہ	منٹ	کیفیت
۱	کورکشیتر	دوپہر	۲	۵۵	۳۰	بکنگہم	صبح	۶	۵۵	
۲	اننت ناگ	″	۲	۴۰	۳۱	کیپ ٹاؤن	″	۱۳	۵۵	
۳	جے پور	″	۳	۷	۳۲	لنڈن	شب	۳	۱۷	
۴	اُجین	″	۳	۱۹	۳۳	ایتھنز	صبح	۱۱	۵۱	
۵	دہلی	″	۳	۳	۳۴	واشنگٹن	″	۱۳	۱	
۶	بمبئی	″	۳	۹	۳۵	آگوہ	دوپہر	۲	۴۸	
۷	بنارس	″	۲	۴۲	۳۶	میلبورن	″	۱۲	۰	
۸	کلکتہ	″	۲	۳۱	۳۷	[illegible]	شب	۲	۳۰	
۹	کان پور	″	۲	۴۸	۳۸	ازمن	شام	۱	۵۵	
۱۰	لکھنؤ	″	۲	۵۰	۳۹	واشنگٹن	شب	۱۱	۵۰	
۱۱	بمبئی	″	۳	۲۳	۴۰	برسلنہ	″	۳	۴۷	
۱۲	آگرہ	″	۳	۵۱	۴۱	ڈبلن	″	۳	۵۰	
۱۳	حیدرآباد دکن	″	۳	۳۰	۴۲	روما اٹلی	″	۱	۱۵	
۱۴	ناگ پور	″	۳	۲۵	۴۳	قسطنطنیہ	″	۴	۵۵	
۱۵	اجودھیا	″	۲	۴۰	۴۴	سڈنی	دوپہر	۲	۱۵	
۱۶	سہارن پور	″	۲	۵۶	۴۵	ماسکو	″	۳	۳۰	
۱۷	ہردوار	″	۲	۵۸	۴۶	پیرس	″	۴	۴۵	
۱۸	ڈیرہ دون	″	۲	۵۹	۴۷	اٹلی	″	۴	۵۰	
۱۹	میرٹھ	″	۲	۵۴	۴۸	نیویارک	صبح	۳	۴۵	
۲۰	کرنال	″	۲	۵۵	۴۹	ٹوکیو جاپان	″	۱۱	۴۵	
۲۱	تھانیسر	″	۲	۵۵	۵۰	برلن	″	۴	۵۶	
۲۲	پٹیالہ	″	۲	۵۶	۵۱	سٹاک ہالم	″	۴	۲۰	
۲۳	لاہور	″	۲	۱۸	۵۲	مانچسٹر	دوپہر	۳	۲۰	
۲۴	امرتسر	″	۲	۱۸	۵۳	ہیمبرگ	″	۳	۲۵	
۲۵	راولپنڈی	″	۳	۳۲	۵۴	شیفیلڈ	″	۳	۲۷	
۲۶	الہ آباد	″	۲	۴۵	۵۵	لوبز	صبح	۱۱	۵۵	
۲۷	گرینچ	″	۲	۵۵	۵۶	لنکا	دوپہر	۴	۵۵	
۲۸	مدینہ	شب	۳	۲۴	۵۷	کابل	″	۳	۳۵	
۲۹	مکہ	دوپہر	۳	۳۰	۵۸	میکسیکو	شب	۱۰	۴۸	

نوٹ۔ وقت انتصاف النہار یعنی دوپہر کا جو بمقام گرینیچ انگلستان اور بھارت ورش میں اجین سے شروع ہوتا ہے۔ ایک خط سے دوسرے خط کا فاصلہ ۱۵ ڈگری کا فاصلہ ہوتا ہے اور ۱۵ ڈگری فاصلہ میں ایک گھنٹہ کا فرق وقت میں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں اوقات کے ۳ جات ہیں سٹینڈرڈ ٹائم یعنی مدراس ٹائم بمبئی ٹائم جس میں ۳۹ منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ کلکتہ ٹائم بمبئی ٹائم میں ایک گھنٹہ کا فرق ہوتا ہے۔ مدراس کلکتہ ٹائم میں ۳۳ منٹ کا فرق ہے۔ مدراس ٹائم اور سورج ٹائم میں ۲۰ منٹ کا فرق ہوتا ہے جس کو درست کرکے اور کشیتر کے ٹائم کو ملا کر اس جنتری میں درج کیا گیا ہے جب ٹائم ٹھیک نہ ہوگا تو کوئی بات ٹھیک نہ ہوگی اس لئے ٹائم کو جانچ ہو کے کہنا چاہئے ورنہ نجومیوں کو دوش دینا غلط اور بیجا ہوگا۔

نقشہ ترک و افطار صوم یعنی روزہ و طلوع و غروب آفتاب
بابتہ ماہ رمضان المبارک ۱۳۴۸ھ مطابق سنہ ۱۹۳۰ء

ماہ رمضان المبارک ۱۳۴۸ھ	ماہ فروری ۱۹۳۰ء	طلوع آفتاب گھنٹہ	طلوع آفتاب منٹ	غروب آفتاب گھنٹہ	غروب آفتاب منٹ	وقت انتہائی سحرخوری گھنٹہ	وقت انتہائی سحرخوری منٹ	وقت طلوع صبح صادق گھنٹہ	وقت طلوع صبح صادق منٹ	وقت نماز صبح گھنٹہ	وقت نماز صبح منٹ	وقت افطار صوم گھنٹہ	وقت افطار صوم منٹ	کیفیت
۱	۱	۷	۴۴	۵	۱۲	۴	۱۴	۴	۳۰	۴	۴۵	۶	۰	
۲	۲	″	۴۳	″	۱۶	″	″	″	۳۱	″	″	″	۰	
۳	۳	″	۴۲	″	۱۸	″	۱۲	″	۳۲	″	۴۶	۶	۱	
۴	۴	″	۴۱	″	۱۹	″	″	″	″	″	۴۶	″	″	
۵	۵	″	۴۰	″	۲۰	″	۱۵	″	۳۳	″	۴۷	″	۲	
۶	۶	″	۳۹	″	۲۱	″	″	″	″	″	″	″	″	
۷	۷	″	۳۸	″	۲۲	″	۸	″	۳۴	″	۴۸	″	۳	
۸	۸	″	۳۷	″	۲۳	″	″	″	″	″	″	″	″	
۹	۹	″	۳۶	″	۲۴	″	۶	″	۳۵	″	۴۹	″	۴	
۱۰	۱۰	″	″	″	″	″	″	″	۳۶	″	″	″	″	
۱۱	۱۱	″	۳۵	″	۲۵	″	″	″	۳۷	″	۵۰	″	۵	
۱۲	۱۲	″	۳۴	″	۲۶	″	″	″	۳۸	″	″	″	″	
۱۳	۱۳	″	۳۳	″	۲۷	″	۳	″	۳۹	″	۵۱	″	۶	
۱۴	۱۴	″	۳۲	″	۲۸	″	″	″	۴۰	″	″	″	″	
۱۵	۱۵	″	۳۱	″	۲۹	″	۱	″	۴۱	″	۵۲	″	۷	
۱۶	۱۶	″	۳۰	″	۳۰	″	″	″	۴۲	″	″	″	″	
۱۷	۱۷	″	۲۹	″	۳۱	″	۰	″	۴۳	″	۵۳	″	۸	
۱۸	۱۸	″	۲۸	″	۳۲	″	″	″	۴۴	″	″	″	″	
۱۹	۱۹	″	۲۷	″	۳۳	۳	۵۹	″	۴۵	″	۵۴	″	۹	
۲۰	۲۰	″	۲۶	″	۳۴	″	″	″	۴۶	″	″	″	″	
۲۱	۲۱	″	۲۵	″	۳۵	″	۵۸	″	۴۷	″	۵۵	″	۱۰	
۲۲	۲۲	″	۲۴	″	۳۶	″	″	″	۴۸	″	″	″	″	
۲۳	۲۳	″	۲۳	″	۳۶	″	۵۷	″	۴۹	″	۵۶	″	۱۱	
۲۴	۲۴	″	۲۲	″	۳۷	″	″	″	۵۰	″	″	″	″	
۲۵	۲۵	″	۲۲	″	۳۸	″	″	″	۵۱	″	۵۷	″	۱۲	
۲۶	۲۶	″	۲۱	″	۳۹	″	″	″	۵۲	″	″	″	۱۳	
۲۷	۲۷	″	۲۰	″	″	″	۵۵	″	۵۳	″	۵۸	″	۱۳	
۲۸	۲۸	″	۱۹	″	″	″	″	″	۵۴	″	″	″	″	
۲۹	یکم مارچ	″	۱۸	″	۴۱	″	″	″	۵۵	″	۵۹	″	۱۴	

جدول سہاگ بابتہ سنہ ۱۹۳۰ء از پودہ شدی درج سمت ۱۹۸۶ لغایتہ پودہ شدی اکادشی سمت ۱۹۸۷ معہ بیواہ لگن وریکھا وس دوشوں سے شدھ کئے ہوئے شامل ہے

دس دوشوں کے نام اور ان کے نشان

نمبر	تاریخ ۱۹۳۰ء	دن	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	لگن	ریکھا
۱	[illegible]	بدھوار	۱	۱	۱	۱	×	۱	۱	۱	×	×	۱۱	۷
۲	[illegible]	گوروار	۱	۱	۱	×	۱	۱	۱	۱	×	۱	۱۱	۹
۳	[illegible]	شکروار	۱	۱	۱	×	×	۱	۱	×	۱	×	[illegible]	۷
۴	[illegible]	شنی وار	۱	۱	×	۱	۱	۱	×	۱	۱	×	[illegible]	۸
۵	[illegible]	گوروار	۱	۱	۱	۱	۱	×	۱	۱	×	۱	۱۲-۱۱	۹
۶	[illegible]	سوموار	۱	۱	۱	×	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱۱	۷
۷	[illegible]	شنی وار	۱	۱	۱	×	۱	۱	۱	×	۱	۱	۵-۰	۹
۸	[illegible]	بدھوار	۱	×	×	۱	۱	۱	۱	×	۱	۱	[illegible]	۷

نوٹ۔ [illegible]

نقشہ کواکب متحیرہ مع چال وقیام در یک راس ورفتار بکری ومارگی بابتہ ۱۹۳۰ء

قیام سورج در یک راس یعنی ایک برج ۳۰ یوم یا ایک ماہ

قیام مریخ یعنی منگل و دھن راس برکشتر مول از ابتدائے یکم جنوری ۱۹۳۰ء در یک راس ۴۵ یوم



قیام عطارد یعنی بدھ در یک راس ۳۰ یوم من ابتدائے یکم جنوری ۱۹۳۰ء برکشتر اتر اکھاڑ در مکر راس



قیام مشتری در یک راس ۱۳ ماہ۔ ابتدا در برکھ راس برکشتر روہنی ۱۹۳۰ء از یکم جنوری

قیام زہرہ یعنی شکر در یک راس ۳۰ یوم ابتدائے یکم جنوری ۱۹۳۰ء برکشتر پورباکھاڑ در دھن راس



قیام زحل یعنی شنیچر در یک راس ۳۰ ماہ یعنی ۲ سال ۶ ماہ از یکم جنوری ۱۹۳۰ء در راس دھن برکشتر مول



قیام چندرمان یعنی قمر در یک راس سوا دو دن

نادر و نایاب ۱۵۰۰ سال کا کیلنڈر یعنی جنتری از سنہ ۱۶۰۰ء لغایت سنہ ۳۱۰۰ء

مہینے							
جنوری اکتوبر	ا	ب	ج	ط	ہ	د	ز
فروری مارچ نومبر	ط	ہ	و	ز	ا	ب	ج
جنوری* اپریل جولائی	ز	ا	ب	ج	ط	ہ	د
مئی	ب	ج	ط	ہ	و	ز	ہ
جون	ہ	و	ز	ا	ب	ج	ط
فروری* اگست	ج	ط	و	و	ز	ا	ب
ستمبر دسمبر	د	ز	ا	ب	ج	ط	ہ

تاریخ											
۱	۸	۱۵	۲۲	۲۹	اتوار	سنیچر	شکر	برہسپت	بدھوار	منگلوار	سوموار
۲	۹	۱۶	۲۳	۳۰	سوموار	اتوار	سنیچر	شکر	برہسپت	بدھوار	منگلوار
۳	۱۰	۱۷	۲۴	۳۱	منگلوار	سوموار	اتوار	سنیچر	شکر	برہسپت	بدھوار
۴	۱۱	۱۸	۲۵	۰	بدھوار	منگلوار	سوموار	اتوار	سنیچر	شکر	برہسپت
۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰	برہسپت	بدھوار	منگلوار	سوموار	اتوار	سنیچر	شکر
۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰	شکروار	برہسپت	بدھوار	منگلوار	سوموار	اتوار	سنیچر
۷	۱۴	۲۱	۲۸	۰	سنیچروار	شکروار	برہسپت	بدھوار	منگلوار	سوموار	اتوار

صدی کے درمیانی سال				پوری صدیاں			
				۱۶۰۰	۱۷۰۰	۱۸۰۰	۱۹۰۰
				۲۰۰۰	۲۱۰۰	۲۲۰۰	۲۳۰۰
				۲۴۰۰	۲۵۰۰	۲۶۰۰	۲۷۰۰
				۲۸۰۰	۲۹۰۰	۳۰۰۰	۳۱۰۰
۰	۲۸	۵۶	۸۴	و	ج	و	ز
۱	۲۹	۵۷	۸۵	ز	ب	ط	و
۲	۳۰	۵۸	۸۶	و	ا	ج	ہ
۳	۳۱	۵۹	۸۷	ہ	ز	ب	ط
۴	۳۲	۶۰	۸۸	ج	ہ	ب	ز
۵	۳۳	۶۱	۸۹	ب	ط	و	ا
۶	۳۴	۶۲	۹۰	ا	ج	و	ز
۷	۳۵	۶۳	۹۱	ز	ب	ط	و
۸	۳۶	۶۴	۹۲	و	ز	ب	ط
۹	۳۷	۶۵	۹۳	ط	و	ا	ج
۱۰	۳۸	۶۶	۹۴	ج	ہ	ز	ب
۱۱	۳۹	۶۷	۹۵	ب	ط	و	ا
۱۲	۴۰	۶۸	۹۶	ز	ب	ط	و
۱۳	۴۱	۶۹	۹۷	و	ا	ج	ہ
۱۴	۴۲	۷۰	۹۸	ہ	ز	ب	ط
۱۵	۴۳	۷۱	۹۹	ط	و	ا	ج
۱۶	۴۴	۷۲	۰	ب	ط	و	ا
۱۷	۴۵	۷۳	۰	ا	ج	ہ	ز
۱۸	۴۶	۷۴	۰	ز	ب	ط	و
۱۹	۴۷	۷۵	۰	و	ا	ج	ہ
۲۰	۴۸	۷۶	۰	ط	و	ا	ج
۲۱	۴۹	۷۷	۰	ج	ہ	ز	ب
۲۲	۵۰	۷۸	۰	ب	ط	و	ا
۲۳	۵۱	۷۹	۰	ا	ج	ہ	ز
۲۴	۵۲	۸۰	۰	و	ا	ج	ہ
۲۵	۵۳	۸۱	۰	ہ	ز	ب	ط
۲۶	۵۴	۸۲	۰	ط	و	ا	ج
۲۷	۵۵	۸۳	۰	ج	ہ	ز	ب

طریقہ

جس سال کے مہینے کی جو تاریخ دیکھنا مطلوب ہو اسی صدی کے نیچے اور درمیانی سال کے برابر جو حرف ہو اس کو اسی مہینے کے برابر حروف میں تلاش کرو پھر نیچے اسی کالم میں جس تاریخ کے مقابل جو دن ہوگا اس تاریخ کو وہی دن ہوگا۔ مثلاً ۳۱ دسمبر سنہ ۱۹۰۷ء کا دن دیکھنا منظور ہو تو پہلے خانہ ۱۹۰۰ کے نیچے اور سنہ ۷ء کے برابر دیکھنے سے حروف (و) اسکو ماہ دسمبر کے برابر کی سطر میں دیکھکر اسی کالم کے نیچے ۳۱ تاریخ کے مقابل غور کرنے سے منگلوار نکلا۔ پس ۳۱ دسمبر سنہ ۱۹۰۷ء کو یہی دن تھا۔

نوٹ

واضح رہے کہ مہینوں کے خانہ میں ماہ جنوری و فروری جو دو مہینے جنکے اوپر چرخی کا نشان دیا گیا ہے بہ لیپ کے سال کے لیے ہیں یعنی جو سال درمیانی سال کی صورت میں چار اور صدی کی صورت میں ۴۰۰ پر پورا تقسیم ہو جاوے اُسے لیپ کا سال کہتے ہیں اس میں فروری ۲۹ دن کا ہوتا ہے۔

نوٹ۔ یکم جنوری کو جو دن وہی دن یکم اکتوبر کو۔ جو دن یکم فروری وہی دن یکم مارچ و نومبر جو دن یکم اپریل کو وہی دن یکم جولائی کو جو دن یکم ستمبر کو وہی دن یکم دسمبر کو ہوگا صرف مئی جون اور اگست مہینے منفرد ہیں

نقش چکرا بیوہ یعنی قلعہ دریودھن در جنگ کورکشیتر درمیان کورو پانڈو۔ مرنا ابھیمنیو دریں قلعہ برائے رفاہ عام

چکر بیوہ کا نقشہ معہ شلوک مندرجہ سرخ چندن سے بشکل ہلال کانسی کی تھالی یا رکابی پر لکھکر جس عورت کو دردزہ ہو رہا ہو یا ہو دھوکر پلانے سے بچہ آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے

ॐ ह्रीं क्लीं चामुडायै विच्चै ॥ ॥

نقش پر بان مشابہ پردہ ہار کان





مہابھارت کی لڑائی بمیدان کورکشیتر ۴۸ مربع میل میں ۱۸ روز تک درمیان کورو پانڈو میں جو غالباً ۱۴ اکتوبر سے شروع ہو کر ۳۱ اکتوبر تک رہی نیز مورچہ بندی ہر دو فریق در قلعہ بنام چکر بیوہ مقبوضہ دریودھن مکمل ہو مقبوضہ پانڈو تھے چنانچہ دریودھن نے ابھیمنیو پسر ارجن کو لڑائی کے ساتویں روز چکر بیوہ میں گھیر کر مار ڈالا اور ابھیمنیو بیں قلعہ میں داخلہ کی ترکیب تو جانتا تھا مگر واپسی نہیں جانتا تھا اسی وجہ سے مارا گیا چنانچہ یہ نقش ایک عجیب تعلق رکھتا ہے کہ جس عورت کے بچہ تکلیف سے پیدا ہوتا ہو اُس کو مندرجہ ذیل ترکیب سے نقش ہذا کو لکھکر پلاد۔ تو پانچ منٹ میں ایشور نے چاہا تو بچہ پیدا ہو جاوے گا۔ نیز یہ نقش چوری زناکاری بدحاشی وغیرہ میں کام نہ دیگا۔ اور جس عمل یا بات یا چیز کے بارے میں آزماؤ گے تو مجرب اور پر تاثیر پاؤ گے صرف اعتقاد شرط ہے۔ نیز مقام امین ایک قلعہ ہے جسکو چکرا بیوہ خیال کیا جاتا ہے اسکی اینٹ بھی یہی تاثیر رکھتی ہے۔ نیز اینٹ کی لمبائی چوڑائی قابل ملاحظہ ہے۔ سالم مشکل سے نکلتی ہے۔ اگر نکل آوے تو غالباً ۳۰×۲۰ انچ ہوگی۔ نیز اس پر پانچ انگلیوں کے نشان بھی ہیں جو بھیم کے پانچ انگلیوں کے نشان کہے جاتے ہیں۔ منوسمرتی اشلوک ۹-۱۹۱

ترکیب استعمال جب پرماتما ایسا وقت پیش کرے تو آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیئے۔ چنانچہ ترکیب در علاج میں مصروف رہے۔ نیز مندرجہ نقش ہذا کا تجربہ کرے یعنی تھوڑا سا گوبر گئو کا لیکر کوئی ایک مربع گز زمین لیپ لیوے بعد ازاں عورت حاملہ کو اس کے پاس بٹھا دیوے پھر وہ تھالی کانسی لیکر انار کی شاخ کی قلم سے ہمراہ سرخ چندن نقش مذکور کو ایک تھالی میں لکھے۔ نیز چندن کو گنگا جل میں رگڑ لے اور صاف ہر سا چندن ہونا چاہیئے جب نقش لکھا جاوے تو اسکو دھوپ یعنی لوبان۔ گوگل۔ عنبر وغیرہ سے دھونی دیکر ٹھیک کرکے جنین مذکور کو دیدے کہ وہ اس نقش کو دیکھتی رہے اسی طرح دوسری تھالی میں نقش لکھکر دھونی وغیرہ سے ٹھیک کرکے گنگا جل سے دھوکر نقش مذکور کو پلادے پرماتما نے چاہا تو پانچ منٹ کے اندر بچہ پیدا ہو جاوے گا اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ نیز علاوہ دوسرے کاموں کے لئے آزمایش کریں۔

اس سال میں سورج و چاند گرہن کوئی نہیں ہے۔ اسوج شدی پورنماشی کو چاند گرہن سمجھ ہے مگر ہوتا ہوا دکھائی نہ دیگا۔ اس لئے نہیں لکھا گیا۔ نیز جو گرہن بھارت ورش میں دکھائی نہ دیوے وہ گرہن ماننے کے یوگ نہیں ہے۔ اور جو گرہن بھارت ورش میں کہیں بھی دکھائی دیوے وہ ماننے کے قابل ہے اور مانا جاتا ہے۔ اس لئے اسوج شدی پورنماشی کا گرہن بھارت ورش میں کہیں دکھائی نہ دیگا اس لئے نہیں لکھا۔ مگر اسوج بدی اماوش سوموار ہے۔ اس لئے کورکشیتر میں بھاگو کا مہاتم و سنان ہوگا۔ یہ مہاتم بارہ سال کے بعد آیا ہے جس کا مہاتم گیا مہاتم کے برابر ہے۔ اور پنجاب پرانت کا تو پھلگو مہاتم ہی گیا مہاتم خیال کیا جاتا ہے۔ نیز پھلگو میں دان پن و پنڈدان کرنا اسوج بدی اماوش سوموار کو گیا مہاتم سے سوگنا پھل ہے۔ اس لئے پھلگو کورکشیتر میں بڑا بھاری میلہ ہوگا۔ نیز پھلگو میں سرادھ کرانا بھی ادھک پھل رکھتا ہے۔ اس لئے جن صاحبان کی اچھا ہو تو وہ اماوش کے دن یہاں آکر سرب پتری شرادھ کرم کراکر لابھ اٹھاویں۔ پھلگو نورتھ ویسٹرن ریلوے لائن پر دہلی۔ انبالہ۔ کالکا برانچ سے کورکشیتر جنکشن سے کیتھل ہو کر نروانہ کو جو ٹکڑا جاتا ہے ریلوے سٹیشن پنڈارسی ڈھانڈ کے درمیان ۲۰ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یاتری لوگ جو کیتھل ہو کر آویں وہ ڈھانڈ سے اُتر کر پھلگو جاویں اور جو دہلی و انبالہ کی طرف سے آویں وہ پنڈارسی سے اُتر کر پھلگو جاویں۔ گاڑی گھوڑے و سواری کا انتظام مشکل ہے سڑک کچی ہے۔ پیدل کا راستہ ہے۔ انتظام سرکاری مناسب ہوگا۔

کوروکشیتر جنتری سنہ ۱۹۳۰ء کا حل

اس پورن برہم پرماتما۔ عالم الغیب۔ صانع حقیقی۔ ذات باری۔ رب العالمین۔ قادر مطلق۔ ال ایٹی۔ اوم نیو ٹیس سرب شکتیمان ست چت۔ آنند کی مہربانی اور پرم دیالتا سے جنتری ہذا کو اپنی قدردان پبلک کی خدمت کرتے ہوئے پندرھواں سال گذر کر سولھواں سال ہے۔ ہماری قدردان پبلک نے اس پندرہ سال کے عرصہ میں جو کچھ سچائی و صداقت جنتری ہذا کی نسبت حاصل کرنی تھی اس کا تجربہ ہر حالت سے کر لیا اور اس پورن برہم کی کرپا سے اسکو ہر فرد بشر نے تعریف و قبولیت کی نگاہ سے اعزاز بخشا۔ ہم اس مہربانی کا ہزار ہزار شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مگر چند امورات کی نسبت ہماری پبلک کو سمجھنے میں شک تھا چنانچہ وہ شکوک رفع کرنے کیلئے مکمل حل حوالہ ناظرین ہے مثلاً تاثیرات و ثمرہ منازل فلکی بر اشرف المخلوقات ارضی ہیں جو تاریخیں دی گئی ہیں وہ تاریخیں انگریزی ہیں۔ نیز چند صاحبان نے فرمایا کہ گرہوں کے نام ہندی میں درج ہیں فارسی و عربی زبان میں نہیں نیز راسوں کے نام ہندی میں درج ہیں مگر دیگر زبان میں نہیں۔ نیز موسموں کے نام ہندی میں درج ہیں دیگر زبان میں نہیں۔ اسی طرح اترائن و دکشنائن کا نام ہندی میں ہے دیگر زبانوں میں نہیں۔ مہینوں کے نام ہندی میں ہیں دیگر زبانوں میں نہیں ہیں۔ ان تمام امورات کو مدنظر رکھکر مندرجہ بالا امورات کو واضح طور پر روشن کرنے کی غرض سے جدول مندرجہ ذیل میں شائع کیا گیا ہے کہ عام آدمی بھی حل کو دیکھکر اپنی مطلب براری کر سکے۔

نقشہ سہاگ کواکب متحیرہ بابتہ سنہ ۱۹۳۰ء

نمبر شمار	نام گرہ ہندی	نام فارسی	نام انگریزی
۱	سورج	آفتاب و شمس	سن
۲	چاند	ماہتاب و قمر	مون
۳	منگل	مریخ	مارز
۴	بدھ	عطارد	مرکری
۵	گورو	مشتری	جوپیٹر
۶	شکر	زہرہ	وینس
۷	شنی	زحل	سیٹرن
۸	راہو	راس	ڈمین
۹	کیتو	ذنب	ایضاً

نام ایام ہفتہ برائے رفاہ عام

نمبر شمار	نام ہندی	نام فارسی	نام انگریزی
۱	سوموار	دوشنبہ	منڈے
۲	منگل وار	سہ شنبہ	ٹیوزڈے
۳	بدھوار	چہارشنبہ	وڈنسڈے
۴	گورووار	پنجشنبہ	تھرسڈے
۵	شکروار	جمعہ	فرائڈے
۶	شنی وار	ہفتہ و شنبہ	سیٹرڈے
۷	اتوار	یکشنبہ	سنڈے

نام موسمہائے متفرق

نمبر شمار	نام موسم ہندی	نام فارسی	نام انگریزی
۱	شیشر رتو	موسم خزاں	اوٹم
۲	بسنت رتو	موسم بہار	سپرنگ
۳	گریشم رتو	موسم گرما	سمر
۴	برشا رتو	موسم برسات یا باراں	رینی
۵	شرد رتو	موسم سرما	ونٹر
۶	ہیمنت رتو	موسم برفانی یعنے چھیلہ	سنوی

نام ہری بد و وشوید

نمبر شمار	نام ہندی	نام سنسکرت	فارسی	انگریزی
۱	اوترائن	ہری بد	راس السرطان	سمر سولسٹس
۲	دکشنائن	وشوید	راس الجدی	ونٹر سولسٹس

نوٹ - ہری بد سے احاطہ بمبئی - مدراس - دکن اور وسط ہند میں بارش ہوتی ہے اور وشوید سے احاطہ بنگال - اودھ و آگرہ و خاصکر پنجاب میں بارش کا دارومدار اسی پر ہے چنانچہ ان ہی کی یادگار میں بیساکھی و لوہڑی پنجاب میں مشہور تیوہار ہیں۔

نام فلک البروج

نمبر شمار	ہندی	فارسی	انگریزی	ماہ ہندی و انگریزی
۱	میکھ	حمل	اریز	بیساکھ اپریل
۲	برکھ	ثور	ٹورس	جیٹھ مئی
۳	متھن	جوزا	جیمی	اساڑھ جون
۴	کرک	سرطان	کینسر	ساون جولائی
۵	سنگھ	اسد	لیو	بھادوں اگست
۶	کنیا	سنبلہ	ورگو	اسوج ستمبر
۷	تلا	میزان	لیبرا	کارتک اکتوبر
۸	برشچک	عقرب	سکورپیو	منگسر نومبر
۹	دھن	قوس	سیجٹریس	پوہ دسمبر
۱۰	مکر	جدی	کیپریکورن	ماگھ جنوری
۱۱	کنبھ	دلو	اکواریس	پھاگن فروری
۱۲	مین	حوت	پیسیس	چیت مارچ

اسمائے ماہ مختلفہ

نمبر شمار	ماہ ہندی	ماہ برج	ماہ عربی	ماہ فارسی	ماہ انگریزی
۱	چیت	مین	محرم	حوت	مارچ
۲	بیساکھ	میکھ	صفر	حمل	اپریل
۳	جیٹھ	برکھ	ربیع الاول	ثور	مئی
۴	اساڑھ	متھن	ربیع الآخر	جوزا	جون
۵	ساون	کرک	جمادی الاول	سرطان	جولائی
۶	بھادوں	سنگھ	جمادی الآخر	اسد	اگست
۷	اسوج	کنیا	رجب	سنبلہ	ستمبر
۸	کارتک	تلا	شعبان	میزان	اکتوبر
۹	منگسر	برشچک	رمضان	عقرب	نومبر
۱۰	پوہ	دھن	شوال	قوس	دسمبر
۱۱	ماگھ	مکر	ذیقعدہ	جدی	جنوری
۱۲	پھاگن	کنبھ	ذی الحجہ	دلو	فروری

نوٹ: [illegible]

فہرست مضامین کوروکشیتر جنتری سنہ ۱۹۳۰ء

جنوری ۱۹۳۱ء	جنوری سنہ ۱۹۳۱ء	رجب شعبان ۱۳۴۹ ہجری	ماہ ۱۸۵۲	پوہ ۱۹۸۷	پوہ ۱۹	پوہ شدی سمت ۱۹۸۷ بکرمی تتھ	گھڑی پل	قیام نکشتر نکشتر	گھڑی پل	قیام یوگ یوگ	گھڑی پل	داخلہ چندرما راس	گھڑی پل	اوقات آفتاب طلوع گھنٹہ منٹ	غروب گھنٹہ منٹ	قیام بھدرا شروع گھڑی پل	اخیر گھڑی پل	دنمان گھڑی پل	ماہ قمری	تہوار و تقریبات
بدھوار	۱	۳۰	۱۱	۲	۱۸	دوج	۶۰ ۰	اتراکھاڑ	۵۴ ۵۴	بیاگھات	۳۲ ۵۸	مکر	۵ ۱	۶ ۵۷	۵ ۳			۲۵ ۱۵	ن	
گورووار	۲	شعبان	۱۲	۳	۱۹	دوج	۳ ۵۴	شرون	۶۰ ۰	ہرکھن	۳۳ ۴۹	〃	〃	〃	〃			۱۶		
شکروار	۳	۲	۱۳	۳	۲۰	تیج	۸ ۳۱	شرون	۰ ۱۵	بجر	۳۴ ۴۴	کنبھ	۳۳ ۰	۵۶	۴	۴۱ ۳۶		۱۹		وفات امام ابوحنیفہ
شنی وار	۴	۳	۱۴	۴	۲۱	چوتھ	۱۲ ۱۲	دھنشٹا	۶ ۲۱	سدھی	۳۴ ۵۴	〃	〃	〃	〃		۱۲ ۵۷	۲۰		ولادت امام حسین
اتوار	۵	۴	۱۵	۵	۲۲	پنچمی	۱۴ ۳۰	ست بھکھا	۱۲ ۲	بیتی پات	۳۳ ۵۷	مین	۵۸ ۴۵	〃	〃			۲۱		
سوموار	۶	۵	۱۶	۶	۲۳	چھٹھ	۱۸ ۱	پوربا بھادرپد	۱۵ ۱	بریان	۳۴ ۲	〃	〃	〃	〃			۲۲		ولادت امام زین العابدین
منگلوار	۷	۶	۱۷	۷	۲۴	ستمی	۱۹ ۶	اترا بھادرپد	۱۷ ۱	پرگھ	۳۰ ۳۰	〃	〃	۵۵	۵	۲۱ ۰	۴۹ ۵۹	۲۳		
بدھوار	۸	۷	۱۸	۸	۲۵	اشٹمی	۱۹ ۲	ریوتی	۱۸ ۲	شو	۲۸ ۸	میکھ	۱۹ ۱	〃	〃			۲۴		
گورووار	۹	۸	۱۹	۹	۲۶	نومی	۱۸ ۴۲	اسونی	۲۰ ۳	سدھ	۳۴ ۴۴	〃	〃	〃	〃			۲۵		
شکروار	۱۰	۹	۲۰	۱۰	۲۷	دسمی	۱۵ ۱۸	بھرنی	۱۸ ۲	سادھ	۱۹ ۱	برکھ	۳۱ ۵۵	〃	〃	۴۵ ۰		۲۶		
شنی وار	۱۱	۱۰	۲۱	۱۱	۲۸	اکادشی	۱۲ ۴	کرتکا	۱۶ ۱	شبھ	۱۳ ۰	〃	〃	۵۴	۶		۱۳ ۱	۲۷		
اتوار	۱۲	۱۱	۲۲	۱۲	۲۹	دوادشی	۸ ۰	روہنی	۱۴ ۶	شکل	۳ ۱۳	متھن	۴۰ ۴۰	〃	〃			۲۸		
سوموار	۱۳	۱۲	۲۳	۱۴	ماگھ	تردوشی چودش	۳ ۴۳ ۴۴ ۵۸	مرگسر	۱۱ ۱۱	برہم اندر	[illegible]	〃	〃	〃	〃	۵۸ ۸		۲۹		مکر سنکرانت ۹ گھڑی ۴۹ پل
منگلوار	۱۴	۱۳	۲۴	۱۵	۲	پورنماشی	۵۱ ۴۰	آردرا	۶ ۳۰	بیدھرت	۴۴ ۴	کرک	۴۸ ۴۸	〃	〃		۲۵ ۵	۳۰		
بدھوار	۱۵	۱۴	۲۵	۱	۳	ماگھ بدی ایکم	۴۵ ۵	پنربس پکھ	[illegible]	وشکنبھ	۳۵ ۵	〃	〃	۵۳	۷			۳۱	[illegible]	شب برات
گورووار	۱۶	۱۵	۲۶	۲	۴	دوج	۴۰ ۱۰	اشلیکھا	۵۱ ۵۱	پریتی	۲۷ ۱۷	سنگھ	۵۱ ۵۱	〃	〃			۳۲		
شکروار	۱۷	۱۶	۲۷	۳	۵	تیج	۳۴ ۵۳	مگھا	۴۹ ۱۰	آیوشمان	۱۹ ۱۹	〃	〃	〃	〃	۸ ۴	۳۴ ۵۳	۳۳		
شنی وار	۱۸	۱۷	۲۸	۴	۶	چوتھ	۳۰ ۶	پوربا پھالگنی	۴۶ ۲۳	سوبھاگیہ	۱۳ ۱۳	〃	〃	〃	〃			۳۴		تل چوتھ برت
اتوار	۱۹	۱۸	۲۹	۵	۷	پنچمی	۲۵ ۱	اترا پھالگنی	۴۴ ۱۱	شوبھن	۶ ۳	کنیا	۲ ۵	۵۳	۸			۳۵		
سوموار	۲۰	۱۹	۳۰	۶	۸	چھٹھ	۲۲ ۵۳	ہست	۴۲ ۴۲	اتی گنڈ سوکرمان	[illegible]	〃	〃	〃	〃	۲۲ ۴۸	۵۱ ۱۵	۳۶		عرس بندگی شاہ حسینی
منگلوار	۲۱	۲۰	دلو	۷	۹	ستمی	۲۱ ۱	چترا	۴۳ ۲۸	دھرت	۵۰ ۵	تلا	۱۳ ۳	〃	〃			۳۷		
بدھوار	۲۲	۲۱	۲	۸	۱۰	اشٹمی	۱۹ ۳۳	سواتی	۴۴ ۴	شول	۴۶ ۵۶	〃	〃	〃	〃			۴۰		
گورووار	۲۳	۲۲	۳	۹	۱۱	نومی	۱۹ ۵۸	بشاکھا	۴۶ ۱۶	گنڈ	۴۴ ۳۰	برشچک	〃	۵۱	۹	۵۰ ۱۲		۴۲		
شکروار	۲۴	۲۳	۴	۱۰	۱۲	دسمی	۲۱ ۴۶	انورادھا	۴۹ ۵۲	بردھ	۴۵ ۴۱	برشچک	۳۰ ۳۸	〃	〃		۲۱ ۲۶	۴۵		
شنی وار	۲۵	۲۴	۵	۱۱	۱۳	اکادشی	۲۴ ۹	جیشٹھا	۵۳ ۱۸	دھرو	۴۲ ۵۷	دھن	۵۳ ۱۸	۵۰	۱۰			۵۰		کھٹ تلا اکادشی برت
اتوار	۲۶	۲۵	۶	۱۲	۱۴	دوادشی	۲۸ ۰	مول	۵۸ ۵۸	بیاگھات	۴۲ ۱۲	〃	〃	۴۹	۱۱			۵۵		
سوموار	۲۷	۲۶	۷	۱۳	۱۵	تردوشی	۳۲ ۴۲	پوربا کھاڑ	۶۰ ۰	ہرکھن	۴۳ ۵۴	〃	〃	〃	〃	۳۲ ۴۰		〃		
منگلوار	۲۸	۲۷	۸	۱۴	۱۶	چودش	۳۷ ۴۲	پوربا کھاڑ	۴ ۴۳	بجر	۴۵ ۴۵	مکر	۲۲ ۸	۴۸	۱۲		۵ ۳۸	۲۶ ۰		
بدھوار	۲۹	۲۸	۹	۳۰	۱۷	اماوس	۴۶ ۵۲	اتراکھاڑ	۱۱ ۱۱	سدھی	۴۶ ۲۷	〃	〃	۴۷	۱۳			۲۶ ۵		
گورووار	۳۰	۲۹	۱۰	۱	۱۸	ماگھ سدی ایکم	۴۷ ۴۷	شرون	۲۸ ۲۶	بیتی پات	۴۷ ۱۶	کنبھ	۵۱ ۵	۴۶	۱۴			۱۰	[illegible]	
شکروار	۳۱	۳۰	۱۱	۲	۱۹	دوج	۵۳ ۵	دھنشٹا	۲۵ ۵	بریان	۴۸ ۸	〃	〃	۴۵	۱۵			۲۶ ۱۵	بیاچاند	

تاریخ	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

لگن ۱ پوہ شدی ۳ سمت ۱۹۸۶ بکرمی　　　لگن ۲ ماگھ بدی ۱۱ سمت ۱۹۸۶ بکرمی





قیام سیارگان بابتہ لگن ۱

نام سیارہ	سورج	منگل	بدھ	گورو	شکر	شنی	راہو	کیتو
راس	۹	۹	۱۰	۲	۹	۹	۱	۷
انش	۲۰	۱۱	۷	۱۶	۱۲	۱۰	۱۵	۱۵
کلا	۸	۳۷	۵۲	۴	۲۰	۴	۵۵	۵۵
بکلا	۱۷	۵۳	۳۲	۳۱	۳	۰	۲۴	۲۹

قیام سیارگان بابتہ لگن ۲

نام سیارہ	سورج	منگل	بدھ	گورو	شکر	شنی	راہو	کیتو
راس	۱۰	۹	۱۰	۲	۱۰	۹	۱	۷
انش	۱۱	۲۷	۴	۱۴	۹	۱۲	۱۲	۱۴
کلا	۳۶	۵۳	۴۰	۵۷	۰	۲۱	۴۸	۴۸
بکلا	۲۴	۴۷	۵۱	۲۵	۴۵	۱۱	۳۸	۳۸

تاثیرات وثمرہ منازل فلکی براشرف المخلوقات ارضی

میکھ
نیا کام کرے تو لابھ ہو۔ کاروبار میں اچھا رہے راج سے عزت ہو جسم میں کچھ روگ ہو۔ ورنہ ہر طرح اچھا رہے۔ عورت کا سکھ ہو اس ماہ کی ۳-۷ تاریخ سخت ہیں۔ دوستوں سے فائدہ اچھا ہوگا۔ رنگ کے کام میں لابھ۔

برکھ
کاروبار میں ترقی روزگار کی زیادتی اخراجات کی کمی دلی فکر اور تشویش دور اور عورت کا سکھ منہ میں درد کی شکایت رفع ہو۔ اس ماہ کی ۵-۹-۲۱ تاریخ اچھی سمجھو۔ دوست سے فائدہ ہر کام درست ہوں۔

متھن
طبیعت پریشان و حیران دل کو سکون اور بروقت سوچ دو چار اور فکر ترقی کاروبار دامنگیر رہے۔ لابھ سے خرچ زیادہ رہے۔ اسپر بھی ۳-۹-۱۵-۱۹-۲۷ تاریخ اور بھی خراب ہیں دھن کا خرچ زیادہ ہوگا۔

کرک
طبیعت کچھ ناقص رہے اور دل کو از حد فکر رہے ہر وقت فکر و سوچ ترقی کاروبار دامنگیر رہے۔ لابھ سے زیادہ خرچ رہے ۸-۱۲ ۱۷-۲۶ تاریخ بھی خراب ہیں۔ دھن کا خرچ۔

سنگھ
آمد خرچ برابر رہو۔ کوئی مقدمہ درپیش ہو دھن کا لابھ ہو کاروبار میں ترقی ہووے پریشانی کافور ہووے سفر درپیش ہو جس سے کچھ لابھ ہو اولاد کی فکر عورت کی چنتا میں رہے اس ماہ کی ۱۸-۱۹ تاریخ ناقص ہیں مگر ۱۷-۲۱ اچھی ہیں۔

کنیا
اس ماہ میں کئی طرح کے معاملات درپیش ہوں اور ان میں سے کامیابی ہو سفر کے خیالات درپیش ہوں جس سے لابھ نہ ہو اولاد کا فکر رہے کہیں دشمن خاک ہو اپنوں سے ناچاقی ہو۔ یہ تاریخات خراب ہیں ۲-۵-۱۱-۳-۱۹-۲۷-۳۰

تلا
آمدن زیادہ خرچ کم صحت جسمانی خاصی۔ یہ ماہ ہر حالت سے اچھا ہے۔ طبیعت بشاش کاروبار اچھا رہے دوستوں سے ملاپ دشمن مغلوب و مطیع کاروبار سے فائدہ ہووے ۲-۱۷-۲۷ ناقص ہیں۔

برشچک
یہ مہینہ اس راس والے کو بہت اچھا نہیں ہے کوئی جسمانی تکلیف ہو۔ دوست دشمن ہو جاویں اخراجات کی زیادتی ہو جاوے۔ اس ماہ کی ۱۷-۱۳-۲۰ تاریخ اچھی نہیں کسی مقدمہ میں کامیابی ضرور ہو۔

دھن
سنتان کو تکلیف۔ نیا کام کرے تو ہر طرح کا لابھ ہو دھن کی ہانی ہو آنکھوں کا روگ عزیزوں سے شناسائی وقوع میں آئے دشمن غالب ہو جاوے ۱۲-۱۴-۲۲ تاریخوں میں کچھ فائدہ ہو کام و کپڑے کا بیوپار اچھا رہے مگر نصف ماہ اچھا ہے۔

مکر
آمدن خرچ اوسط رہے رنج و غم کافور ہو ہر کسی کی بات اچھی معلوم ہو۔ خواہ مخواہ کسی سے کھینچ جاوے تو ممکنات سے ہے۔ کسی دوست سے ملاپ ہونیکی امید بھی ہے سفر ہو تو کچھ مضائقہ نہیں جس سے لابھ ہووے ۹-۱۱ تاریخ کو فائدہ۔

کنبھ
آمدن اچھی خرچ کم بلکہ کوئی مقدمہ درپیش ہو اس ماہ میں کامیابی ہو جس سے دل و طبیعت خوش حال ہو۔ صحت اچھی مگر نقل و حرکت زیادہ مگر کامیاب۔ دشمن مغلوب رشتہ داروں سے ملاپ۔

مین
آمدن خرچ برابر۔ کوئی امر کامیابی کا درپیش ہو گو مگر ناکامیابی ہو۔ سفر زیادہ رہے دوست آشنا منحرف ہوں۔ دشمن مغلوب ہوں بعض اوقات فاقہ مستی کی نوبت ہو۔ سفر ہیں۔

پیشنگوئی بابتہ ماہ جنوری سنہ ۱۹۳۰ء

۱۳ ماہ حال کو سورج یعنی آفتاب از برج قوس در برج جدی بوقت ۱۰ انجکر ۵۰ منٹ شب داخل ہوگا ۱۵ مہورت پر جس کا ثمرہ حسب ذیل ہو۔ بارات ۲ یعنی سوسوار ہو اگنی دیش کی ترمگر سندا اگنی دیش اور راجہ سکوں۔ مدھیہ راتری پورے بیانی راکشان یعنی چال شمال میں ایشان یعنی شمال مشرق میں نظر بانیچہ کرن۔ پروشنہ پھل مدینم سواری بھینس یا بھینسا اوپ سواری اونٹ کلیش کا رک پوشاک بر نگ سیاہ تو میرا بدھ۔ گھیر کا برتن لئے۔ دہی کا بھوجن۔ تلک مٹی کا۔ دائیں مرگ سورج مکھی کا پھول لئے ہوتے مٹی کا زیور بوڑھی عمر بیٹھی حالت میں سنکرانت پردیشی ہوا ہے۔ دہانیہ بھاؤ تیز یعنی گندم۔ چنا۔ جو۔ باجرہ۔ جوار۔ مونگ۔ اوڑد تیز ہوگا۔ گائے بھینس۔ اونٹ۔ بکری۔ بھیڑ چوپایہ گراں ہونگے۔ دودھ دہی گھی تیز ہوگا۔ گڑ شکر کھانڈ بورا چینی وغیرہ گراں ہونگی۔ مونگہ۔ موتی۔ لعل۔ ہیرا۔ نیلم۔ پکھراج۔ یاقوت۔ عقیق زمرد سب قسم کا پتھر ارزاں ہوگا۔ خوشبویات عطر۔ تیل۔ روح وغیرہ ارزاں ہونگی۔ مصالحہ جات ارزاں ہوں۔ کپڑا سیاہ رنگ۔ لوہا۔ تانبہ۔ جست دھات ارزاں ہونگی ملتانی مٹی گیرو۔ سیل کھڑی۔ کھریا مٹی وغیرہ گراں ہو۔

حالات ارضی وسماوی بابتہ ماہ جنوری سنہ ۱۹۳۰ء

پوہ شدی تردوشی یعنی ۱۳ سوموار سورج دھن راس سے مکر راس میں ۲۹ گھڑی ۴۹ پل بوقت شب داخل ہوگا جس کا پھل مندرجہ ذیل ہے۔ اس ماہ میں سب گراہ مارگی یعنی اپنی چال پر بند ہے ہیں صرف بدھ ۱۵ دوادشی کو بکری میں ہوگا یعنی ۲ تاریخ کو رجعت میں ہوگا۔ اور ۱۴ فروری کو مستقیم یعنی مارگی ہوگا۔ اس لئے اس ماہ میں یوگ بارش بورخہ ۶-۱۰-۱۲-۱۳-۱۵-۲۰ تاریخوں میں ہو جن میں سے ۶-۱۰-۱۳ اور ۱۵ میں فرد پورا کریگا مطلع ابر محیط ہوگا۔ ہوا سرد اور بڑے زور چلیں اور زحل یعنی شنی ۱۰ تاریخ کو طلوع ہوگا۔ اس لئے سردی کا بہت زور ہوگا۔ اور نوبت برف پڑنے تک ہووے کیونکہ بدھ بکری کا اثر بلاد اس ماہ میں پانچ بدھ وار ہیں جاکا بر یہی کرے اور پانچ شکروار یہ جا سکھ کریں مگر پانچ گوروار ناقص ہیں مغرب میں کہیں دنگہ فساد ہونے کی نوبت ہووے۔ پر جا کو بیماری سے نمونیا کا زور تنگ کریگا۔ پوہ شدی میں گرہ یوگ اچھا نہیں پر جا کو ناقص ہے۔ ہر شکل کیش میں چوہوں کا موتی پڑا ستے پرجا میں گوا اثر زیادہ ہووے۔ دہ آپس میں لوگوں میں پھوٹ ہو جس سے پرجا کا نقصان ہووے۔ اور تمام اشیاء خوردنی و پوشیدنی گراں ہونگی۔ اور ہر ایک چیز کی گرانی کا یوگ ہے آیندہ ایشور مالک ہے۔

شٹہ نمبر ۳-۷-۱۱-۱۳-۲۳-۲۴-۲۷-۳۷-۴۷-۵۱-۸۱-۹۱ ہیں۔

ایام	فروری ۱۹۳۶ء	رمضان ۱۳۵۴ ہجری	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ماگھ شدی سمت ۱۹۹۲ بکرمی تتھ	گھڑی پل	قیام نکشتر نکشتر	گھڑی پل	قیام یوگ یوگ	گھڑی پل	داخلہ چندرماں راس	گھڑی پل	اوقات آفتاب طلوع گھنٹہ منٹ	غروب گھنٹہ منٹ	قیام بھدرا شروع گھڑی پل	آخر گھڑی پل	دن مان گھڑی پل	[illegible]	کیفیت و تہوار
شنی وار	۱	۱	۱۳	۳	۲۰	پنچ	۵۵ / ۵۴	ست بھکھا	۲۹ / ۷	پرگھ	۴۸ / ۰	کنبھ	۰	۶ / ۴۴	۵ / ۱۶			۲۶ / ۲۰		ماہ رمضان شروع روزہ
اتوار	۲	۲	۱۳	۴	۲۱	چوتھ	۵۴ / ۰	پوربا بھادرپد	۴۳ / ۱۲	شو	۴۶ / ۵۹	مین	۱۷ / ۱۱	۴۳	۱۷	۲۶ / ۵۷	۵۸ / ۰	۲۴		
سوموار	۳	۳	۱۴	۵	۲۲	پنچمی	۵۹ / ۱۱	اترا بھادرپد	۳۹ / ۱۱	سدھ	۴۵ / ۱۲	〃	〃	۴۲	۱۸			۳۰		بسنت پنچمی وفات خاتون جنت
منگلوار	۴	۴	۱۵	۶	۲۳	چھٹہ	۵۸ / ۵۶	ریوتی	۳۷ / ۳۰	سادھ	۴۲ / ۲	میکھ	۳۷ / ۳۰	۴۱	۱۹			۳۵		
بدھ وار	۵	۵	۱۶	۷	۲۴	سپتمی	۵۷ / ۱۵	اسونی	۳۸ / ۱۴	شبھ	۳۷ / ۵۸	〃	〃	۴۰	۲۰	۵۷ / ۱۹		۴۰		
گوروار	۶	۶	۱۷	۸	۲۵	اشٹمی	۵۴ / ۳۱	بھرنی	۳۷ / ۲۲	شکل	۳۴ / ۳۵	برکھ	۵۱ / ۳۵	۳۹	۲۱		۴۵ / ۵۹	۴۵		
شکروار	۷	۷	۱۸	۹	۲۶	نومی	۵۰ / ۵۴	کرتکا	۳۵ / ۳۲	برہم	۲۷ / ۳۲	〃	〃	۳۸	۲۲			۵۰		
شنی وار	۸	۸	۱۹	۱۰	۲۷	دسمی	۴۶ / ۳۱	روہنی	۳۲ / ۴۶	اندر	۲۱ / ۸	〃	〃	۳۷	۲۳			۵۵		
اتوار	۹	۹	۲۰	۱۱	۲۸	اکادشی	۴۱ / ۸	مرگسر	۲۹ / ۳۰	بیدھرت	۱۴ / ۱	متھن	۱ / ۸	۳۶	۲۴	۱۴ / ۱۹	۴۱ / ۸	۲۷ / ۰		جیا اکادشی برت
سوموار	۱۰	۱۰	۲۱	۱۲	۲۹	دوادشی	۳۵ / ۴۲	آردرا	۲۵ / ۵۲	بشکنبھ	۶ / ۳۵	〃	〃	〃	〃			[illegible]		
منگلوار	۱۱	۱۱	۲۲	۱۳	۳۰	ترودشی	۲۹ / ۵۶	پونربس	۲۱ / ۴۵	پریتی / آیوشمان	۱۵ / ۵۱ / ۱۵	کرک	۷ / ۴۶	۳۵	۲۵			۴۶ / ۵		
بدھ وار	۱۲	۱۲	۲۳	۱۴	پھاگن	چودش	۲۴ / ۵	پکھ	۱۷ / ۴۰	سوبھاگیہ	۴۴ / ۲۰	〃	〃	۳۴	۲۶	۳۴ / ۵	۵۱ / ۳۱	۱۰		کنبھ سنکرانت ۷ گھڑی ۲ پل
گوروار	۱۳	۱۳	۲۴	۱۵	۲	پورنماشی	۱۵ / ۳۷	اشلیکھا	۱۳ / ۴۹	شوبھن	۳۵ / ۵۱	سنگھ	۱۳ / ۴۹	۳۳	۲۷			۱۵	[illegible]	
شکروار	۱۴	۱۴	۲۵	۱	۳	پھاگن بدی پریم	۱۳ / ۴	مگھا	۱۰ / ۵	اتی گنڈ	۲۸ / ۲۷	〃	〃	۳۲	۲۸			۲۰		
شنی وار	۱۵	۱۵	۲۶	۲	۴	دوج	۷ / ۱۱	پوربا پھاگنی	۶ / ۵۶	سوکرما	۴۱ / ۳۴	کنیا	۲۱ / ۱۹	۳۱	۲۹	۳۵ / ۳۹		۲۵		ولادت امام حسن
اتوار	۱۶	۱۶	۲۷	۴	۵	تیج	۴ / ۶	اترا پھاگنی	۴ / ۲۹	دھرت	۱۵ / ۲۲	〃	〃	۳۰	۳۰		۴ / ۶	۳۰		چوتھہ برت
سوموار	۱۷	۱۷	۲۸	۵	۶	چوتھ / پنچمی	۱ / ۵۴ / ۲۲	ہست	۲ / ۴۴	شول	۹ / ۵۴	تلا	۳۲ / ۳۲	۲۹	۳۱			۳۵		
منگلوار	۱۸	۱۸	۲۹	۶	۷	چھٹہ	۵۶ / ۳۰	چترا	۲ / ۲۱	گنڈ	۵ / ۲۷	〃	〃	۲۸	۳۲	۵۷ / ۳۷		۴۰		
بدھ وار	۱۹	۱۹	حوت	۷	۸	سپتمی	۵۸ / ۲	سواتی	۲ / ۵۷	بردھ	۱ / ۵۷	برشچک	۴۹ / ۲۵	۲۷	۳۳		۲۷ / ۴۷	۴۵		
گوروار	۲۰	۲۰	۲	۸	۹	اشٹمی	۶۰ / ۰	بشاکھا	۴ / ۵۴	دھرو / بیاگھات	۵۵ / ۱۱	〃	〃	۲۶	۳۴			۵۰		عرس بابا شرف الدین
شکروار	۲۱	۲۱	۳	۹	۱۰	اشٹمی	۱ / ۴۰	انورادھا	۴ / ۱	ہرکھن	۵۶ / ۴۴	〃	〃	۲۵	۳۵			۵۵		شہادت حیدر کرار
شنی وار	۲۲	۲۲	۴	۱۰	۱۱	نومی	۳ / ۲۴	جیشٹھا	۱۲ / ۵۴	بجر	۵۶ / ۵۲	دھن	۱۲ / ۵۴	〃	〃	۲۲ / ۲۹		〃		عرس مہر علی اکبرآبادی
اتوار	۲۳	۲۳	۵	۱۰	۱۲	دسمی	۷ / ۲	مول	۱۷ / ۳۸	سدھی	۵۷ / ۴۹	〃	〃	۲۴	۳۶		۶ / ۲۸	۲۸ / ۰		
سوموار	۲۴	۲۴	۶	۱۱	۱۳	اکادشی	۱۱ / ۱۰	پوربا کھاڑ	۲۳ / ۳۶	بیتی پات	۵۸ / ۵۸	مکر	۴۰ / ۱۳	۲۳	۳۷			۵		بجیا اکادشی برت
منگلوار	۲۵	۲۵	۷	۱۲	۱۴	دوادشی	۱۶ / ۴۱	اترا کھاڑ	۳۰ / ۴	بریان	۶۰ / ۰	〃	〃	۲۲	۳۸			۱۰		
بدھ وار	۲۶	۲۶	۸	۱۳	۱۵	ترودشی	۲۱ / ۲۴	سرون	۳۶ / ۸	بریان	۱ / ۲۰	〃	〃	۲۱	۳۹	۲۱ / ۲۴	۵۳ / ۴۸	۱۵		شوراتری برت لیلۃ القدر
گوروار	۲۷	۲۷	۹	۱۴	۱۶	چودش	۲۶ / ۱۳	دھنشٹا	۴۰ / ۳۳	پرگھ	۱ / ۱۹	کنبھ	۹ / ۲۰	〃	۳۹			〃		
شکروار	۲۸	۲۸	۱۰	۳۰	۱۷	اماوشیہ	۳۰ / ۳۳	شت بھکھا	۴۷ / ۵۹	شو	۲ / ۱۵	〃	〃	۲۰	۴۰			۲۸ / ۲۰	[illegible]	جمعۃ الوداع

تاریخ	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸

لگن نمبر ۱ بابتہ ماگھ شدی سمت ۱۹۸۶ بکرمی

لگن نمبر ۲ پھاگن بدی نومی سمت ۱۹۸۶ ۱۵/۵



قیام سیارگان بابتہ لگن نمبر ۱

سیارہ	سورج	چندرما	منگل	بدھ	گورو	شکر	شنی	راہو
راس	۱۰	۱۱	۱۱	۲	۱۰	۹	۱	۷
انش	۱۸	۳	۰	۱۵	۱۷	۱۳	۱۴	۱۴
کلا	۴۴	۱۹	۲۱	۰	۵۳	۱	۲۶	۲۶
بکلا	۲۵	۲۸	۷	۴۲	۴۷	۱۲	۲۳	۲۳

قیام سیارگان بابتہ لگن نمبر ۲

سیارہ	سورج	چندرما	منگل	بدھ	گورو	شکر	شنی	راہو
راس	۱۰	۱	۱۰	۲	۱۰	۸	۱	۷
انش	۱۰	۱۰	۱۵	۱۵	۱۴	۱۴	۱۳	۱۳
کلا	۱	۳۳	۰	۴۵	۲۲	۵۱	۱۹	۱۹
بکلا	۳۹	۱۹	۱۴	۱۲	۱۹	۱۸	۲۳	۲۳/۱۷

تاثیرات و ثمرہ منازل فلکی بر اشرف المخلوقات ارضی

میکھ
آمدنی کم خرچ زیادہ بہتیرے بناتے کام میں کاٹ ڈالیا زیادہ ہوں یہ چپ ہے کم سکھ ہو جو ساون اگنی کا ڈر ہو۔ بد خوابی سے طبیعت اکھڑ بیچتر ہو جاوے اس ماہ کی ۹-۱۳ تاریخیں ناقص ہیں۔ دشمن مغلوب دوست آشنا منحرف ہوں صحت اچھی

برکھ
آمدنی کم خرچ زیادہ۔ سنتان کو تکلیف نیا کام کرکے تو ہر طرح کا لابھ ہو۔ دہن کی آمد۔ آنکھوں کا روگ عزیزوں سے شناسائی د توع میں آوے دشمن مغلوب ہو جاویں ۱۲-۱۹-۲۹ تاریخیں کچھ فائدہ ہو نمک و کپڑے کا بیوپار اچھا رہے۔

متھن
آمدنی زیادہ خرچ کم کسی سفر کا ارادہ کرے مگر پورا نہ ہو۔ اپنے کام خود بگاڑے۔ خونی امراض سے بچے تکلیف ہو گھر میں بھی کسی کو روگ کی شکایت ہے اس ماہ کی ۲-۵-۱۲ تاریخیں ٹھیک نہیں روزگار اچھا ہو دشمن درپے آزار ہوں مگر نقصان نہ کر سکیں

کرک
آمدنی زیادہ خرچ کم۔ یہ ماہ اچھا رہیگا کاروبار میں ترقی و اضافہ نمایاں ہو دوستوں و عزیزوں سے ملاپ ہو۔ بیوپار سے فائدہ ہو۔ عورت کو کچھ تکلیف ہو جاوے اس ماہ کی ۱۵-۱۷-۲۳ تاریخ ٹھیک نہیں سفر درپیش ہوگا۔

سنگھ
آمدنی و خرچ برابر صحت جسمانی خاصی مگر آشوب چشم کی شکایت ہو۔ بگڑے کام درست ہوں کسی دوست سے فائدہ ہو۔ مگر کسی زمین کا معاملہ درپیش ہو وے۔ نیز ۳-۸-۱۱-۱۳-۱۷-۲۱ تاریخیں ناقص ہیں۔

کنیا
رنج والم سب دور رہوں ہر کسی کی بات اچھی معلوم ہو دوست آشنا وں سے ملاپ دشمن مغلوب مگر کوئی سفر درپیش ہو جس سے کامیابی کی امید بگڑے ہوئے کام درست ہوں اس راس والے بیوپاریوں کو کچھ نقصان ہو۔ ۱۵-۱۷-۲۱ تاریخ ناقص ہیں۔

تلا
یہ ماہ اچھا رہیگا۔ کاروبار میں ترقی و اضافہ نمایاں ہو۔ دوستوں و عزیزوں سے ملاپ ہو۔ بیوپار سے فائدہ ہو عورت کو کچھ تکلیف ہو جائے تو جلد رفع ہو۔ اس ماہ کی ۱۵-۱۷-۲۲ تاریخ ٹھیک نہیں سفر درپیش ہوگا جو کامیاب ہو۔

برشچک
آمدن زیادہ اور خرچ کم اور اخراجات کی کمی صحت جسمانی ٹھیک رہے دل دن رات ادھیڑ بن میں غرق رہے۔ عزت رتبہ کو ٹھیس لگنے کا شک رفع ہو۔ عورت و اولاد سے کچھ سکھ ہو۔ اور اس ماہ کی ۷-۱۹-۲۷ تاریخ نحس ہیں دشمن درپے آزار ہوں

دھن
لابھ اور خرچ برابر رہے اولاد کی خوشی نصیب ہو یہ ماہ پہلے پہل ناقص ثابت ہو بعد آدھا گزر جانے کے بگڑے کام راس آئیں۔ مایوس امیدوں میں پھلیں پھولیں ۳-۵-۱۳ تاریخیں ناقص ہیں۔

مکر
دشمن نقصان رسانی میں سرگردان رہے مگر نقصان کسی قسم کا نہ ہو۔ دشمن چہ کند چوں مہربان باشد دوست دیکھو تمہارے داہنے جانب شانہ پر تل کا نشان ہے ۲۳ تاریخ کو ایشور سے بہتری کی پرارتھنا کرو۔ اوسط درجہ کا مہینہ ہے۔

کنبھ
لابھ زیادہ خرچ کم رہے اولاد کی خوشی حاصل ہو یہ ماہ پہلے ماہ سے اچھا ثابت ہو بعد آدھا گزر جانے پر بگڑے کام راس آئیں مایوس امیدوں میں پھلیں پھولیں دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاپ ۴-۱۰-۱۲ تاریخیں ناقص ہیں اسمیں نقصان ہوگا

مین
یہ مہینہ اس راس والے کو اچھا نہیں ہے کوئی جسمانی تکلیف ہو دوست دشمن ہو جاویں اخراجات کی زیادتی ہو جاوے اس ماہ کی ۱۰-۱۴-۱۶ تاریخ اچھی ہیں کسی مقدمہ میں کامیابی ضرور ہو مگر خاص حد تک۔

پیشنگوئی بابتہ ماہ فروری سنہ ۱۹۳۰ء

۱۲ ماہ حال کو آفتاب از برج جدی در برج دلو بروز چہارشنبہ بوقت ۹ بجکر ۲۳ منٹ صبح داخل ہوگا۔ ثمرہ حسب ذیل ہے۔ بارات ۳ نکشترات ۳ بار نام مندا کینی نکشتر نام دھوانکشی راجہ دو لچھن سکھی۔ پوربا ہن بیاہنی راگیو ہتی چال اشرق میں نظر جنوب مشرق میں بانیجہ کرن بردشٹہ پھل مدہم سواری بھینسا اوپ سواری اونٹ کلیش کارک۔ توم رابدھ ہے۔ کھپر کا برتن۔ دیوی کی نور اک۔ مٹی کا تلک مرگ جاتی سورج مکھی کا پھول لئے مٹی کا زیور پہنے بوڑھی عمر بیٹھی حالت میں۔ ۳۰ مہورت پر پکھہ نکشتر میں دہانیہ بھاؤ سم۔ گندم۔ جو۔ چنا۔ چاول اڑد۔ مونگ وغیرہ ارزاں ہوں۔ روئی السی ارزاں ہوں۔ گڑ۔ کھانڈ۔ گھی تیل کا بھاؤ مندا ہوگا۔ چاندی سونا مندا۔ خاصکر چاندی سونے سے کچھ زیادہ مندی رہے۔ اور سونے کا بھاؤ سادھارن رہیگا چمڑا۔ سن۔ پاٹ مندا ہوگا۔ دودھ دہی۔ گائے بھینس اونٹ۔ مرگ وغیرہ چوپایہ جانور گراں ہونگے۔ موتی۔ مونگہ۔ نیلم۔ پکھراج عقیق۔ زمرد۔ لعل وغیرہ پتھر گراں ہونگے۔ لوہا۔ تانبہ جست۔ پارہ وغیرہ دھاتیں ارزاں ہونگی۔

حالات ارضی و سماوی بابتہ ماہ فروری سنہ ۱۹۳۰ء

ماگھ شدی چودش بروز بدھ وار ۷ گھڑی ۲ پل پر سورج مکر راس سے کنبھ راس میں داخل ہوگا۔ سنکرانت ۳۰ مہورت ہے۔ بدھ اور گورو بکری ہیں باقی سب گراہ مارگی ہیں۔ نیز بدھ و گورو بھی ۴ و ۳ تاریخ میں مارگی ہو جاویں گے۔ نیز اس ماہ میں یوگ بارش کم ہیں۔ مگر ماگھ شدی دوج کو شکروار ہے۔ اس لئے یہ ماہ اچھا ہوگا۔ اور گراہ یوگ بھی اچھے ہیں۔ راجہ پرجا سکھی ہوگی۔ آسمان ہمیشہ دن رات میں مطلع بالکل صاف ہے۔ مگر رات ٹھنڈی ہوں۔ موسم تغیر پذیر ہوگا۔ ہر عورت۔ مرد۔ بچہ۔ بوڑھا۔ کو ہوا احتیاط لازم ہے۔ اگر ماگھ شدی چودش کے دن بارش ہوتی تو برجائیں گھاس کی بردھی ہوگی۔ اور اگر ماگھ شدی پڑوا یعنی ایکم کو وایو چلے تو جان لینا چاہیے کہ تیل اور خوشبویات گراں ہونگی۔

شتہ نمبر ۵-۹-۳-۷-۱۵-۴۵-۸۵-۲۹-۶۹-۷۹-۲۳-۵۳-۹۳ ہیں۔

دن	مارچ ۱۹۳۱ء	رمضان ۱۳۴۹ ہجری	[illegible]	[illegible]	[illegible]	پھاگن شدی سمت ۱۹۸۷ بکرمی تتھ	گھڑی پل	قیام نکشتر نکشتر	گھڑی پل	قیام یوگ یوگ	گھڑی پل	داخلہ چندرمان راس	گھڑی پل	اوقات آفتاب طلوع گھنٹہ منٹ	غروب گھنٹہ منٹ	قیام بھدرا شروع گھڑی پل	انتہا گھڑی پل	دن مان گھڑی پل	[illegible]	تہوار وغیرہ
شنی وار	۱	۲۹	۱۱	۱	۱۸	اکم	۳۳ ۲۵	پوروا بھادر پد	۵۱ ۴۷	شکل	۲ ۷	مین	۳۵ ۴۴	۶ ۱۹	۵ ۴۱			۲۸ ۲۵	۴	
اتوار	۲	شوال	۱۲	۲	۱۹	دوج	۳۵ ۳۷	اترا بھادر پد	۵۵ ۴۷	سادھ	۱ ۲۲	〃	〃	۱۸	۴۲			۳۰		عیدالفطر
سوموار	۳	۲	۱۳	۳	۲۰	تیج	۳۶ ۲۹	ریوتی	۵۶ ۵۳	شبھ شکل	۲۱ ۵۳	میکھ	۵۶ ۵۳	〃	〃			۳۰		
منگلوار	۴	۳	۱۴	۴	۲۱	چوتھ	۳۶ ۶	اسونی	۵۷ ۴۲	برہم	۵۳ ۷	〃	〃	۱۷	۴۳	۵ ۱۵	۳۶ ۶	۳۵		
بدھ وار	۵	۴	۱۵	۵	۲۲	پنچمی	۳۴ ۲۴	بھرنی	۵۷ ۹	اندر	۴۸ ۵۳	〃	〃	۱۶	۴۴			۴۰		
گوروار	۶	۵	۱۶	۶	۲۳	چھٹھ	۳۱ ۳۵	کرتکا	۵۵ ۲۱	بیدھرت	۴۳ ۲۸	برکھ	۱۱ ۴۴	۱۵	۴۵			۴۵		
شکروار	۷	۶	۱۷	۷	۲۴	ستمی	۲۷ ۴۷	روہنی	۵۲ ۵۹	وشکنبھ	۳۷ ۳۶	〃	〃	۱۴	۴۶	۲۷ ۴۷	۵۵ ۲۸	۵۰		
شنی وار	۸	۷	۱۸	۸	۲۵	اشٹمی	۲۳ ۱۰	مرگسر	۴۹ ۵۷	پریتی	۳۱ ۴۱	متھن	۲۱ ۲۹	۱۳	۴۸			۵۵		
اتوار	۹	۸	۱۹	۹	۲۶	نومی	۱۷ ۵۵	آردرا	۴۶ ۱۴	آیوشمان	۲۳ ۲۷	〃	〃	۱۲	۴۸			۲۹ ۰		
سوموار	۱۰	۹	۲۰	۱۰	۲۷	دسمی	۱۲ ۱۵	پونربس	۴۶ ۱۵	سوبھاگیہ	۱۵ ۵۷	کرک	۲۸ ۳۴	۱۱	۴۹	۳۹ ۳۶		۲۹ ۵		
منگلوار	۱۱	۱۰	۲۱	۱۱	۲۸	اکادشی	۶ ۳۷	پکھ	۳۸ ۴۲	شوبھن	۸ ۴۵	〃	〃	۱۰	۵۰		۶ ۳۶	۲۹ ۱۰		املاکا دشی برت
بدھ وار	۱۲	۱۱	۲۲	۱۲	۲۹	دوادشی تردوشی	۰ ۵۵ ۱	اشلیکھا	۳۴ ۷	اتی گنڈ سکرما	۲ ۵۳ ۲۲	سنگھ	۳۴ ۷	۹	۵۱			۲۹ ۱۵		
گوروار	۱۳	۱۲	۲۳	۱۳	۳۰	چودش	۴۹ ۲۶	مگھا	۳۰ ۲۰	دھرت	۴۵ ۳۳	〃	〃	۸	۵۲	۴۹ ۲۶		۲۰		
شکروار	۱۴	۱۳	۲۴	۱۵	چیت	پورنماشی	۴۶ ۳۸	پوروا پھالگنی	۲۷ ۵	شول	۳۸ ۳۷	کنیا	۴۱ ۲۷	۷	۵۳		۱۷ ۶	۲۵	۲۰ [illegible]	ہولی ۶ بجکر ۳۰ منٹ شام مین سنکرانت چیت پونیہ کال
شنی وار	۱۵	۱۴	۲۵	۱	۲	چیت بدی ایکم	۴۰ ۴۲	اترا پھالگنی	۲۴ ۳۲	گنڈ	۳۲ ۱۷	〃	〃	۶	۵۴		۰	۳۰		دھولنڈی۔ پھاگ ہولی
اتوار	۱۶	۱۵	۲۶	۲	۳	دوج	۳۷ ۷	ہست	۲۲ ۵	بردھ	۲۶ ۳۳	تلا	۵۱ ۵۱	۵	۵۵			۳۵		
سوموار	۱۷	۱۶	۲۷	۳	۴	تیج	۳۴ ۵۸	چترا	۲۱ ۲۷	دھرو	۲۲ ۴	〃	〃	۴	۵۶	۶ ۳	۳۴ ۵۸	۴۰		چوتھ برت
منگلوار	۱۸	۱۷	۲۸	۴	۵	چوتھ	۳۳ ۵۴	سواتی	۲۲ ۱۵	بیاگھات	۱۸ ۴	〃	〃	۳	۵۷			۴۵		
بدھ وار	۱۹	۱۸	۲۹	۵	۶	پنچمی	۳۴ ۱۳	بشاکھا	۲۳ ۵۵	ہرکھن	۱۵ ۸	برشچک	۰ ۳۰	۲	۵۸			۵۰		رنگیلی پنچمی
گوروار	۲۰	۱۹	۳۰	۶	۷	چھٹھ	۳۵ ۴۹	انورادھا	۲۶ ۵۲	بجر	۱۳ ۱۶	〃	〃	۱	۵۹	۳۵ ۴۹		۵۵		
شکروار	۲۱	۲۰	حمل	۷	۸	ستمی	۳۸ ۴۲	جیشٹھا	۳۰ ۵۳	سدھی	۱۲ ۲۵	دھن	۳۰ ۵۳	۶ ۰	۶ ۰		۷ ۱۵	۳۰ ۰		شیتلا پوجن
شنی وار	۲۲	۲۱	۲	۸	۹	اشٹمی	۴۲ ۳۷	مول	۳۵ ۵۵	بیتی پات	۱۲ ۱۵	〃	〃	۵ ۵۹	۶ ۱			۳۰ ۵		
اتوار	۲۳	۲۲	۳	۹	۱۰	نومی	۴۷ ۱۳	پوروا کھاڑ	۴۱ ۵۵	بریان	۱۲ ۵۹	مکر	۵۴ ۲۹	۵۸	۲			۱۰		
سوموار	۲۴	۲۳	۴	۱۰	۱۱	دسمی	۵۲ ۱۷	اترا کھاڑ	۴۸ ۱۲	پرگھ	۱۴ ۱۲	〃	〃	۵۷	۳	۱۹ ۴۵	۵۲ ۱۷	۱۵		
منگلوار	۲۵	۲۴	۵	۱۱	۱۲	اکادشی	۵۷ ۲۱	سرون	۵۴ ۳۰	شو	۱۵ ۲۷	〃	〃	۵۶	۴			۲۰		
بدھ وار	۲۶	۲۵	۶	۱۲	۱۳	دوادشی	۶۰ ۰	دھنشٹھا	۶۰ ۰	سدھ	۱۶ ۴۷	کنبھ	۲۷ ۴۶	۵۵	۵			۲۵		پاپ موچنی اکادشی برت
گوروار	۲۷	۲۶	۷	۱۳	۱۴	دوادشی	۳ ۱۴	دھنشٹھا	۱ ۰	سادھ	۱۶ ۵۷	〃	〃	〃	〃			〃		
شکروار	۲۸	۲۷	۸	۱۳	۱۵	تردوشی	۶ ۲۲	شتبھکھا	۶ ۲۸	شبھ	۱۸ ۱۸	مین	۵۴ ۵۲	۵۴	۶	۶ ۲۲	۳۷ ۵۵	۳۰		
شنی وار	۲۹	۲۸	۹	۱۴	۱۶	چودش	۹ ۴۲	پوروا بھادر پد	۱۰ ۲۹	شکل	۱۷ ۵۷	〃	〃	۵۳	۷			۳۵		
اتوار	۳۰	۲۹	۱۰	۳۰	۱۷	اماوش	۱۱ ۳۴	اترا بھادر پد	۱۴ ۲۳	برہم	۱۶ ۳۴	〃	〃	۵۲	۸			۴۰		
سوموار	۳۱	۳۰	۱۱	۱	۱۸	چیت سدی ایکم	۱۲ ۲۰	ریوتی	۱۶ ۲۰	اندر	۱۴ ۲۳	میکھ	۱۶ ۲۰	〃	〃			〃	نیا چاند	سمت ۱۹۸۸ بکرمی شروع

دو بندی

۹ بجکر ۲۲ منٹ صبح

تاریخ	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱

لگن ۱ پھاگن شدی ایکم سمت ۱۹۸۶ بجہ ۵ — لگن ۲ جیت بدی اشٹمی سمت ۱۹۸۶ بجہ ۶

قیام سیارگان بابت لگن ۱ — قیام سیارگان بابتہ لگن ۲

سیارہ																
راس	۱۱	۱۰	۱۰	۱	۱۱	۹	۱	۷	۱۲	۱۱	۱۲	۲	۱۲	۹	۱	۷
انش	۱۷	۲۵	۲۵	۱۶	۲۴	۱۵	۱۳	۱۲	۱	۱۱	۱	۱۸	۱۹	۱۶	۱۱	۱۱
کلا	۴	۱	۲۲	۱۷	۸	۲۰	۵۷	۵۷	۵	۱۵	۵۷	۴۲	۲۱	۳۰	۵۰	۵۰
بکلا	۲۸	۲۲	۲۲	۲۰	۲۱	۴۲	۱۸	۱۸	۳۱	۱۴	۳۱	۲۷	۴۸	۵۷	۲۹	۲۹

تاثیرات وثمرہ منازل فلکی براشرف المخلوقات ارضی

میکھ
مالی حالت اس ماہ میں اچھی رہے گوئی مقدمہ درپیش آئے جس میں نفع کی صورت ظاہر ہو طبیعت کی پریشانی دور ہو چند کام اس ماہ میں بالکل راس آویں ۳-۴-۷-۹-۱۷ تاریخ خراب -

برکھ
آمدنی زیادہ خرچ کم - بگڑے کام راس آویں مگر کسی پرشش سے روپیہ کا نقصان ہو - جسم میں کچھ روگ پرابت ہو اس ماہ کی ۳-۶-۹-۱۳-۱۷-۲۱ - تاریخیں ناقص ہیں

متھن
راج دربار سے مان دھن کا لابھ - بلندی مرتب کے لئے یہ ماہ اچھا ہو دل خوش رہے رشتہ داروں سے ملاپ سیاہ چیزوں سے فائدہ ہو ماہ کا دوسرا حصہ ایسا نہیں ہے اس ماہ کی ۱-۱۵-۲۵ - تاریخ ناقص ہیں -

کرک
آمدنی خاصی رہے - خرچ کم - راج دربار سے فائدہ ہو کوئی نئی چیز گم ہو - پرانی دستیاب ہو دوستوں سے رنج پہنچے عزیزوں سے کلیش آئیں ہو دشمن مغلوب - روزگار میں نقص ہو مگر ۱۲-۲۲-۳۰ - تاریخ اچھی نہیں -

سنگھ
تمام امیدوں میں کامیابی ہو - جسکے لئے کوشاں ہوں گے - خویش واقارب سے لابھ ہو عورت کی طرف سے فکر اور طبیعت اداس رہے - اس ماہ کی ۵-۹-۲۳-۲۷ تاریخیں ٹھیک نہیں ہیں -

کنیا
یہ مہینہ اچھا ہے کیونکہ اس ماہ میں روزگار میں ترقی ہو سب دوست ہوں - مگر اس ماہ کی ۶-۱۲-۲۴ - تاریخ میں فائدہ ہو دشمن مغلوب ہر طرح اچھا ہے لابھ ہوگا -

تلا
تمام امیدوں میں ناکامیابی جسکے لئے کوشاں ہونگے - خویش واقارب سے کچھ رنج کا خدشہ ہو عورت کی طرف سے فکر اور طبیعت اداس ہے اس ماہ کی ۹-۱۱-۲۲-۲۳-۲۵-۲۹ - تاریخیں ناقص ہیں -

برشچک
یہ مہینہ بالکل ناقص ہے - کیونکہ اس ماہ میں روزگار میں ترقی نہ ہو - بنے بناتے کام میں بگاڑ پیدا ہو جاتے - مگر اس ماہ کی ۱۳-۱۵-۱۷ - تاریخوں میں فائدہ ہو - اور دشمن غالب ہر طرح ناقص ہے -

دھن
لابھ ہو گذشتہ ماہ سے یہ ماہ بھلا ہے کسی جگہ سے کوئی خوشخبری موصول ہو - کاروبار عمدہ رہے نئے خیالات اور امنگوں کا دل میں دورہ ہو سفر کو طبیعت مائل ہو عورت کی طرف سے خوشی ہو مگر ۳-۷-۱۳ - تاریخیں ناقص ہیں -

مکر
آمدن کم خرچ زیادہ - بلکہ کوئی امر زیادتی خرچ پیدا ہو جس کی نسبت گذشتہ معاملات کئی سال پہلے درپیش ہوں - ۵-۷-۱۱ - تاریخ اچھی -

کنبھ
ماہ اوسطاً اچھا رہے - کوئی امر قابل ذکر درپیش نہ آوے سفر کو زیادہ طبیعت کرے عورت کی طرف سے رنجش وتفلش سی رہے اس ماہ کی ۱۱-۲۲-۲۸ - تاریخ سخت - ضرور بکچھ لابھ ہو -

مین
آمدنی زیادہ خرچ کم روزگار کے تجارتی کاموں میں دھن کی لابھ ہو - آنکھوں کے مرض سے دکھ اولاد سے خوشی - بزرگوں سے میل جول ہو - اس ماہ کی ۹-۱۵ - تاریخ ٹھیک نہیں دشمن مغلوب اپنے بیگانے دوست ہوں -

پیشینگوئی بابت ماہ مارچ ۱۹۳۰ء

۱۴ ماہ حال کو آفتاب ازبرج دلو در برج حوت بوقت ۹ بجکر ۲۲ منٹ صبح بروز جمعہ داخل ہوگا - بارات ۳ - نکشترات ۴ - بار نام مسرا - تشو و شود شکیہی - نکشتر نام گھوڑا - پور باہن بیاپی - راگیو ہنتی - جال مشرقی میں جنوب مشرق میں دیکھتی ہوئی - بشئی کرن پروشتہ پھل ۱ ہم - باہن یعنی سواری گھوڑا - اپ سواری شیر شانتی کارک پوشاک برنگ سیاہ کنتا یدہ سے کابرتن خوراک مختلف اناج کی - ہر تال کا تلک براہمن ذاتی دوب کا پھول - گنجا بجوشن تیل کنجوکی - بوڑہی عمر بیٹھی حالت - ۳۰ مہورت دھانیہ بھاؤ سم - گندم - جو - چنا - چاول - مونگ - اڑد - موٹھ وغیرہ غلہ ارزاں ہو - گھی - تیل - گڑ - کھانڈ - شکر ارزاں ہوگا - روئی کپاس - سن - السی ارزاں ہوگا - سیاہ رنگ کی چیزیں گراں ہوں گی - ہڑتال سیلکھڑی کھریا - گیرو ہیلی مٹی گراں ہوگی - چوپائے - گھوڑا - ہاتھی - خچر - گدہا وغیرہ گراں ہوں گے - گائے - بیل بھینس - اونٹ ارزاں ہوں گے دودہ - دہی ارزاں - کانسے - پیتل - لوہا - تانبہ - جست - چاندی - سونا دہات ارزاں ہوں - چنبیلی - گلاب - کیوڑہ وغیرہ کے عطر خوشبویات ارزاں ہوں - لعل - موتی - نیلم - پکھراج - مونگہ وغیرہ ارزاں ہوں -

حالات ارضی وسماوی بابت ماہ مارچ ۱۹۳۰ء

پھاگن شدی پورنماشی کو ۸ گھڑی ۱۱ پل بروز شکروار سورج کنبھ راس سے مین راش میں پرویش کریگا - مہورت ۳۰ - اس ماہ میں بدہ غروب ۶ تاریخ کو ہوگا - اور ۲ تاریخ کو مغرب میں شکر طلوع ہوگا - باقی سب گراہ مارگی ہیں - اس لئے یوگ بارش ۶-۱۲-۱۴ تاریخوں میں ہیں جن میں ضرور بارش ہوگی - ۶-۱۲ - تاریخ کو ضرور بارش ہوگی - نیز اس ماہ میں برہمن ذاتی تکلیفات میں ہوگی - مطلع عموماً صاف ہوگا - مگر ہوائیں بزور چلیں مگر یہ کا است ہوا ہے - اس لئے گھاس گراں ہو اور غلہ بھی گراں ہو - اور پھاگن شدی ترودشی کا کشیہ ہوا ہے - اس لئے مالک آدمیوں کی صحت کی رکشا کریں - کچھ روگ پرابتی کا بھیہ ہے - نیز اس ماہ میں ۵ شنی وار اور ۵ روی وار اور ۵ سوموار ہیں اس لئے دو وار ناقص ہیں - اور ایک وار اچھا ہے - اس لئے دو باروں کا پھل ناقص ہے جس سے بھو کمپ ہونیکا لوگ ہر - نیز ہولی کا داغ ، اگھر طہی بیل بھدرا کے بعد کا ہے اسکی لٹ کو دیکھکر آئندہ سال کا اچھا برا نتیجہ نکال سکتے ہیں - نیز چیت کرشن ترودشی کو بارانی یوگ ہم جس میں گنگا سنان سے سورج گرہن کا پھل ملتا ہے - نیز شنٹہ کا نمبر ۶-۵ - ہے - ۱۲-۲۲-۹۲-۲۱-۴۱-۸۱-۳۵-۴۵-۵۵ - ہیں -

ایام	اپریل ۱۹۳۰ عیسوی	ذیقعدہ ۱۳۴۸ ہجری	حمل	چیت بیساکھ بنگالی	چیت بیساکھ ۱۹۸۷ پرویشٹے	چیت سدی سمت ۱۹۸۷ بکرمی تتھ	گھڑی پل	قیام نکشتر نکشتر	گھڑی پل	قیام یوگ یوگ	گھڑی پل	داخلہ چندرما راس	گھڑی پل	اوقات آفتاب طلوع گھنٹہ منٹ	غروب گھنٹہ منٹ	قیام بھدرا شروع گھڑی پل	اخیر گھڑی پل	دنمان گھڑی پل		تہوار و برت
منگلوار	۱	۱	۱۲	۲	۱۹	دوج	۱۱ / ۵۱	اسونی	۱۷ / ۳۷	بیدہرت	۱۱ / ۵۷	میکھ	۰	۵ / ۵۱	۶ / ۹			۳۰ / ۴۵		متسیہ جینتی نکاح خاتون جنت
بدھوار	۲	۲	۱۳	۳	۲۰	تیج	۱۰ / ۲	بھرنی	۱۷ / ۲۱	بشکنبھ	۶ / ۵۱	برکھ	۳۲ / ۰	۵۰	۱۰	۳۸ / ۳۴		۳۰ / ۵۰		گوری پوجن
گوروار	۳	۳	۱۴	۴	۲۱	چوتھ	۷ / ۶	کرتکا	۱۵ / ۱۹	پریتی آیوشمان	۴۷ / ۴۵	″	″	۴۹	۱۱		۷ / ۶	۵۵		
شکروار	۴	۴	۱۵	۶	۲۲	پنچمی چھٹہ	۳ / ۱۸	روہنی	۱۳ / ۴۴	سوبھاگیہ	۴۹ / ۳۲	متھن	۴۲ / ۱۱	۴۸	۱۲			۳۱ / ۰		
شنی وار	۵	۵	۱۶	۷	۲۳	ستمی	۵۴ / ۵۳	مرگسر	۱۰ / ۴۰	شوبھن	۴۲ / ۵۳	″	″	۴۷	۱۳	۵۳ / ۱۰		۵		
اتوار	۶	۶	۱۷	۸	۲۴	اشٹمی	۴۷ / ۱۷	آردرا	۷ / ۹	اتی گنڈ	۳۴ / ۵۵	کرک	۴۹ / ۱۰	۴۶	۱۴		۲۰ / ۱۳	۱۰		درگا اشٹمی بنسر عرس مولانا عبدالرحمن لکھنو
سوموار	۷	۷	۱۸	۹	۲۵	نومی	۴۱ / ۲۷	پنرسس	۳ / ۱۲	سوکرما	۴۷ / ۲۶	″	″	۴۵	۱۵			۱۵		سری رام جینتی
منگلوار	۸	۸	۱۹	۱۰	۲۶	دسمی	۳۵ / ۳۱	پکھ اشلیکھا	۵۴ / ۵۳	دھرت	۱۹ / ۵۵	سنگھ	۵۴ / ۵۳	۴۴	۱۶			۲۰		
بدھوار	۹	۹	۲۰	۱۱	۲۷	اکادشی	۲۹ / ۴۱	مگھا	۵۱ / ۱۰	شول	۱۲ / ۱۶	″	″	۴۳	۱۷	۲ / ۳۶	۲۹ / ۴۱	۲۵		کامدا اکادشی برت عرس شاہ نقی سنبھلی
گوروار	۱۰	۱۰	۲۱	۱۲	۲۸	دواداشی	۲۴ / ۱۰	پوروا پھالگنی	۴۷ / ۵۲	گنڈ بردھ	۴ / ۵۲	″	″	۴۲	۱۸			۳۰		
شکروار	۱۱	۱۱	۲۲	۱۳	۲۹	ترودشی	۱۹ / ۱۱	اترا پھالگنی	۴۵ / ۳	دھرو	۱۸ / ۱۲	کنیا	۲ / ۱۰	۴۱	۱۹			۳۵		ولادت امام علی رضا
شنی وار	۱۲	۱۲	۲۳	۱۴	۳۰	چودش	۱۴ / ۵۹	ہست	۴۲ / ۵۸	بیاگھات	۴۵ / ۲۸	″	″	۴۰	۲۰	۱۴ / ۵۹	۴۳ / ۲۷	۴۰		
اتوار	۱۳	۱۳	۲۴	۱۵	بیساکھ	پورنماشی	۱۱ / ۵۶	چترا	۴۱ / ۵۶	ہرکھن	۴۱ / ۳۴	تلا	۱۲ / ۲۷	۳۹	۲۱			۴۵		بیساکھ سنکرانت سمبت ۱۹۸۷ پرویشٹہ شروع
سوموار	۱۴	۱۴	۲۵	۱	۲	بیساکھ بدی ایکم	۹ / ۳۲	سواتی	۴۲ / ۴	بجر	۳۶ / ۳۷	″	″	″	″			۴۸		
منگلوار	۱۵	۱۵	۲۶	۲	۳	دوج	۸ / ۲۴	بشاکھا	۴۳ / ۲۶	سدھی	۳۳ / ۱۳	برشچک	۲۸ / ۱۰	۳۸	۲۲	۳۸ / ۴۶		۵۰		عرس گلبرگہ شریف
بدھوار	۱۶	۱۶	۲۷	۳	۴	تیج	۹ / ۱۰	انورادھا	۴۵ / ۵۶	بیتی پات	۳۱ / ۲۶	″	″	۳۷	۲۳		۹ / ۸	۵۵		چوتھ برت
گوروار	۱۷	۱۷	۲۸	۴	۵	چوتھ	۱۰ / ۱۰	جیشٹا	۴۹ / ۵۸	بریان	۲۹ / ۴۶	دھن	۴۹ / ۵۸	۳۶	۲۴			۳۲ / ۰		
شکروار	۱۸	۱۸	۲۹	۵	۶	پنچمی	۱۲ / ۵۷	مول	۵۴ / ۵۰	پرگھ	۳۰ / ۱۱	″	″	۳۵	۲۵			۵		
شنی وار	۱۹	۱۹	۳۰	۶	۷	چھٹہ	۱۶ / ۲۶	پورباکھاڑ	۶۰ / ۰	شو	۳۰ / ۵۱	″	″	۳۴	۲۶	۱۶ / ۴۶	۴۸ / ۵	۱۰		
اتوار	۲۰	۲۰	ثور	۷	۸	ستمی	۲۱ / ۱۴	پورباکھاڑ	۲ / ۲	سدھ	۳۱ / ۵۹	مکر	۱۷ / ۸	۳۳	۲۷			۱۵		
سوموار	۲۱	۲۱	۲	۸	۹	اشٹمی	۲۶ / ۷	اتراکھاڑ	۶ / ۵۳	سادھ	۳۳ / ۲۱	″	″	۳۲	۲۸			۲۰		
منگلوار	۲۲	۲۲	۳	۹	۱۰	نومی	۳۱ / ۹	سرون	۱۳ / ۱۹	شبھ	۳۴ / ۴۷	کنبھ	۴۶ / ۲۹	۳۱	۲۹			۲۵		
بدھوار	۲۳	۲۳	۴	۱۰	۱۱	دسمی	۳۵ / ۴۷	دھنشٹا	۱۹ / ۳۹	شکل	۳۵ / ۵۸	″	″	″	″	۳ / ۲۸	۳۵ / ۴۷	۲۸		
گوروار	۲۴	۲۴	۵	۱۱	۱۲	اکادشی	۴۰ / ۲	ست بکھا	۲۵ / ۲۰	برہم	۳۶ / ۴۲	″	″	۳۰	۳۰			۳۰		بردھنی اکادشی برت
شکروار	۲۵	۲۵	۶	۱۲	۱۳	دواداشی	۴۳ / ۱۱	پوربابھادرپد	۳۰ / ۹	اندر	۳۶ / ۳۹	مین	۱۳ / ۵۷	″	″			۳۳		
شنی وار	۲۶	۲۶	۷	۱۳	۱۴	ترودشی	۴۵ / ۱	اترابھادرپد	۳۳ / ۵۵	بیدھرت	۳۵ / ۵۴	″	″	۲۹	۳۱	۴۴ / ۱		۳۵		
اتوار	۲۷	۲۷	۸	۱۴	۱۵	چودش	۴۶ / ۵	ریوتی	۳۶ / ۲۶	بشکنبھ	۳۳ / ۳۷	میکھ	۳۶ / ۲۶	۲۸	۳۲		۱۵ / ۳۳	۴۰		
سوموار	۲۸	۲۸	۹	۳۰	۱۶	اماوس	۴۵ / ۱۱	اسونی	۳۷ / ۳۷	پریتی	۳۰ / ۴۸	″	″	″	″			۴۳		سومتی اماوس
منگلوار	۲۹	۲۹	۱۰	۱	۱۷	بیساکھ سدی ایکم	۴۳ / ۲۱	بھرنی	۳۷ / ۴۷	آیوشمان	۲۶ / ۵۱	برکھ	۵۴ / ۳۰	۲۷	۳۳			۴۵		
بدھوار	۳۰	۳۰	۱۱	۲	۱۸	دوج	۴۰ / ۲۷	کرتکا	۳۶ / ۳۸	سوبھاگیہ	۲۲ / ۱	″	″	″	″			۳۲ / ۴۵	نیا چاند	

تاریخ	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰

لگن ۲ چیت شدی پورنماشی سمت ۱۹۸۷ | لگن ۱ بیساکھ بدی چودش سمت ۱۹۸۶



قیام سیارگان بابتہ لگن ۱ | قیام سیارگان بابتہ لگن ۲

سیارہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
راس	۱	۱۱	۱	۱	۱	۸	۰	۷	۱	۱۲	۲	۲	۲	۹	۱	۷
انش	۰	۲۸	۱۲	۲۲	۱۶	۱۷	۱۰	۱۰	۱۳	۹	۲	۲۴	۴	۱۷	۹	۹
کلا	۰	۲۴	۱۲	۹	۵۲	۱۱	۳۹	۳۹	۳۸	۵	۱۷	۴۶	۶	۱۶	۵۵	۵۷
وکلا	۰	۱۰	۲۰	۵۲	۲۱	۳۳	۴۴	۴۴	۴۰	۲۲	۵۹	۴۷	۱۲	۴۳	۱۰	۱۰

تاثیرات و ثمرہ منازل فلکی بر اشرف المخلوقات ارضی

میکھ
عزت و اقبال بلند ہو آمدنی خاصی رہے مشرق کے سفر سے فائدہ ہو گمشدگی مال کا خطرہ ہو نقل و حرکت زیادہ ہو اس ماہ کی ۲۷ تاریخ کو کوئی خاص بات ہونی چاہیئے جس سے فائدہ ہو جائے

برکھ
آمدن کم خرچ زیادہ۔ یہ ماہ اچھا نہیں طبیعت پریشان۔ خیالات منتشر ہوں۔ آئندہ اس ماہ میں سفر کا ہونا ضروری ہے جس سے لابھ ہووے مگر ۱۲-۱۸-۲۲-۲۶۔ تاریخ ناقص۔

متھن
عزت و اقبال بلند ہو۔ آمدنی خاصی رہے مشرق کے سفر سے فائدہ ہو نقل و حرکت زیادہ ہو اس ماہ کی ۳ تاریخ کو کوئی خاص بات ہونی چاہیئے جس سے فائدہ ہو جائے۔ مقدمہ میں کامیابی مگر ۴-۸-۱۲-۱۶-۱۶-۲۰۔ خراب ہیں۔

کرک
دشمن نقصان رسانی میں سرگرداں رہے مگر نقصان رکھنے کی قسم کا نہ ہو۔ دشمن چند چوں چراں باشد دوست۔ دیکھو تمہارے داہنے جانب شانہ پر تل کا نشان ہے ۲ تاریخ کو ایشور سے بہتری کی پرارتھنا کرو ۴ تاریخ کو لابھ ضرور ہوگا۔ تیرہ لابھ و ایک ہے۔

سنگھ
آمدنی و خرچ برابر متوسط رہے بلکہ روزگار بدستور دشمن مغلوب صحت جسمانی خاصی دوستوں سے ملاپ طبیعت میں فرحت و خوشحالی۔ کوئی خاص واقعہ قابل نوٹ نہیں۔ ہاں پچھلے ماہ سے اچھا ہے۔

کنیا
لابھ ضرور ہو مگر کسی ایسے کام میں صرف ہو جسکا ثمرہ اچھا نہ ہو۔ بھائیوں سے کھینچا تانی ہو ہے۔ چوپائے کا نقصان رنج و غم میں ماہ پورا گذرے ۱۱-۱۳-۱۵۔ تاریخ ٹھیک نہیں دشمن مغلوب ہوں۔

تلا
آمدن کم خرچ زیادہ مگر کچھ کم لابھ ہووے یہ ماہ کچھ اچھا ہے بھائیوں سے نقصان پہنچے دشمن کا خطرہ۔ عورت کی چنتا ہو۔ فکر و تشویش زیادہ اخراجات کی زیادتی ۹-۱۱-۱۵-۷ تاریخ ناقص ہیں۔ دشمن غالب درپے آزار ہوں۔ ضرور نقصان کریں۔

برشچک
خرچ زیادہ آمدن کم۔ اولاد کا سکھ۔ راج دربار میں ہانی یعنی نقصان ہووے خود غرضی خود پسندی سے بنے بنائے کام ردی ہوں لین دین میں تکلیف ہووے رشتہ داروں سے ترش روئی ہو بنے بنائے کام میں نقصان ہو۔

دھن
دھن کا لابھ فکر و تشویش کم زمین سے کچھ لابھ ہو۔ دوست کی ملاقات میں دھن کا لابھ ہو خونی امراض سے جسم کو فائدہ ہو عورت کی طبیعت اچھی رہے۔ اس ماہ کی ۲-۷-۹ تاریخ ٹھیک نہیں۔

مکر
آمدنی زیادہ خرچ کم رہے طبیعت اچھی بشاش رہے کوئی سفر کرنا پڑے۔ کسی دوست کی ملاقات سے خوشی حاصل ہو۔ عورت سے سکھ ملے۔ دوسروں کی معاونت کا بھروسہ دلمیں رہے۔ دشمن مغلوب ۷-۱۱-۱۳-۱۵-۱۷-۱۹۔ تاریخیں خراب۔

کنبھ
لال چیزوں سے یعنی خرید و فروخت سے کچھ فائدہ ضرور ہو۔ بگڑے کام درست ہوں اولاد کا سکھ ہو۔ دشمن حیران ہوں چوپائے سے دہشت رہے۔ اس ماہ کی ۱۳-۱۵-۱۸۔ تاریخ اچھی ہیں۔

مین
آمدن زیادہ خرچ کم۔ لال چیزوں کی خرید فروخت سے کچھ لابھ ضرور ہو بگڑے کام درست ہوں اولاد کا سکھ ہو۔ دشمن حیران ہوں چوپائے سے دہشت رہے اس ماہ کی ۱۳-۱۹ تاریخ اچھی ہیں ۹ کو لابھ ہوگا۔

پیشینگوئی بابت ماہ اپریل سنہ ۱۹۳۰ء

۱۳ ماہ حال کو آفتاب از برج حوت در برج حمل بروز اتوار بوقت ۲ بجکر ۵۵ منٹ دوپہر داخل ہوگا۔ بروشٹ بارات ۳۔ نکشترات ۴ بار نام گھوڑا شودر دیوتا جہ مکھی نکشتر نام مندا کنی ایلہن بیاپنی دشیان سپتی چال جنوب۔ نظر جنوب مغرب۔ باوکرن پروشٹ پھل ادھم سواری چلتا اوپ سواری گھوڑا۔ بھیہ کارگ پوشاک زرد رنگ تک ایدھ چاندی کا برتن لئے۔ دودھ پیتی ہوئی۔ زمل کا تلک بھوت جاتی موتیا کا پھول لئے۔ کڑے کا زیور پہنے ہوئے۔ نوجوان عمر بیٹھی حالت۔ ۳ مہورت پر داخل ہوگا۔ اس ماہ میں السی۔ جیڑا الائچی مونگ پھلی سرسوں۔ ارنڈ۔ گڑ۔ کھانڈ چینی۔ بھر لینا اچھا ہے۔ فائدہ ہوگا۔ گندم۔ چنا۔ جو۔ چاول۔ باجرہ۔ مونگ اڑد۔ موٹھ وغیرہ غلہ ارزاں ہوگا مگر ارزانی سم بھاؤ کے برابر ہوگی۔ روئی۔ سوت۔ کپڑا ارزاں ہوگا۔ سونا۔ لوہا۔ تانبا۔ کانسی۔ پیتل۔ جست وغیرہ ارزاں ہوگا۔ چاندی۔ پارہ گراں ہوگا۔ کشتہ۔ پاٹ۔ سن وغیرہ گراں ہو۔ تمباکو کا مندا ہوگا۔ خوشبویات۔ عطر۔ گلاب۔ چنبیلی۔ کیوڑہ وغیرہ گراں ہوں۔ گھوڑا۔ ہاتھی۔ اونٹ گائے بھینس۔ بیل گراں ہوں۔ دودھ۔ گھی۔ تیل گراں۔ بیساکھ بدی میں گھی تیل گراں اور شری زیادہ تیز ہوں۔

حالات ارضی و سماوی بابت ماہ اپریل سنہ ۱۹۳۰ء

چیت شدی پورنماشی بروز زردی وار سورج میں راش سے میکھ راش میں ۲۳ گھڑی ۱ پل پر بعد دوپہر پرویش کریگا۔ سنکرانتی ۳۰ مہورت ہے۔ بروشٹ پھل ادھم۔ تمام گرہ مارگی ہیں ۸ تاریخ کو بدھ مغرب میں طلوع ہوگا۔ بیساکھ بدی میں شنی بکری ہوگا۔ اور شدی میں بدھ بکری ہوگا۔ اس لئے اس ماہ میں گرہ یوگ اچھا ہے۔ راجہ پرجا سکھی۔ اس ماہ میں یوگ بارش کم ہیں صرف ۷-۸-۱۳-۲۰-۲۸ تاریخوں میں یوگ بارش ہیں۔ صرف ۸-۱۳-۲۰ میں پورا کرے گا۔ ورنہ مطلع عموماً صاف ہوگا۔ راتیں ٹھنڈی ہوں گی۔ نیز اس ماہ میں ۵ منگلوار ہیں ۵ بدھ وار ہیں اس لئے ایک بار نافص دوسرا بار اچھا ہے اس لئے حالت پرجا اوسط یعنی خاصی ہووے مگر کہیں دنگہ فساد کی نوبت کا احتمال ہے ملک شانتی کرے۔ مگر چیت ماہ میں سیتلا کا زور ہوگا جس سے بچوں اور نوجوانوں کو کچھ روگ پراپتی ہوگی۔ نیز غلہ میں تیزی کا ٹوٹنا اچھا نہیں ہوا اور غلہ کی گرانی کی وجہ سے بیرونجات سے غلہ کی منڈیوں اور بدیشی چیزوں کی آمد و رفت زیادہ ہووے۔ گرمی کا موسم کچھ اعتدال پر پہونچے۔ دودھ گھی بھاجی پرجا کو کمیاب ہووے۔ سبزی کم ہووے۔ سٹہ نمبر ۹-۴-۸-بیجا-۱۹-۳۹-۵۹-۲۴-۴۴-۴۷-۶۸-۸۸-۹۸- ہیں۔

۱۹۳۰ء	مئی ۱۹۳۰ عیسوی	ذوالحجہ ۱۳۴۸ ہجری	بیساکھ ۱۸۵۲ ساکا	بیساکھ ۱۳۳۷ بنگالی	بیساکھ ۱۹۸۷ پرویشٹے	بیساکھ شدی سمت ۱۹۸۷ بکرمی تتھ	گھڑی پل	قیام نکشتر نکشتر	گھڑی پل	قیام یوگ یوگ	گھڑی پل	داخلہ چندرماں راس	گھڑی پل	اوقات آفتاب طلوع گھنٹہ منٹ	غروب گھنٹہ منٹ	قیام بھدرا شروع گھڑی پل	اخیر گھڑی پل	دنمان گھڑی پل	ماہوار جنتری	تہوار و میلے
گوروار	۱	۱	۱۲	۳	۱۹	تیج	۳۶ ۳۴	روہنی	۳۴ ۳۱	شوبھن	۱۶ ۲۰	برکھ	۰	۵ ۲۶	۶ ۳۴			۳۲ ۵۰		اکشے تیج پرسرام جینتی
شکروار	۲	۲	۱۳	۴	۲۰	چوتھ	۳۱ ۱۴	مرگسر	۳۱ ۴۴	اتی گنڈ	۱۰ ۶	متھن	۳۰ ۷	۲۵	۳۵	۳ ۵۴	۳۱ ۱۴	۵۵		
شنی وار	۳	۳	۱۴	۵	۲۱	پنچمی	۲۶ ۱۶	آردرا	۲۸ ۱۵	سوکرما دہرت	۳ ۱۷ ۱ ۴۸	〃	〃	۲۴	۳۶			۳۳ ۰		
اتوار	۴	۴	۱۵	۶	۲۲	چھٹھ	۲۰ ۲۱	پونربس	۲۴ ۲۷	شول	۲۸ ۳۰	کرک	۱۰ ۲۴	۲۳	۳۷			۳۳ ۵		
سوموار	۵	۵	۱۶	۷	۲۳	ستمی	۱۴ ۲۷	پکھ	۲۰ ۱۶	گنڈ	۴۰ ۵۰	〃	〃	۲۲	۳۸	۱۴ ۲۷		۱۰		
منگلوار	۶	۶	۱۷	۸	۲۴	اشٹمی	۸ ۲۵	اشلیکھا	۱۶ ۱۳	بردھ	۳۲ ۲۲	سنگھ	۱۶ ۱۳	۲۱	۳۹		۵۱ ۲۶	۱۵		
بدھوار	۷	۷	۱۸	۱۰	۲۵	نومی دسمی	۲ ۳۰	مگھا	۱۲ ۱۹	دھرو	۲۵ ۵۶	〃	〃	〃	〃			۱۷		وفات امام باقرؓ
گوروار	۸	۸	۱۹	۱۱	۲۶	اکادشی	۳۳ ۵۴	پوربا پھالگنی	۸ ۴۸	بیاگھات	۱۸ ۵۶	کنیا	۲۳ ۱	۲۰	۴۰	۲۴ ۳۰	۵۱ ۵۴	۲۰		موہنی اکادشی برت
شکروار	۹	۹	۲۰	۱۲	۲۷	دوادشی	۴۷ ۳۷	اترا پھالگنی	۶ ۱	ہرکھن	۱۲ ۲۲	〃	〃	۱۹	۴۱			۲۵		یوم حج
شنی وار	۱۰	۱۰	۲۱	۱۳	۲۸	تر ودشی	۴۴ ۱۲	ہست	۳ ۳۷	بجر	۶ ۳۲	تلا	۳۳ ۲۸	۱۸	۴۲			۳۰		عید الضحیٰ
اتوار	۱۱	۱۱	۲۲	۱۴	۲۹	چودش	۴۱ ۴۸	چترا	۳ ۱۹	سدھی بیتی پات	۲۴ ۵۴	〃	〃	۱۷	۴۳	۴۱ ۴۸		۳۵		نرسنگھ جینتی
سوموار	۱۲	۱۲	۲۳	۱۵	۳۰	پورنماشی	۴۰ ۴۳	سواتی	۴ ۱۵	بریان	۵۴ ۶	برشچک	۴۹ ۴۳	〃	〃		۱۱ ۱۵	۳۷		بیساکھ سنان ختم
منگلوار	۱۳	۱۳	۲۴	۱	۳۱	جیٹھ بدی ایکم	۴۸ ۴۸	بشاکھا	۴ ۵۳	پرگھ	۵۱ ۴۹	〃	〃	۱۶	۴۴			۴۰		
بدھوار	۱۴	۱۴	۲۵	۲	جیٹھ	دوج	۴۲ ۳	انورادھا	۶ ۳۰	شو	۵۰ ۳۳	〃	〃	〃	〃			۴۲		برکھ سنکرانت ۱۵ گھڑی ۶ پل
گوروار	۱۵	۱۵	۲۶	۳	۲	تیج	۴۴ ۳۵	جیشٹا	۸ ۵۶	سدھ	۵۰ ۲۸	دھن	۸ ۵۶	۱۵	۴۵	۱۴ ۱۹	۴۴ ۳۵	۴۵		
شکروار	۱۶	۱۶	۲۷	۴	۳	چوتھ	۴۸ ۱۷	مول	۱۳ ۴۷	سادھ	۵۰ ۴۷	〃	〃	〃	〃			۴۷		چوتھ برت
شنی وار	۱۷	۱۷	۲۸	۵	۴	پنچمی	۵۲ ۵۹	پوربا کھاڑ	۱۹ ۱۳	شبھ	۵۱ ۵۶	مکر	۳۵ ۵۰	۱۴	۴۶			۵۰		شہادت عثمان ذوالنورینؓ
اتوار	۱۸	۱۸	۲۹	۶	۵	چھٹھ	۵۷ ۴۷	اترا کھاڑ	۲۵ ۲۹	شکل	۵۳ ۲۵	〃	〃	۱۳	۴۷	۵۷ ۴۷		۵۸		
سوموار	۱۹	۱۹	۳۰	۷	۶	ستمی	۶۰ ۰	سرون	۳۱ ۵۱	برہم	۵۴ ۵۶	〃	〃	۱۲	۴۸		۳۰ ۱۱	۳۴ ۰		
منگلوار	۲۰	۲۰	۳۱	۸	۷	ستمی	۲ ۳۶	دھنشٹا	۳۸ ۱۹	اندر	۵۶ ۱۷	کنبھ	۵ ۵	۱۱	۴۹			۳۴ ۵		
بدھوار	۲۱	۲۱	جوزا	۸	۸	اشٹمی	۷ ۲۳	شت بکھا	۴۴ ۶	بیدھرت	۵۷ ۷	〃	〃	۱۰	۵۰			۱۰		
گوروار	۲۲	۲۲	۲	۹	۹	نومی	۱۱ ۲۲	پوربا بھادرپد	۴۸ ۵۶	بشکنبھ	۵۷ ۱۹	مین	۴۲ ۴۵	〃	〃	۴۲ ۵۴		۱۲		
شکروار	۲۳	۲۳	۳	۱۰	۱۰	دسمی	۱۴ ۲۶	اترا بھادرپد	۵۲ ۵۶	پریتی	۵۶ ۳۷	〃	〃	〃	〃		۱۴ ۲۶	۱۳		
شنی وار	۲۴	۲۴	۴	۱۱	۱۱	اکادشی	۱۶ ۱۷	ریوتی	۵۵ ۵۵	آیوشمان	۵۴ ۳۱	میکھ	۵۶ ۵۵	۹	۵۱			۱۵		اپرا اکادشی برت
اتوار	۲۵	۲۵	۵	۱۲	۱۲	دوادشی	۱۶ ۵۹	اسونی	۵۲ ۲۲	سوبھاگیہ	۵۲ ۱۵	〃	〃	〃	〃			۱۷		
سوموار	۲۶	۲۶	۶	۱۳	۱۳	تر ودشی	۱۶ ۲۷	بھرنی	۵۲ ۵۱	شوبھن	۴۸ ۳۱	〃	〃	۸	۵۲	۱۶ ۲۷	۴۵ ۳۱	۲۰		شہادت فاروق اعظمؓ
منگلوار	۲۷	۲۷	۷	۱۴	۱۴	چودش	۱۴ ۳۶	کرتکا	۵۶ ۵۷	اتی گنڈ	۴۳ ۵۷	برکھ	۱۲ ۳۷	〃	〃			۲۲		
بدھوار	۲۸	۲۸	۸	۳۰	۱۵	اماوش	۱۱ ۳۶	روہنی	۵۵ ۶	سوکرما	۳۸ ۳۳	〃	〃	〃	〃			۲۳		بٹ پوجنم
گوروار	۲۹	۲۹	۹	جیٹھ سدی	۱۶	جیٹھ سدی ایکم	۷ ۴۱	مرگسر	۵۲ ۱۷	دہرت	۳۲ ۱۸	متھن	۲۳ ۴۱	۷	۵۳			۲۵	نیا چاند	
شکروار	۳۰	محرم	۱۰	۲	۱۷	دوج تیج	۲ ۵۲	آردرا	۴۸ ۲۹	شول	۲۵ ۳۸	〃	〃	〃	〃			۶		۱۳۴۹ھ شروع
شنی وار	۳۱	۲	۱۱	۳	۱۸	چوتھ	۵۳ ۵۳	پونربس	۴۶ ۱	گنڈ	۱۸ ۴۰	کرک	۳۱ ۳۲	〃	〃	۲۴ ۲۶	۵۱ ۳	۳۴ ۲۵		

تاریخ	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١
حالات	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

اجگرہ ۵ امنٹ صبح

لگن ۱ بیساکھ شدی چودش سمت ۱۹۸۷ ۲۱/۱۰ — لگن ۲ جیٹھ بدی دوادشی سمت ۱۹۸۷ ۲۲/۲۳

لگن ۱: منگل ۱۲ — بدھ گورو شکر ۲ — سورج ۱ — راہو ۴ — ۳ — ۱۱ — شنی ۹ — ۱۰ — چندرماں ۷ — کیتو ۶ — ۵ — ۸

لگن ۲: منگل راہو چندرماں ۱ — گورو شکر ۳ — سورج ۲ — بدھ ۵ — ۴ — ۱۲ — ۱۱ — شنی ۹ — ۱۰ — کیتو ۷ — ۶ — ۸

قیام سیارگان بابتہ لگن ۱ — قیام سیارگان بابتہ لگن ۲

سیارہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
راس	١	١٢	٢	٢	٢	٩	١	٧	٢	١	٢	٣	٣	٩	١	٧
انش	٢٧	١٩	١٠	٢٧	٢٢	١٧	٩	٩	١٠	١٠	١	٠	٨	١٦	٨	٨
کلا	١٠	٤٤	٤٧	٤٥	١٨	١	١٠	١٠	٣٦	٢٣	١٠	٤٤	١٤	٢٨	٢٦	٣٦
بکلا	٣٧	٣	٢١	١٦	٨	٤٠	٣٦	٣٦	٣٥	١٠	٤٥	٤٠	٢٢	٣٠	٢	٤

تاثیرات وثمرہ منازل فلکی براشرف المخلوقات ارضی

میکھ
لابھ کم خرچ زیادہ ہو دل آشوبش میں مستغرق رہے چوپائے سے دہشت ہو جسم میں چوٹ کا اندیشہ عورت کی طرف سے رنجش دیکھے۔ اس ماہ کی ۴-۹-۱۴-۲۰ تاریخیں ٹھیک نہیں۔ دشمن غالب۔

برکھ
کاروبار میں فائدہ ضرور ہو یقین کامل رکھو دیکھو ایک تم ہراساں مصیبت میں رہے اب دن ٹھیک آگئے مایوسی میں کامیابی کا تارہ بلند ہوگا آرام و آسایش انتظار میں رہے ۱-۲۱-۲۷- تاریخ کو کچھ لابھ ہو۔ دشمن مغلوب۔

متھن
طبیعت منتشر رہے دل و دماغ میں تجاویز موجزن ہوں۔ دوست دشمن ہو جائیں معاملات لین دین میں کچھ نقصان اٹھانا پڑے اس ماہ کی ۱۱-۱۴-۲۳-۲۷ تاریخیں منحوس ہیں۔ دشمن غالب ہوں۔

کرک
کاروبار عمدہ رہے تحریر میں بہت سا وقت گذر اکرے کار تر قی بروزگار ہے کوئی بد نصیب تکلیف ہو۔ دردسر کی خفیف سی شکایت رہوے۔ دوستوں سے کوئی خوشخبری ملے۔

سنگھ
آمدنی زیادہ خرچ کم۔ نیا کام کرے تو لابھ ہو کاروبار میں اچھا رہے۔ راجہ سے عزت ہو۔ بدن میں کچھ دردگ ہو۔ ورنہ ہر طرح اچھا ہو دوستوں کی خستہ حالی سے ملاپ۔ اس ماہ کی ۹-۲۵ تاریخ سخت ہیں دوستوں سے فائدہ دشمن مغلوب۔

کنیا
آمدن زیادہ خرچ کم۔ بگڑے کام درست ہوں۔ مگر نقل و حرکت زیادہ۔ کسی دوست سے امداد ملے۔ دشمن مغلوب۔ رشتہ داروں سے ملاپ مگر ۷-۹-۱۳-۱۵ تاریخ ناقص ہیں۔

تلا
حالات ماہ گزشتہ سے ذرا کسی قدر خرابی لاحق آمدنی میں کمی ظہور پذیر ہووے۔ کسی کام سے نقصان ہووے۔ عورت کی طبیعت درست نہ رہے۔ سفر میں دھوکہ رہے مگر ۳-۵-۹-۱۱-۱۷-۱۹-۲۰ تاریخیں خراب ہیں۔

برشچک
آمدنی زیادہ ہو خرچ کم رہے۔ طبیعت اچھی بشاش رہے۔ کوئی سفر کرنا پڑے کسی دوست کی ملاقات سے خوشی حاصل ہو۔ عورت سے سکھ ملے پیروں کی معاونت کا بھروسہ دل میں رہے۔ دشمن مغلوب۔

دھن
لال چیزوں سے یعنی خرید و فروخت سے کچھ فائدہ ضرور ہو۔ بگڑے کام درست ہوں اولاد کا سکھ ہو۔ دشمن حیران ہوں۔ چوپائے سے دہشت رہے۔ اس ماہ کی ۱۳-۱۵-۱۸- تاریخ اچھی ہیں۔

مکر
آمدن خرچ برابر ہو طبیعت منتشر بلکہ خیالات پراگندہ۔ دوست آشنا برخلاف۔ دشمن مغلوب۔ کوئی جسم کی شکایت پیدا ہو نا قص ہے۔

کنبھ
لابھ ضرور ہو مگر کسی ایسے کام میں صرف ہو کہ جس کا ثمرہ اچھا نہ ہو بھائیوں سے کچھ کھینچا تانی۔ لوہے چوپائے کا نقصان۔ رنج و محن میں ماہ پورا گذرے ۷-۱۳-۱۷-۲۲-۲۵ تاریخ ٹھیک نہیں دشمن غالب ہوں۔ سفر بھی ہو۔

مین
لابھ کم خرچ زیادہ ہو۔ دل تشویش میں مستغرق رہے چوپائے سے دہشت ہو جسم میں چوٹ کا اندیشہ ہو عورت کی طرف سے رنجش دیکھے۔ اس ماہ کی ۷-۱۲-۱۹-۲۰ تاریخیں منحوس ہیں۔ دشمن غالب یہ ماہ ناقص ہے۔ ایشور کا سمرن کرو۔

پیشین گوئی بابت ماہ مئی سنہ ۱۹۳۰ عیسوی

۱۴ ماہ حال کو آفتاب از برج میکھ در برج ثور بروز چار شنبہ بوقت ۱۱ گھڑی ۵ منٹ صبح داخل ہوگا۔ پروشٹھ بارات ہے نکشترات ۵ بار نام مندا کنی راجہ اور جانڈال سکھی۔ نکشتر نام رکشی۔ مدھیان بیاپنی دوجان ہنتی۔ چال مغرب میں۔ نظر شمال مغرب میں۔ گرگرن ہرو شستہ پھل مدہم سواری ہاتھی۔ اوپ سواری گدھا لکشمی کارگ۔ پوشاک سرخ رنگ۔ دہنس بان کا بدھ۔ لوہے کا برتن کیے۔ گھی۔ دودھ کا بھوجن۔ گورو جن کا تلک۔ لشو جاتی کبوترہ کا پھول نے سمکٹ کا زیور پہنے۔ نوجوان عمر بیٹھی حالت میں۔ سنکرانتی پرویش کرگئی اس ماہ میں گندم۔ جو چنا۔ چاول۔ مونگ۔ اڑد۔ جوار۔ باجرہ وغیرہ اناج گراں ہوگا۔ دالوں کا زور ہوگا۔ گڑ۔ کھانڈ۔ گھی۔ تیل۔ شکر وغیرہ ارزاں ہو۔ السی۔ روئی۔ کپاس۔ گراں۔ ہو ہاتھی گھوڑا گدھا۔ خچر وغیرہ گراں ہوں۔ گھی۔ دودھ۔ دہی گراں۔ خوشبویات۔ عطر۔ گلاب کیوڑہ چنبیلی خس وغیرہ گراں۔ لوہا۔ تانبا۔ سونا۔ چاندی۔ کانسی۔ پیتل کے برتن ارزاں ہوں۔ موتی۔ مونگا۔ لال۔ نیلم۔ پکھراج۔ یاقوت۔ عقیق۔ زمرد وغیرہ پتھر ارزاں ہوں۔ مفصل کے لئے مبلغ دو روپے فیس روانہ کرکے مصنف جنتری سے دریافت کرو۔

حالات ارضی وسماوی بابت ماہ مئی سنہ ۱۹۳۰ء

جیٹھ بدی ۵ دوج بروز بدھوار ۵ گھڑی ۲ پل پر سورج میکھ راس سے برکھ راس میں داخل ہوگا شنی بکری میں ہے۔ ۵ مئی کو بکری ہوگا باقی سب گرہ مارگی ہیں۔ ۱۲ تاریخ کو بدھ ۵ غروب ہوگا ۲۴ کو طلوع ہوگا۔ نیز راہو اور منگل کا سنجوگ میکھ راس پر رہا ہے اور گورو و شکر ایک راشی ہو کر شنی سے سپتم ہوتا ہے۔ اس لئے یہ ماہ راجہ پرجا کے لئے ناقص ہے۔ ہوا ایسی بر زور ہووے جھکڑ بھی چلے کہ آدمیوں کو روگ اور سورجنوں کو نقصان یعنی ادکمار ڈالے اور پرجا میں چوروں اور لٹیروں کا زور زیادہ ہووے۔ اور آن بھی بھیہ ہووے۔ بلکہ آگنی سے پرجا میں بھیہ ہووے۔ اور آگ سے نقصان ہووے۔ نیز اس ماہ میں یوگ بارش ۱۱-۱۲-۱۴-۲۰-۲۹ میں ہیں جن میں سے ۱۲-۱۴-۲۰ تاریخ میں ضرور پورا اُترے۔ کچھ بارش ہوگی مگر کم۔ نیز بیساکھ میں سنکرانتی کرتیکہ ہوئی ہے جس کا پھل ناقص ہے۔ دھوپ بھی اس ماہ میں بہت تیز ہوگی احتیاط لازم اور سرد غذا کا استعمال ضروری ہے۔ نیز اس ماہ میں بھی گورو وارہ شکروار۔ ۵ شنی وار ہیں دو بار ناقص اور ایک بار اچھا ہوگا۔ جن کا پھل بھی ناقص ہی ہے گرانی غلہ کی دلیل ہے۔ اور پرجا کے بھیہ کی دلیل ہے۔ سٹہ نمبر ۲-۷- صفر ہیں۔ ۱۲-۵۲-۸۲-۳۶-۶۶-۹۶-۴۰-۷۰-۱۰۰ ہیں۔

ایام	جون ۱۹۳۰ عیسوی	محرم ۱۳۴۹ ہجری	[illegible]	[illegible] ۱۳۳۸ [illegible]	[illegible]	جیٹھ شدی سمت ۱۹۸۷ بکرمی تتھ	گھڑی پل	قیام نکشتر نکشتر	گھڑی پل	قیام یوگ یوگ	گھڑی پل	داخلہ چندرما راس	گھڑی پل	اوقات آفتاب طلوع گھنٹہ منٹ	غروب گھنٹہ منٹ	قیام بھدرا شروع گھڑی پل	اخیر گھڑی پل	دنمان گھڑی پل	انگریزی	یادداشت و تیوہار
اتوار	۱	۳	۱۲	۵	۱۹	پنچمی	۴۵ ۳۰	پکھ	۴۱ ۱۱	بردھ	۱۱ ۴	کرک	-	۵ ۷	۶ ۵۳			۳۴ ۲۵		
سوموار	۲	۴	۱۳	۶	۲۰	چھٹہ	۳۹ ۲۵	اشلیکھا	۳۷ ۴۵	دہرو بیاگھات	۳۲ ۵۲	سنگھ	۳۷ ۴۵	〃	〃			〃		
منگلوار	۳	۵	۱۴	۷	۲۱	سپتمی	۳۳ ۲۴	مگھا	۳۳ ۱۶	ہرکمن	۴۸ ۳۵	〃	〃	۶	۵۴	۳۳ ۲۳		۳۰		
بدھوار	۴	۶	۱۵	۸	۲۲	اشٹمی	۲۷ ۴۰	پوربا پھاگنی	۳۰ ۲	بجر	۴۱ ۳۰	کنیا	۴۴ ۷	〃	〃		۲ ۳۱	〃		
گوروار	۵	۷	۱۶	۹	۲۳	نومی	۲۲ ۳۴	اترا پھاگنی	۲۶ ۲۴	سدھی	۳۴ ۴۸	〃	〃	〃	〃			〃		
شکروار	۶	۸	۱۷	۱۰	۲۴	دسمی	۱۸ ۹	ہست	۲۳ ۴۸	بیتی پات	۲۸ ۵۰	تلا	۵۳ ۲۱	〃	〃	۴۶ ۲۳		〃		گنگا دسہرہ
شنی وار	۷	۹	۱۸	۱۱	۲۵	اکادشی	۱۴ ۳۸	چترا	۲۲ ۵۴	بریان	۲۴ ۵۸	〃	〃	۵	۵۵		۱۴ ۳۸	۳۵		نرجلا اکادشی برت
اتوار	۸	۱۰	۱۹	۱۲	۲۶	دوادشی	۱۲ ۷	سواتی	۲۲ ۳	پرگھ	۲۱ ۸	〃	〃	〃	〃			〃		بٹ ساوتری برت شروع تعزیہ مولائی محرم الحرام
سوموار	۹	۱۱	۲۰	۱۳	۲۷	تردوشی	۱۰ ۴	بشاکھا	۲۲ ۲۶	شو	۱۵ ۵۷	برشچک	۸ ۲۰	〃	〃			〃		
منگلوار	۱۰	۱۲	۲۱	۱۴	۲۸	چودش	۱۰ ۴	انورادھا	۲۴ ۴۷	سدھ	۱۳ ۳۳	〃	〃	۴	۵۶	۱۰ ۴۰	۴۱ ۲۷	۴۰		
بدھوار	۱۱	۱۳	۲۲		۲۹	پورنماشی	۱۱ ۵۴	جیشٹا	۲۸ ۳	سادھ	۱۲ ۲	دھن	۲۸ ۳	〃	〃			〃		
گوروار	۱۲	۱۴	۲۳		۳۰	اساڑھ بدی ایکم	۱۴ ۱۲	مول	۳۲ ۲۷	شبھ	۱۱ ۲۸	〃	〃	〃	〃			〃		
شکروار	۱۳	۱۵	۲۴	۲	۳۱	دوج	۱۷ ۵۴	پورباکھاڑ	۳۷ ۵۵	شکل	۱۲ ۱۲	مکر	۵۴ ۲۵	〃	〃	۵۰ ۵		〃		
شنی وار	۱۴	۱۶	۲۵	۳	اساڑھ	تیج	۲۲ ۱۷	اتراکھاڑ	۴۳ ۵۶	برہم	۱۳ ۱۷	〃	〃	۳	۵۷		۲۲ ۱۷	۴۵		متھن سنکرانت ۳۶ گھڑی ۵۳ پل
اتوار	۱۵	۱۷	۲۶	۴	۲	چوتھ	۲۷ ۳	سرون	۵۰ ۱۴	اندر	۱۴ ۴۵	〃	〃	〃	〃			〃		چوتھ برت
سوموار	۱۶	۱۸	۲۷	۵	۳	پنچمی	۳۱ ۴۸	دھنشٹا	۵۶ ۴۲	بیدھرت	۱۶ ۱۲	کنبھ	۲۳ ۲۷	〃	〃			〃		
منگلوار	۱۷	۱۹	۲۸	۶	۴	چھٹہ	۳۶ ۳۲	شت بکھا	۶۰ ۰	بشکنبھ	۱۷ ۴۷	〃	〃	〃	〃	۳۶ ۳۲		〃		
بدھوار	۱۸	۲۰	۲۹	۷	۵	سپتمی	۴۰ ۳۹	شت بکھا	۲ ۳۱	پریتی	۱۸ ۴۲	مین	۵۱ ۲۷	۲	۵۰		۸ ۳۵	۵۰		
گوروار	۱۹	۲۱	۳۰	۸	۶	اشٹمی	۴۳ ۴۳	پوربا بھادرپد	۷ ۴۶	آیوشمان	۱۹ ۹	〃	〃	〃	〃			〃		
شکروار	۲۰	۲۲	۳۱	۹	۷	نومی	۴۵ ۴۰	اترا بھادرپد	۱۲ ۱۳	سوبھاگیہ	۱۸ ۴۰	〃	〃	۱	۵۹			۵۵		
شنی وار	۲۱	۲۳	سرطان	۱۰	۸	دسمی	۴۶ ۲۹	ریوتی	۱۵ ۱۴	شوبھن	۱۷ ۱۱	میکھ	۱۵ ۱۴	〃	〃	۱۲ ۴	۲۶ ۲۹	〃		
اتوار	۲۲	۲۴	۲	۱۱	۹	اکادشی	۴۵ ۵۶	اسونی	۱۷ ۳	اتی گنڈ	۱۴ ۴۷	〃	〃	۵ ۰	۷ ۰			۳۵ ۰		یوگنی اکادشی برت
سوموار	۲۳	۲۵	۳	۱۲	۱۰	دوادشی	۴۴ ۱	بھرنی	۱۷ ۴۱	سوکرمان	۱۱ ۹	برکھ	۳۲ ۳۸	〃	〃			〃		
منگلوار	۲۴	۲۶	۴	۱۳	۱۱	تردوشی	۴۱ ۵	کرتکا	۱۷ ۲۵	دھرت	۶ ۵۰	〃	〃	〃	〃	۴۱ ۱		〃		
بدھوار	۲۵	۲۷	۵	۱۴	۱۲	چودش	۳۷ ۸	روہنی	۱۵ ۵۷	شول گنڈ	۲ ۵۳ ۵۸ ۱۴	متھن	۴۴ ۲۰	۵ ۱	۶ ۵۹		۹ ۶	۳۴ ۵۵		
گوروار	۲۶	۲۸	۶	۳۰	۱۳	اماوش	۳۲ ۲۳	مرگسر	۱۲ ۴۴	بردھ	۴۸ ۵۳	〃	〃	〃	〃			〃		
شکروار	۲۷	۲۹	۷	۱	۱۴	اساڑھ شدی ایکم	۲۶ ۵۵	آردرا	۹ ۳۹	دھرو	۴۱ ۴۱	کرک	۵۱ ۵۰	۲	۵۸			۳۴ ۵۰	نیا چاند	
شنی وار	۲۸	صفر	۸	۲	۱۵	دوج	۲۱ ۱۱	پونربس	۵ ۵۳	بیاگھات	۳۴ ۲۹	〃	〃	〃	〃			〃		جگدیش رتھ یاترا
اتوار	۲۹	۲	۹	۳	۱۶	تیج	۱۵ ۱۰	پکھ اشلیکھا	۱ ۵۵	ہرکھن	۲۶ ۵۴	سنگھ	۵۴ ۸	۳	۵۷	۴۲ ۵		۴۵		
سوموار	۳۰	۳	۱۰	۴	۱۷	چوتھ	۹ ۱	مگھا	۵۳ ۳۶	بجر	۱۹ ۳۱	〃	〃	〃	〃		۹ ۱	۳۴ ۴۵		

تاریخ	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

۷ بجکر ۴۸ منٹ شام

لگن جیٹھ شدی دوادشی سمت ۱۹۸۷ بجے ۲۴/۳	لگن اساڑھ بدی کادشی سمت ۱۹۸۷ بجے ۲۴/۳
راہو ۱، منگل ۱۲، سورج ۲، گورو ۳، شکر ۳، بدھ ۵، ۴، ۵، شنی ۹، ۱۰، ۱۱، چندرماں کیتو ۷، ۶، ۸	بدھ ۲، سورج ۳، شکر ۴، راہو منگل ۱، چندرماں، گورو، ۵، ۶، شنی ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، کیتو ۷، ۸

قیام سیارگان بابتہ لگن ۱ و ۲

سیارہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
راس	۲	۱	۲	۳	۳	۳	۱	۷	۳	۱	۲	۳	۴	۹	۱	۷
انش	۲۳	۱۰	۳	۳	۲۴	۱۵	۷	۷	۷	۲۱	۲۰	۷	۱۱	۱۴	۶	۶
کلا	۵۷	۵۲	۱۲	۵۴	۵۷	۴۲	۴۱	۴۱	۱۵	۱۶	۱۸	۱۵	۴۲	۴۳	۵۶	۵۶
بکلا	۳۵	۲	۵	۱۰	۱۹	۲۰	۳۰	۳۰	۱۵	۴۷	۱۰	۳۰	۳۲	۱۳	۵۸	۵۸

تاثیرات وثمرہ منازل فلکی براشرف المخلوقات ارضی

میکھ
رشتہ داروں سے راہ و رسم زیادہ بڑھے دوست واقارب سے پریم ہو۔ فائدہ کی تدبیر ہاتھ آوے۔ لوگوں میں مان ہو ہر کام میں کامیابی قدم کو چومے مگر کچھ بدنی امراض لاحق ہوں سفر بھلائی کے لئے ہو۔ ۷-۱۱-۱۵-۱۷-۲۱ تاریخ ناقص۔

برکھ
طبیعت میں فرحت اور خوش طبع لوگوں سے محبت عصمت فروش لوگوں کی صحبت سے نقصان ملے سفر میں کچھ دھن کی برائیتی ہو۔ اس ماہ کی ۲-۳-۵ تاریخ ٹھیک ہیں۔ اور ہر حالت سے یہ ماہ اچھا ہے۔

متھن
کسی نئے کام میں خرچ دل کو خوشی وعزت نصیب ہو۔ امیدیں بر آئیں۔ نئے دیش ومکان میں داخلہ۔ دربار سے عزت ملے دوست کی ملاقات سے فائدہ نہ ہو اسکی ۲-۵ تاریخیں نحس ہیں۔

کرک
آمدن کم خرچ زیادہ ہو۔ کوئی جسمانی روگ ہو آمدن میں کچھ اندیشہ بھی ہو گا اخراجات فضولیات زیادہ ہوں۔ چوپایہ جانوروں کا سکھ نہ ہو مرض پوشیدہ سے تکلیف ہو۔ پورب کے سفر سے کچھ فائدہ ہو۔ ۳-۵ تاریخ اچھی دشمن مغلوب دوستوں سے فائدہ نہ پہنچے۔

سنگھ
کسی نیک کار خیر میں خرچ کرنے کا موقعہ ہاتھ آوے۔ دوستوں سے ملاپ کسی دوست کی محبت سے دل بیتاب رہے بزرگوں سے واقفیت اور دھن کی ہانی ہو۔ ۷-۶-۱۱-۱۵ تاریخ ٹھیک اور اچھی ہیں۔

کنیا
کاروبار میں کچھ فائدہ کم ہو۔ سرکار سے فائدہ پہنچے۔ عورت سے سکھ ملے۔ طبیعت میں غصہ زیادہ رہے۔ دل ادھر ادھر ٹین میں لگا رہے۔ اس ماہ کی ۹-۱۳-۱۴-۱۵-۲۷-۳۰ تاریخ اچھی ہیں۔ دشمن مغلوب۔

تلا
کاروبار میں آمدنی وخرچ ماہ گذشتہ سے مساوی رہے۔ کوئی زیادہ فائدہ نہ ہووے اولاد کی چنتا ہو۔ سفر در پیش ہو۔ دوست آشنا منحرف ہوں۔ ۱ و ۷-۱۵-۲۴-۲۷ تاریخ ناقص ہیں۔

برشچک
آمدنی زیادہ خرچ کم اور دیگر کام خاصے ہوں۔ دشمن مغلوب رہیں، عورت کا کوئی روگ ستاوے۔ اولاد کا سکھ ہووے۔ اس ماہ کی ۲۱-۲۸ تاریخ اچھی ہیں۔ دوستوں سے ملاپ۔

دھن
آمدن زیادہ خرچ کم بچت کافی ہو۔ راج دربار سے لابھ۔ رشتہ داروں سے ملاپ کسی خاص دوست سے فائدہ ہووے صحت جسمانی ناقص شکایت دردسر زیادہ ہووے مگر سفر در پیش ہووے ۳-۵-۱۰-۱۴-۱۸-۲۲-۲۴-۲۶ ناقص۔

مکر
آمدنی اچھی خرچ کم صحت جسمانی خاصی۔ دشمن مغلوب دوست آشنا اچھے سلوک کریں بگڑے کام درست ہوں۔ روزگار سے فائدہ ہووے مگر ۳-۷-۱۱-۲۱ تاریخ ناقص ہیں۔

کمبھ
یہ ماہ آمدن وخرچ کے لحاظ سے اوسط درجہ کا ہے صحت جسمانی اچھی۔ روزگار مدہم۔ خیالات منتشر وپراگندہ۔ بلکہ کسی سفر کا ارادہ ہو جس سے لابھ نہ ہووے اور دشمن کچھ رخنہ اندازی کریں۔

مین
آمدنی اچھی خرچ کم صحت جسمانی خاصی۔ دشمن مغلوب۔ دوست آشنا اچھے سلوک کریں بگڑے کام درست ہوں۔ روزگار سے فائدہ ہووے مگر ۵-۹-۱۳-۲۴ تاریخ ناقص ہیں سفر در پیش ہوگا۔

پیشین گوئی بابت ماہ جون سنہ ۱۹۳۰ء

۱۴ ماہ حال کو آفتاب از برج ثور در برج جوزا بروز ہفتہ بوقت ۷ بجکر ۴۸ منٹ شام داخل ہوگا پروشٹہ بارات ہے۔ نکشترات ۵ بار نام رکشتی چور دچانڈال سکھی نکشتر نام مہودری۔ سانگ کال بیاپنی۔ راکششان منتی۔ چال تہال میں۔ نظر شمال شرق میں۔ مبودکرن۔ سواری شیر۔ اوپ سواری ہاتھی۔ بھیہ کارک پوشاک سفید۔ بستر بھوشنڈ ایدھ بھونیکا برتن لئے۔ غلہ کا بھوجن کستوری کا تلک۔ دیوجاتی۔ کیوڑہ کا پھول لئے۔ فیروزہ کا زیور پہنے بالا عمر بیٹھی حالت میں سنکرانت پردیش کرے گا۔ اس ماہ میں جو۔ گندم۔ چاول۔ مونگ۔ اڑد۔ چنا۔ جوار۔ باجرہ وغیرہ غلہ کی گرانی ہوگی جو ۱۳ ماہ حال تک ہوگی۔ بعد ازاں غلہ ارزاں ہوگا مگر گڑ۔ کھانڈ۔ گھی۔ تیل۔ چینی کا مندا ہوگا۔ روئی۔ کپاس۔ سوت۔ سوتی کپڑا گراں ہوگا سونا گراں ہوگا۔ چاندی۔ لوہا۔ تانبا۔ کانسی۔ پیتل ارزاں ہوگا۔ مشک۔ زعفران۔ کستوری عنبر گراں ہوں گی۔ خوشبویات۔ عطر۔ گلاب۔ کیوڑہ۔ چنبیلی۔ گراں ہوں گی۔ موتی۔ لعل۔ فیروزہ۔ نیلم۔ پکھراج۔ یاقوت وغیرہ پتھر گراں ہوگا۔ چوپایہ گراں ہوں گے۔

حالات ارضی وسماوی بابت ماہ جون سنہ ۱۹۳۰ء

اساڑھ بدی تیج بروز شنی وار سورج برکھ راس سے متھن راس میں ۳۶ گھڑی ۵۳ پل پر پردیش کریگا۔ سنکرانتی پروشٹہ پھل مدہم ۳ مہورتی۔ یکم جون کو مارگی بدھ ۷ تاریخ کو گورو غروب ہوگا شنی بکری ہے۔ باقی تمام گراہ مارگی ہیں۔ اس ماہ میں یوگ بارش ہے۔ جو ۱-۶-۷-۱۶-۲۱-۲۲ میں ہیں۔ جن میں سے ۷-۲۱ تاریخوں میں ضرور بارش ہوگی۔ اور سب دیشوں میں ہوگی۔ مگر ہوا تند اور پرزور ہوگی۔ یہاں تک کہ درختوں کو نقصان ہوگا۔ اور پرجا کو گرمی کی شدت از حد ستاوے گی بلکہ گرمی سے کچھ روگ پیدا ہوگا۔ مالک اپنی کرپا رکھے۔ براہمن لوگ خوشحال ہوں گے۔ کشتری وویش اداس ہوں گے۔ شودر وچانڈال دکھی ہوں گے۔ کہیں کہیں چوروں اور لٹیروں سے نقصان ہوگا۔ نیز آگنی سے بھیہ ہوگا۔ لوگوں کو چاہیئے کہ ہر طرح کی احتیاط رکھیں۔ سرد غذا کا استعمال اور صحت کا خیال رکھیں۔ نیز آردرا نکشتر پر سورج اور گرد وہے جس سے گرانی کا یوگ ہے۔ اور یہ گرانی اگلے مہینہ میں ضرور پھل دیگی آئندہ ایشور مالک ہے۔

سٹہ نمبر ۴-۲۰-۸ ہیں۔ ۱۴-۲۴-۶۴-۲۸-۵۰-۲۸-۳۲-۸۲-۹۲ ہیں۔

ایام	جولائی ۱۹۳۰ عیسوی	صفر ۱۳۴۹ ہجری	سرطان ۱۳۰۹ [illegible]	[illegible]	اساڑھ ۱۹۸۷ [illegible]	اساڑھ شدی سمت ۱۹۸۷ بکرمی: تتھ	گھڑی پل	قیام نکشتر: نکشتر	گھڑی پل	قیام یوگ: یوگ	گھڑی پل	داخلہ چندرما: راس	گھڑی پل	اوقات آفتاب: طلوع گھنٹہ منٹ	غروب گھنٹہ منٹ	قیام بھدرا: شروع گھڑی پل	اخیر گھڑی پل	دن مان گھڑی پل	[illegible]	تہوار و پربھ
منگلوار	۱	۴	۱۱	۶	۱۸	پنچمی چھٹھ	[illegible]	پوروا بھاگنی	۴۹ ۴۸	سدھی	۱۱ ۵۳	سنگھ	۰	۵ ۴	۶ ۵۶			۳۴ ۴۰		
بدھوار	۲	۵	۱۲	۷	۱۹	سپتمی	۵۲ ۰	اترا پھاگنی	۲۶ ۴۲	بیتی پات بریان	۴۴ ۵۲ ۲۲	کینیا	۴ ۱	″	″	۵۲ ۰		۳۹		
گوروار	۳	۶	۱۳	۸	۲۰	اشٹمی	۴۷ ۵۰	ہست	۴۴ ۷	پرگھ	۵۱ ۵۷	″	″	″	″		۱۹ ۵۵	۳۷		
شکروار	۴	۷	۱۴	۹	۲۱	نومی	۴۳ ۴۸	چترا	۴۲ ۲۰	شو	۴۶ ۳۶	تلا	۱۳ ۱۳	۵ ۵	۶ ۵۵			۳۵		بھڈلی نومی
شنی وار	۵	۸	۱۵	۱۰	۲۲	دسمی	۴۱ ۱۱	سواتی	۴۱ ۴۴	سدھ	۴۲ ۷	″	″	″	″			″		
اتوار	۶	۹	۱۶	۱۱	۲۳	اکادشی	۳۹ ۴۶	بشاکھا	۴۲ ۱۳	سادھ	۳۸ ۲۴	برشچک	۲۷ ۶	۶	۵۴	۱۱ ۲۶	۳۹ ۴۲	۳۰		دیوشینی اکادشی
سوموار	۷	۱۰	۱۷	۱۲	۲۴	دوادشی	۳۸ ۳۲	انورادھا	۴۳ ۴۹	شبھ	۳۵ ۵۷	″	″	″	″			″		
منگلوار	۸	۱۱	۱۸	۱۳	۲۵	تردوشی	۴۰ ۳۹	جیشٹھا	۴۶ ۴۴	شکل	۴۴ ۲۵	دھن	۴۶ ۴۴	″	″			″		
بدھوار	۹	۱۲	۱۹	۱۴	۲۶	چودش	۴۳ ۹	مول	۵۰ ۳۴	برہم	۳۳ ۳۸	″	″	″	″	۴۳ ۹		″		
گوروار	۱۰	۱۳	۲۰	۱۵	۲۷	پورنماشی	۴۶ ۲۵	پورباکھاڑ	۵۵ ۵۷	اندر	۲۴ ۲	″	″	۷	۵۳		۱۴ ۴۷	۲۵		بیاس پوجا پورنیکشا
شکروار	۱۱	۱۴	۲۱	۱	۲۸	سلون بدی اکم	۵۰ ۴۳	اتراکھاڑ	۶۰ ۰	بیدہرت	۳۴ ۵۹	مکر	۱۲ ۲۷	″	″			″		
شنی وار	۱۲	۱۵	۲۲	۲	۲۹	دوج	۵۵ ۲۵	اتراکھاڑ	۱ ۵۸	بشکنبھ	۳۶ ۲۱	″	″	″	″			″		
اتوار	۱۳	۱۶	۲۳	۳	۳۰	تیج	۶۰ ۰	سرون	۸ ۱۹	پریتی	۳۷ ۵۸	کنبھ	۴۱ ۳۱	۸	۵۲	۲۷ ۵۷		۲۰		
سوموار	۱۴	۱۷	۲۴	۴	۳۱	تیج	۱ ۴۰	دھنیشٹا	۱۴ ۴۴	آیوشمان	۳۹ ۲۹	″	″	″	″		۲۹	″		
منگلوار	۱۵	۱۸	۲۵	۵	۳۲	چوتھ	۵ ۰	سست بکھا	۲۰ ۲۷	سوبھاگیہ	۴۰ ۳۳	″	″	″	″			″		
بدھوار	۱۶	۱۹	۲۶	۵	ساون	پنچمی	۹ ۵	پوربا بھادرپد	۲۶ ۱۶	شوبھن	۴۱ ۱	مین	۹ ۵۵	۹	۵۱			۱۵		کرک سنکرانت ۱۴ گھڑی ۱ پل
گوروار	۱۷	۲۰	۲۷	۶	۲	چھٹھ	۱۳ ۱۶	اترا بھادرپد	۳۰ ۴۸	اتی گنڈ	۴۰ ۴۷	″	″	″	″	۱۲ ۱۶		″		
شکروار	۱۸	۲۱	۲۸	۷	۳	سپتمی	۱۳ ۵۹	ریوتی	۳۴ ۴	سوکرمان	۳۹ ۵۱	میکھ	۳۴ ۴	″	″		۴۳ ۶	″		
شنی وار	۱۹	۲۲	۲۹	۸	۴	اشٹمی	۱۵ ۴	اسونی	۳۶ ۱۰	دھرت	۳۷ ۱۶	″	″	″	″			″		
اتوار	۲۰	۲۳	۳۰	۹	۵	نومی	۱۴ ۳۴	بھرنی	۳۷ ۹	شول	۳۴ ۰	برکھ	۵۲ ۶	۱۰	۵۰	۴۵ ۴۱		۱۰		
سوموار	۲۱	۲۴	۳۱	۱۰	۶	دسمی	۱۲ ۴۹	کرتکا	۳۶ ۴۲	گنڈ	۲۹ ۴۷	″	″	″	″		۱۴ ۴۹	″		
منگلوار	۲۲	۲۵	۳۲	۱۱	۷	اکادشی	۹ ۵۹	روہنی	۳۲ ۱۴	بردھ	۲۴ ۳۵	″	″	″	″			″		کامیکا اکادشی برت
بدھوار	۲۳	۲۶	اسد	۱۲	۸	دوادشی	۶ ۷	مرگسر	۳۲ ۵۰	دھرو	۱۸ ۴۱	متھن	۲ ۳۲	۱۱	۴۹			۵		
گوروار	۲۴	۲۷	۲	۱۴	۹	تردوشی چودش	۲ ۴۸	آردرا	۲۹ ۵۷	بیاگھات	۱۲ ۷	″	″	″	″	۱ ۲۴	۳۸ ۴۲	″		
شکروار	۲۵	۲۸	۳	۱۵	۱۰	اماوش	۵۰ ۱۴	پونربس	۲۶ ۷	ہرکھن بجر	۵ ۵۶	کرک	۱۲ ۶	″	″			″		
شنی وار	۲۶	۲۹	۴	۱	۱۱	ساون شدی اکم	۴۴ ۱۳	پکھہ	۲۲ ۱۲	سدھی	۵۱ ۳۹	″	″	۱۲	۴۸			۳۴		
اتوار	۲۷	۳۰	۵	۲	۱۲	دوج	۳۸ ۱۷	اشلیکھا	۱۸ ۴	بیتی پات	۴۲ ۴۱	سنگھ	۱۸ ۴	۱۳	۴۷			۳۳ ۵۵	نیا چاند	
سوموار	۲۸	ربیع الاول	۶	۳	۱۳	تیج	۳۳ ۵۹	مگھا	۱۳ ۵۶	بریان	۳۵ ۴	″	″	″	″	۵۹ ۱		″		تیج کا میلہ تیجوں
منگلوار	۲۹	۲	۷	۴	۱۴	چوتھ	۲۶ ۴	پوربا پھاگنی	۱۰ ۶	پرگھ	۲۷ ۴۶	کنیا	۲۴ ۱۷	″	″		۲۶ ۴	″		
بدھوار	۳۰	۳	۸	۵	۱۵	پنچمی	۲۰ ۵۵	اترا پھاگنی	۶ ۵	شو	۲۰ ۵۴	″	″	۱۴	۴۶			۳۳ ۵۰		ناگ پنچمی
گوروار	۳۱	۴	۹	۶	۱۶	چھٹھ	۱۶ ۲۲	ہست	۳ ۵۹	سدھ	۱۴ ۴۲	تلا	۳۲ ۵۵	″	″			″		

616 616

تاریخ	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

لگن ۱ بابتہ اسنان شدی اکادشی سمت ۱۹۸۷ | لگن ۲ اسنان بدی نومی سمت ۱۹۸۷ $\frac{24}{14}$

قیام سیارگان بابتہ لگن ۱ | قیام سیارگان بابتہ لگن ۲

سیارہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
راس	۳	۲	۳	۳	۴	۹	۱	۷	۴	۱	۴	۳	۵	۹	۱	۷
انش	۲۰	۱	۱۳	۱۰	۲۷	۱	۶	۶	۳	۱۱	۹	۱۳	۱۳	۱۲	۵	۵
کلا	۳۱	۱۸	۵۲	۳۶	۳۶	۳۸	۱۲	۱۲	۴۷	۱۰	۱۷	۴۶	۴۷	۳۸	۲۷	۳۷
بکلا	۱۵	۸	۵۲	۴۰	۱۷	۲۹	۲۷	۲۷	۵۰	۳۸	۶	۸	۰	۵۰	۵۷	۵۷

تاثیرات وثمرہ منازل فلکی براشرف المخلوقات ارضی

میکھ
رشتہ داروں سے جھگڑا فساد رہے طبیعت میں فکر چوپائے سے دہشت آنکھوں میں کچھ تکلیف۔ عدالتی جھگڑے میں سردردی کرنی پڑے۔ اس ماہ کی ۱۱-۱۴-۱۷ تاریخ خراب ہیں۔ دشمن غالب ہوں۔

برکھ
روزگار افزوں ترقی یافت زیادہ اور صحت سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو کسی عزیز کی بیماری سے دل کو فکر ہو عورت سے آن بن رہے اس ماہ کی ۱۱-۱۵-۲۱-۲۷-۲۹- تاریخ اچھی ہیں۔

متھن
یہ ماہ سب طرح اچھا گذریگا آمدنی زیادہ رہیگی نئے کام و سفر سے دھن کا لابھ ہوگا اور امید نہیں جزوی کامیابی ہو۔ اس ماہ کی ۵-۱۲-۱۹-۲۷ تاریخ بھلی نہیں ہے چاندی کے کام میں نفع ہو عورت کا سکھ دوستوں سے فائدہ ہو۔

کرک
یہ ماہ بھی اچھا گذرے کوئی خاص معرکہ کی بات درپیش نہ ہووے استری کی چنتا دل کو فکر و تشویش میں ڈالدے۔ علم طبی کی طرف رغبت زیادہ ہو صحت جسمانی اچھی ہو۔ غلہ کا کام فائدہ دیوے۔

سنگھ
دھن کا لابھ فکر و تشویش زیادہ ہو مگر کچھ لابھ ہو۔ دوست کی ملاقات ہو دھن کا نقصان ہو۔ خونی امراض سے جسم کو بادہا ہو عورت کی طبیعت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۷-۹-۱۳-۱۷-۲۱ تاریخ ٹھیک نہیں۔

کنیا
آمدن زیادہ خرچ کم صحت جسمانی خاصی۔ بگڑے کاموں میں کچھ درستی اور آئندہ کامیابی ہے اور ہر طرح کی خوشی ہوگی بلکہ اور کسی سفر سے لابھ ہوگا۔ صرف ۱۱-۱۳-۱۹- تاریخ ناقص ہیں۔

تلا
آمدن کم خرچ زیادہ رہے۔ خیالات منتشر صحت جسمانی خاصی۔ دوستوں سے نفاق بلکہ کچھ نقصان واقع ہوں۔ اس ماہ کی ۱۵-۲۱-۲۳- تاریخ ناقص ہیں۔

برشچک
لابھ و خرچ برابر مگر ماہ گذشتہ سے کچھ اچھا ہووے رشتہ داروں سے میلاپ صحت جسمانی خاصی کوئی بگڑا کام درست ہووے مگر سفر درپیش ہو جو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ۷-۱۱-۱۳-۱۹-۲۱- تاریخ ناقص ہیں۔

دھن
یہ ماہ آمدنی و خرچ کے واسطے بہت اچھا ہو آمدنی بھی اچھی اور خرچ بھی کم یعنی برابر ہی رہے اور دوستوں سے میلاپ بگڑے کام درست ہوں خیالات میں تبدیلی واقع ہو ۷-۱۱-۱۷ تاریخ ناقص کسی مقدمہ سے لابھ ہو۔

مکر
یہ ماہ آمدن و خرچ کے واسطے بہت اچھا ہے آمدن بھی اچھی اور خرچ بھی زیادہ یعنی برابر ہے۔ دوستوں سے میلاپ۔ بگڑے کام درست ہوں۔ خیالات میں کوئی تبدیلی واقع ہو۔ ۵-۹-۱۳-۱۷- تاریخ ناقص۔

کنبھ
کوئی بگڑا کام درست ہو غالباً مقدمہ سے فائدہ ہو آمدن کم خرچ زیادہ ہو۔ کاروبار میں دھن کا خرچ زیادہ ہووے اور آئندہ ماہ خوشی و خرمی سے گذرے صحت جسمانی اچھی ہووے ۴-۶-۱۹-۱۴-۱۸-۲۲-۲۸ تاریخیں ناقص ہیں۔

مین
عورت کی چنتا۔ جھگڑا جسم میں گرمی کی شکایت چوپائے سے لابھ ہو۔ بیوپار سے کچھ تھوڑا تھوڑا لابھ ہو۔ اس ماہ کی ۱۹-۲۵- تاریخ ٹھیک نہیں پڑتی۔ علاوہ ازیں ہر کام میں کامیابی ہو یہ ماہ اچھا ہے۔

پیشینگوئی بابت ماہ جولائی سنہ ۱۹۳۰ء

۱۶ اراہ حال کو آفتاب از برج جوزا در برج سرطان بروز چہارشنبہ بوقت ۱۰ بجکر ۴۹ منٹ صبح داخل ہوگا۔ پروشٹھ بارات ۵ نکشترات ۳۰ بار نام مندا کنی راجہ اور شودر سکھی۔ ابراہن بیاہنی ولیشیان ہنتی۔ چال جنوب میں۔ نظر جنوب مغرب۔ گرگرن سواری ہاتھی ۳۰ اوپ باہن گدھا لکشمی کارگ۔ پوشاک سرخ رنگ۔ دہنور اید ۵ لوہے کا برتن لئے۔ دودھ پیتی ہوئی گورو چن کا تلک۔ پشوجاتی چنبیلی کا پھول لئے۔ مکٹ کا زیور پہنے۔ نوجوان عمر بیٹھی حالت میں سنکرانت پردیش کرے گا۔ گندم۔ جو۔ چنا۔ چاول۔ مونگ۔ موٹھ۔ کرڑو۔ مسور وغیرہ ساون سدی میں گراں۔ بدی میں ارزاں ہوں گے۔ دیش لوگوں کو غلہ کے بیوپار سے نقصان ہوگا چوپایہ گائے بھینس۔ بکری۔ اونٹ۔ گدھا۔ گھوڑا۔ خچر گراں ہوں گے۔ دودھ۔ دہی۔ گھی وغیرہ کی گرانی ہوگی اور دودھ کے جانوروں میں کچھ روگ پراپتی ہوگا۔ موتی۔ لعل۔ نیلم۔ پکھراج۔ فیروزہ۔ یاقوت۔ عقیق ارزاں ہوں کستوری مشک۔ زعفران۔ عنبر۔ گلاب۔ کیوڑہ۔ عطر۔ خوشبویات ارزاں ہوں گی مشک کی گرانی ہوگی۔ سونا چاندی مندا۔

حالات ارضی وسماوی بابتہ ماہ جولائی سنہ ۱۹۳۰ء

ساون بدی پنچمی بروز بدھوار سورج متھن راس سے کرک راس میں ۱۴ گھڑی ۱۱ پل پر ۳۰ مہورت میں سنکرانت پرویش کریگا۔ بدھ غروب طلوع گورو شنی بکری ہیں باقی سب گراہ مارگی ہیں۔ اس ماہ میں لوگ بارش ہے ضرور ہوگی۔ ۲-۵-۸-۱۶-۱۹-۲۰ تاریخوں میں لوگ بارش ہے مگر ۲-۵-۸-۱۹ تاریخوں میں ضرور بارش ہووے اور بارش اچھی ہو۔ مگر عموماً اس ماہ میں بادل بڑے بڑے کالے اور بھیانک دکھائی دینگے مگر ہوا زیادہ چلیگی اسواسطے بارش کی کمی ہوگی مگر ساون سدی اشٹمی سے لوگ بارش نکلیگا۔ بدھ نشکر ایک راشی پر ہیں اشٹمی کے بعد ضرور اچھی ہوگی۔ نیز ساون بدی میں ایک تتھی نواٰی ہے اس سے پرجا کے لئے لابھ و ایک ہے۔ مگر منگلوار ۵ بدھوار ۵ گوروار ہیں۔ جن میں سے دو باروں کا پھل ناقص اور ایک بار اچھا ہے۔ مالک اپنی کرپا سے اچھا ہی کرے۔ گرمی کی دھوپ سے پرجا کو نقصان ہوگا۔ لوگوں کو چاہیئے کہ مناسب انتظام حسب حیثیت کریں۔ کیونکہ اس ماہ میں لوگ چاہیئے کا اندیشہ ہے اور سرد غذا کا استعمال ضروری ہے کیونکہ سمیہ خراب ہوگا منگل پر دھنی نکشتر پر ہے اس لئے نمک میں گرانی ہوا اور اس گرانی کا ہونا پرجا کیلئے اچھائی کی دلیل ہے آئندہ ایشور مالک ہے سمتھ کا نمبر ۲ صفحہ ۲ میں ۲۲-۶۶-۹۶-۲۰-۵۰-۹۰-۱۴۰-۲۴۰-۸۴- ہیں۔

ایام	اگست ۱۹۳۰ عیسوی	ربیع الاول ۱۳۴۹ ہجری	اسد ۱۳۸۵	ساون ۱۹۸۷ بکرمی	ساون ۱۹۸۷ سمت	ساون شدی سمت ۱۹۸۷ بکرمی — تتھ	گھڑی پل	قیام نکشتر — نکشتر	گھڑی پل	قیام یوگ — یوگ	گھڑی پل	داخلہ چندرما — راس	گھڑی پل	اوقات آفتاب — طلوع گھنٹہ منٹ	غروب گھنٹہ منٹ	قیام بھدرا — شروع گھڑی پل	اخیر گھڑی پل	دن مان گھڑی پل	[illegible]	یادداشت تیوہار
شکروار	۱	۵	۱۰	۷	۱۷	ستمی	۱۲ ۳۶	چترا	۱ ۵۱	سادھ	۹ ۱۰	تلا	۰	۵ ۱۵	۶ ۴۵	۱۲ ۳۶	۴۵ ۱۰	۳۳ ۴۵	۲	۱
شنی وار	۲	۶	۱۱	۸	۱۸	اشٹمی	۱۰ ۷	سواتی	۰ ۲۶	شبھ	۱۷ ۲۶	برشچک	۴۶ ۵	۱۶	۴۴			۳۳ ۴۰		
اتوار	۳	۷	۱۲	۹	۱۹	نومی	۸ ۲۶	وشاکھا	۱ ۱۷	شکل برہم	۴۱ ۵۶ ۱۱	″	″	۱۷	۴۳			۳۵		
سوموار	۴	۸	۱۳	۱۰	۲۰	دسمی	۸ ۱۸	انورادھا	۲ ۳۷	اندر	۵۶ ۳	″	″	۱۸	۴۲	۳۸ ۴۸		۳۰		
منگلوار	۵	۹	۱۴	۱۱	۲۱	اکادشی	۹ ۱۴	جیشٹھ	۵ ۱۴	بیدھرت	۵۵ ۱۲	دھن	۵ ۱۴	۱۹	۴۱		۹ ۱۸	۲۵		پوترا اکادشی
بدھ وار	۶	۱۰	۱۵	۱۲	۲۲	دوادشی	۱۱ ۳۴	مول	۹ ۱۴	بشکنبھ	۵۵ ۱۵	″	″	۲۰	۴۰			۳۰		
گوروار	۷	۱۱	۱۶	۱۳	۲۳	تردوشی	۱۵ ۳۶	پوربا کھاڑ	۱۴ ۸	پریتی	۵۶ ۹	مکر	۳۰ ۳۶	۲۱	۳۹			۱۵		
شکروار	۸	۱۲	۱۷	۱۴	۲۴	چودش	۱۹ ۱۲	اترا کھاڑ	۲۰ ۰	آیوشمان	۵۶ ۴۴	″	″	۲۲	۳۸	۱۹ ۱۲		۱۰		
شنی وار	۹	۱۳	۱۸	۱۵	۲۵	پورنماشی	۲۳ ۵۶	سرون	۲۶ ۹	سوبھاگیہ	۵۸ ۵۲	″	″	۲۳	۳۷		۵۲ ۳۴	۵	[illegible]	سراونی کرم یجروید رکشا بندھن
اتوار	۱۰	۱۴	۱۹	۱	۲۶	بھادوں بدی ایکم	۲۸ ۴۸	دھنشٹا	۳۲ ۳۷	شوبھن	۶۰ ۰	کنبھ	۵۶	۲۴	۳۶			۳۳ ۰		
سوموار	۱۱	۱۵	۲۰	۲	۲۷	دوج	۳۳ ۳۴	شت بھکھا	۳۸ ۳۲	شوبھن	۰ ۲۶	″	″	۲۵	۳۵			۳۲ ۵۵		
منگلوار	۱۲	۱۶	۲۱	۳	۲۸	تیج	۳۷ ۴۰	پوربا بھادرپد	۴۴ ۱۴	اتی گنڈ	۲ ۲	مین	۲۷ ۴۸	۲۵	۳۵	۵ ۳۶	۳۷ ۴۰	۵۵		
بدھ وار	۱۳	۱۷	۲۲	۴	۲۹	چوتھ	۴۰ ۵۶	اترا بھادرپد	۴۸ ۵۶	سوکرما	۲ ۱۳	″	″	″	″			″		چوتھ برت
گوروار	۱۴	۱۸	۲۳	۵	۳۰	پنچمی	۴۴ ۶	ریوتی	۵۲ ۳۹	دہرت	۲ ۳	میکھ	۵۲ ۳۹	۲۶	۳۴			۵۰		
شکروار	۱۵	۱۹	۲۴	۶	۳۱	چھٹھ	۴۴ ۴۵	اسونی	۵۴ ۵۱	شول گنڈ	۵۶ ۵۹	″	″	″	″	۴۴ ۴۵		″		
شنی وار	۱۶	۲۰	۲۵	۷	بھادوں	ستمی	۴۴ ۴۲	بھرنی	۵۶ ۴	بردھ	۵۵ ۵۲	″	″	۲۷	۳۳		۱۴ ۱۳	۴۵		سنگھ سنکرانت ۴۸ گھڑی ۱۴ پل
اتوار	۱۷	۲۱	۲۶	۸	۲	اشٹمی	۴۲ ۳	کرتکا	۵۵ ۵۹	دھرو	۵۱ ۵۴	برکھ	۱۱ ۲	″	″			″		جنم اشٹمی
سوموار	۱۸	۲۲	۲۷	۹	۳	نومی	۳۹ ۱۲	روہنی	۵۴ ۴۹	بیاگھات	۴۶ ۴۰	″	″	۲۸	۳۲			۳۲ ۴۰		گوگا نومی
منگلوار	۱۹	۲۳	۲۸	۱۰	۴	دسمی	۳۵ ۲۷	مرگسر	۵۲ ۳۵	ہرکھن	۴۰ ۵۱	متھن	۲۳ ۴۲	″	″	۷ ۱۹	۳۵ ۲۷	″		
بدھ وار	۲۰	۲۴	۲۹	۱۱	۵	اکادشی	۳۰ ۵۲	آردرا	۴۹ ۴۶	بجر	۳۴ ۲۳	″	″	۲۹	۳۱			۳۲ ۳۵		اجا اکادشی
گوروار	۲۱	۲۵	۳۰	۱۲	۶	دوادشی	۲۵ ۳۲	پونربس	۴۶ ۵۶	سدھی	۲۷ ۳۳	کرک	۳۲ ۳۸	۳۰	۳۰			۳۰		گوؤجنم
شکروار	۲۲	۲۶	۳۱	۱۳	۷	تردوشی	۱۹ ۴۵	پکھ	۴۲ ۱۱	بیتی پات	۱۹ ۵۸	″	″	۳۱	۲۹	۱۹ ۴۵	۴۶ ۴۲	۳۲ ۲۵		
شنی وار	۲۳	۲۷	سنبلہ	۱۴	۸	چودش	۱۳ ۴۹	اشلیکھا	۳۸ ۹	بریان	۱۲ ۳۰	سنگھ	۳۸ ۹	۳۲	۲۸			۲۰		کش گرہنی
اتوار	۲۴	۲۸	۲	۳۰	۹	اماوش	۷ ۵۲	مگھا	۳۳ ۵۷	پرگھہ شو	[illegible]	″	″	۳۳	۲۷			۳۲ ۱۵	[illegible]	ستی پوجنم
سوموار	۲۵	۲۹	۳	۲	۱۰	بھادوں شدی ایکم دوج	۱ ۳۷ [illegible]	پوربا پھالگنی	۳۰ ۲۶	سدھ	۴۹ ۵۰	کنیا	۴۴ ۲۴	″	″			″	نیا چاند	
منگلوار	۲۶	ربیع الآخر	۴	۳	۱۱	تیج	۵۰ ۳۶	اترا پھالگنی	۲۶ ۴۷	سادھ	۴۲ ۵۴	″	″	۳۴	۲۶			۱۰	۲	براہ جینتی
بدھ وار	۲۷	۲	[illegible]	۴	۱۲	چوتھ	۴۵ ۵۷	ہست	۲۳ ۸	شبھ	۳۶ ۳۶	تلا	۵۳ ۱۹	۳۵	۲۵	۱۸ ۲۶	۴۵ ۵۷	۵		گنیش چوتھ برت
گوروار	۲۸	۳	۶	۵	۱۳	پنچمی	۴۲ ۱۸	چترا	۲۱ ۳۱	شکل	۳۰ ۳۸	″	″	۳۶	۲۴			۳۲ ۰		رشی پوجنم
شکروار	۲۹	۴	۷	۶	۱۴	چھٹھ	۳۹ ۳۴	سواتی	۲۰ ۲۱	برہم	۲۵ ۳۹	″	″	۳۷	۲۳			۳۱ ۵۵		
شنی وار	۳۰	۵	۸	۷	۱۵	ستمی	۳۸ ۷	وشاکھا	۲۰ ۱۰	اندر	۲۱ ۳۲	برشچک	۵ ۱۲	۳۸	۲۲	۳۸ ۷		۵۰		
اتوار	۳۱	۶	۹	۸	۱۶	اشٹمی	۳۷ ۵۷	انورادھا	۲۱ ۱۱	بیدھرت	۱۸ ۲۸	″	″	۵ ۳۹	۶ ۲۱		۸ ۲	۳۱ ۴۵	[illegible]	دوربا اشٹمی

۱۲ بجکر ۵۴ منٹ شب

تاریخ: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ — ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱

لگن بھاسادن شدی نومی سمت ۱۹۸۷ | لگن بھادون بدی اماوش سمت ۱۹۸۷

منگل ۲ — گورو ۳ — سورج ۴ — بدھ شکر ۵ — ۶ — راہو ۱ — کیتو ۷ — ۱۲ — ۱۱ — ۱۰ — چندرما ۸ — شنی ۹

منگل ۳ گورو — ۴ — چندرما ۵ سورج — بدھ شکر ۶ — کیتو ۷ — ۸ — راہو ۱ — ۱۲ — ۲ — ۱۱ — ۱۰ — شنی ۹

قیام سیارگان بابتہ لگن ۲ | قیام سیارگان بابتہ لگن ۲

سیارہ																
راس	۴	۲	۵	۳	۵	۹	۱	۷	۵	۳	۶	۳	۵	۹	۱	۷
انش	۱۷	۲۰	۴	۱۶	۲۹	۱۱	۴	۴	۷	۴	۳	۲۱	۲۲	۱۱	۳	۳
کلا	۶	۴۲	۱۸	۴۹	۳۱	۵۲	۴۳	۴۳	۱۳	۲۰	۲۹	۲	۲۳	۱۱	۳۶	۳۶
بکلا	۵۵	۵۶	۴۵	۶	۳۸	۴۶	۲۶	۲۶	۵۱	۲۳	۵۰	۱۵	۱	۱۲	۳۸	۳۸

تاثیرات وثمرہ منازل فلکی براشرف المخلوقات ارضی

میکھ
یہ ماہ آمدنی وخرچ کے لحاظ سے اوسط ہے صحت جسمانی اچھی روزگار مدہم خیالات منتشر وپراگندہ۔ بلکہ کسی سفر کا ارادہ ہو جس سے لابھ ہووے اور دشمن رخنہ اندازی کریں مگر کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ ۷-۹-۱۱-۱۷ تاریخ میں فائدہ

برکھ
یہ ماہ آمدن وخرچ میں سم ہے کوئی سفر درپیش ہو جس سے چنداں فائدہ کی امید نہیں اسنان کی چنتا بعض لوگ شرارت سے کاروبار میں ہانی کارک ہوں بخار وغیرہ سے کچھ تکلیف جسمانی ہو ۳-۹-۱۳-۲۷ تاریخ ناقص ہیں۔

متھن
روزگار کی حالت اچھی نہ رہیگی۔ بڑے کام سدھ نہ ہونگے۔ عورت واولاد کو کچھ تکلیف ہونے گھر کا پردیش دہون کے خرچ کو ظاہر کرتا ہو اس ماہ کی ۲۵-۲۹ تاریخیں اچھی ہیں ضرور کچھ لابھ ہوگا۔

کرک
آمدن زیادہ خرچ کم ہو کسی نیک کام میں دہن کا خرچ ہو طبیعت میں بیر کا بھاؤ ہو دنیاوی تعلقات سے خوشی نہ ملے۔ عورت دیچوں کو روگ ستاوے۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاپ تعلقات پیدا ہوں۔ ۹-۱۳-۱۷ تاریخ اچھی ہیں۔

سنگھ
لابھ ہو گذشتہ ماہ سے یہ ماہ بھلا رہے کسی جگہ دو کوئی خوشخبری موصول ہووے کاروبار عمدہ رہے نئے خیالات اور امنگوں کا دل میں دور ہو سفر کو طبیعت مائل ہو عورت کی طرف سے خوشی ہو مگر ۳-۷-۱۳ تاریخ ناقص ہیں۔

کنیا
آمدن کم خرچ زیادہ۔ دوست داشنا کی صحبت سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو کسی عزیز کی بیماری سے دل کو فکر ہو۔ عورت سے ان بن رہے اس ماہ کی ۱۳-۲۰-۲۳-۲۹ تاریخ اچھی ہیں۔

تلا
لابھ ہو۔ گذشتہ ماہ سے یہ ماہ بھلا ہے کسی جگہ سے کوئی خوشخبری موصول ہو کاروبار عمدہ رہے نئے خیالات اور امنگوں کا دل میں دورہ ہو سفر کو طبیعت مائل ہو عورت کی طرف سے خوشی ہو مگر ۱-۵-۱۷-۲۳ تاریخ ناقص ہیں۔

برشچک
آمدن کم خرچ زیادہ اور دیگر کام خاصے ہوں دشمن غالب رہیں عورت کا کوئی روگ ستاوے اس ماہ کی ۲۲-۳۰ تاریخ اچھی ہیں دوستوں سے ملاپ جس سے کوئی اچھی خبر ملے۔

دھن
کاروبار میں آمدن وخرچ ماہ گذشتہ سے مساوی رہے کوئی زیادہ فائدہ نہ ہووے اولاد کی چنتا ہو۔ سفر درپیش ہو۔ دوست آشنا سے ملاپ ہو۔ ۱-۳-۹-۱۴-۱۷ تاریخ ناقص ہیں۔

مکر
ماہ گذشتہ سے ذرا خراب رہے۔ آمدنی میں کمی ظہور پذیر ہو۔ کسی کام سے نقصان ہووے عورت کی طبیعت راس نہ ہووے۔ سفر میں دھوکا رہے۔ مگر ۵-۹-۱۱-۱۳-۱۷-۲۱ تاریخ اچھی ہیں۔ فائدہ ہوگا۔

کمبھ
آمدن زیادہ خرچ کم کوئی اچھی خبر ملے رشتہ داروں سے راہ ورسم زیادہ بڑھے۔ دوست واقارب سے پریم ہو فائدہ کی تدبیر ہاتھ آئے لوگ تمہیں مان ہر ہر کام میں کامیابی قدم چومے مگر کچھ بدنی امراض لاحق ہوں سفر بھلائی کے لئے ہو ۳-۵-۱۳-۱۷-۲۳ تاریخ ناقص۔

مین
حالات ماہ گذشتہ سے ذرا کسی قدر خرابی لاوے آمدنی میں کمی ظہور پذیر ہووے۔ کسی کام سے نقصان ہووے۔ عورت کی طبیعت راس نہ رہے۔ سفر میں دھوکہ رہے مگر ۳-۵-۹-۱۱-۱۷-۱۹-۲۰ تاریخیں خراب ہیں۔

پیشینگوئی بابت ماہ اگست سنہ ۱۹۳۰ء

۱۶ ماہ حال کو آفتاب از برج سرطان در برج اسد بروز ہفتہ بوقت ۱۲ بجکر ۵۴ منٹ شب داخل ہوگا۔ پروشٹھ بارات ۴ نکشترات ۵ بار نام رکشٹی نکشتر نام گھوڑا چانڈال اور شودر شکلی مدھیہ راشٹر بیانی۔ چال مشرق میں۔ نظر جنوب مشرق میں بالو کرن سواری بھیڑیا اپ سواری گھوڑا۔ بھیہ کارک۔ پوشاک زرد رنگ۔ گدا بدھ چاندی کا برتن لئے ہوئے دودھ پیتی۔ رولی کا تلک۔ بھوت جاتی معمولی پھول لئے۔ کڑے کا زیور پہنے۔ بالک یعنی کمار عمر بیٹھی حالت غلہ گندم۔ چنا۔ چاول۔ جو جوار۔ باجرہ۔ مونگ۔ اڑد۔ موٹھ۔ مسور۔ وغیرہ گراں ہوں۔ زرد رنگ کی چیزیں گراں۔ دودھ۔ گھی۔ تیل۔ گراں۔ گڑ۔ شکر۔ کھانڈ چینی انداں اور خوشبوجات عطر۔ گلاب۔ کیوڑہ۔ چنبیلی۔ خس ارزاں ہوں۔ مشک۔ عنبر۔ زعفران۔ کستوری ارزاں ہو۔ موتی۔ مونگہ۔ لعل۔ ہیرا۔ نیلم۔ پکھراج۔ یاقوت وغیرہ پتھر ارزاں ہوں۔ کوئلہ لکڑی ارزاں ہو۔ ہاتھی۔ گھوڑا۔ گائے۔ بیل۔ گراں ہوں

حالات ارضی وسماوی بابت ماہ اگست سنہ ۱۹۳۰ء

بھادوں بدی ستمی بروز شنی وار سورج کرک راس سے سنگھ راس میں ۴۰ گھڑی ۱۴ پل ۱۵ امورت پر سنکرانت پرویش کرے گا شنی بکری باقی تمام گراہ مارگی ہیں۔ بدھ طلوع۔ اس ماہ میں یوگ بارش ۲-۳-۹-۱۶-۳۰-۳۱ تاریخوں میں ہے۔ جنہیں سے ۲-۳-۱۶-۳۰ تاریخوں میں ضرور کچھ نہ کچھ بارش ہوگی۔ مگر بالک ونوجوانوں کی صحت میں کچھ گڑبڑ ہو۔ بخار اور گرمی کی شدت زیادہ رہے۔ ہر شخص کو احتیاط لازم ہے بھادو یاد رہے۔ لوں گرم چلے۔ لیکن سب مالک بھلی کرے گا۔ کیونکہ دو بار ناقص اور ایک بار سم کچھ یعنی ۵ شکروار ۵ شنی وار ۵ اتوار ہیں۔ روئی گراں سونا گراں ہو۔ رس اور کس بھی گراں ہو۔ مطلع ابر محیط اور رات کو آسمان میں ستارے چمکتے دکھائی دیں۔ مگر ڈبے ہوتے جس سے علامت بارش ہے۔ مگر بارش سم ہوگی۔ چوروں اور ٹھگوں کا زور ہوگا نرک کی گرانی اس ماہ ضرور چلیگی۔ باقی مالک اپنی کرپا سے اچھا کرے۔

سٹہ نمبر ۸-۲-۶ ہیں۔ ۱۸-۴۸-۸۸-۲۲-۴۲-۹۲-۳۶-۵۶-۶۶ ہیں۔

۳۰ یوم	ستمبر ۱۹۳۰ عیسوی	ربیع الثانی ۱۳۴۹ ہجری	سنبلہ ۱۸۵۲ شاکا	بھادوں ۴۸۷ پرویشٹے	بھادون ۱۹۸۶ پرویشٹے	بھادوں شدی سمت ۱۹۸۷ بکرمی تتھ	گھڑی پل	قیام نکشتر نکشتر	گھڑی پل	قیام یوگ یوگ	گھڑی پل	داخلہ چندرما راس	گھڑی پل	اوقات آفتاب طلوع گھنٹہ منٹ	غروب گھنٹہ منٹ	قیام بھدرا شروع گھڑی پل	اخیر گھڑی پل	دن مان گھڑی پل	ماہ	تیوہار وغیرہ
سوموار	۱	۷	۱۰	۹	۱۷	نومی	۳۹ ۱	جیشٹا	۲۳ ۳۳	بشکنبھ	۱۶ ۲۰	دھن	۲۳ ۳۳	۵ ۴۰	۶ ۲۰			۳۱ ۴۰		
منگلوار	۲	۸	۱۱	۱۰	۱۸	دسمی	۴۱ ۲۵	مول	۲۸ ۱۳	پریتی	۱۵ ۱۴	״	״	۴۱	۱۹			۳۱ ۳۵		
بدھوار	۳	۹	۱۲	۱۱	۱۹	اکادشی	۴۴ ۳۷	پوربا کھاڑ	۳۱ ۵۴	آیوشمان	۱۵ ۹	مکر	۴۸ ۱۸	۴۲	۱۸	۱۳ ۵۶	۴۴ ۳۷	۳۱ ۳۰		پدما اکادشی برت
گوروار	۴	۱۰	۱۳	۱۲	۲۰	دوادشی	۴۸ ۵۹	اترا کھاڑ	۳۷ ۳۲	سوبھاگیہ	۱۵ ۴۴	״	״	۴۳	۱۷			۳۱ ۲۵		بامن جینتی
شکروار	۵	۱۱	۱۴	۱۳	۲۱	تردوشی	۵۳ ۳۷	سرون	۴۴ ۱۴	شوبھن	۱۶ ۵۰	״	״	۴۴	۱۶			۳۱ ۲۰		
شنی وار	۶	۱۲	۱۵	۱۴	۲۲	چودش	۵۴ ۴۱	دھنشٹا	۵۰ ۱	اتی گنڈ	۱۸ ۹	کنبھ	۱۶ ۴۱	۴۵	۱۵	۵۸ ۴۱		۳۱ ۱۵		اننت چودش
اتوار	۷	۱۳	۱۶	۱۵	۲۳	پورنماشی	۶۰ ۰	ستبھکھا	۵۶ ۵۶	سوکرمان	۱۹ ۵۹	״	״	۴۶	۱۴		۳۱ ۷	۳۱ ۱۰		شرادھ شروع
سوموار	۸	۱۴	۱۷	۱	۲۴	پورنماشی	۳ ۳۴	پوربا بھادرپد	۶۰ ۰	دھرت	۲۱ ۳	مین	۴۵ ۴۷	۴۷	۱۳			۳۱ ۵	بھادوں	
منگلوار	۹	۱۵	۱۸	۱	۲۵	اسوج بدی ایکم	۷ ۴۶	پوربا بھادرپد	۲ ۳	شول	۲۱ ۴۷	״	״	۴۸	۱۲			۳۱ ۰		
بدھوار	۱۰	۱۶	۱۹	۲	۲۶	دوج	۱۱ ۶	اترا بھادرپد	۶ ۵۱	گنڈ	۲۱ ۴۶	״	״	۴۹	۱۱	۴۲ ۱۵		۳۰ ۵۵		
گوروار	۱۱	۱۷	۲۰	۳	۲۷	تیج	۱۳ ۲۵	ریوتی	۱۰ ۵۳	بردھ	۲۱ ۶	میکھ	۱۰ ۵۳	۵۰	۱۰		۱۳ ۲۵	۳۰ ۵۰		چوتھ برت
شکروار	۱۲	۱۸	۲۱	۴	۲۸	چوتھ	۱۴ ۲۸	اسونی	۱۳ ۲۴	دھرو	۱۸ ۵۵	״	״	۵۱	۹			۳۰ ۴۵		
شنی وار	۱۳	۱۹	۲۲	۵	۲۹	پنچمی	۱۴ ۹	بھرنی	۱۴ ۵۲	بیاگھات	۱۶ ۴	برکھ	۲۹ ۵۶	۵۲	۸			۳۰ ۴۰		
اتوار	۱۴	۲۰	۲۳	۶	۳۰	چھٹ	۱۲ ۳۱	کرتکا	۱۵ ۱۰	ہرکھن	۱۲ ۵	״	״	۵۳	۷	۱۲ ۳۱	۴۱ ۱۳	۳۰ ۳۵		
سوموار	۱۵	۲۱	۲۴	۷	۳۱	ستمی	۹ ۵۵	روہنی	۱۴ ۷	بجر	۷ ۱۴	متھن	۴۳ ۲	۵۴	۶			۳۰ ۳۰		
منگلوار	۱۶	۲۲	۲۵	۸	اسوج	اشٹمی	۶ ۹	مرگسر	۱۱ ۵۷	سدھی ۳ ۵۲ بیتی پات ۵۴ ۴۷		״	״	۵۵	۵			۳۰ ۲۵		کنیا سنکرانت ۵۱ گھڑی ۶ پل
بدھوار	۱۷	۲۳	۲۶	۱۰	۲	نومی دسمی	۲ ۵۴ ۵۳	آردرا	۸ ۵۷	بریان	۴۸ ۱۲	کرک	۵۱ ۳۹	۵۶	۴	۲۸ ۳۱	۵۶ ۲۷	۳۰ ۲۰		
گوروار	۱۸	۲۴	۲۷	۱۱	۳	اکادشی	۵۰ ۴۳	پورنبس	۵ ۵۲	پرگھ	۴۰ ۵۲	״	״	۵۷	۳			۳۰ ۱۵		اندرا اکادشی
شکروار	۱۹	۲۵	۲۸	۱۲	۴	دوادشی	۴۴ ۵۶	پکھ اشلیکھا	۵۴ ۵۱	شو	۳۳ ۵	سنگھ	۵۴ ۵۱	۵۸	۲			۳۰ ۱۰		
شنی وار	۲۰	۲۶	۲۹	۱۳	۵	تردوشی	۳۸ ۴۷	مگھا	۵۳ ۴۶	سدھ	۲۵ ۲۴	״	״	۵۹	۱	۳۸ ۴۷		۳۰ ۵		
اتوار	۲۱	۲۷	۳۰	۱۴	۶	چودش	۳۲ ۴۵	پوربا پھالگنی	۴۹ ۵۳	سادھ	۱۷ ۴۴	״	״	۶ ۰	۶ ۰		۵ ۴۶	۳۰ ۰		
سوموار	۲۲	۲۸	۳۱	۳۰	۷	اماوس	۲۷ ۵	اترا پھالگنی	۴۶ ۱۶	شبھ	۱۰ ۱۵	کنیا	۳ ۵۹	״	״			۳۰ ۰		سومتی اماوس پھگڑ و گیا پریہ
منگلوار	۲۳	۲۹	میزان	۱	۸	اسوج شدی ایکم	۲۲ ۲	ہست	۴۳ ۷	شکل ۳ ۵۱ برہم ۵۴ ۳۳		״	״	۶ ۱	۵ ۵۹			۲۹ ۵۵	نیا چاند	نوراتہ شروع
بدھوار	۲۴	جمادی الاول	۲	۲	۹	دوج	۱۶ ۱۴	چترا	۴۰ ۵۴	اندر	۴۹ ۴۶	تلا	۱۲ ۱	״	״			״		
گوروار	۲۵	۲	۳	۳	۱۰	تیج	۱۳ ۵۰	سواتی	۳۹ ۲۰	بیدھرت	۴۵ ۹	״	״	۶ ۲	۵ ۵۸	۴۲ ۲۸		۲۹ ۵۰		
شکروار	۲۶	۳	۴	۴	۱۱	چوتھ	۱۱ ۶	بشاکھا	۳۹ ۰	بشکنبھ	۴۰ ۴۸	برشچک	۲۴ ۵	״	״		۱۱ ۶	״		
شنی وار	۲۷	۴	۵	۵	۱۲	پنچمی	۹ ۴۰	انورادھا	۳۹ ۴۶	پریتی	۳۷ ۲۲	״	״	۶ ۳	۵ ۵۷			۲۹ ۴۵		
اتوار	۲۸	۵	۶	۶	۱۳	چھٹ	۹ ۳۷	جیشٹا	۴۱ ۳۰	آیوشمان	۳۴ ۵۷	دھن	۴۱ ۳۰	۴	۵۶			۴۰		
سوموار	۲۹	۶	۷	۷	۱۴	ستمی	۱۰ ۱	مول	۴۵ ۱۲	سوبھاگیہ	۳۳ ۳۲	״	״	۵	۵۵	۱۰ ۴۱	۴۱ ۵۲	۳۵		سرسوتی آواہن
منگلوار	۳۰	۷	۸	۸	۱۵	اشٹمی	۱۳ ۳	پوربا کھاڑ	۴۹ ۳۶	شوبھن	۳۳ ۱۱	״	״	۶	۵۴			۲۹ ۳۰		درگا اشٹمی

۲ بجکر ۲ منٹ شب

تاریخ	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰

لگن ابھان شدی پورنماشی سمت ۱۹۸۷ | لگن اسوج بدی چودش سمت ۱۹۸۷





قیام سیارگان بابت لگن ۱ | قیام سیارگان بابتہ لگن ۲

سیارہ	سورج	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
راس	۵	۳	۶	۳	۷	۹	۱	۷	۶	۳	۵	۳	۷	۹	۱	۷
انش	۲۰	۱۳	۸	۲۴	۷	۱۱	۲	۲	۴	۲۱	۲۸	۲۵	۱۹	۱۱	۲	۲
کلا	۴۵	۲	۱۵	۲۸	۱۴	۵	۵۲	۵۲	۲۴	۲	۱۷	۳۴	۵۹	۱۶	۷	۷
بکلا	۴۳	۲۳	۴۶	۳۴	۴	۳	۷	۷	۱۴	۵۵	۱۰	۵۶	۴۱	۲۰	۳۶	۳۶

تاثیرات و ثمرہ منازلِ فلکی بر اشرف المخلوقات ارضی

میکھ
آمد و خرچ برابر رہے - کوئی مقدمہ درپیش ہو - دہن کا لابھ ہو کاروبار میں ترقی ہو وے پریشانی کافور ہو وے - سفر درپیش ہو جس سے کچھ لابھ ہو اولاد کا فکر عورت کی چنتا میں رہے - اس ماہ کی ۹-۱۴-۱۹ نحس ہیں مگر ۱۷-۲۱ - اچھی ہیں -

برکھ
آمدن زیادہ خرچ کم کسی نیک کار خیر میں خرچ کرنیکا موقعہ ہاتھ آئے دوستوں سے ملاپ ہو کسی دوست کی محبت سے دل بیتاب ہو - بزرگوں سے واقفیت او دہن کا لابھ ہو - ۳-۹-۱۳ ۱۹-۲۶ - تاریخ ٹھیک نہیں -

متھن
آمد و خرچ برابر - کوئی مقدمہ درپیش ہو دہن کا لابھ ہو - کاروبار میں ترقی ہو پریشانی کافور ہو سفر درپیش ہو جس سے لابھ نہ ہو - اولاد کا فکر عورت کی چنتا میں رہے اس ماہ کی ۱۲- ۱۹ تاریخ نحس ہیں - کوئی خرابی ہو -

کرک
کسی نئے کام میں لابھ - دل کو خوشی و عزت نصیب ہو - امیدیں بر آئیں نئے وغیرہ مکان میں داخلہ ہو - دربار سے عزت ملے - دوست کی ملاقات سے فائدہ ہو - اسکی ۵-۷ تاریخ نحس ہیں کوئی نئی بات ہو -

سنگھ
آمد و خرچ برابر صحت جسمانی خاصی مگر آشوب چشم کی شکایت ہو - بگڑے کام درست ہوں کسی دوست سے فائدہ ہو مگر کسی زمین کا معاملہ درپیش ہووے - نیز ۳-۸-۱۱-۱۳-۱۷- ۱۹ - تاریخ ناقص ہیں -

کنیا
آمدن کم خرچ زیادہ - کاروبار مدہم رہے لین دین میں رکاوٹیں درپیش آویں - دشمنوں کا خوف کوئی قریبی مددگار نہ ملے - اس ماہ کی ۴-۲۹- ۲۷ تاریخ سخت ہیں - عورت کی چنتا میں رہے کسی سے جھگڑا ہو - دشمن غالب -

تلا
یہ ماہ گذشتہ سے بہت اچھا ہے پچھلے ماہ کی تنگدستی و حراست میں راحت ملے ہاں استری کو کوئی روگ ہو سفر سے فائدہ کی صورت ہے اس ماہ کی ۱۳-۲۳ تاریخیں نحس ہیں دوستوں سے ملاپ دشمن مغلوب -

برشچک
آمدن کم خرچ زیادہ - جسم میں تکلیف ہو کاروبار مدہم ہو گا مگر آمدن کے لحاظ سے یہ ماہ گذشتہ سے اچھا ہے کسی دوست کی ملاقات سے خوشی ہوگی ۱۳-۱۴-۲۳-۲۹ تاریخ ناقص ہیں دشمن مغلوب امید بر آویں صحت جسمانی اچھی عورت کا سکھ -

دھن
کاروبار عمدہ رہے آمدن و خرچ برابر استری کا سکھ ترقی روزگار رہے کوئی بدنی تکلیف ہو خرچ ہو درد سر کی خفیف سی شکایت - دوستوں سے ملاپ - دشمن مغلوب - خوشخبری ملے ۳ تاریخ ناقص خیال رہے -

مکر
یہ ماہ گذشتہ کے برابر ہے پچھلے ماہ کی تنگدستی و حراست میں راحت ملے ہاں استری کو کوئی روگ ہو جو امید جلد رفع ہو سکیگی ہے سفر سے فائدہ کی صورت ہے اس ماہ کی ۱۱-۱۳ تاریخ نحس ہیں دوستوں سے ملاپ ہو - دشمن غالب ہوں -

کنبھ
کنبھ راس والے کو یہ ماہ اچھا ہے مگر رشتہ داروں سے دنگہ فساد ضرور ہووے جسمیں دہن کا خرچ ہو -

مین
آمدن کم خرچ زیادہ طبیعت پریشان بلکہ ناقص صحت کی علامت ہے - دوست دشمن ہوں دشمن غالب - ہر کام میں بگاڑ اور سفر ناکامیاب درپیش ہووے جس سے دہن کا خرچ ہو ۷-۱۱-۱۹-۲۴ تاریخ اچھی ہیں -

پیشین گوئی بابت ماہ ستمبر سنہ ۱۹۳۰ء

۱۶ ماہ حال کو آفتاب از برج اسد در برج سنبلہ بروز منگلوار بوقت ۲ بجکر ۲ منٹ شب داخل ہوگا بوقت بارات ۴۰ بکشترات ۵ ساتام ہو دری بچو ہچاندال جوگ ہی بکشتر نام رکشتی - مدھیہ رات بانچی راکششان ہنی - چال اتر میں نظر شمال مشرق میں - گرکرن - سواری ہاتھی - اپ سواری گدہا لکشمی کارک - پوشاک سرخ رنگ - دھنو رایدھ - لوہے کا برتن لئے - دودھ پیتی ہوئی - گوروچن کا تلک لیتی جاتی چنبیلی کا پھول لئے مکٹ کا زیور جوان عمر بیٹھی حالت میں سنکرانتی پردیش کریگی - اسوج بدی میں غلہ - گندم جو چنا - چاول - مونگ - ماش وغیرہ گراں ہوگا روئی - کپاس - السی - تل - تیل - گڑ - کھانڈ - گھی - نمک - ارزاں ہوگا - سرخ رنگ و سرخ رنگ کا کپڑا گراں ہوگا اون - سوت و ریشم ارزاں ہوگا - سونا - چاندی - لوہا - تانبا جست کانسی پیتل ارزاں ہوگا - لوہا - فولاد وغیرہ گراں ہوگا - ہاتھی - ہاتھی دانت و ہاتھی دانت کی چیزیں گراں ہونگی گھوڑا - گدھا - خچر گائے - بیل بھینس - اونٹ - بھیڑ - بکری - سواری کے جانور دودھ کے جانور گراں ہونگے - دودھ دہی گراں ہوگا - خوشبویات - مشک - عنبر - کستوری زعفران عطر گلاب - کیوڑہ چنبیلی وغیرہ گراں ہوگا - موتی - مونگا - لعل - سیپ - نیلم - پکھراج یاقوت - عقیق وغیرہ پتھر ارزاں ہوں گے -

حالات ارضی و سماوی بابت ماہ ستمبر سنہ ۱۹۳۰ء

اسوج بدی اشٹمی منگلوار سورج کرک راس سے کنیا راس میں ۱۵ گھڑی ۶ پل پر پردیش کریگا - سنکرانتی ۱۵ مہورتی ہے - پر دشٹ پھل مدہم - ۳ تاریخ کو بدھ بکری ہوگا - ۶ تاریخ کو بدھ مغرب میں غروب ہوگا - ۸ تاریخ کو شنی مارگی ہوگا - ۲۲ تاریخ کو بدھ مشرق میں طلوع ہوگا - نیز اس ماہ میں یوگ بارش ہے ۶-۷-۱۵-۱۳-۱۴-۱۶-۲۲-۲۷ تاریخوں میں یوگ بارش ہے - مگر ۶-۱۳- ۲۷ تاریخ ہوا ضرور پورا ہوگا - نیز ۵ سوموار ۵ منگلوار ہیں - جن کا پھل ناقص ہے پرجا میں بیڑا ہوگی روگ زیادہ چلیگا - جس سے پرجا پر بھیہ ہوگا - نیز روگ بیڑا سے پشوؤں یعنی جانوروں میں بھی ہووے - مگر سورج کی اماوس سومتی یعنی سوماوری اور کنیا کی سنکرانتی میں اترا پھالگنی نکشتر آتی ہے جس سے گیا جا تم یعنی سرب پنڈدان و سرادھ گیا جی میں کرانے چاہئیں ہے - اسکے علاوہ کورکشیتر میں پھلگی بن یعنی موضع پھول یعنی پھلگو میں بھی پنڈدان و سرادھ کرم کرانا گیا جا تم کے برابر ہے اور پھلگو کی سنگیا تر ہی کا دیتری گیا ماتی ہے اس سے پھلگو کا میلہ زور سے ہوگا اور وہاں بیدا ان ہی ہونے سے ماکالی یعنی کرپا سے پرجا کے روگ کشٹ دور کرینگے - یہ پربہ بارہ سال میں آیا ہے اس لئے جنتا کو اس سے لابھ اٹھانا چاہئے موقعہ اچھا ہے ستہ نمبر ۱-۵-۹ ہیں - ۲۱-۵۱-۴۱-۳۵-۶۵-۸۵-۹۱-۴۹-۹۹- ہیں -

۳۱ یوم	انگریزی اکتوبر سنہ ۱۹۳۰ عیسوی	جمادی الاول ۱۳۴۹ھ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	اسوج شدی سمت ۱۹۸۷ بکرمی: تتھ	گھڑی پل	قیام نکشتر: نکشتر	گھڑی پل	قیام یوگ: یوگ	گھڑی پل	داخلہ چندرماں: راس	گھڑی پل	اوقات آفتاب: طلوع گھنٹہ منٹ	غروب گھنٹہ منٹ	قیام بھدرا: شروع گھڑی پل	اخیر گھڑی پل	دنمان گھڑی پل	[illegible]	یادداشت
بدھ وار	۱	۸	۹	۹	۱۶	نومی	۱۶ ۲۷	اترا کھاڑ	۵۵ ۳	اتی گنڈ	۳۳ ۵۹	مکر	۵ ۵۸	۶ ۷	۵ ۵۳			۲۹ ۲۵	۲	بلیدان
گوروار	۲	۹	۱۰	۱۰	۱۷	دسمی	۳۰ ۵۴	سرون	۶۰ ۰	سوکرمان	۳۴ ۱۹	〃	〃	۸	۵۲	۵۳ ۲۰		۲۰		بجیا دسمی یعنی دسہرہ
شکروار	۳	۱۰	۱۱	۱۱	۱۸	اکادشی	۲۵ ۴۶	سرون	۵۶	دھرت	۳۴ ۳۶	کنبھ	۳۴ ۱۰	۹	۵۱		۲۵ ۴۶	۱۵		پاپانکشا اکادشی برت
شنی وار	۴	۱۱	۱۲	۱۲	۱۹	دوادشی	۳۰ ۴۶	دھنشٹا	۲۱	شول	۳۷ ۳	〃	〃	۱۰	۵۰			۱۰		
اتوار	۵	۱۲	۱۳	۱۳	۲۰	تردوشی	۳۵ ۴۱	شت بھکھا	۱۳ ۵۰	گنڈ	۳۸ ۵۵	〃	〃	۱۱	۴۹			۵		
سوموار	۶	۱۳	۱۴	۱۴	۲۱	چودش	۴۰ ۱	پوربا بھادرپد	۱۹ ۳۸	بردھ	۳۸ ۵۹	مین	۳ ۱۰	۱۲	۴۸	۴۰ ۱		۲۹ ۰		
منگلوار	۷	۱۴	۱۵	۱۵	۲۲	پورنماشی	۴۳ ۲۵	اترا بھادرپد	۲۵ ۰	دھرو	۴۱ ۸	〃	〃	۱۳	۴۷		۱۱ ۴۳	۲۸ ۵۵	[illegible]	شرد پونم کارتک سنان شروع
بدھ وار	۸	۱۵	۱۶	۱	۲۳	کاتک بدی اکم	۴۵ ۴۵	ریوتی	۲۹ ۲	بیاگھات	۳۸ ۲۳	میکھ	۲۹ ۲	۱۴	۴۶			۵۰		
گوروار	۹	۱۶	۱۷	۲	۲۴	دوج	۴۶ ۵۷	اسونی	۳۲ ۶	ہرکھن	۳۶ ۴۲	〃	〃	۱۵	۴۵			۴۵		
شکروار	۱۰	۱۷	۱۸	۳	۲۵	تیج	۴۶ ۴۳	بھرنی	۳۳ ۲۱	بجر	۳۳ ۵۷	برکھ	۴۸ ۳۲	۱۶	۴۴	۱۶ ۵	۴۶ ۴۳	۴۰		
شنی وار	۱۱	۱۸	۱۹	۴	۲۶	چوتھ	۴۵ ۱۴	کرتکا	۳۴ ۷	سدھی	۳۰ ۲۶	〃	〃	۱۷	۴۳		✓	۳۵		چوتھ برت
اتوار	۱۲	۱۹	۲۰	۵	۲۷	پنچمی	۴۲ ۳۳	روہنی	۳۳ ۲۱	بینی پات	۲۵ ۳۳	〃	〃	۱۸	۴۲			۳۰		
سوموار	۱۳	۲۰	۲۱	۶	۲۸	چھٹ	۳۸ ۵۶	مرگسر	۳۱ ۳۵	بریان	۲۰ ۲	متھن	۲ ۲۸	۱۹	۴۱	۳۸ ۵۶		۲۵		
منگلوار	۱۴	۲۱	۲۲	۷	۲۹	ستمی	۳۵ ۳۳	آردرا	۲۸ ۵۶	پرگھ	۱۳ ۴۵	〃	〃	۲۰	۴۰		۶ ۴۴	۲۰		
بدھ وار	۱۵	۲۲	۲۳	۸	۳۰	اشٹمی	۲۹ ۲۱	پونربس	۲۶ ۳۴	شو	۶ ۵۱	کرک	۱۱ ۴۸	۲۱	۳۹			۱۵		
گوروار	۱۶	۲۳	۲۴	۹	۳۱	نومی	۲۳ ۴۵	پکھ	۲۲ ۵۲	سدھ ساددھ	۵۶ ۵۳ ۲۰	〃	〃	۲۲	۳۸	۵۰ ۴۹		۱۰		
شکروار	۱۷	۲۴	۲۵	۱۰	کاتک	دسمی	۱۷ ۵۳	اشلیکھا	۱۷ ۴۹	شبھ	۴۴ ۱۱	سنگھ	۱۷ ۴۹	۲۳	۳۷		۱۷ ۵۳	۵		تلا سنکرانت، ا گھڑی ۵ پل
شنی وار	۱۸	۲۵	۲۶	۱۱	۲	اکادشی	۱۱ ۵۶	مگھا	۱۳ ۴۹	شکل	۳۶ ۲۴	〃	〃	۲۴	۳۶			۲۸ ۰		
اتوار	۱۹	۲۶	۲۷	۱۲	۳	دوادشی	۵ ۵۷	پوربا پھاگنی	۹ ۴۴	برہم	۲۸ ۴۸	کنیا	۲۳ ۴۸	۲۵	۳۵			۲۷ ۵۵		
سوموار	۲۰	۲۷	۲۸	۱۴	۴	تردوشی چودش	۳ ۵۵ ۱۵	اترا پھاگنی	۵ ۵۹	اندر	۲۱ ۲۴	〃	〃	۲۶	۳۴	۰ ۳	۲۷ ۳۹	۲۷ ۵۰		روپ چودش
منگلوار	۲۱	۲۸	۲۹	۳۰	۵	اماوس	۵۰ ۵۰	ہست	۲ ۴۵	بیدھرت	۱۴ ۳۱	تلا	۳۱ ۲۷	۲۷	۳۳			۴۵		مہالکشمی پوجن۔ دیپ مالا دیوالی
بدھ وار	۲۲	۲۹	۳۰	۱	۶	کاتک شدی اکم	۴۷ ۹	چترا سواتی	۱۰ ۵۷	بشکنبھ	۱۰ ۱۳	〃	〃	۲۸	۳۲			۴۰		بیوپار سمت ۱۹۸۷ و سمت ۲۴۵۷ مہابیر جین شروع
گوروار	۲۳	۳۰	۳۱	۲	۷	دوج	۴۴ ۴۰	بشاکھا	۵۷ ۴۸	پریتی آیوشمان	۹ ۵۸	برشچک	۴۲ ۱۷	۲۹	۳۱			۳۵	نیا چاند	بھیا دوج
شکروار	۲۴	جمادی الآخر	عقرب	۳	۸	تیج	۴۳ ۲۸	انورادھا	۵۸ ۱۷	سوبھاگیہ	۵۴ ۱۴	〃	〃	۳۰	۳۰			۳۰		
شنی وار	۲۵	۲	۲	۴	۹	چوتھ	۴۳ ۳۰	جیشٹا	۶۰ ۰	شوبھن	۵۱ ۲۵	〃	〃	۳۱	۲۹	۱۳ ۲۹	۴۳ ۳	۲۵		
اتوار	۲۶	۳	۳	۵	۱۰	پنچمی	۴۴ ۴۴	جیشٹا	۵۶	اتی گنڈ	۴۹ ۳۹	دھن	۵۶	۳۲	۲۸		۳	۲۰		سوبھاگیہ پنچمی
سوموار	۲۷	۴	۴	۶	۱۱	چھٹ	۴۷ ۷	مول	۳ ۳	سوکرمان	۴۸ ۴۸	〃	〃	۳۳	۲۷			۱۵		
منگلوار	۲۸	۵	۵	۷	۱۲	ستمی	۵۰ ۵۰	پوربا کھاڑ	۶ ۱۹	دھرت	۴۹ ۱۱	مکر	۴۳ ۳۸	۳۴	۲۶	۵۰ ۵۰	۴	۱۰		
بدھ وار	۲۹	۶	۶	۸	۱۳	اشٹمی	۵۵ ۱۷	اترا کھاڑ	۱۲ ۳۴	شول	۴۹ ۳۵	〃	〃	۳۵	۲۵		۲۱ ۳	۵		گوپا اشٹمی
گوروار	۳۰	۷	۷	۹	۱۴	نومی	۶۰ ۰	سرون	۱۸ ۲۹	گنڈ	۵۰ ۴۰	کنبھ	۵۱ ۴۰	۳۶	۲۴			۲۷ ۰		
شکروار	۳۱	۸	۸	۱۰	۱۵	نومی	۱ ۳۰	دھنشٹا	۲۴ ۵۱	بردھ	۵۲ ۳	〃	〃	〃	〃			۲۷	[illegible]	تلسی یاترا

تاریخ	
۱	[illegible]
۲	[illegible]
۳	[illegible]
۴	[illegible]
۵	[illegible]
۶	[illegible]
۷	[illegible]
۸	[illegible]
۹	[illegible]
۱۰	[illegible]
۱۱	[illegible]
۱۲	[illegible]
۱۳	[illegible]
۱۴	[illegible]
۱۵	[illegible]
۱۶	[illegible]
۱۷	سنکرانت [illegible]
۱۸	[illegible]
۱۹	[illegible]
۲۰	[illegible]
۲۱	[illegible]
۲۲	[illegible]
۲۳	[illegible]
۲۴	[illegible]
۲۵	[illegible]
۲۶	[illegible]
۲۷	[illegible]
۲۸	[illegible]
۲۹	[illegible]
۳۰	[illegible]
۳۱	[illegible]

لگن اسوج سُدی ۱۳ سمت ۱۹۸۷ ۲۲/۲۵

لگن کارتک بدی دوادشی سمت ۱۹۸۷ ۲۲/۲۵



قیام سیارگان بابت لگن ۱　　قیام سیارگان بابت لگن ۲

سیارہ																
راس	٦	٣	٦	٣	٨	٩	١	٤	٧	٤	٦	٣	٨	٩	١	٧
انش	١٨	٢٨	٢	٢٧	٥	١١	١	١	٢	٥	١٩	٢٨	٧	١٢	٠	٠
کلا	١٠	٥٢	٦	١٧	٣٩	٤٤	٣٣	٢٣	٣	٣١	٢٢	٣٤	٤٨	٢٤	٣٨	٣٨
بکلا	٨	٠	٣٧	٤٨	٢٨	٥٨	١٢	١٢	٢٢	٨	٦	٢٢	٢٤	٤٤	٤٢	٤٢

تاثیرات وثمرہ منازل فلکی بر اشرف المخلوقات ارضی

میکھ
آمدن کم خرچ زیادہ۔ دل متفکر خیالات پُر تشویش۔ کسی کام کی طرف توجہ راغب نہ ہو بلکہ زیادہ سفر میں گذرے۔ دوست آشنا منحرف ہوں۔ دشمن غالب ہوں۔ مگر ۱۵۔۲۱ تاریخ اچھی ہیں۔

برکھ
آمدن زیادہ خرچ کم مگر کام درست ہوں سفر کامیابی سے انجام ہو۔ دوست و آشنا سے ملاپ۔ ہر کام میں کامیابی۔ بلکہ کوئی اچھی خبر سنائی دے۔

متھن
بگڑے کام کچھ درست ہوں عزیزوں اور دوستوں کا قرب حاصل ہو سفر کرنا پڑے جو کہ آئندہ فائدہ کا موجب ہو روزگار میں نمایاں ترقی ہو مگر اس ماہ کی ۷۔۱۲۔۲۷ تاریخ ٹھیک نہیں ۱۷۔۱۹۔ آمدن و خرچ برابر ہوں۔

کرک
یہ ماہ اچھا گذرے۔ آمدنی بھی اچھی رہے کاروبار میں ترقی نصیب ہو کسی سفر سے دولت و شہرت ملے۔ دل عیش و عشرت کی طرف راغب ہو بلغم وکھانسی کی کچھ شکایت ہو عورت محبت کرے تاریخ ۲۱۔۲۲۔۲۳۔۲۶۔ منحوس ہیں کچھ نقصان ہو۔

سنگھ
آمدن کم خرچ زیادہ بگڑے کام راس نہ آویں مگر کسی شخص سے روپیہ کا نقصان نہ ہو جسم میں چھوڑ دگ پر بیٹھا ہو۔ اس ماہ کی ۳۔۶۔۹۔۱۳۔۱۷۔۲۱۔ تاریخیں اچھی ہیں کوئی صورت اچھی ہوگی۔

کنیا
اس ماہ میں کئی طرح کے حالات درپیش ہوں اور اسمیں سے چند میں کامیابی ہو۔ سفر کے خیالات درپیش ہوں۔ انجام بخیر ہو کہیں دشمن خاک ہوا نیوں سے ناچاقی ہو یہ تاریخیں خراب ہیں ۳۔۷۔۹۔۱۳۔۱۹۔۲۱۔۲۷۔ آمدن کم خرچ زیادہ

تلا
راج دربار سے ہانی۔ دھن کا خرچ۔ بلندی مراتب کے لئے یہ ماہ اچھا رہے دل متفکر رہے رشتہ داروں سے ملاپ۔ سیاہ چیزوں سے فائدہ ہو۔ اس ماہ کی ۱۔۷۔۱۵ تاریخیں ناقص ہیں

برشچک
اس ماہ میں کئی طرح کے معاملات درپیش ہوں اور ان میں سے چند میں کامیابی ہو سفر کے خیالات درپیش ہوں جس سے کافائدہ نہ ہو اولاد کا فکر رہے کہیں دشمن خاک ہوا نیوں سے ناچاقی ہو یہ تاریخیں خراب ہیں ۴۔۵۔۱۱۔۱۲۔۱۹۔۲۰۔۲۴

دھن
آمدن و خرچ اوسطاً ہو۔ مگر صحت ناقص طبیعت منتشر دوست رشتہ داروں سے ملاپ ہو۔ یہ ماہ اوسط درجہ کا ہے نہ خراب اچھا لیکن کسی چیز کا ضرر ہونا چاہیے جو غالباً ۱۹ تاریخ کو ہو۔

مکر
طبیعت کچھ ناقص رہے اور دل کو از حد فکر رہے ہر وقت فکر و سوچ ترقی کاروبار دامنگیر رہے۔ لابھ سے زیادہ خرچ رہے ۸۔ ۱۲۔۱۷۔۲۶۔ تاریخ بھی خراب ہیں۔ دھن کا خرچ۔

کنبھ
آمدن و خرچ برابر اتر کا سفر آوے جو کہ بہت حد تک فائدہ مند ثابت ہو۔ اس مہینے میں کوئی زیادہ آمدن نہیں ہو۔ اس ماہ کی ۹۔۱۸۔۲۳۔۲۶ تاریخ ناقص ہیں صحت جسمانی خاصی درست سے فائدہ۔ دشمن مغلوب ہوں۔

مین
آمدن و خرچ برابر رہے اولاد کا سکھ لیکن دریا میں جان ہو۔ زر و مال کا فائدہ ہو۔ چوپایہ اور آگ سے خوف ہو۔ کاروبار میں ترقی۔ چوپائے سے کم فائدہ ہو۔ ۹۔۱۳۔۲۲ تاریخ ناقص۔ دشمن مغلوب بگڑے کام درست ہو جاویں۔

پیشین گوئی بابت ماہِ اکتوبر سنہ ۱۹۳۰ع

۱۷ ماہِ حال کو آفتاب از برج سنبلہ در برج میزان بروز جمعہ بوقت ۱ بجکر ۱ منٹ دوپہر داخل ہوگا بروقت بارات ۴ نکشترات ۴۔ بارنام سر ابشو د جانثار منکیی۔ نکشتر نام رکشتی بدھیان بیاہنی۔ دو جان ہینتی۔ جال مغرب میں۔ نظر شمال مغرب۔ بنسی کرن۔ سواری گھوڑا۔ روپ سواری بشیر۔ شبھو کارک۔ پوشاک سیاہ رنگ۔ کنتا بدھ۔ پتے کا دونا لیے ہوئے۔ موٹے اناج کا بھوجن ہڑتال کا تلک۔ براہمن جاتی۔ دوب ہاتھ میں لئے ہوئے۔ گنیا کوشن بوڑھی عمر بیٹھی حالت میں سنکرانتی پرویش کریگا۔ اس لئے اس ماہ میں روئی۔ کپاس۔ السی۔ گھی۔ تیل۔ ارنڈی۔ کپڑا۔ لاکھ۔ مونگ پھلی وغیرہ گراں ہوں گی سیزرس کس رگڑ۔ کھانڈ۔ گھی۔ نیل۔ شہد۔ دودھ۔ چوپائے جانور گائے۔ بیل بھینس اونٹ گھوڑا گدھا۔ خچر زیادہ گراں ہونگے۔ پیتل لاکھ چاندی وغیرہ زیادہ گراں ہوں گی غلہ۔ گندم جو چنا۔ چاول۔ جوار۔ باجرہ۔ مونگ۔ اُڑد مندا ہوگا۔ السی زیادہ مندی ہوگی۔ روئی کپاس۔ سوت۔ کپڑا شہری میں مندا ہوگا۔ لوہا۔ سونا۔ تانبا۔ کانسی۔ پیتل وغیرہ دھاتیں ارزاں ہوں گی۔ خوشبوات۔ مشک۔ زعفران۔ عنبر۔ عطر۔ گلاب وغیرہ ارزاں ہونگی موتی۔ مونگا۔ لعل وغیرہ معدنیات ارزاں ہوں گی۔

حالات ارضی وسماوی بابت ماہ اکتوبر سنہ ۱۹۳۰ع

کارتک بدی دسمی بروز شکروار سورج کنیا راس سے تلا راس میں، ۱۷ گھڑی ۵ پل پر پرویش کریگا۔ سنکرانت ۱۵ مہورت ہے بدھ مشرق میں غروب ہوگا۔ شکر ۲۷ تاریخ کو بکری ہوگا باقی سب گراہ مارگی ہیں۔ کیونکہ اس ماہ میں شکر بکری ہوا ہے اس لئے عورتوں کو اس ماہ میں رنگ بیرڑا زیادہ ہوگی یا درد کہ تکلیف زیادہ ہوگی صرف عورتوں کو اور براہمن جاتی دکھی ہوگی۔ اس ماہ میں یوگ بارش ۹۔۱۰۔۱۷۔۱۸۔۲۳۔۲۷۔ تاریخوں میں ہے جن میں سے ۱۰۔۱۸۔۲۳ تاریخوں میں ضرور پورا کرے۔ بارش ضرور ہوگی۔ مگر کم۔ نیز منگل کرک کا ہوا کر جو کچھ اثر دکھائیگا مالک اپنی مہربانی اور کرپا سے آنند کریں۔ مطلع عموماً صاف ہوگا۔ راتیں کچھ سرد ہونگی۔ ہوا سرد اور زور دار چلیں گی جو بارش کے لانے والی ہوں گی۔ نیز بادل چال اس ماہ میں زیادہ ہوگی۔ سمہ ساہ نہ اور خوشگوار ہوگا۔ مگر مستورات کے لئے ناقص ہے۔ انکو ہر طرح کی احتیاط لازم ہے۔ ۵ مدہوا ۵ گرو وار ۵ شکروار ہیں جن میں سے دو بار اچھے اور ایکبار ناقص ہی پرماتما آنند کریگا۔ بیوپار سمت ۱۹۸۷ کارتک سدی ایکم سے شروع ہوگا جو کہ دن چڑھا ہے۔ دھن مالیہ میں اچھا رہیگا۔ بیوپاری لوگ خوشحال ہوں گے۔ رشٹ نمبر ۲۔ ۱۔۷۔ ہیں۔ ۱۳۔۳۳۔۴۳۔۴۶۔۵۷۔۷۷۔۷۱۔۸۱۔۹۱ ہیں۔

ایام	نومبر ۱۹۳۰ عیسوی	جمادی الثانی ۱۳۴۹ ہجری	عقرب سمت ۱۸۵۲ شاکا	کاتک ۱۳۳۸ فصلی	۱۹۸۷ بکرمی	کاتک شدی سمت ۱۹۸۷ بکرمی تتھ	گھڑی پل	قیام نکشتر نکشتر	گھڑی پل	قیام یوگ یوگ	گھڑی پل	داخلہ چندرماں راس	گھڑی پل	اوقات آفتاب طلوع گھنٹہ منٹ	غروب گھنٹہ منٹ	قیام بھدرا شروع گھڑی پل	اخیر گھڑی پل	دنمان گھڑی پل	چاند	تہوار وغیرہ
شنی وار	۱	۹	۹	۱۱	۱۶	دسمی	۵/۲۱	بچھا ست	۳۱/۱۵	بھرو	۵۳/۱۷	کنبھ	۰	۶/۳۷	۵/۲۳	۳۷/۵۲		۲۶/۵۵		
اتوار	۲	۱۰	۱۰	۱۱	۱۷	اکادشی	۱۰/۲۴	پوربا بھادرپد	۳۷/۱۳	بیاگھات	۵۴/۱۰	مین	۴۰/۴۳	״	״		۱۰/۲۴	״		دیواٹھان
سوموار	۳	۱۱	۱۱	۱۲	۱۸	دوادشی	۱۴/۴۵	اترا بھادرپد	۴۲/۳۹	ہرکھن	۵۴/۲۵	״	״	۳۸	۲۲			۲۶/۵۰		
منگلوار	۴	۱۲	۱۲	۱۳	۱۹	تردوشی	۱۸/۱۴	ریوتی	۴۷/۱	بجر	۵۳/۵۷	میکھ	۴۷/۱	״	״			״		
بدھ وار	۵	۱۳	۱۳	۱۴	۲۰	چودش	۲۰/۴۷	اسونی	۵۰/۱۲	سدھی	۵۲/۳۶	״	״	۳۹	۲۱	۲۰/۳۷	۵۱/۱۱	۴۵		
گوروار	۶	۱۴	۱۴	۱۵	۲۱	پورنماشی	۲۱/۴۶	بھرنی	۵۲/۹	بیتی پات	۵۰/۲	״	״	״	״			״		
شکروار	۷	۱۵	۱۵	۱	۲۲	منگسر بدی ایکم	۲۱/۳۵	کرتکا	۵۲/۵۰	بریان	۴۶/۳۶	برکھ	۷/۲۱	۴۰	۲۰			۴۰		
شنی وار	۸	۱۶	۱۶	۲	۲۳	دوج	۲۰/۵	روہنی	۵۲/۳۰	پرگھ	۴۲/۷	״	״	״	״	۴۸/۴۶		״		
اتوار	۹	۱۷	۱۷	۳	۲۴	تیج	۱۷/۲۷	مرگسر	۵۰/۴۹	شو	۳۶/۴۲	متھن	۲۱/۰۹	۴۱	۱۹		۱۷/۲۷	۳۵		چوتھ برت
سوموار	۱۰	۱۸	۱۸	۴	۲۵	چوتھ	۱۳/۵۳	آردرا	۴۸/۲۸	سدھ	۳۰/۳۴	״	״	״	״			״		
منگلوار	۱۱	۱۹	۱۹	۵	۲۶	پنچمی	۹/۲۳	پورنبس	۴۴/۲۸	سادھ	۲۳/۴۷	کرک	۳۰/۲۸	۴۲	۱۸			۳۰		
بدھ وار	۱۲	۲۰	۲۰	۶	۲۷	چھٹھ ستمی	۴/۱۴ ۵۳/۳	پکھ	۴۱/۳۶	شبھ	۱۶/۳۱	״	״	״	״	۴/۱۴	۳۱/۲۸	״		
گوروار	۱۳	۲۱	۲۱	۸	۲۸	اشٹمی	۵۲/۵۸	اشلیکھا	۳۷/۳۴	شکل	۸/۴۴	سنگھ	۳۷/۳۴	۴۳	۱۷			۲۵		
شکروار	۱۴	۲۲	۲۲	۹	۲۹	نومی	۴۷/۶	مگھا	۳۳/۳۲	برہم اندر	۱/۵۸	״	״	״	״			״		
شنی وار	۱۵	۲۳	۲۳	۱۰	۳۰	دسمی	۴۱/۱۴	پوربا پھلگنی	۲۹/۲۲	بیدہرت	۴۵/۲۹	کنیا	۴۳/۲۴	۴۴	۱۶	۱۳/۱۰	۴۱/۱۴	۲۰		
اتوار	۱۶	۲۴	۲۴	۱۱	منگسر	اکادشی	۳۵/۴۱	اترا پھلگنی	۲۵/۲۸	بشکنبھ	۳۷/۵۸	״	״	״	״			״		برشچک سنکرانت ۱۰ گھڑی ۲۳ پل اونتی اکادشی برت
سوموار	۱۷	۲۵	۲۵	۱۲	۲	دوادشی	۳۰/۴۸	ہست	۲۲/۱۲	پریتی	۳۰/۴۷	تلا	۵۰/۴۹	۴۵	۱۵			۱۵		
منگلوار	۱۸	۲۶	۲۶	۱۳	۳	تردوشی	۲۶/۲۵	چترا	۱۹/۲۶	آیوشمان	۲۴/۵	״	״	״	״	۲۶/۲۵	۵۴/۴۴	״		
بدھ وار	۱۹	۲۷	۲۷	۱۴	۴	چودش	۵۳/۳	سواتی	۱۷/۳۱	سوبھاگیہ	۱۸/۲۲	״	״	۴۶	۱۴			۱۰		
گوروار	۲۰	۲۸	۲۸	۳۰	۵	اماوس	۲۰/۴۲	بشاکھا	۱۴/۳۰	شوبھن	۱۳/۲۲	برشچک	۱/۴۶	״	״			״		
شکروار	۲۱	۲۹	۲۹	۱	۶	منگسر سدی ایکم	۱۹/۲۹	انورادھا	۱۶/۵۵	اتی گنڈ	۹/۱۴	״	״	۴۷	۱۳			۵	نیا چاند	
شنی وار	۲۲	رجب	۳۰	۲	۷	دوج	۱۹/۴۰	جیشٹھا	۱۸/۲۶	سوکرما	۶/۱۶	دھن	۱۸/۲۶	״	״			״		
اتوار	۲۳	۲	قوس	۳	۸	تیج	۲۰/۵۲	مول	۲۱/۸	دہرت	۳/۵۵	״	״	۴۸	۱۲	۵۳/۱۶		۲۶/۰		
سوموار	۲۴	۳	۲	۴	۹	چوتھ	۲۳/۴۱	پوربا کھاڑ	۲۵/۵	شول	۲/۳۸	مکر	۴۱/۲۱	״	״		۲۳/۴۱	״		
منگلوار	۲۵	۴	۳	۵	۱۰	پنچمی	۲۷/۳۰	اترا کھاڑ	۳۰/۱۰	گنڈ	۲/۲۵	״	״	۴۹	۱۱			۲۵/۵۵		
بدھ وار	۲۶	۵	۴	۶	۱۱	چھٹھ	۳۲/۶	شرون	۳۶/۳	بردھ	۲/۵۶	״	״	״	״			״		
گوروار	۲۷	۶	۵	۷	۱۲	ستمی	۳۶/۵۹	دھنشٹا	۴۲/۱۸	دھرو	۳/۵۵	کنبھ	۹/۴۰	۵۰	۱۰	۳۶/۵۹		۲۵/۵۰		
شکروار	۲۸	۷	۶	۸	۱۳	اشٹمی	۴۲/۱۹	بچھا ست	۴۸/۳۷	بیاگھات	۵/۹	״	״	״	״		۹/۳۹	״		
شنی وار	۲۹	۸	۷	۹	۱۴	نومی	۴۷/۲۰	پوربا بھادرپد	۵۴/۵۱	ہرکھن	۶/۲۳	مین	۳۸/۱۱	۵۱	۹			۲۵/۴۵		
اتوار	۳۰	۹	۸	۱۰	۱۵	دسمی	۵۱/۵۳	اترا بھادرپد	۶۰/۰	بجر	۷/۲۹	״	״	״	״			۲۵/۴۵		

۱۰ بجکر ۵ منٹ پر

آفتاب



لگن ۱ کارتک شدی اکادشی سمت ۱۹۸۸ ۲۲	لگن ۲ منگسر بدی اکادشی سمت ۱۹۸۸ ۲۱
کیتو ۶، بدھ، سورج ۷، شکر ۸، شنی ۹، ۱۰، منگل ۴، ۵، گورو ۳، ۲، ۱، ۱۱ چندرمان، ۱۲ راہو	شنی ۹، ۱۰، شکر ۸، سورج بدھ، ۷، کیتو چندرمان ۶، ۱۱، ۵، منگل ۴، گورو ۳، ۲، ۱، ۱۲ راہو

قیام سیارگان بابتہ لگن ۱ — قیام سیارگان بابتہ لگن ۲

سیارہ	سورج	[illegible]	بدھ	[illegible]	[illegible]	شنی	راہو	کیتو	سورج	[illegible]	بدھ	[illegible]	[illegible]	شنی	راہو	کیتو
راس	۷	۴	۷	۳	۸	۹	۱۲	۶	۸	۴	۸	۳	۸	۹	۱۲	۶
انش	۱۶	۱۱	۱۱	۲۹	۹	۱۳	۲۹	۲۹	۰	۱۶	۶	۲۹	۳	۱۳	۲۹	۲۹
کلا	۳	۵۵	۵۹	۱۴	۱۸	۱۸	۵۴	۵۴	۱۰	۳۳	۲۵	۲۳	۱	۲۸	۹	۹
بکلا	۴۴	۳۸	۳۷	۲۹	۳۴	۵۶	۱۰	۱۰	۴۴	۳	۲۸	۵	۶	۳	۱۹	۱۹

تاثیرات وثمرہ منازل فلکی برا شرف المخلوقات ارضی

میکھ
آمدنی زیادہ خرچ کم کاروبار کی زیادتی۔ اخراجات کی دلکو فکر وتشویش۔ اولاد عورت کو تکلیف منہ میں درد کی شکایت ہو۔ اس ماہ کی ۹-۶-۲۹ تاریخیں ناقص سمجھو۔ دوست سے ملاپ دشمن مغلوب۔

برکھ
آمدنی وخرچ برابر بلکہ اچھی بچت نہ ہووے دوست آشنا لالچ کریں اور ان سے فائدہ نہ ہو صحت جسمانی خاصی ہر اور ہر طرح کا لابھ ہووے مگر ۹-۱۱-۱۹-۲۳ تاریخیں ناقص ہیں۔

متھن
تمام بگڑے کام سپھل ہوں امیدیں برآویں۔ رشتہ داروں سے خاص خاص کام نکلیں عورت سے سکھ ہو اولاد سے تسکین حاصل ہو یہ ماہ اس راس والے کو خوب بخت آور ہے۔ اس ماہ کی ۲۱ تاریخ کو ضرور کوئی کام سدھ ہو۔

کرک
آمدن وخرچ برابر رہے نئے کام کرے تو اچھے ہوں دوست کی ملاقات ہو۔ آمدن کے لئے بیاہ بدستور سابقہ ہی اخراجات کی ذرا زیادتی ہو صحت جسمانی ناقص ہو ۱۳-۱۷-۲۲ تاریخ ناقص ہیں۔ دشمن مغلوب لونہ گاہ اوسطاً۔

سنگھ
آمدن وخرچ برابر مگر کاروبار میں نمایاں ترقی ہو۔ طبیعت میں گھبراہٹ محسوس ہو شکم میں کسی قسم کا روگ ہوجائے تو مضائقہ نہیں عورت خوشحال ہے۔ اس ماہ کی ۲۷-۹-۶-۳۰ تاریخ ٹھیک نہیں ہیں کوئی نقصان ہوگا۔

کنیا
رنج والم سب دور ہوں۔ ہر کسی کی بات اچھی معلوم ہو دوست آشناؤں سے ملاپ دشمن مغلوب مگر کوئی سفر درپیش ہو جس سے کامیابی کی امید بگڑے ہوئے کام درست ہوں اس راس والے بیوپاری کو کچھ نقصان ہو۔ ۱-۱۷-۲۱ تاریخ ناقص ہیں۔

تلا
کاروبار مدہم سا چلے دوستوں سے کچھ مدد ملے دشمن مغلوب ہوں جسم میں کچھ بے آرام رہے آنکھوں کی شکایت ہو اس ماہ کی ۷-۱۶-۲۰-۲۲-۲۴ تاریخ اچھی ہیں کچھ لابھ ہوگا۔

برشچک
تمام بگڑے کام سپھل ہوں۔ امیدیں برآویں رشتہ داروں سے خاص خاص کام نکلیں عورت سے سکھ ہو اولاد سے تسکین حاصل ہو یہ ماہ اس راس والے کو خوب بخت آور ہے اس ماہ میں ضرور کام سدھ ہووے۔

دھن
اس ماہ میں بگڑے کام درست ہوں اور صحت جسمانی اچھی۔ آمدنی زیادہ ماہ گذشتہ سے اچھا ہے۔ دشمن مغلوب طبیعت بشاش و خوشحال ہووے مگر ۵-۷-۹-۱۱-۱۳ تاریخ ناقص ہیں۔ سفر درپیش ہوگا۔

مکر
آمدن وخرچ برابر کاروبار مدہم چلے رشتہ داروں سے ملاپ۔ دوست آشناؤں سے فائدہ ہووے استری سے سکھ۔ دھن کا سفر سے لابھ ہووے دشمن مغلوب اور کوئی خبر اچھی ملے۔ مگر ۱۱-۱۲-۱۳-۱۷-۲۱ تاریخ ناقص ہیں دھیان رکھیں۔

کنبھ
مطابق راس مکر کے ہے۔ مگر اس راس والے کو کوئی فائدہ ادشیہ ہونا چاہیئے جو اس ماہ میں ضرور ہوگا۔ سفر سے فائدہ ہوگا۔ سفر کامیاب ہوگا۔

مین
مین راس والوں کو یہ ماہ اوسطاً ہی روزگار مدہم رہیگا سفر سے فائدہ ہوگا۔ استری کو تکلیف کا جھگڑا ہو اولاد کا سکھ ہو غلہ کے بیوپار سے فائدہ ہوگا۔ رشتہ داروں سے جھگڑا ہو کوئی مقدمہ کامیابی ہووے ۱۲-۲۲-۲۶ تاریخ ناقص ہیں

پیشین گوئی بابت ماہ نومبر سنہ ۱۹۳۱ء

۱۶ ماہ حالی کو آفتاب از برج میزان در برج عقرب بروز اتوار بوقت ۱۰ بجکر ۵ منٹ قبل دوپہر داخل ہوگا۔ پروشٹھ بارات ۳۔ نکشترات ۴۔ بار نام گھوڑا شودر ورن وچ سکھی نکشتر نام نندا پور باہن بیابنی چال مغرب میں۔ شمال مغرب میں نظر۔ بالو کرن سواری چینا۔ ادپ سواری گھوڑا۔ تجیہ کارک۔ پوشاک زرد رنگ۔ گدا ایدھ۔ چاندی کا برتن لئے۔ دودھ بھینٹی ہوئی۔ رولی کا تلک۔ بھوت جاتی۔ سفید پھول لئے۔ کپڑے کا زیور پہنے۔ کمار عمر بیٹھی حالت میں پرویش کرے گا۔ گندم۔ چنا۔ چاول۔ جو۔ جوار۔ باجرہ۔ مونگ۔ موٹھ ارڑد۔ غلہ کا بھاؤ مندا ہوگا۔ رس یعنی گڑ۔ کھانڈ۔ گھی۔ تیل۔ روئی کپاس شہد۔ دودھ۔ مندا ہوگا۔ نمک اور چاندی گراں ہوگی۔ سن سینی۔ گٹا۔ پاٹ مندا ہوگا السی۔ چیڑا۔ ارنڈ۔ مونگ پھلی کا بھاؤ مندا ہوگا۔ گھوڑا۔ گدھا۔ گراں ہوں۔

حالات ارضی وسماوی بابت ماہ نومبر سنہ ۱۹۳۱ء

منگسر بدی اکادشی بروز اتوار سورج کنیا راس سے برشچک راس میں۔ اگر ۳ گھڑی ۳۳ پل پر سنکرانتی پرویش کرے گا۔ ۴۵ مہورت ہے۔ شکر وگورو دیکری ہیں۔ بدھ ۱۹ تاریخ کو مشرق میں طلوع ہوگا۔ اس لئے اس ماہ میں گراہ یوگ اچھا ہے۔ راہو پرچھاہیں سکھ شانتی ہوگی مگر سردی زوروں پر ہوگی۔ ہوائیں پرزور اور سرد چلیں گی۔ یوگ بارش اس ماہ میں کم ہیں ہیں صرف ۱۹-۲۳ تاریخ میں یوگ بارش ہے جس میں کچھ بارش ہوجاوے تو انک کی کریا دینہ یوگ پورا کرے۔ نیز ۲۳ تاریخ کو شکر غروب مغرب میں ہوتا ہے جو صرف ۹ دن کے لئے ہے یکم دسمبر کو طلوع ہوگا۔ نیز منگسر بدی میں ایک تتھی ٹوٹی ہے جو پرجا میں بردھی کارک ہے سکھ شانتی دینے کا یوگ ہے۔ مطلع اس ماہ میں عموماً صاف ہوگا۔ مگر ہوا سرد و تیز ہوگی۔ نوجوانوں میں کچھ روگ پراپتی ہوگی۔ مگر سردی سے احتیاط لازم ہے۔ کیونکہ اہل ہنود کو سردی سے روگ پراپتی اور اہل اسلام گرمی سے روگ پراپتی ہوتی ہے۔ دونوں کو احتیاط لازم ہے۔ آیندہ ایشور مالک گرم اشیاء کا بھاؤ ضروری ہو۔ ۵ تتھی وارہ ۵ اتوار ہیں۔ گو دونوں بار ناقص ہیں۔ آیندہ ایشور مالک ہے۔ سٹہ نمبر ۵-۹-۳-۱۵-۴۵-۶۵-۲۹-۳۹-۴۹-۷۳-۸۳-۹۳ ہیں۔

۳۱ یوم	۱۹۳۱ عیسوی	ہجری				منگسر شدی سمت ۱۹۸۷ بکرمی		قیام نکشتر		قیام یوگ		دخلہ چندرما		اوقات آفتاب		قیام بھدرا		دن مان		تہوار و شبھ دن
						تتھ	گھڑی پل	نکشتر	گھڑی پل	یوگ	گھڑی پل	راس	گھڑی پل	طلوع گھنٹہ منٹ	غروب گھنٹہ منٹ	شروع گھڑی پل	اخیر گھڑی پل	گھڑی پل		
سوموار	۱	۱۰	۹	۱۱	۱۶	اکادشی	۵۵ ۱۲	اترا بھادرپد	۰ ۴۲	سدھی	۷ ۴۱	مین	۰	۶ ۵۱	۵ ۹	۲۳ ۳۲	۵۵ ۱۲	۲۵ ۴۵		موکشدا اکادشی برت
منگلوار	۲	۱۱	۱۰	۱۲	۱۷	دوادشی	۵۸ ۴۳	ریوتی	۴ ۵۹	ویتی پات	۷ ۳۳	میکھ	۴ ۵۹	〃	〃			〃		
بدھوار	۳	۱۲	۱۱	۱۳	۱۸	تروودشی	۵۸ ۳۹	اسونی	۸ ۳۲	وریان	۶ ۲۰	〃	〃	۵۲	۴			۴۰		
گوروار	۴	۱۳	۱۲	۱۴	۱۹	چودش	۵۸ ۳۰	بھرنی	۱۰ ۵۷	پرگھ	۴ ۵	برکھ	۲۶ ۱۰	〃	〃	۳۴ ۳۰		〃		
شکروار	۵	۱۴	۱۳	۱۵	۲۰	پورنماشی	۵۶ ۵۹	کرتکا	۱۱ ۴۸	شو سدھ	۵۲ ۵۷ ۴۶	〃	〃	〃	〃		۵۹ ۴۴	〃		دتا جینتی
سنی وار	۶	۱۵	۱۴	۱	۲۱	پروا بدی ایکم	۵۴ ۱۹	روہنی	۱۱ ۳۸	سادھ	۵۱ ۳۷	متھن	۴۸ ۵۸	۵۳	۷			۳۵		
اتوار	۷	۱۶	۱۵	۲	۲۲	دوج	۵۰ ۵۰	مرگسر	۱۰ ۱۷	شبھ	۴۶ ۴۴	〃	〃	〃	〃			〃		
سوموار	۸	۱۷	۱۶	۳	۲۳	تیج	۴۶ ۱۹	آردرا	۸ ۱	شکل	۳۸ ۳۹	کرک	۵۱ ۴۳	〃	〃	۱۸ ۳۴	۴۶ ۱۹	〃		
منگلوار	۹	۱۸	۱۷	۴	۲۴	چوتھ	۴۱ ۱۰	پونربس	۴ ۵۶	برہم	۳۲ ۰	〃	〃	۵۴	۶			۳۰		چوتھ برت
بدھوار	۱۰	۱۹	۱۸	۵	۲۵	پنچمی	۳۵ ۴۰	پکھ اشلیکھا	۰ ۵۹ ۵۵	اندر	۲۴ ۳۰	سنگھ	۵۵ ۶	〃	〃			〃		
گوروار	۱۱	۲۰	۱۹	۶	۲۶	چھٹھ	۲۹ ۵۸	مگھا	۵۳ ۲۲	بیدھرت	۱۶ ۴۱	〃	〃	〃	〃	۲۶ ۵۸	۵۷ ۱	〃		
شکروار	۱۲	۲۱	۲۰	۷	۲۷	سپتمی	۲۴ ۴	پوربا پھالگنی	۴۹ ۱۸	بشکنبھ	۸ ۴۵	〃	〃	۵۵	۵			۲۵		
سنی وار	۱۳	۲۲	۲۱	۸	۲۸	اشٹمی	۱۸ ۱۸	اترا پھالگنی	۴۵ ۲۴	پریتی آیوشمان	۱ ۵ ۵۴	کنیا	۳ ۲۰	〃	〃			〃		
اتوار	۱۴	۲۳	۲۲	۹	۲۹	نومی	۱۲ ۴۵	ہست	۴۲ ۱	سوبھاگیہ	۴۶ ۵	〃	〃	〃	〃	۴۰ ۲۳		〃		
سوموار	۱۵	۲۴	۲۳	۱۰	پوہ	دسمی	۷ ۵۷	چترا	۳۹ ۰	شوبھن	۳۶ ۱۵	تلا	۱۰ ۳۰	۵۶	۴		۷ ۵۷	۲۰		دہن سنکرانت ۴۰ گھڑی ۱۹ پل
منگلوار	۱۶	۲۵	۲۴	۱۲	۲	اکادشی	۳۰ ۴۱	سوانی	۳۰ ۰	اتی گنڈ	۳۳ ۷	〃	〃	〃	〃			〃		پھلا اکادشی برت
بدھوار	۱۷	۲۶	۲۵	۱۳	۳	دوادشی تروودشی	۵۴ ۵۶ ۵۲	بشاکھا	۳۶ ۹	سوکرمان	۲۷ ۵۷	برشچک	۲۱ ۱۷	〃	〃	۵۸ ۲۳		〃		
گوروار	۱۸	۲۷	۲۶	۱۴	۴	چودش	۵۰ ۵	انورادھا	۳۵ ۵۱	دھرت	۲۳ ۲۰	〃	〃	۵۷	۳		۲۷ ۵۱	۱۵		
شکروار	۱۹	۲۸	۲۷	۳۰	۵	ماوش	۴۶ ۴۴	جیشٹا	۰	شول	۱۹ ۵۱	دھن	۳۷ ۰	〃	〃			〃		
سنی وار	۲۰	۲۹	۲۸	۱	۶	پروا سدی ایکم	۶۰ ۰	مول	۳۹ ۲۴	گنڈ	۱۴ ۱۷	〃	〃	۵۸	۲			۱۰		
اتوار	۲۱	۳۱	۲۹	۲	۷	اکم	۳۴ ۰	پوربا کھاڑ	۴۳ ۱۱	بردھ	۱۵ ۴۵	〃	〃	〃	〃			〃	نیا چاند	
سوموار	۲۲	شعبان	جدی	۳	۸	دوج	۱ ۴۰	اترا کھاڑ	۴۷ ۵۸	دھرو	۱۵ ۱۱	مکر	۴۳	۵۹	۱			۵		
منگلوار	۲۳	۲	۲	۴	۹	تیج	۵ ۴۸	شرون	۵۳ ۴۳	بیاگھات	۱۵ ۱۱	〃	〃	۰	۵	۳۴ ۹		۲۵ ۰		
بدھوار	۲۴	۳	۳	۴	۱۰	چوتھ	۱۰ ۳۱	دھنیشٹا	۵۹ ۴	ہرکھن	۱۴ ۱۱	کنبھ	۲۶ ۵۰	〃	〃 ۱		۱۱ ۳۱	〃		
گوروار	۲۵	۴	۴	۵	۱۱	پنچمی	۱۵ ۵۰	شت بکھا	۶۰ ۰	بجر	۱۴ ۲۲	〃	〃	۶ ۵۹	۵ ۱			۲۵ ۵		
شکروار	۲۶	۵	۵	۶	۱۲	چھٹھ	۲۰ ۵۲	شت بکھا	۱ ۴۸	سدھی	۱۸ ۲۶	مین	۵۶ ۲		〃			〃		
سنی وار	۲۷	۶	۶	۷	۱۳	سپتمی	۲۵ ۵۴	پوربا بھادرپد	۱۲ ۳۵	ویتی پات	۱۹ ۳۶	〃	〃	۵۸	۲	۲۵ ۵۴	۵۸ ۱۰	۲۵ ۱۰		
اتوار	۲۸	۷	۷	۸	۱۴	اشٹمی	۳۰ ۲۲	اترا بھادرپد	۱۸ ۴	وریان	۲۰ ۱۰	〃	〃	〃	〃			〃		
سوموار	۲۹	۸	۸	۹	۱۵	نومی	۳۳ ۴۲	ریوتی	۲۳ ۱۱	پرگھ	۱۹ ۲۹	میکھ	۲۳ ۱۲	〃	〃			〃		
منگلوار	۳۰	۹	۹	۱۰	۱۶	دسمی	۳۶ ۰	اسونی	۲۷ ۰	شو	۱۹ ۱۵	〃	〃	۵۷	۳			۲۵ ۱۵		
بدھوار	۳۱	۱۰	۱۰	۱۱	۱۷	اکادشی	۴۲ ۳	بھرنی	۲۹ ۶	سدھ	۱۲ ۱۷	برکھ	۴۴ ۳۱	〃	〃	۶ ۳۱	۳۷ ۳	۲۵ ۱۵		پتردا اکادشی برت

تاریخ: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱

۱۰ بجکر ۵۶ منٹ قبل دوپہر

لگن ۱ پوہ بدی دوج سمت ۱۹۸۷ | لگن ۲ پوہ شدی اشٹمی سمت ۱۹۸۷



قیام سیارگان بابتہ لگن ۱ | قیام سیارگان بابتہ لگن ۲

سیارہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
راس	۸	۴	۹	۳	۷	۹	۱۲	۶	۹	۲	۹	۳	۸	۹	۱۲	۶
انش	۲۱	۲۱	۹	۲۸	۲۴	۱۶	۲۸	۲۸	۱۲	۲۲	۲۴	۲۶	۱	۱۸	۲۶	۲۶
کلا	۳۰	۱۸	۲۹	۲۵	۱۸	۲۹	۲	۲	۵۸	۲	۵۱	۱۱	۴۷	۴۹	۵۶	۵۶
بکلا	۲۶	۵۵	۵۰	۳	۲۲	۱۳	۵۵	۵۵	۱۸	۵۳	۳۲	۲۴	۱۲	۴	۹	۹

تاثیرات و ثمرہ منازلِ فلکی بر اشرف المخلوقات ارضی

میکھ
کاروبار مدہم رہے لین دین میں رکاوٹیں درپیش ہوں۔ دشمنوں کا خوف۔ کوئی بنا تری مددگار ملے۔ اس ماہ کی ۵۔۱۳۔۱۷۔ تاریخ سخت ہیں عورت کی چینتا دل میں رہے کسی سے جھگڑا ہو۔ دشمن غالب ہوں۔

برکھ
طبیعت منتشر رہے دل و دماغ میں تجاویز موجزن ہوں۔ دوست دشمن ہو جاویں معاملات لین دین میں کچھ نقصان اٹھانا پڑے اس ماہ کی ۶۔۸۔۱۲۔۵ تاریخیں منحوس ہیں دشمن غالب ہوں آمدن کم خرچ زیادہ صحت جسمانی اچھی۔

متھن
کاروبار ہلکا ہو جائے رات دن دل چنتا میں مستغرق رہے۔ اخراجات کی زیادتی طبیعت کو گھبرا دیوے عورت سے کچھ ناچاقی ہو جاوے اس ماہ کی ۳۔۷۔۱۰۔۱۹ تاریخ اچھی نہیں دشمن مغلوب ہوں مگر نقصان نہیں۔

کرک
آمدن و خرچ برابر مگر کوئی فائدہ کی صورت درپیش ہووے بلکہ کسی دوست سے امداد رشتہ داروں سے فائدہ صحت جسمانی اچھی خواب زیادہ دکھائی دیں۔

سنگھ
اولاد کا سکھ۔ راج دربار میں ہانی یعنی نقصان ہووے خود غرضی و خود پسندی سے بنے بنائے کام رد ہوں۔ لین دین میں تکلیف ہووے آمدن کم خرچ زیادہ ہوں نئے کام میں نقصان ہو۔ دوست دشمن ہو۔

کنیا
آمدنی و خرچ برابر رہے۔ استری کا سکھ کاروبار میں فائدہ ضرور ہو۔ یقین کامل رکھو دیکھو جب تک تم حیران و مصیبت رہی۔ اب دن ٹھیک آگئے یاد رہے ہیں کامیابی کا ستارہ بلند ہو گیا آرام و آسایش ملتا ہیں ۹۔۲۲۔۲۹ تاریخ کر کچھ لابھ ہو دشمن مغلوب

تلا
اتر کا سفر آوے جو کہ بہت حد تک فائدہ مند ثابت ہو اس مہینہ میں کوئی زیادہ آمدن نہیں ہو۔ اس ماہ کی ۴۔۱۲۔۱۶ تاریخ ناقص ہیں۔ عورت و اولاد کو تکلیف دوست سے نقصان دشمن غالب۔

برشچک
یہ ماہ اوسطاً اچھا رہے کوئی امر قابل ذکر درپیش آوے۔ سفر کو زیادہ طبیعت کرے عورت کی طرف سے رنج و عیش رفع ہو اس ماہ کی ۹۔۱۲۔۲۰ تاریخ سخت ہیں۔ کچھ لابھ ضرور ہوگا۔

دھن
آمدنی اوسطاً اور خرچ اوسطاً رہے دوست سے ملاقات کار جاری میں لابھ عزت ہو کچھ جسم کی صحت کی شکایت ہو عورت کا سکھ ہو اولاد کا سکھ ہو دوستوں سے ملاپ اس ماہ کی ۲۵۔۲۷۔۲۹ تاریخ ناقص ہیں اور ۹۔۲۱ تاریخ کو کوئی کام ہو جس سے فائدہ ہو

مکر
آمدن زیادہ خرچ کم۔ بچت کافی ہو کسی زمین کے کام سے فائدہ ہو۔ سفر درپیش ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور صحت جسمانی اچھی ہوگی۔ رشتہ داروں سے ملاپ دشمن مغلوب ہوں۔ مگر ۵۔۹۔۱۱۔۱۹۔۲۱ تاریخیں ناقص ہیں۔

کنبھ
یہ ماہ اچھا ہے۔ آمدن زیادہ خرچ کم۔ بلکہ کوئی خاص لابھ ہووے۔ مگر صحت جسمانی ناقص دوستوں سے ملاپ۔ بلکہ کوئی سفر درپیش ہووے جس سے فائدہ ہو۔ اور طبیعت بشاش ہووے۔

مین
یہ ماہ اچھا نہیں ہے۔ آمدنی کم خرچ زیادہ بلکہ کوئی خاص لابھ نہ ہووے مگر صحت جسمانی ناقص دوستوں سے ملاپ بلکہ کوئی سفر درپیش ہووے جس سے فائدہ نہ ہو اور طبیعت بشاش نہ ہووے ۵۔۷۔۹۔۱۱۔۱۳۔۱۵ تاریخ اچھی ہیں۔

پیشین گوئی بابت ماہ دسمبر سنہ ۱۹۳۰ء

۱۵ اس ماہ حال کو آفتاب از برج عقرب در برج قوس بروز دوشنبہ بوقت ۱۰ بجکر ۵۶ منٹ پر داخل ہوگا۔ بہ روشنہ بارات ۲ گھنٹہ رات ۲۳۔ بار نام دھو انکشی دیس در راجہ سکھی۔ نکشتر نام منڈا کینی عہدہ راشٹر بیانبی۔ راکشسان ہنتی چال مغرب ہیں۔ نظر شمال مشرق بالدکرن باہن یعنی سواری چیتا۔ اوپ باہن گھوڑا۔ بھیہ کارک۔ پوشاک زرد رنگ گدا یدھ چاندی کا برتن لئے۔ دودھ پیتی ہوئی سردی کا تلک۔ بھوت جاتی چنبیلی کا پھول لئے۔ کپڑے کا زیور پہنے۔ کمار عمر بیٹھی حالت میں سنکرانتی پرویش کرے گا۔ بدی میں غلہ گندم وغیرہ ارزاں ہوگا۔ شدی میں گندم۔ جیا۔ چاول۔ جو۔ مونگ۔ اڑد گراں ہوگا۔ چاندی گراں سونا مندا ہوگا۔ جست لوہا۔ تانبہ۔ کانسی پیتل ارزاں۔ گھوڑا۔ ہاتھی۔ گدھا۔ خچر ارزاں۔ دودھ۔ گھی گڑ کھانڈ شکر پیتل ارزاں۔ خوشبویات۔ عطر گلاب۔ کیوڑہ۔ چنبیلی۔ خس وغیرہ ارزاں ہوں۔ موتی۔ مونگا۔ لعل۔ یاقوت۔ نیلم ارزاں ہوں۔

حالات ارضی و سماوی بابت ماہ دسمبر سنہ ۱۹۳۰ء

پوہ بدی دسمی بروز سوموار سورج برشچک راس سے دھن راس میں ۴۰ گھڑی ۱۹ پل پر پرویش کرے گا۔ ۳۰ مہورت سنکرانتی ہے۔ شکر یکم تاریخ کو طلوع ہوگا۔ جیو ۹ تاریخ مارگی ہوگا۔ ۱۵ کو شنی غروب ہوگا۔ بدھ۔ منگل۔ گورو وکری ہوگا۔ ۲۹ تاریخ کو بدھ غروب ہوگا۔ اس ماہ میں یوگ بارش ۱۔۱۵۔۲۹ تاریخ ہیں یہ جو ضرور پورا ہونگے۔ نیز ۵ سوموار ۵ منگلوار ۵ بدھوار ہیں جن میں سے دو بار اچھے ایک بار ناقص ہے جس سے پرجا میں کچھ بھیہ ہووے اور نوجوانوں میں کچھ روگ پرانی شکایت سے یعنی نمونیا کا زور ہوگا گرم اشیاء کا استعمال رکھنا اور احتیاط لازم ہے۔ نیز پوہ بدی میں تردو شتی تتھی ٹوٹتی ہے۔ جو پرجا بربادی اور سکھ کی دلیل ہے۔ مطلع اس ماہ میں عموماً صاف ہووے۔ مگر ہوائیں سرد اور تیز چلیں اور نوبت برف پڑنے کی علامت ہے۔ اور سردی سے برف فصل کو نقصان زیادہ پہنچا دے۔ اور سردی از حد ہو۔ اور شکر تارا عموماً دن میں دکھلائی دیوے۔ جو دلیل ادبار کی ہے آئندہ الشبعد مالک ہے۔ اپنی کرپا اور مہربانی سے اچھا کرے گا۔ سٹہ نمبر ۷۔۱۔۵۔ ہیں۔ ۲۷۔۴۷۔۶۷۔۱۱۔۳۱۔۵۱۔۷۵۔ ۸۵۔۹۵ ہیں۔

روزمرہ کی کارآمد و ضروری علم جوتش کی رمزیں

ناظرین نے سالگذشتہ کی جنتری کا ملاحظہ کیا ہوگا کہ پچھلے سال سات واروں کے کرتویہ وغیرہ کا جدول دیا گیا تھا۔ مگر اس جدول میں ان واروں کی سوامی اور پھل وغیرہ کا حال مندرج نہیں کیا گیا تھا۔ لہذا پبلک کے مفید اور قابل قدر امور بابتہ واروں کے درج کرتے ہیں۔

نمبر شمار	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
وار	آدتیہ وار یعنی اتوار	سوموار	منگل وار	بدھ وار	گوروار	شکر وار	شنی وار
سوامی	سورج۔ آفتاب	چندرمان۔ قمر	منگل۔ مریخ	بدھ۔ عطارد	گورو۔ مشتری	شکر۔ یعنی زہرہ	شنی۔ زحل
دیوتا و گن	شو۔ اگنی	پاربتی۔ جل	سکندھ۔ بھومی	بشنو۔ ہری	برہما۔ اندر	اندر۔ اندرانی	رودر۔ برہما
بچار سمیہ	آٹھ پہر	۲ پہر رات۔ ۴ پہر دن	آٹھ پہر	آٹھ پہر	آٹھ پہر	آٹھ پہر	آٹھ پہر
دوشن یعنی نقص	رات ناقص	دن ناقص	دن	رات	رات	رات	دن
ذاتی	کشتری	دیش	کشتری	دیش	براہمن	براہمن	شودر
تیل لگانا	بخار پیدا کرتا ہے	عمدہ عادات بناتا ہے	مرتیو و بیماری پیدا کرتا ہے	لکشمی کارک	دھن ناش	مصیبت لاتا ہے	آروگیہ بھلائی اور سکھ لاتا ہے
پوشاک بدلنا	ناقص ہے روگ	اچھا ہے	افسوس اور فکر پیدا ہو	دھن لابھ	عقل و گیان لابھ	عزت و ترقی ہو	ناقص ہے۔ روگ
پوشاک کس رنگ کی ہو	سفید	موتیا	سرخ	زرد	زرد	سبز	نیلی
حجامت کرانا	۱ ماس آیو ناش	۷ ماس عمر بڑھے	۸ ماس آیو ناش	۵ ماس آیو بڑھے	۱۰ ماس عمر بڑھے	۱۱ ماس عمر بڑھے	۷ ماس عمر ناش
علم شروع کرنا	مدھم	مورکھ	مرتیو	اچھا	نہایت اچھا ہے	بہت اچھا ہو	مرتیو

وار کس کو کہتے ہیں۔ سورج طلوع ہونے کے وقت سے لیکر سورج غروب ہونے تک کا نام وار ہے۔ اور علم جوتش میں جو دن پہلے ہوتے۔ یعنی درمیان دن اس سے اگلی رات بھی اسی دن کی مانی گئی ہو جس کا خلاصہ مندرجہ بالا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ ان واروں کی تقسیم پہلے بیان کر چکے ہیں ملاحظہ ہو جنتری سنہ ۱۹۲۹ء صفحہ ۳۴

ناظرین نے سال گذشتہ میں ماس تتھیوں کے کرتویہ اور بارہ ماس کی شونیہ تتھی ملاحظہ کی تھیں اب آپ کی اطلاع کے لئے چاروں یگ یعنی ست یگ تریتا دواپر اور کلجگ یعنی یوگادی بھی درج کرتے ہیں۔

نمبر شمار	۱	۲	۳	۴
نام یگ	ست یگ	تریتا یگ	دواپر یگ	کلی یگ
نام تتھی معہ ماس	کارتک شدھ یعنی شکل نومی	بیساکھ شکل تیج	اسوج یعنی کنوار کرشن تردوشی	پھاگن بدی اماوشش
سوامی	شمبھو یعنی شو	ہری یعنی بشنو	برہما	پتر
دان	تل۔ لمک۔ گئو۔ سچ بولنا	تل۔ نمک گئو۔ سچ بولنا۔ بھکتی	تل نمک۔ گئو۔ سچ بولنا۔ بھکتی سونا دایم	تل نمک۔ گئو۔ سچ بولنا۔ بھکتی۔ سونا۔ اناج۔ عبادت کرنا

مندرجہ بالا تتھی شبھ کاموں میں برجت ہیں۔ مگر اکشیہ تیج سب کاریہ میں شبھ جاننا۔ اکشیہ تیج وہ تیج ہے جو تریتا یگ کی ہے۔ مگر اس دن روہنی نکشتر ہونا ضروری ہے۔ اگر روہنی نکشتر نہ ہو تو اکشیہ تیج نہیں ہے۔ بلکہ تریتا یگ کی تتھی ہے۔ جو شبھ کاریہ میں برجت ہے۔

نکشتر	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ناظرین نکشتروں کا ایک مجموعہ ہے جنکی تعداد اور سعد و نافص جدول سے ملاحظہ ہو۔ ان کی اقسام مختلف ہیں جن کا حال ہم تھوڑا تھوڑا ہر سال درج کرتے ہیں۔ اقسام نکشتر یعنی نکشتر سنگیہ (۱) دہرو نکشتر (۲) چر نکشتر (۳) اوگر نکشتر (۴) مسر نکشتر (۵) کشپر نکشتر (۶) مردو نکشتر (۷) ادہو مکھ نکشتر (۸) تیریگ مکھ نکشتر (۹) اوردھ مکھ نکشتر (۱۰) لکھیہ نکشتر (۱۱) تیکش نکشتر (۱۲) لوہک نکشتر (۱۳) برشا نکشتر (۱۴) شتری نکشتر (۱۵) پورش نکشتر (۱۶) نپونسک نکشتر (۱۷) گنڈانت نکشتر (۱۸) پنچانگ نکشتر (۱۹) چندر نکشتر (۲۰) سوریہ نکشتر۔ ان سب کا مکمل حال آئندہ درج کریں گے۔

[illegible table]

شبھا شبھ یوگ یعنی سعد و ناقص یوگ جدول سے دیکھ سکتے ہیں۔ مگر علاوہ ازیں ان ستائیس یوگوں کا پھل ان کے نام اور روپ سے جاننا چاہیئے۔ اور ان میں سے نشیدھ یعنی ناقص یوگ ہیں ان کا پہلا پاد یعنی چرن برجت ہو۔ یعنی بتی پات اور بیدھرت تمام کا تمام تیاگ کرنا چاہیئے۔ پرگھ کا نصف اول۔ بشکنبھ کی اول کی تین گھڑی بجر کی ۹ گھڑی بیا گھات کی ۹ گھڑی شول کی ۵ گھڑی۔ گنڈ کی ۶ گھڑی۔ اتی گنڈ کی چھ گھڑی اس طریقہ سے ان کو چھوڑ کر شبھ کاریہ کرنا چاہیئے۔

مہورت۔ مہورت علم جوتش میں ایک اصطلاح وقت کا نام ہے۔ جو دن یا رات کا پندرھواں حصہ ہوتا ہے۔ یعنی کل دن رات میں ۳۰ مہورت ہوتے ہیں اور ان کا تعلق پیمانہ اوقات سے ہے۔ مگر بوجہ عدم گنجائش ہم یہاں پیمانہ اوقات درج نہیں کرتے اگر موقعہ ملا تو آئندہ سال اپنے ناظرین کے سامنے علم جوتش کے پیمانہ جات پیش کرینگے۔ یہاں تو صرف ۳۰ مہورتوں کے نام درج کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔ دن کے مہورت۔ (۱) اگھور (۲) سرپ (۳) متر (۴) پتر (۵) دسور (۶) جل (۷) السوید یا (۸) ابھجت (۹) برہما (۱۰) اندر (۱۱) اندراگنی (۱۲) رکشش (۱۳) برون (۱۴) اریماد (۱۵) بھگ۔ مندرجہ بالا مہورت دن میں ہوتے ہیں۔ خواہ دن ہو یا چھوٹا ہو یا بڑا ایک مہورت دن کا پندرھواں حصہ ہوگا۔ رات کے (۱) رامیشور (۲) اجپاد (۳) اہی ربودھنیہ (۴) پوشار (۵) اسونی (۶) یم (۷) بہنی (۸) سوم (۹) آدتی (۱۰) گورو (۱۱) بشنو (۱۲) سوریہ (۱۳) تنوشٹا (۱۴) دایو (۱۵) دہانری۔ بہ ترتیب کشیپ رشی کی بیان کردہ ہے۔ ان کے مفصل حالات آئندہ درج کرینگے۔

جدول دریافت کرنے راس

میکھ: نکشتر و چرن	میکھ: حروف	برکھ: نکشتر و چرن	برکھ: حروف	متھن: نکشتر و چرن	متھن: حروف	کرک: نکشتر و چرن	کرک: حروف	سنگھ: نکشتر و چرن	سنگھ: حروف	کنیا: نکشتر و چرن	کنیا: حروف
اسونی ۱	چو	کرتکا ۲	ای	مرگسرا ۳	کا	پونربس ۴	ہی	مگھا ۱	ما	اتراپھاگنی ۲	ٹو
۲	چے	۳	او	۴	کی	پکھ ۱	ہو	۲	می	۳	پا
۳	چو	۴	اے	اردرا ۱	کو	۲	ہے	۳	مو	۴	پی
۴	لا	روہنی ۱	او	۲	گھا	۳	ہو	۴	مے	ہست ۱	پو
بھرنی ۱	لی	۲	با	۳	نا	۴	ڈا	پورباپھاگنی ۱	مو	۲	کھا
۲	لو	۳	بی	۴	چھا	اشلیکھا ۱	ڈی	۲	ٹا	۳	ڑاں
۳	لے	۴	بو	پونربس ۱	کے	۲	ڈو	۳	ٹی	۴	ٹھا
۴	لو	مرگسرا ۱	بے	۲	کو	۳	ڈے	۴	ٹو	چترا ۱	پے
کرتکا ۱	آ	۲	بو	۳	ہا	۴	ڈو	اتراپھاگنی ۱	ٹے	۲	پو

تلا: نکشتر و چرن	تلا: حروف	برشچک: نکشتر و چرن	برشچک: حروف	دھن: نکشتر و چرن	دھن: حروف	مکر: نکشتر و چرن	مکر: حروف	کنبھ: نکشتر و چرن	کنبھ: حروف	مین: نکشتر و چرن	مین: حروف
چترا ۳	را	بشاکھا ۴	تو	مول ۱	یے	اتراکھاڑ ۲	بھو	دھنشٹا ۳	گو		دی
۴	ری	انرادھا ۱	ن	۲	یو	۳	جا	۴	گے	اترابھادر ۱	دو
سواتی ۱	رو	۲	نی	۳	بھا	۴	جی	ست بھکا ۱	گی	۲	تھا
۲	رے	۳	نو	۴	بھی	ابھجت	جو	۲	شا	۳	جھا
۳	رو	۴	نے	پورباکھاڑ ۱	بھو	سرداں ۱	کھی	۳	شی	۴	نیاں
۴	تا	جیشٹھا ۱	نو	۲	دھا	۲	کھو	۴	شو	ریوتی ۱	دے
بشاکھا ۱	تی	۲	یا	۳	بھا	۳	کھے	پوربابھادر ۱	شے	۲	دو
۲	تو	۳	یی	۴	ڈھا	دھنشٹا ۱	گا	۲	شو	۳	چا
۳	تے	۴	یو	اتراکھاڑ ۱	بھے	۲	گی	۳	دا	۴	چی

نقشہ دریافت کرنے لابھ و خرچ بابت سنہ ۱۹۳۰ء مطابق سمت ۱۹۸۶

	میکھ	برکھ	متھن	کرک	سنگھ	کنیا	تلا	برشچک	دھن	مکر	کنبھ	مین
لابھ	۵	۱۴	۲	۱۱	۱۴	۲	۱۴	۵	۸	۱۱	۱۱	۸
خرچ	۵	۱۱	۱۱	۸	۲	۱۱	۱۱	۵	۱۱	۵	۵	۱۱

نقشہ دریافت کرنے لابھ و خرچ بابت سنہ ۱۹۳۰ء مطابق سمت ۱۹۸۷

راس	میکھ	برکھ	متھن	کرک	سنگھ	کنیا	تلا	برشچک	دھن	مکر	کنبھ	مین
لابھ	۱۴	۸	۱۱	۵	۸	۱۱	۸	۱۴	۴	۵	۵	۲
خرچ	۴	۱۱	۸	۸	۲	۸	۱۱	۲	۱۱	۵	۵	۱۱

طریقہ لابھ و خرچ دیکھنے کا۔ جس شخص کو اپنا لابھ و خرچ جس سال کا دیکھنا مطلوب ہو تو وہ اسی سال کی اپنی راشی کے لابھ و خرچ کے اعداد کو جمع کرے اور جمع کردہ اعداد میں سے ایک کم کرے جو باقی رہے اس کو آٹھ سے تقسیم کریں اگر باقی ۱-۲-۳-۶-۷ رہیں تو آمدنی زیادہ ہو اگر ۳-۴-۵ باقی رہیں تو خرچ زیادہ ہو اور اگر کچھ باقی نہ رہے تو وہ سال آمدنی کے لحاظ سے سخت منحوس و ناقص ہو۔

دِشا شول چکر

سوموار	شنی وار	بدھ وار	منگلوار	اتوار	شکروار	گوروار
جیشٹھا ہست پورب میں		اتراپھاگنی و شرون اتر میں		روہنی پچھم میں		چترا پوربابھادر دکھن میں

جدول دریافت کرنے ساعت یمن و نحس بر تولد فرزند

جمعہ	شب جمعہ کو لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو بہت نیک و دولت مند ہو
پنجشنبہ	دیندار و نعمت در مگر بارہ برس کے بعد ایک سال زنک خطرہ ہو
چہارشنبہ	زاہد و پرہیزگار رہیگا۔
سہ شنبہ	شب کو تولد نیک سیرت دن کا بد سیرت و بیچیا دس روز بعد خطرہ
دوشنبہ	بعد دور و زخطرہ سے بری ہو۔ صدقہ دینا مفید ہے۔
یکشنبہ	نیک بخت بلند اقبالی علم و ہنر سے مالا مال ہو۔
شنبہ	تولد شب علامت نحوست۔ دن کا تولد دلیل سخاوت ہے۔

مہورت پیدائش لڑکا

اگر لڑکا مولوں میں پیدا ہو یعنی مول نکشتر کا اول چرن میں ہو تو والد کا اور دوسرے میں ہو تو والدہ کا تیسری میں ہو تو دولت کا ناش کرے۔ اگر مول کے چوتھے اور اشلیکھا کے اول چرن میں پیدا ہو تو مبارک۔ اشلیکھا کے باقی ۳ چرن والد و والدہ و دولت کے لئے ناقص ہیں۔

مہورت پیدائش لڑکی

اگر لڑکی مولوں میں پیدا ہو یعنی مول نکشتر میں پیدا ہو تو تینی۔ ساس خسر کی سیوا کرے۔ اشلیکھا میں ہووے تو خسر اور جیشٹا میں ہووے تو جیٹھ کو وشاکھا میں دیور کی مرتیو بعد شادی ہونے کے ہونے کا احتمال ہے۔ اگر بوقت پیدائش یہ نکشتر نہ ہوں تو آنند سے رہے۔

کال یعنی راہو چکر کا بچاؤ

پورب	پچھم	اتر	دکھن	اگنی	نئی میرت	وایو یہ ایشان
شنی وار	منگلوار	اتوار	گورو	شکروار	بدھ وار	سوموار

جدول مندرجہ بالا میں جو دن جس سمت لکھا ہے اس سمت میں سفر کرنا منع ہے۔ فائدہ نہ ہوگا مگر جنگ کے واسطے مفید ہے۔

بھدرا بچار اور گیان

بھدرا علم جوتش میں ایک خاص وقت کا نام ہے جس کے دوران میں کوئی شبھ کرم نہ کرنا چاہیئے یہاں تک کہ مردہ جلانا بھی نا قبول ہے اور یہ وقت کرشن پکش کی تیج - وسمی کے پرار دھ میں اور سپتمی چودش کو پور بار دھ میں ہوتا ہے اور شکل پکش میں چوتھ اکادشی پرار دھ اور اشٹمی پورنماشی پور بار دھ میں ہوتا ہے جو جنتری ہذا میں شروع و آخر سے ظاہر کیا گیا ہے۔

تعبیر ہالہ کا محققین نے بابتہ ہالہ چاند حسب نقشہ ذیل تحقیق کی ہے

تصریح وقت نمایاں ہونے ہالہ	تعبیر یعنی خاصیت
پہر اول دن ہو یا رات	بیماری خلائق و سرداران ملک
پہر دوم 〃 〃 〃	برسات بے وقت ہو
پہر سوم 〃 〃 〃	کمی بارش سے نقصانات ہوں
پہر چہارم 〃 〃 〃	ملک میں فتنہ و فسادات ہوں

طریقہ تحقیق و تعبیر حالات سال ہندی

واضح رہے کہ ہر ایک سال ہندی میں بیساکھی شدی تیج کو روہنی نکھتر ساون سدی پورنماشی کو سرون نکھتر تتھ مذکورہ بالا میں نہ آدیں ضرور آثار قحط نمایاں ہوں اگر یہ نکھتر مذکورہ تتھوں میں آ رہے ہوں کوئی نہ ہوں تو کمی و بیشی تعبیر خیال کی جاوے۔ علاوہ اسکے جیٹھ بدی پڑوا کو اگر یوم یکشنبہ ہو اس سال ہوا تیز چلنا چاہیئے اگر سہ شنبہ ہو تو قحط و وبا و عالم ہو اگر شنبہ ہو آثار قحط پائے جاویں دوشنبہ یا چہارشنبہ و پنجشنبہ جمعہ ہونے پر عمدگی سال کی تعبیر ہے۔ بارشیں عمدہ پیداوار اور غلہ زیادہ ارزانی نرخ کے آثار ہیں۔

خاصیت رویت ہلال

بوقت رویت ہلال اگر چندرمان کے ہر دو گوشہ برابر ہوں تو وہ مہینہ خلقت کو آرام و آسایش سے گذرے اگر دکھن کا گوشہ اونچا ہو غلہ گراں ہو اگر اتر کا گوشہ اونچا ہو متوسط ہو اگر سنیچر یا اتوار کو چاند دکھائی دے تو اس مہینہ میں غلہ گراں ہو اگر بوقت رویت ہلال چندرمان کا رنگ سرخ ہو تو علامت جنگ ہے۔ اگر سفیدی مائل ہو تو آثار بارش کے ہیں اگر سیاہی مائل ہو تو اس مہینہ میں امراض کی شکایت ہو۔ زردی مائل ہونے سے ارزانی غلہ کی امید ہے۔

سفر کیلئے فوراً کوئی نیک ساعت بقاعدہ سر دے

جس وقت ارادہ سفر ہو اپنے دم کی رفتار پر غور کرنا چاہیئے اگر پورب یا اتر جانا ہو جب دم راست کی رفتار ہو سفر کرے بہت خاص آرام ہوگا علی ہذا پچھم و دکھن کا سفر جب دم چپ کی رفتار ہو اس وقت کرنا مستحسن و امید کامیابی رکھتا ہے خلاف اس کے راہ سفر میں قدم رکھنا نقصانات و ناکامی کی تعبیر ہے علاوہ اس کے بعض اوقات کبھی دہنے کبھی بائیں نتھنے سے جلد جلد رفتار دم رہتی ہے یا کسی وقت چند منٹ دونوں نتھنوں سے سانس آتا جاتا ہے اس وقت مطلق راہ سفر میں قدم نکالنا بیجا ہے ورنہ سخت نقصان و تکلیف کا مقابلہ ہوگا۔ اگر رفتار صحیح و موافق ضرورت نہ ہو تو تھوڑی دیر ٹھہر و جب حسب تشریح مندرجہ بالا مطابق ہو سفر کرنا چاہیئے۔ رفتار ہر دم بدلتی رہتی ہے۔

تت کال مہورت

اگر کسی کو ایسے وقت میں سفر درپیش ہو کہ فرصت دیکھنے مہورت کی نہ ملے اور جوگنی و دشاشول بھی یاد نہ ہوں تو جوگنی اور دشاشول کے دوش دور کرنے کو حسب ذیل عمل کرے کہ

دفع دوش جوگنی و دفع دوش دشاشول چیز ہائے مندرجہ ذیل کو کھا کر روانہ ہونا چاہیئے

سمت روانگی	نام شے	یوم روانگی	نام شے	یوم روانگی	نام شے
پورب	قند	یکشنبہ	پان	پنجشنبہ	دہی چھاچھ
پچھم	خرما	دوشنبہ	آئینہ دیکھکر	جمعہ	دال کی کڑھی
دکھن	دہی	سہ شنبہ	دھنیہ کھاکر	شنبہ	رائی
اتر	دودھ	چہارشنبہ	گڑ	〃	〃

خاصیت چندر گرہن

چندر گرہن جس برج میں یعنی جس راس پر ہو خاصیت اس کی جداگانہ ہے چنانچہ آگاہی شائقین کے لئے نقشہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

نام راس	نام برج	خاصیت
میکھ	حمل	چارپایوں میں بیماری پھیلے ملک میں جنگ و جدل۔ بارش کی قلت۔
برکھ	ثور	غلہ گراں بدکاروں کی گرم بازاری۔ حکام کو پریشانی۔
متھن	جوزا	ہوا تیز چلے ملک میں وبا پھیلے کمی بارش افزونی فساد۔
کرک	سرطان	ابر برق بارش کی تیزی ہو۔ بربادی اشجار میوہ دار و فساد عالم ہو۔
سنگھ	اسد	رئیس و شریف زیادہ مریں جابجا خونریزی ہو۔
کنیا	سنبلہ	رعایا غمگین و پریشان ہو ملک میں جابجا جنگ ہو
تلا	میزان	پریشانی رعایا ہو۔
برچھک	عقرب	طاعون مخلوق میں پھیلے حشرات الارض بکثرت پیدا ہوں۔
دھن	قوس	علماء و فضلاء کی اکثر موت ہو۔ کمی بارش و پریشانی عالم ہو۔
مکر	جدی	چارپایوں میں وبا پھیلے غلہ گراں ہو اتفاقیہ اور طاعون سے اموات مرگ زیادہ ہوں۔
کنبھ	دلو	اہل اسلام میں پریشانی ہو۔ سلطنت روم میں خرابی واقع ہو۔
مین	حوت	جابجا فسادات و خونریزی ہو۔ رعایا غمگین ہو۔

سنیچر کا پایہ معلوم کرنے کا طریقہ

اکثر معتقدان علم جوتش بروقت تبدیلی راس سنیچر کا پایہ معلوم کیا کرتے ہیں کہ ہم کو سنیچر کس پایہ میں آیا ہے۔ پس ناظرین کی رفع تکلیف کے لئے ہم اس کا قاعدہ ذیل میں درج کرتے ہیں تاکہ دیکھنے میں آسانی رہے۔ بوقت تبدیلی سنیچر یکم جنوری سنہ ۱۹۲۹ء کو دھن راس میں تبدیل ہوگا۔ اور اس دن کا چندرمان کنیا کا ہے۔ جو جنتری میں دیکھو کہ اس روز چندرمان کس راشی پر ہے۔ پھر اپنے نام کی راشی سے چندرمان کی راشی تک شمار کرو۔ اگر شمار میں پہلی چھٹی۔ گیارھویں ہو تو سونے کا پایا۔ اگر دوسری۔ پانچویں۔ نویں ہو تو چاندی کا پایا۔ اگر ساتویں۔ تیسری دسویں ہو تو تانبا کا پایا۔ اگر چوتھے آٹھویں۔ بارھویں ہو تو لوہا کا پایا جانو۔ سونے کا سعد صغر جانو چاندی کا پایا سعد اکبر۔ تانبا کا پایا معمولی۔ اور لوہا کا پایا سخت منحوس۔

بارہ راشیوں کو سمت ۱۹۸۶ بکرم میں سنیچر کا پایا

چونکہ سنیچر ماہ پوہ بدی سمت ۱۹۸۶ بکرم میں دھن راشی میں داخل ہوگا اور سنیچر ڈھائی سال تک ایک راشی میں قیام رکھتا ہے اس لئے اس سال دھن راشی ہی پر رہیگا اس لئے ۱۲ راشیوں کا مندرجہ ذیل پایہ پر ہوگا

نام راس	کنبھ۔ کنیا۔ کرک	برکھ۔ تلا۔ مکر	متھن۔ برچھک۔ مین	میکھ۔ سنگھ۔ دھن
پایہ	سونا	چاندی	تانبا	لوہا
ثمرہ	دھن کا لابھ کم ہو	ترقی مرتبہ لابھ آمدن کم	مساوی	فکر حیرانی خرچ تکلیف

انسان کے اعضاؤں پر سنیچر آنے کا ثمرہ

اکثر معتقدان علم جوتش ہر سال اس بات کو بڑے شوق سے دریافت کرتے ہیں کہ سنیچر ان کو کس اعضاء پر آیا ہے اور کیا پھل کرے گا۔ لہٰذا ان کی آسانی کی خاطر نقشہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

اپنے نام کا نکھتر اس نقشہ میں دیکھ لو۔ جہاں پر وہ نکھتر لکھا ہو اسکے اوپر اعضاء کا نام اور نیچے اس کا ثمرہ درج ہے چونکہ پوہ شدی دوج سمت ۱۹۸۶ بکرم مطابق یکم جنوری سنہ ۱۹۳۰ء کو سنیچر مول کے دوم چرن میں ۲۱ گھڑی ۲۹ پل پر داخل ہوگا اس لئے نقشہ کی خانہ پری مول نکھتر سے کی گئی ہے۔

اعضاء	نکھتر	ثمرہ
پیشانی	مول	قدر و منزلت
منہ	پوربا اشاڑھ۔ اترا کھاڑ۔ سرون دہنشٹا	بیماری و فکر
دست راست	ست بکھا پوربا بادر پدا اترا بھادر پد ریوتی	فائدہ زوال
پائے راست	اسونی۔ بھرنی۔ کرتکا۔	نقل و حرکت
پائے چپ	روہنی۔ مرگسر۔ آردرا۔ پونربس	سفر جانا پڑے
دست چپ	اشلیکھا۔ مگھا۔ پوربا پھالگنی۔ اترا پھالگنی	فضول خرچ
سینہ	ہست۔ چترا۔ سواتی۔ بشاکھا	بلندی مرتبہ
چشم	انوراد ہا	ہر دلعزیز ہو
مقعد	جیشٹا	بواسیر اسہال

ہر کام کامیابی کے لئے سدھ جوگ ہونیکا بچار

تتھ نکھتر دن حسب تشریح نقشہ مندرجہ ذیل ہونے سے سدھ جوگ کہلاتا ہے ایسے موقعہ پر ٹھیک اسی نکھتر میں جو کام کیا جاوے اسمیں ضرور کامیابی ہو سکتی ہے مگر ایسا چندرمان وغیرہ راست ہونا مزید کامیابی و نیکی کا ثمرہ ہے۔

تشریح یوم	نام نکھتر
یکشنبہ	اسونی پکھ ہست مول۔ ہتر اترا۔ مگر تتھ پنچمی نہ ہو۔
دوشنبہ	روہنی۔ مرگسر۔ پکھ۔ انرادھا۔ سرون۔
سہ شنبہ	اسونی۔ کرتکا۔ اشلیکھا۔ اترابھادر پد۔
چہارشنبہ	کرتکا۔ مرگسر۔ ہست۔ روہنی۔ انرادہا۔
پنجشنبہ	اسونی۔ پکھ۔ پنربس۔ انرادہا۔ سرون۔ ریوتی۔
جمعہ	اسونی۔ پنربس۔ انرادھا۔ سرون۔ ریوتی۔
شنبہ	روہنی۔ سواتی۔ سرون۔
	نام تتھ
جمعہ	پڑوا۔ چھٹھ۔ ایکادشی۔
چہارشنبہ	دوج۔ سپتمی۔ دوادشی۔
سہ شنبہ	تیج۔ اشٹمی۔ تروودشی۔
پنجشنبہ	پنچمی۔ دسمی۔ پورنماشی۔
شنبہ	چوتھ۔ نومی۔ چتردشی۔

سنکرانت کے نیک و بد ہونے کا ثمرہ

اگر سنکرانت کے وقت نچھتر آردرا - سواتی - بھرنی - بست بکھا - اشلیکھا - جیشٹھا ہو - مہورت ۱۵ - گرانی غلہ و پریشانی مخلوق کے آثار ہیں - اور اگر سنکرانت کے وقت نچھتر پکھ - ہست - مگھا - کرتکا - اسونی - مرگسر - چترا - انورادہا - مول - سرون - دھنشٹھا - ریوتی - پوروا پھالگنی - پوروا کھاڈ - پورا بہادر پد مہورت ۳۰ خاصیت اوسط درجہ کی ہے - اگر سنکرانت کے وقت نچھتر - روہنی - پونربس - اتراکھا - اترا پھالگنی - اتراکھاڈ - اترا بہادر پد ہو مہورت ۴۵ - ارزانی غلہ و خوشحالی رعایا کی تعبیر ہے - علاوہ اسکے اگر سنکرانت بروز شنبہ ہو اس مہینہ میں دہان تیل - گھی - نمک - گھاس گراں ہو - جابجا آثار جنگ و پریشانی مخلوق میں پائی جائے - اگر یکشنبہ ہو گرانی غلہ و نااتفاقی رعایا و ہوا تیز چلنے کے آثار ہیں - دوشنبہ ہونیسے ارزانی غلہ و زیادتی تیل و گھی و رس وغیرہ کی اشیا و خوشحالی رعایا کی اُمید ہو - سہ شنبہ ہو نیز روغن زرد اشیا سُرخ گراں ہونگی چوریوں کی کثرت شکایت ہو - روز چہارشنبہ ہونیسے ہونگی گراں ہوں - پرہیزگار لوگ بآلام رہیں پنجشنبہ ہونے سے ارزانی گھی و غلہ وغیرہ ہو - خلقت میں خوشی کے آثار پائے جائیں -

بھدرا کا بھید

واضح ہو کہ اتوار و برہسپت کو بھدرا بصورت دیوتا ہوتا ہے کچھ ثمرہ اچھا رکھتے ہیں - سوموار و شکر کو بصورت انسان ہوتے ہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے - منگل و سنیچر کو بصورت پرند جانور اور بدھ کو بصورت خر ہوتے ہیں - ان کا ثمرہ نہایت ناقص ہے - علاوہ اسکے سکونت بھدرا کی ہر راس میں جدا گانہ مقام پر حسب تشریح نقشہ ذیل رہتی ہیں - سکونت بھدرا زمین پر نہایت نقصان دہ ہے آسمان و اندر زمین چنداں نحوست نہیں رکھتی -

جائے قیام	تعریح رس یعنی چندرمان
زمین	برشچک - سنگھ - کنبھ - مین
آسمان	برکھ - مکر - کرک - میکھ
زیر زمین یعنی پاتال	کنیاں - تلا - دھن - متھن

سورج گرہن و چندرگرہن کا لوگوں پر سعد و نحس ہونیکا ثمرہ

واضح ہو کہ گرہن کے وقت جس شخص کا چندرمان ۳ - ۶ - ۱۰ - ۱۱ ہو اسپر اثر نحوست گرہن کا مطلق نہیں ہوتا - ۲ - ۵ - ۷ - ۹ چندرمان کا ہونا حالت متوسط ہے - ۱ - ۴ - ۸ - ۱۲ - چندرمان ہونا نہایت ناقص ہے اور مخصوص جنم نچھتر گرہن کے وقت جس شخص کا ہو اسکو زیادہ نقصان دہ ہے اور اسکو خیرات کرنا لازمی ضروری ہے کیونکہ صدقہ سے رد بلا کا مسئلہ قدیم اور پُر اثر ہے -

آج کا دن ہمارا کس طرح گذریگا معلوم کرنیکی ترکیب

آپ کو کسی جوتشی سے دریافت کرنیکی ضرورت نہیں بلکہ آپ و صبح کے وقت مثل نمونہ ذیل نقشہ بنادیں اور جنتری ہذا میں اس تاریخ کو جو نچھتر ہو وہ نمبر النقشہ ہذا میں قایم فرمالویں بعدہ سلسلہ ترتیب وار دیگر ۲۷ نچھتر کو قایم کر لیویں پھر دیکھیں کہ اپنے نام کا نچھتر کس مقام پر پڑا ہے اس کا ثمرہ سطور مندرجہ ذیل سے آپ کو معلوم ہو جائیگا - اپنا نچھتر ماخذ نقشہ ہوڑا چکر سے آپ کو معلوم ہو جاوے گا -



ثمرہ ۱ - اگر ذاتی نچھتر دائرہ کے اندر ہو تمام دن فرحت و مسرت و کامیابی سے گذریگا - ۲ - اگر دائرہ کے باہر ہے تو نصف یوم آسایش و اطمینان سے گذرے بقیہ نصف کسی پریشانی و فکر سے کٹیگا ۳ - اور اگر خط ترشول کے اوپر ہو تو تمام دن غم و غصہ و پریشانی و نقصان سے ختم ہونیکی تعبیر ہے -

جاترہ مہورت بچار

یہ نچھتر جوشبہ ہیں - اشونی - پونربس - انرادہا - مرگسر - پکھ - ریوتی - ہست - سرون - دہنشٹھا و تتھ جو شبہ ہیں - دوج - تیج - پنچمی - ستمی - دسمی - ایکادشی - تیرس اور کرشن پکش کی پڑیوا دن سوموار - بدھ - برہسپت - شکر وار - مگر دشاشول کا بچار لازمی ہے -

امرت سدھ یوگ

اگر اتوار کو ہست - سوموار کو سرون - منگل کو اشونی - بدھ کو انرادہا - برہسپت کو پکھ - شکر کو ریوتی - سنیچر کو روہنی نچھتر ہو ایسے دن میں جو کام شروع کیا جاتا ہے یا سفر کیا جاتا ہے تو اس میں ضرور کامیابی ہوتی ہے - اسی طرح مکان سے روانگی کے وقت اگر کوئی مرد سامنے سے بائیں ہاتھ آوے نامرادی کا ثبوت ہے لیکن داہنے سے جاتا ہو تو حصول مراد کی علامت ہے اور بائیں سے جانیکا موقعہ ہونے پر نامرادی کی صورت ہے اسی کا نام امرت سدھ یوگ ہے -

مریض کی صحت و سفر کی حالت و مقدمات وغیرہ کی نوعیت معلوم کرنا

اگر بیمار کی صحت معلوم کرنا ہو ٹھیک وقت ابتدا علالت پر اور اگر سفر میں یا کسی کام معاملات میں مقدمات میں جانا ہو تو وقت روانگی پر دیکھا جاوے کہ موجودہ کس نچھتر میں ہے اس نچھتر کو چکر مندرجہ ذیل میں نمبر ا پر لکھدیا جاوے اور باقی ۲۷ نچھتر سلسلہ وار ترتیب کے ساتھ قایم کردیئے جاویں پھر دیکھا جائے کہ تعبیر جاننے والے کا نچھتر کس نمبر پر آتا ہے رسائل کا نچھتر نام کے حروف سے نقشہ ہوڑا چکر سے معلوم ہوگا -



تعبیر - اگر نمبر ا و ۲ و ۸ پر نچھتر پڑے گا سفر میں تکلیف کی علامت ہو - و پریشانی معاملات میں شکست کا موقع ہوگا نمبر ۳ - ۴ - ۹ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - نچھتر سائل ہونے پر فکر و تشویش بیماری میں زیادتی ہو - دشمن غالب آوے نمبر ۱۰ سے ۲۰ تک نچھتر ہونے سے سفر میں ناکافی مالی کا نقصان - بیمار کی حالت مخدوش ہو اگر نمبر ۵ - ۶ - ۷ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - نچھتر ہو سفر میں کامیابی مریض کے لئے صحت جلد کی اُمید ہو - معاملات مقدمات میں فتحیابی مالی فائدہ کی صورت پیدا ہو - مگر انچھتر سے سائل کا نچھتر آٹھویں یا بارہویں ہونے سے سفر کرنے و بیمار کے واسطے ناقص اثر رکھتا ہے - البتہ مقدمہ میں مخالف کے مقابل میں صورت کامیابی دکھلاتا ہے -

برہسپت اور شکر کے غروب ہونے پر کام ممنوع ہیں

اہل ہنود کے ہر ایک کام مثل اگنوں مونڈن کرن چھیدن - جنیئو - مکتب یعنی آغاز تعلیم و شادی و رسم مکلاوہ و تعمیر مکان باغ - کنواں - تالاب - دروازہ رکھنا - دگرہ پرویش - و مسند نشینی وغیرہ وغیرہ جس قدر نیک شگون کے کام ہیں وہ قطعی ممنوع ہیں اور ہرگز نہ کرنا چاہیئے -

سورج منڈل و چندر منڈل کی خاصیت

سورج منڈل و چندر منڈل آفتاب و ماہتاب کے ہالہ کو کہتے ہیں - اور دونوں کی خاصیت برابر سمجھنا چاہیئے اگر ہالہ میں سفیدی زیادہ ہو بارش کی علامت ہے - سرخی و زردی زیادہ ہونے سے بیماری مختلف نقصان کا گمان ہے - رنگ سیاہ ہونے سے تاثیر کثرت بیماری و اموات خلق کی تعبیر ہے - علاوہ اسکے جس جگہ دن رات میں نمایاں ہو -

شبھ کاموں کے لئے جداگانہ نیک ساعتوں کا بچار

کام کی تشریح		شبھ نکشتر و تتھ و بار یعنی دن جو ہونا چاہیئے
باغ لگانے کا مہورت		بشاکھا۔ مول۔ مرگسر۔ ریوتی۔ چترا۔ اترادہا۔ ہست۔ اشونی۔ پکھ۔ تینوں اترا روہنی۔ ست بکھا۔ ابھجت۔ یہ نکشتر اور برہسپت۔ انوار۔ شکر۔ یہ دن تتھ۔ چوتھ۔ نومی۔ چودس ہونا چاہیئے۔
مکان بنانے کا مہورت	نام ماہ	پھاگن۔ بیساکھ۔ اساڑھ۔ ساون۔ کاتک۔ اگھن۔
	نام نکشتر	روہنی۔ شرون۔ دھنشٹھا۔ ست بکھا۔ پونربس۔ پکھ۔ ہست۔ چترا۔ سواتی
	نام تتھ	پڑوا۔ ۲۔ ۳۔ ۵۔ ۷۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ پورنماشی۔
	نام دن	سنیچر۔ سوموار۔ بدھ۔ برہسپت۔ شکر۔
	نام لگن	برکھ۔ متھن۔ سنگھ۔ کنیا۔ کنبھ۔ مین۔
	نوٹ	مالک مکان کو اپنا چندرماں وغیرہ بھی راست دیکھ لینا چاہیئے۔
گھوڑا وغیرہ سواری خریدنے کا مہورت		ہست۔ اسونی۔ پکھ۔ ابھجت۔ ریوتی۔ کرتکا۔ مرگسر۔ پنربس۔ جیشٹھا۔ ست بکھا۔ دھنشٹھا۔ یہ نکشتر اور تتھ ۴۔ ۸۔ ۹۔ ۱۴۔ اماوشش کے علاوہ ہو اور شبھ دن اور شبھ لگن ہو یعنی اپنی راس سے آٹھویں چندرماں و ناقص گرہ نہ ہو۔
قرض دینے کا مہورت		سواتی۔ پنربس۔ مرگسر۔ بساکھا۔ پکھ۔ شرون۔ دھنشٹھا۔ ست بکھا۔ اسونی۔ یہ نکشتر اور لگن ہونا چاہیئے۔ لگن سے نویں۔ پانچویں۔ آٹھویں ناقص گرہ ہو۔ رکتا تتھ۔ دن منگل نہ ہونا چاہیئے۔ نیز بدھ کے دن قرض نہ دینا چاہیئے۔
[illegible]		اترادہا۔ ہست و چترا۔ دھنشٹھا۔ ست بکھا۔ مگھا۔ پوربا کھاڑ۔ ریوتی۔ پکھ۔ مرگسر یہ نکشتر ہوں۔ پاپ گرہ کمزور نہ ہوں۔ لگن میں برہسپت یا پدہ دسویں شکر۔ چندرماں سنیچر۔ راس میں ہوں۔
نیا غلہ کھانے کا مہورت		سواتی۔ پنربس۔ شرون۔ دھنشٹھا۔ ست بکھا۔ اسونی۔ پکھ۔ مرگسر۔ ریوتی۔ چترا۔ اترادہا نکشتر ہوں۔ رکتا تتھ کے علاوہ سب تتھیں سنیچر منگل کے علاوہ سب دن عمدہ ہیں۔ مہینہ چیت۔ پوس ملماس نہ ہونا چاہیئے۔
عورتوں کو نئے کپڑے و زیور پہننے کا مہورت		ہست۔ چترا۔ سواتی۔ بساکھا۔ اترادہا۔ دھنشٹھا۔ اسونی۔ ریوتی نکشتر اور تتھ پڑوا دوج ۳۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ پورنماشی۔ اماوشش۔ دن بدھ۔ برہسپت۔ شکروار۔ نیک ہیں۔
دکان کھولنے کا مہورت		مرگسر۔ ریوتی۔ چترا۔ اترادہا۔ روہنی۔ تینوں۔ اترا۔ ہست۔ اسونی۔ پکھ۔ نکشتر ہوں۔ رکتا تتھ اور ۴۔ ۹۔ ۱۴۔ منگل دن اور کمبھ۔ لگن۔ و پاپ گرہ نہ ہو۔ چندرماں اور شکر لگن میں ہوں۔ آٹھویں۔ بارہویں نہ ہوں۔

کام کی تشریح	شبھ نکشتر و تتھ و بار یعنی دن جو ہونا چاہیئے
زچہ کے نہانے کا مہورت	تینوں اترا۔ ریوتی۔ روہنی۔ ہست۔ سواتی۔ اترادہا۔ اسونی۔ پہلے دو نکشتر اشنان ہیں۔ اور تیسری اشنان میں اشلیکھا۔ دھنشٹھا۔ ست بکھا۔ جیشٹھا۔ تینوں پوریا تتھوں میں ۱۔ ۲۔ ۴۔ ۵۔ ۷۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۳۔ پورنماشی اماوس۔ اور باروں میں پہلے دوسرے کے بار۔ انوار۔ منگل۔ برہسپت اور تیسرے کے بار۔ سوموار۔ شکر۔ یہ سب نیک ہیں۔
نامکرن یعنی بچہ کا نام رکھنے کا مہورت	گیارہویں بارہویں دن نام رکھنا چاہیئے۔ یکشنبہ۔ دوشنبہ۔ پنجشنبہ یہ دن اچھے ہیں۔ پونربس۔ پکھ۔ ہست۔ چترا۔ اترادہا۔ دھنشٹھا۔ مرگسر۔ مول۔ اترابھادرپد۔ اتراکھاڑ۔ پھالگنی۔ دھنشٹھا۔ یہ نچھتر نیک ہیں۔ بید ہرت۔ بشاکھا۔ مول کے سوائے اور سب یوگ سعد ہیں۔ لگن ستھر ہونی چاہیئے۔
ان پراشن کا مہورت	شرون۔ دھنشٹھا۔ مرگسر۔ پونربس۔ ریوتی۔ چترا۔ اترادہا۔ اسونی۔ پکھ۔ ابھجت۔ یہ نکشتر ہیں۔ اور تتھوں میں ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ پورنماشی اور باروں میں سوموار۔ برہسپت۔ بدھ۔ شکر۔ یہ سب نیک ہیں۔
مونڈن کا مہورت	مرگسر۔ ریوتی۔ چترا۔ اسونی۔ جیشٹھا۔ سواتی۔ پنربس۔ ہست۔ شرون۔ دھنشٹھا۔ ست بکھا۔ پکھ۔ یہ نچھتر اور تتھوں میں ۲۔ ۳۔ ۵۔ ۷۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۳۔ اور باروں میں دوشنبہ۔ چہارشنبہ۔ جمعہ نیک ہیں۔
کرن چھیدن کا مہورت	تینوں۔ اترا۔ روہنی۔ مرگسر۔ ریوتی۔ شرون۔ دھنشٹھا۔ ست بکھا۔ ہست۔ چترا۔ اترادہا۔ اسونی۔ پونربس۔ پکھ۔ سواتی۔ ابھجت یہ نکشتر اور تتھوں میں دوج۔ تیج۔ پنچمی۔ ستمی۔ دسمی۔ تروودشی۔ پورنماشی اور باروں میں سوموار۔ بدھ۔ برہسپت۔ شکروار نیک ہیں۔
ودیا ارمبھ یعنی بچے کی تعلیم شروع کا مہورت	مرگسر۔ آردرا۔ پونربس۔ ہست۔ چترا۔ سواتی۔ سرون۔ دھنشٹھا۔ ست بکھا۔ اسونی۔ مول۔ تینوں پوریا۔ پکھ۔ اشلیکھا۔ اور بعض پنڈتوں میں اترا۔ روہنی۔ ابھجت۔ نکشتر سعد ہیں۔ اور تتھ ۲۔ ۳۔ ۵۔ ۶۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ اور دن انوار۔ بدھ۔ برہسپت۔ شکروار عمدہ ہیں۔
بچوں کے گھٹنوں کے بل چلنے کا مہورت	تینوں اترا۔ روہنی۔ ہست۔ اسونی۔ ابھجت۔ مرگسر۔ ریوتی۔ چترا۔ اترادہا۔ دھنشٹھا۔ مول۔ مگھا۔ سواتی۔ نچھتر۔ اور تتھ پڑوا۔ ۲۔ ۳۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ پورنماشی دن سوموار۔ برہسپت۔ شکر کا سنیچر یہ بہت عمدہ ہیں۔

جدول بابتہ بارہ لگن علم جوتش معہ تعداد گھڑی پل. رنگ مزاج. خاصیت سوامی روزانہ گنتی

نام لگن	میکھ	برکھ	متھن	کرک	سنگھ	کنیاں	تلا	برچھک	دھن	مکر	کنبھ	مین
رنگ	سُرخ	سفید	زرد	سفید	سُرخ	سبز	سفید	سُرخ	زرد	سیاہ	سیاہ	زرد
مزاج	آتشی گرم خشک	خاکی سرد خشک	بادی گرم و تر	آبی سرد و تر	آتشی گرم خشک	خاکی سرد خشک	بادی گرم و تر	آبی سرد و تر	آتشی گرم و خشک	خاکی سرد خشک	بادی گرم و تر	آبی سرد و تر
سبھاؤ یعنے خاصیت	چر یعنے منقلب	استھر یعنے ثابت	دو سبھاؤ یعنی دو جبدین	چر	استھر	دو سبھاؤ	چر	استھر	دو سبھاؤ	چر	استھر	دو سبھاؤ
مالک	منگل	شکر	بُدھ	چندرماں	سورج	بدھ	شکر	منگل	برہسپت	سنیچر	سنیچر	برہسپت
گھڑی	۳	۴	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۴	۳
پل	۳۸	۱۱	۳	۴۳	۴۷	۳۸	۳۸	۴۷	۴۳	۳	۱۱	۳۸
تعداد پل	۲۱۸	۲۵۱	۳۰۳	۳۴۳	۳۴۷	۳۳۸	۳۳۸	۳۴۷	۳۴۳	۳۰۳	۲۵۱	۲۱۸
[illegible] پل	۷	۸	۱۰	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۰	۸	۷
[illegible] بپل	۱۶	۲۲	۶	۲۶	۳۴	۱۶	۱۶	۳۴	۲۶۰	۶	۲۲	۱۶

لگن دریافت کرنے کا قاعدہ

واضح ہو کہ لگن بارہ ۱۲ ہیں جو اوپر درج کئے گئے ہیں اور اُن کے نکالنے کا قاعدہ واضح طور پر حسب ذیل ہے

لگن دریافت کرنے کا طریق یہ ہے کہ جس مہینے میں جس راس کے سورج ہوں یعنی جس راس کی سنکرانت ہو تو صبح کے وقت وہی لگن ہوتی ہے اور جس قدر سنکرانت کے انس (درجہ) کم ہوتے جاتے ہیں اُسی قدر لگن کے انس کم ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے آج بیکھ کی سنکرانت ہوئی۔ اس میں میکھ لگن ۳ گھڑی ۳۸ پل ہے اس کا تیسواں حصہ سورج نے دن و رات کی ۶۰ گھڑی میں طے کیا تب سنکرانت کی ۳۰ انش کے ۲۹ انش باقی رہے۔ اور میکھ لگن کا تیسواں حصہ پل ۱۶ بپل کا ہوتا ہے وہ میکھ لگن میں گھٹ گیا تو دوسرے دن ۳ گھڑی ۳۰ پل میں ۴۴ بپل رہ گئی۔ جب لگن دریافت کرنا چاہے تو طلوع آفتاب سے جتنے گھڑی پل اس وقت گذرے ہوں اُن کو لکھے اور پھر سنکرانت کے جتنے انس گذرے ہوں نقشہ لگن سارنی میں اُس سنکرانت اور اُس گذرے ہوئے انش کے درمیان جتنے گھڑی و پل لکھے ہوں اُن کو وقت مطلوبہ کی گھڑی و پل میں جمع کرے اگر مجموعہ میں گھڑیاں ۶۰ سے زیادہ نہ ہوں تو خیر ورنہ ۶۰ کو خارج کرے اور پھر جس قدر گھڑی پل اس ترکیب سے حاصل ہوں اُن کو نقشہ لگن سارنی میں ملاحظہ کریں کہ اس قدر گھڑی پل کس لگن کے خانہ میں اس لگن کے کس انس کے مقابل لکھے ہیں۔ پس جس خانہ میں اس قدر گھڑی پل لکھے پاوے وہی لگن تصور کرے۔ اور اُس لگن کے اتنے ہی انس گذرے ہوئے سمجھے۔

مثال - ۱۰ جنوری کو وقت ۱۰ گھڑی پر کون لگن ہوگی سنکرانت دیکھا معلوم ہوا کہ سورج دھن راس کے ۲۸ انس پر اگر ہے تب دھن لگن کی ۲۸ انس کے خانہ میں دیکھا تو ۵۱ گھڑی ملے۔ ان کو ۱۸ گھڑی میں جمع کیا تو ۶۹ گھڑی ہوتے اسمیں سے ۶۰ کو خارج کیا ۹ گھڑی باقی رہی جبکہ نقشہ لگن سارنی میں دیکھا تو برکھ لگن کے (۱۵) بارھویں انش کے مقابل ۸ گھڑی ۵۲ پل لکھے ہوتے پائے پس معلوم ہو گیا کہ اس وقت برکھ لگن ہے اور اس کے انس گذر چکے ہیں اور ۱۵ انش باقی ہیں اور لگن ۱۵-۱۶ انش کے درمیان ہے۔ یہی لگن مطلوب ہے۔ لگن سارنی اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو۔

لگن سارنی کوروکشیتر

چر کھنڈ ۶۰-۴۸-۲۰

انیانش ۲۳ انش ۴۲ کلا — اکشانش ۴۲ انش ۲۶ کلا

راس	انش	صفر	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹
میکھ	گھڑی	۲	۲	۲	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۶	۶	۶	۹
۲۱۸	پل	۴۰	۴۷	۵۴	۱	۸	۱۵	۲۲	۲۹	۳۷	۴۵	۵۳	۱	۱۰	۱۸	۲۶	۳۴	۴۲	۵۰	۵۸	۶	۱۴	۲۲	۳۱	۳۹	۴۷	۵۵	۳	۱۱	۱۹	۲۷
برکھ	گھڑی	۶	۶	۶	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۱	۱۱
۲۵۱	پل	۳۵	۴۳	۵۴	۰	۸	۱۶	۲۴	۳۲	۴۲	۵۲	۲	۱۲	۲۲	۳۲	۴۲	۵۲	۲	۱۲	۲۲	۳۲	۴۲	۵۲	۲	۱۲	۲۲	۳۲	۴۲	۵۲	۳	۱۲
متھن	گھڑی	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶
۳۰۳	پل	۲۲	۳۲	۴۲	۵۲	۲	۱۲	۲۲	۳۲	۵۴	۵۵	۷	۱۸	۳۰	۴۱	۵۳	۴	۱۶	۲۷	۳۹	۵۰	۲	۱۳	۲۵	۳۶	۴۸	۰	۱۱	۲۳	۳۴	۴۶
کرک	گھڑی	۱۶	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲
۳۴۳	پل	۵۷	۹	۲۰	۳۲	۴۳	۵۵	۶	۱۸	۳۰	۴۲	۵۴	۵	۱۶	۲۹	۴۱	۵۳	۵	۱۶	۲۸	۴۰	۵۲	۴	۱۶	۲۷	۳۹	۵۱	۳	۱۵	۲۷	۳۸
سنگھ	گھڑی	۲۲	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۸	۲۸	۲۸
۳۴۷	پل	۵۰	۲	۱۴	۲۶	۳۸	۴۹	۱	۱۳	۲۵	۳۶	۴۸	۵۹	۱۱	۲۳	۳۴	۴۶	۵۷	۹	۲۱	۳۲	۴۴	۵۵	۷	۱۹	۳۰	۴۲	۵۳	۵	۱۷	۲۸
کنیا	گھڑی	۲۸	۲۸	۲۹	۲۹	۲۹	۲۹	۲۹	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۴	۳۴
۳۳۸	پل	۴۰	۵۱	۳۰	۱۵	۲۶	۳۸	۴۹	۱	۱۳	۲۴	۳۶	۴۷	۵۹	۱۱	۲۲	۳۴	۴۵	۵۶	۹	۲۰	۳۲	۴۳	۵۵	۷	۱۸	۳۰	۴۱	۵۳	۵	۱۶
تلا	گھڑی	۳۴	۳۴	۳۴	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۴۰
۳۳۸	پل	۲۸	۳۹	۵۱	۳	۱۴	۲۶	۳۷	۴۹	۱	۱۳	۲۵	۳۶	۴۸	۰	۱۲	۲۴	۳۶	۴۷	۵۹	۱۱	۲۳	۳۵	۴۷	۵۸	۱۰	۲۲	۳۴	۴۶	۵۸	۹
برشچک	گھڑی	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵
۳۴۷	پل	۲۱	۳۳	۴۱	۵۶	۹	۲۰	۳۲	۴۴	۵۶	۷	۱۹	۳۰	۴۲	۵۳	۵	۱۶	۲۸	۳۹	۵۱	۲	۱۴	۲۵	۳۶	۴۹	۰	۱۲	۲۳	۳۵	۴۶	۵۸
دھن	گھڑی	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۸	۴۸	۴۸	۴۸	۴۸	۴۸	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۱	۵۱
۳۴۳	پل	۹	۱۹	۳۲	۴۴	۵۵	۷	۱۸	۳۰	۴۰	۵۰	۰	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۰	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۰	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۰	۱۰
مکر	گھڑی	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵
۳۰۳	پل	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۰	۱۰	۲۰	۳۰	۳۸	۴۷	۵۴	۲	۱۱	۲۰	۲۶	۳۵	۴۳	۵۱	۴۹	۷	۱۵	۲۳	۳۲	۴۰	۴۸	۵۶	۴	۱۲	۲۰	۲۸
کنبھ	گھڑی	۵۵	۵۵	۵۵	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۷	۵۷	۵۷	۵۷	۵۷	۵۷	۵۷	۵۷	۵۷	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۹
۲۵۱	پل	۳۶	۴۴	۵۳	۱	۱۰	۱۷	۲۴	۳۳	۴۰	۴۷	۵۴	۱	۸	۱۵	۲۲	۲۹	۳۵	۴۲	۳۹	۵۶	۳	۱۰	۱۷	۲۴	۳۱	۳۸	۴۵	۵۲	۵۹	۶
مین	گھڑی	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۲	۲	۲	۲
۲۱۸	پل	۱۲	۱۹	۲۶	۳۳	۴۰	۴۷	۵۴	۱	۹	۱۵	۲۲	۲۹	۳۶	۴۳	۵۰	۵۶	۳	۱۰	۱۷	۲۴	۳۱	۳۸	۴۵	۵۲	۵۹	۶	۱۳	۲۰	۲۷	۳۴

(نوٹ) سارنی میں پل کو شامل کرلیا گیا ہے جو میزان میں پوری معلوم ہونگی۔

علمِ ہیئت وعلمِ نجوم

(گذشتہ سے پیوستہ)

سال گذشتہ میں ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے جوتش کے اٹھارہ آچاریوں کی فہرست پیش کی تھی جو مطابق کشیپ آچاریہ اور دوسرے دو وانوں اور سوریہ ودہانت تھی۔ نیز بھرگوجی مہاراج جو ان اچاریوں میں سب سے آخیری تھے اُنھوں نے بھرگو سنگھتا تیار کی ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے اپنے شائقینوں کے سامنے ۱۲ لگن کا حال بیان کیا تھا۔ اس لئے اب ہم کو ان لگنوں کی نسبت مفصل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اول تو ان لگنوں کا حال ملاحظہ ہو صفحہ ۳۹ جنتری ہذا اور ان بارہ لگنوں کا جدول وان کا نکالنا برائے ملاحظہ درج کر چکے ہیں۔ لہٰذا اسکے درج کرنیکی ضرورت نہیں ہو۔ نیز جوتش شاستر کے اٹھارہ آچاریوں کے تجربات اور ان کے گرنتھ ایک دوسرے سے مختلف الرائے ہیں جن کا فرق اور دیکھنا ہر ایک بشر جو علم جوتش کا خواہشمند ہو اُسی پر دارومدار رکھتا ہو اور جو خود یا یہ صداقت کو پہنچ سکتا ہو جس مختلف الرائے کی وجہ سے پھلت جوتش میں عام تفرقات واقع ہوتے ہیں۔ اور عام لوگ جنہوں نے علم جوتش کو پڑھا یا دیکھا انہیں غلط اور لغو کہکر چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر نہیں اگر اس علم کی صداقت کو دیکھنا اور آزمانا ہو تو تمام آچاریوں کے گرنتھوں کو پڑھو اور ان کے تجربات کا ملاحظہ کرو تو معلوم ہوگا کہ آچاریوں نے اپنے تجربات اور اصولوں کے ذریعہ صداقت کو اُس مالک کامل کی ذات سے ملا دیا ہو۔ ان مشکلات کو دور کرنے کے لئے بھرگوجی مہاراج نے دواپر کے اشت میں جسکو ۵۰۳۰ برس ہوتے ہیں اسی فرق اور مختلف الرائے کی بنا پر اپنا گرنتھ بھرگو سنگھتا یا بھرگو شاستر رچا ہو جس میں ۴۲۲۰۰ کنڈلیاں ہیں۔ جنکا حساب محض سورج پر ہے یعنی سال کے کل ۳۶۵ دن مانے ہیں اور ایک دن میں ۱۲ لگن یا ۱۲ کنڈلیاں رات دن کی بنائی ہیں۔ اور ان کنڈلیوں کا اشٹ ان کا لگن ہی ہو محض تتھی معہ مہینے کے بیان کی ہو سمت اور وار وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہو۔ نیز بھرگوجی نے ادھک ماس یا کشیہ ماس سے کوئی تعلق نہیں رکھا یعنی نہ سال تیرہ ماس کا اور نہ سال گیارہ ماس کا یا یوں کہو کہ انہوں نے بارہ شنکرانتی پر اپنے گرنتھ کا آدھار رکھا ہو اور لوند کو چھوڑ دیا ہے۔ لوند وہ مہینہ ہو جو تیسرے سال ایک ادھک ماس ہوتا ہے۔ کشیہ ماس وہ مہینہ ہو جس مہینہ میں سورج کی سنکرانت نہ ہو جو عموماً ۱۴۱ سال یا ۱۹ سال کے بعد کشیہ ماس ہوتا ہو اور ۳۲½ ماس کے بعد لوند کا مہینہ ہوتا ہو اور چھ سو سال کے بعد جو سورج کی چال میں ۶ گھڑی ۵ اپل کا فرق ہو جاتا ہو ان سب ترٹیوں کو الگ رکھکر اُنھوں نے بیالیس ہزار دو سو کنڈلیوں کو رچا ہے اور جن کا دارومدار محض ۲۸ نکشتروں پر ہو کیونکہ بھرگوجی کے زمانہ میں ابھجت نکشتر اترا کھاڑ نکشتر سے الگ مانا جاتا تھا۔ مگر آجکل کی جوتش میں ابھجت نکشتر کو کھاڑ نکشتر میں ملا دیا گیا ہو اور نکشتروں کی تعداد بجائے ۲۸ کے ۲۷ رہ گئی ہو۔ اور نکشتروں کا اول چرن اور دوم چرن وسوم چرن وچہارم چرن ہی دن رات اور لگن یعنی کنڈلی کے اشٹ ہیں اور ان ہی نکشتروں کے آدھار پر پھلت جوتش کا وچار کیا ہے۔ یعنی سال کی بارہ راشی یعنی سنکرانت کو لے کر ان کے اشٹ کلا بکلا کو رکھتے ہوئے کنڈلی کی تکمیل نو گرہ سے کی ہے۔ اور گرہوں کی بکری مارگی چال کو بھی انہوں نے نہیں لیا ہو صرف اس گرہ کے قیام کو مدِ نظر رکھا ہے۔ اور اس کنڈلی کی تکمیل کے بعد انہوں نے اس لگن یا کنڈلی کے بھلا دیس یعنی پھلت کو بیان کیا ہے۔ ہم نے ناظرین کے سامنے بھرگو شاستر کا خاکہ پیش کیا ہو۔ اگر اس پورن برہم پرمان کی کرپا سے سال آئندہ موقعہ ملا تو بھرگو شاستر کے پرتھم کھنڈ یعنی میکھ شنکرانت کی کنڈلیوں کا حال بیان کرینگے۔ جس میں ۳۷۲۰ کنڈلیاں ہیں۔ دوم کھنڈ برکھ شنکرانت اسمیں بھی ۳۷۲۰ کنڈلیاں ہیں۔ سوم کھنڈ متھن شنکرانت اس میں ۳۸۴۰ لگن یعنی کنڈلیاں ہیں۔ چہارم کھنڈ کرک شنکرانت اس میں ۳۷۲۰ لگن یعنی کنڈلیاں ہیں۔ پنجم کھنڈ سنگھ شنکرانت اس میں بھی ۳۷۲۰ لگن ہیں ششم کھنڈ کنیا شنکرانت اس میں بھی ۳۷۲۰ لگن ہیں ہفتم کھنڈ تلا شنکرانت اسمیں بھی ۳۸۴۰ لگن یعنی کنڈلیاں ہیں ہشتم کھنڈ برشچک شنکرانت اس میں ۳۶۰۰ کنڈلیاں ہیں۔ نہم کھنڈ دھن شنکرانت اس میں ۳۴۸۰ کنڈلیاں ہیں۔ دہم کھنڈ مکر شنکرانت اس میں ۳۴۶۰ کنڈلیاں ہیں یازدہم یعنی گیارہواں کھنڈ کنبھ شنکرانت اس میں بھی ۳۶۰۰ کنڈلیاں ہیں۔ دوازدہم یعنی بارہواں کھنڈ مین شنکرانت اس میں بھی ۳۶۰۰ کنڈلیاں ہیں۔ یعنی کل سوریہ شنکرانتی سال میں ۳۶۵ دن کل لگن یعنی ۴۳۸۰۰ کنڈلیاں ہیں اور اسی طرح پر بھارت ورش کے وِدوان جوتشیوں نے نو کھنڈ اور چودہ ودیپ مانے ہیں جن کی ایک ایک کھنڈ کی اتنی ہی کنڈلیاں ہیں۔ اور چودہ ودیپ تو ایک کھنڈ علیحدہ مانا ہو جسکی بھی ۴۳۸۰۰ کنڈلیاں علیحدہ ہیں۔ اگر مالک نے اپنی کرپا اور دیا لتا رکھی تو ہم اپنی قدردان پبلک کے سامنے جنتری دوارہ یا علیحدہ کتاب کی صورت میں ایک ایک شنکرانتی کی لگن یعنی کنڈلیاں شائع کر کے پیش کریں گے۔ اور جو مالک کی مہربانی اور دیا سے براہمنوں اور جوتشیوں اور وِدوانوں کے کارآمد ہوں گی۔ نیز ایک شنکرانتی کی لگنوں کو کتاب کی صورت میں ارزاں قیمت پر پیش کریں گے جس سے سب امیر و غریب فائدہ اُٹھا سکیں۔

(باقی آئندہ)

علم مسمریزم یعنی علاج روحانی یا اچھا شکتی یا راج یوگ

(گذشتہ سے پیوستہ)

من کی فضیلت جسم انسان میں من ہی حاکم ہے۔ اور جتنی قوتیں اور جتنی چیزیں انسان میں یا عالم میں موجود ہیں۔ ان سب پر حکمرانی کرسکتا ہے۔ اور جو چاہے کام لے سکتا ہے۔ مگر بغیر رہنمائی بدھی یعنی عقل یعنی قوت ادراک کے یہ غلطیاں کرتا رہتا ہے۔ اور بغیر مدد بدھی کے کوئی نیک و بد کام نہیں کرسکتا۔ اس لئے اس کا نام خود مختار نہیں بلکہ ماتحت ہوا۔ نہیں یہ نام اس کا درست نہیں ہے بلکہ مہابھارت میں جیسے دہرت راشٹر یعنی راج کا رکھنے والا یعنی راجہ کہا ہو ویسے ہی من بھی انسانی جسم کا راجہ ہے۔ مگر دھرت راشٹر چونکہ خود مختار نہ تھا بلکہ اپنے وزیر سنجے کے ماتحت تھا۔ اور سنجے دہرت راشٹر کو ویبھ ورشٹی سے دنیا کی چیزوں کو و لڑائی میدان جنگ وغیرہ کو دکھایا کرتا تھا۔ اسی طرح بدھی بھی من کی رہنمائی کرتی ہے تو بدھی بھی من کی وزیر ہے۔ اس لئے من کا اصلی اور موزوں نام جیسا دہرت راشٹر کا نام اندھا تھا۔ ویسا ہی من کا نام اندھا من اچھا ہوگا تینتیس کروڑ دیوتاؤں کا اندھا راجہ۔

چونکہ اس عالم کائنات میں جملہ قوتیں اور شکتیں موجود ہیں اور وہ بیشمار ہیں جن کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اور جن کو اہل ہنود نے اپنے فلسفہ میں تینتیس کروڑ دیوتاؤں کے نام سے نامزد کیا ہے۔ مگر وہ تمام قوتیں اور شکتیاں جسم انسانی میں موجود ہیں اور من ان سب پر حکمرانی کرتا ہے اور ان سب پر غالب ہے۔ جملہ شکتیاں اور قوتیں من کے حضور میں ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہیں۔ مگر چونکہ من اندھا ہے جو بغیر بدھی کی مدد کے کچھ نہیں کرسکتا ہے اسلئے تینتیس کروڑ دیوتاؤں کا اندھا راجہ کہلاتا ہے۔ تاہم بھی جملہ شکتیاں اور قوتیں اپنے اندھے راجہ کے حکم کے تابع کھڑی رہتی ہیں۔ فقط اسکے اشارہ کی منتظر ہوتی ہیں۔ اور اپنے حاکم سے جو اشارہ پایا اسی وقت اسکو پورا کیا اور فوراً ہی اسکے حکم کو بجا لاتی ہیں۔ اسی اشارہ کا نام تصور یا خیال ہے۔

تصور یا خیال کا ظہور ۔ تصور یا خیال کا ظہور دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ (۱) شبد یعنی آواز (۲) حروف یعنی فرضی آواز۔ **شبد کیا ہے اور کہاں اور کس طرح پیدا ہوتا ہے** ۔ شبد یعنی آواز جو آکاش یعنی جگہ یا خلا میں پیدا ہوتا اور جو آکاش کا گن ہے اور یہی استھان اسکی پیدائش کا ہے۔ ملاحظہ ہو منوسمرتی شلوک نمبر ۲۰ ادھیائے پہلا۔ جگت او تپتی۔ یعنی من کا کام ہے نیک و بد کی خواہش کرنا۔ اور اس خواہش میں شبد کا پیدا ہونا ضروری اور لازمی امر ہے۔ دویم حروف یعنی فرضی آواز یا تصوری شبد ہے جو خیال سے پیدا ہوتا ہے۔ ان دونوں یعنی شبد و حروف کے مرکب ہونے سے تصور و خیال کی بنیاد ہے۔ اور تصور و خیال کا مرکب ہونا من کی سواری ہے۔ یعنی من کے افعال کا ظہور ان ہی کے ذریعہ سے ہوتا ہے اور سنسکرت زبان میں حروف و آواز یعنی شبد کے مجموعہ کو منتر کے نام سے نامزد کیا ہے اور من کے تمام کام کا دارومدار اسی پر ہے۔

قوت تصور یا خیال کا مخزن چونکہ من کے ذریعہ سے شبد و حروف کی پیدائش آکاش یعنی خلا میں ہوتی ہے اور وہ خلا جسم انسانی ہے جو ہر قوت کا مخزن ہے۔ اور وہ آکاش ایک لطیف نور سے یعنی روشنی سے پر ہے جو روشنی عاملان علم باطن کو نظر آسکتی ہے اور اسی سے سب صورتیں اور حالتیں اور اشیاء کو کھینچ کر ایک مرکز یعنی ظاہری صورت میں لانے کا نام قوت تصور یا خیال ہے۔ اس قوت تصور پر اس علم یعنی مسمریزم یعنی علاج روحانی یا اچھا شکتی اور راج یوگ کا دارومدار ہے۔ یا یوں کہو کہ قوت تصور یا خیال ایک کامل اصول اس علم کا ہے جس کا پیدا کرنا عامل کے لئے ایک بڑا اور ضروری امر ہے۔ اور یہ اصول یا قوت جس شخص کے اندر پیدا ہو جاوے گی وہ اس علم میں کامیاب اور متاثر شمار ہوگا۔ اس لئے قوت تصور کے پیدا کرنے یا اسکے قابو میں رکھنے کے لئے عامل کو باعمل ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ قوت تصور یا خیال ہی ایک بڑا اصول ہے جو اس اصول میں عمل کرتا ہے۔ جس کے لئے عامل کو سچائی۔ بھلائی۔ اور پاکیزگی۔ راستبازی۔ دلیری یعنی بہادری۔ نیک نامی وغیرہ عادت کا اپنے اندر جمع کرنا اور جھوٹ۔ چوری۔ برائی۔ بداعمالی و بدخیالی و برائیوں کا چھوڑنے یعنی تیاگ دینا۔ لازمی اور ضروری امر ہے۔ کیونکہ عامل کے جسم میں ایک جوہر حیات موجود ہے جس کا نام نور یا شکتی یا بجلی یا روشنی یا حرارت ہے۔ اور جو مندرجہ بالا اوصاف سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ روشنی یا حرارت یا نور یا شکتی یا بجلی جس انسان کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس شخص کو دنیاوی اشخاص سے برتر یعنی اونچا اور بلند خیال کا انسان بنا دیتی ہے۔ اور اس دنیا میں اس طاقت اور اس روشنی سے وہ وہ کرامات اور معجزے دکھا سکتا ہے۔ جس سے وہ ایک اعلےٰ انسان اور رشی منیوں کی زندگی بسر کرسکتا ہے۔ سنسکرت میں اس روشنی کا نام امرت ہے۔ فارسی میں اس روشنی کو آب حیات کہتے ہیں اور انگریزی میں اس روشنی کا نام میگنیزم یعنی قوت برقی ہے۔ ہندی اور اردو میں اس کا نام قوت تصور ہے +

(باقی آئندہ)

علم الخواب یعنی تعبیر خواب (سپناولی)

(گذشتہ سے پیوستہ)

خواب کی تشریح - خواب وہ خیال ہو جو منش روزمرہ کی دنیاوی حالت کو سپنی اوستھا میں من اور بدھی کے دوارہ سوپن کال میں جو دیکھتا ہو وہ سوپن یعنی خواب کہلاتا ہے۔

خواب کا وقت - جب منش کی پانچوں گیان و کرم اندریاں اور من اپنی اپنی کریا سے رہت ہوتے ہیں اور ان کی کریا کا گیان بھی نشٹ ہو جاتا ہے وہ سوپن کال کہلاتا ہے یعنی ۱۲ بجے سے لیکر ۴ بجے تک یہ کال مانا گیا ہے۔ اسکے علاوہ خواب دوسرے اوقات میں دیکھا جاوے گا وہ خواب عارضی خواب ہوگا۔ یعنی رات کے پہلے پہر میں جو خواب دیکھا جاوے تو ایک سال بعد اس کا اچھا یا برا پھل ہوتا ہے۔ دوسرے پہر رات میں خواب دیکھے تو آٹھ ماہ میں نتیجہ ملے۔ تیسرے پہر میں دیکھے تو تین ماہ میں۔ چوتھے پہر میں دیکھے تو ایک ماہ میں۔ اور پہر میں ۴ گھڑی باقی ہیں دس دن میں نتیجہ حاصل ہوگا۔ اور ۴ بجے صبح کے بعد جو خواب ہو وہ تت کال نتیجہ دیگا۔

اقسام خواب - خواب کی دو قسمیں ہیں۔ اول اشٹ یعنی سچا خواب جسکو خراب بھی کہتے ہیں۔ دوسرے دوشٹ یعنی ناقص خواب جس کا نتیجہ گاہے جلد اور گاہے دیر طلب اور غلط و کبھی کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے۔ **خراب خواب سے بچنے کی ترکیب** جب کبھی خراب خواب دیکھے تو اس کا عام آدمیوں کے سامنے بیان نہ کرے بلکہ گورو یا عقلمند دوان پرشوں سے بیان کرے۔ نیز اچھا خواب دیکھے تو جاگتا رہے اور اگر خراب خواب دیکھے تو پھر سو جاوے۔ نیز خراب خواب کے بدلنے کے لئے اپنے آپ خواب کا جو دیوتا ہے اُس کا پوجن کرے۔ یا گائتری کا جاپ کرے۔ گائتری منتر سے ہون کرے اگر یہ نہیں کر سکتا تو مسکین و بیکس کو دان کرے۔ بھوجن کھلاوے اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دان کر میشٹھی براہمن کو سونے کا دان تتھا دکشنا کرے اور بھوجن کراوے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو رات کے جس پہر میں خواب دیکھا ہو اُس پہر میں اگنی جلا کر گائتری منتر سے ۵ آہوتی دیوے۔ اِن سب ترکیبوں کا بیان شانتی میوشن و شانتی کملا کر گرنتھ میں واضح طور پر کیا گیا ہے جن کو ہمارے ہاں سے طلب کر سکتے ہیں۔ مصنف۔

خواب	تعبیر
بیشمار تکلیف دیکھنا	کوئی سخت نقصان ہو جس سے برین مشکل ہو۔
بری دیکھنا	دشمن مغلوب ہوں
بلوط کا پھل دیکھنا	دولت صحت۔ دنیاوی امور میں کامیابی ہو۔
بحث میں ترقی دیکھنا	مباحثہ جیتے
بیٹا پیدا ہونا دیکھنا	سفر کے ارادے کو ترک کرنا نقص ہے حادثہ کا موجب ہوگا
بلا میں گرفتار دیکھنا	مصیبت میں مبتلا ہونا نقص ہے۔ تبدیلی ہو۔
بے عزتی ہونا۔	قرضدار سے جھگڑا ہو
بے عزتی کرنا۔	محبت میں فرق ہو۔
بڑھاپا دیکھنا	فکر ہوگا مگر کامیابی ہوگی
بوڑھا دیکھنا	عمر کم ہو۔ بزرگی ملے۔
بخار دیکھنا	کامیابی ہو
بادام دیکھنا	سفر ہووے۔
بادام کھاتا دیکھنا۔	دور دراز سفر سے فائدہ ہو۔
بادام شیریں چکھنا	کامیابی ہوگی
بادام ترش چکھنا	نقصان ہوگا۔
بیہ ی پر بیٹھنا	نقصان ہوگا۔
بلادیاں خشکی و تری میں دیکھنا	خشکی و تری کا سفر ہو۔
بنسری بجاتے دیکھنا	کام میں رکاوٹ ہو۔ دشمن غالب ہوں
بچہ دیکھنا۔	کامیابی ہو شادی ہو
بچہ پرورش کرنا	رنج و فکر بدقسمتی و ناامیدی ہو
بچہ بیمار دیکھنا	کسی کی موت ہو
بچہ جنتی عورت دیکھنا	وسوسوں سے خطرہ ہو خطرناک ہو
بجو دیکھنا	عمر درازہ ہو۔ خوشحال ہو کسی جگہ کا سفر ہو

خواب	تعبیر
بین دیکھنا	مفلسی سامنا کرے
بین سننا	زندگی غریبی سے گذرے
بین شادی میں دیکھنا یا سننا	تفکرات سے زندگی بسر ہو
بالوریت دیکھنا	بیماری ہو
برتن میں سے کھاتے دیکھنا	شادی جلد ہو
برتن میں سے پینا	کامیابی ہو
بستر دیکھنا	خوشی ہو
بستر بچھانا دیکھنا	شادی ہو۔ تبدیلی ہو
بستر پر لیٹا دیکھنا	لڑکا پیدا ہو
بستر پر بیٹھا دوسرے کے	شادی ہو
بوٹ دیکھنا	پاؤں میں تکلیف ہو
نیا بوٹ پہننا	پاؤں میں تکلیف ہو در رنج ہو
بوٹ پاؤں میں کاٹنا	تکلیف ہو۔
بوتل دیکھنا خالی	نقصان ہو۔
بوتل بھری دیکھنا	مال ملیگا۔
بوتل پیتے دیکھنا	کسی کی محبت سے نقصان ہو
بارات دیکھنا	تکلیف ہو
بگل دیکھنا	خوشی ہو
بگل سے کھیلنا	خوشخبری ملے
بگل کی آواز سننا	کسی دوست یا رشتہ دار سے خوشخبری ملے۔ لڑکا پیدا ہو
بہتان لگتے دیکھنا	عزت ہو
بلبل کا گانا سننا	خوشی ہو۔ شادی ہو۔ آرام ملے
بلی دیکھنا	دھوکا ہوگا۔
بلی تاجر دیکھے	بددیانت نوکر ملے
بلی بچوں سمیت دیکھنا	کنبہ قبیلہ بڑھے
بلی کو مارتے دیکھنا	دشمن مغلوب ہوں
بلوان ایک اپنی چاروں طرف دیکھنا	مصیبت ہو رنج ہو
بادل پھٹتے دیکھنا	رنج و غم دور ہو

خواب	تعبیر
پردیسی دوست کی ملاقات کرنا	اُسکے زندہ رہنے کی دلیل ہے۔
پردیسی دوست کی موت دیکھنا	شادی کی خبر ملے۔
پرہیزگار دیکھنا	کامیابی فارغ البالی اور صحت کی علامت ہے۔
پردیسی دیکھنا	اپنے ملک سے فائدہ ہو۔
پردیس میں دیکھنا	دوستی اور محبت میں مبتلا ہو
پوشاک زربفت دیکھنا	مفلسی ہو
پوشاک پھٹی دیکھنا	عزت ملے
پوشاک نہ ہونا	ترقی و دولت ملے
پوشاک سفید دیکھنا	ترقی و کامیابی ہو
پوشاک سفید پہننا	عالم میں قدر ہو۔ کاروبار میں ترقی ہو۔
پوشاک سیاہ دیکھنا یا پہننا	مشکل کا سامنا ہو۔ بیماری ہو کسی کی موت ہو۔
پوشاک سیاہ پہنکر جنازہ دیکھنا یا ساتھ جانا	شادی ہو۔ دوست آشناؤں سے ملاقات ہو۔
پوشاک میلی دیکھنا یا پہننا	فارغ البالی۔ خوشحالی اور از حد خوشی ہو
پوشاک زعفرانی دیکھنا یا پہننا	ایضاً
پوشاک سرخ دیکھنا یا پہننا	بیماری۔ ہاری۔ نقصان ہو
پوشاک عنابی رنگ دیکھنا یا پہننا	عمر دراز ہو۔ کوئی خوشی کی خبر ملے
پوشاک رنگ برنگ دیکھنا یا پہننا۔	مختلف قسم کی خوشی ہو
پوشاک نئی دیکھنا یا پہننا	عزت و ترقی ملے
پہاڑی پر چڑھنا	فتحمند ہو۔ کامیابی ہو۔
پرندہ دیکھنا	ترقی ہو۔ مرتبہ ملے
پرندہ اُڑتا دیکھنا	کامیابی ہو
پرندہ اُڑتا امیر دیکھے	کنگال ہو
پرندہ اُڑتا غریب دیکھے	مالدار ہو۔

علم سرودہا یا پاس انفاس

(گذشتہ سے پیوستہ)

علم سرودہا یعنی سروں کا علم یا پاس انفاس کے موجد سکھدیوجی ہری کے پتر ہیں اور جنکی کرپا سے چرنداس جی شیشہ سے گیان سرودہا کے بھید اور علم کو دوایا۔ جیساکہ مندرجہ ذیل کے دوہے سے ظاہر ہے۔ دوہا

نمو نمو سکھدیوجی کروں پرنام اننت — تو پرساد سور بھید کو چرن داس برننت
پرشوتم پرماتما پورن بسوا بیس — آدی پرش ابی چل تو ہی نواؤں شیش

کنڈلی یعنی زائچہ یا لگن بذریعہ علم سرودہا — کنڈلی ایک علم جوتش کی صلاح ہے جسکو اہلِ یونان نے زائچہ کے نام سے موسوم کیا ہے اور اہل ہند نے لگن کے نام سے پکارا ہے۔ مگر عوام الناس کے لئے کنڈلی بمعنی وقت کا اندازہ کرنا ہے۔ تاکہ اس سے علم جوتش کے مطابق اچھا یا برا نتیجہ پیش کر سکے چونکہ علم سرودہا بھی علم جوتش کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعہ یہ علم بھی نتیجہ پیش کرتا ہے۔ چنانچہ علم سرودہا میں کنڈلیاں درج ہیں اور جن سے خاص مطلب اور معنی ہیں۔ اور بدھی مان پرش ان سے نتیجہ پر پہنچ کر اپنا مطلب پورا کر سکتا ہے۔ ملاحظہ ہو کنڈلی ۱

کشر ادم سوں کہت ہیں اکشر سوہنگ جان — نہ اکشر سوانسا رہت تا ہی کومن آن

مطلب۔ اوم سے اپنے آپ کو جان۔ اور کشر اور اکشر دونوں ملکر سوانس ہوتا ہے اور اکشر رہت کو من کہتے ہیں۔

نا ہی کو من ان رات دن سورتی لگاؤں + آپا آپ بچار اور نا شیش نواؤں + چرنداس من کہت ہے اگم نگم کی سیکھ + یہی بچن برہم گیان کو انو بسوا بیس + اس کنڈلی سے برہم ودیا کا اظہار اور خود شناسی کی تعلیم ہے۔ مندرجہ بالا رمز کو دوہے میں چرنداس جی نے بالکل صاف کر دیا ہے۔ **دوہا** اوم سوں کایا بھئی سوہنگ سو من ہوئیہ + نہ اکشر سے سوانس بھئی چرنداس بھل جوئیہ۔

کنڈلی ۲ چرن داس بھل جوئیہ کھینچ منواں تنہ راکھو + کشر۔ اکشر نہ اکشر ایکٹی دوید ہانا کھو + جب ورش ایک ایک بیش یہ سبھی تہا دو۔ ڈال پات پھل پھول مول سوں سبھی نہارد + **دوہا**۔ سوانس سوں سوہنگ بھیو سوہنگ سوا ونکار + اونکار سوں رام بھیو ساد ہو کرو بچار۔

کنڈلی ۳ سادھو کرو بچار اولٹ اپنے گھر آؤ۔ گھٹ گھٹ برہم انوپ سیمٹ کری تہاں سماؤ۔ چار وید کو بھید ہے گیتا کا ہے جیو چرنداس لکھو آپ کو تو میں تیرا پیو +

گیان سرودیہ کے یوگ

سب یوگن کے یوگ ہے۔ سب گیانن کو گیان
برہم گیان کو جاپ ہے۔ اجپا سوہنگ سادھ
بھید سرودیہ سار ہے۔ سمجھے سوانس ادسانس
سکدیو گورو کرپا کری دیا سرودیہ گیان
انگلا۔ پنگلا۔ سکھمنا۔ ناڑی تین بچار
پنگلا۔ داہنی انگ ہے۔ ایڑا سو بائیں ہو یہ
جب سُر چالیں پنگلہ مدھیہ سوریہ تنہ باس
اودیہ است تنگی لکھے نرگم سور گم بدھ
چرن داس سوں شک کہت ستھر چہ سر پہچان

سب سدھی کو سدھی ہے۔ تنو شرن کو دھیان
پرم ہنس کوئی جاتی ہے۔ تاکو منوا گادھ
بری بھلی تا میں لکھی یون سورت من گانس
تب سوں یہ جان پڑی۔ لابھ ہوئے گہان
دہنے بائیں سر چلے لکھے دھار نا دھار
سکھمنا ان کے بیچ ہیں جب سر چالیں دو یہ
ایرا سو بائیں انگ ہے۔ چندر گرستہ پرکاش
پادیں تتوا برن کو جب وہ ہو دیں سدھ
ستھر کاریہ کو چندر مان چر کو بھانو سو جان

علم سامدرک

(گذشتہ سے پیوستہ)

شلوک ۱ انہات۔ سم پرکیشامی ہست ریکھا بچارنم + وکشتے پردشم گیہم بامے باماکرسے شوبھم

ترجمہ۔ علم سامدرک میں مرد کا داہنا یعنی دایاں اور عورت کا بایاں ہاتھ دیکھنا چاہیئے۔

شلوک ۲ میشو وکتم تنتر سامدرنگ ریکھا شبھاشوبھم + نسیہ بگیان ماترے نہ پُرشونی شوچتے۔

ترجمہ۔ شوجی مہاراج کہتے ہیں تنتر سامدرک شاستر میں ہست ریکھا سے شبھ اور اشبھ کی بیوستھا لکھی ہے اس ہست ریکھا کے دیکھنے سے سکھ دُوکھ کا گیان ہونے سے پورش گیان وان ہو کے اس لوک کو تیاگ کے سکھی ہوگا یہ نشچے جانو۔

شلوک ۳ لیبہ ہستے تتیہ ریکھا کرم سدہی نشچے جایتے + دھنا ویہ ستور سے گیبو بھو پوترو یہ سنشیہ۔

ترجمہ۔ جس کے ہاتھ میں پہنچے کے بیچ مدھیہ میں پرتھم ریکھا سے مین مچھلی کے سمان پرگٹ ہو۔ سو میں ریکھا والا آدمی اس سنسار میں جو جو بیوپار کرے گا سو سب میں پراپتی ہوگی دھنوان بھو تیروان ہوگا سکھی ہوگا سنسار میں بڑے مان کے ساتھ جیون پرنیت نانا پرکار کے سُکھ بھوگ کریگا اسمیں سندھ نہیں جاننا۔ اوشیہ ہیں چنن والے سکھی ہوتے ہیں۔

شلوک ۴ تلاگرامنگ نتھا بجرم کرمدھیے چہ ورشیتے + تسیہ بانجیہ سدھی سیات پورشیہ نہ تشنشیہ

ترجمہ۔ جس منش کے ہاتھ میں مدھیہ ریکھا کے درمیان تلا نام ترازو۔ تولنے کا پاتر اس کا چن ہو اور ہاتھ کے بیچ گرام یعنی گاؤں یا نگر کے سمان چُنش کون یعنی چوکور ریکھا کے مدھیہ بجر نشان معلوم ہووے۔ یعنی گاؤں کا آکار یا بجر کا آکار ہو۔ یہ تینوں آکار ہوں یا ایک آکار ہو وہ پورش جو زبان سے حکم دیگا اُس کا پورا ہوگا۔ جو بیوپار کرے گا اس سے اُسکو دھن کا لابھ اور دھنی ہوگا۔ سرب سکھ کا بھوگی ہوگا۔ اور جنم سے لیکر مرن پرنیت آنند میں رہیگا۔

شلوک ۵ پدم۔ چاپ آدمی گھڑگ شچہ۔ اشٹ کون آدمی ورشیتے + سنرپہ شچہ پورش سپاپی دھن وان سے سکھی نرہ۔

ترجمہ۔ جس آدمی کے ہاتھ میں پرگٹ چہن کمل دل یعنی پدم۔ چاپ یعنی دھنش بان یا قوس۔ گھڑگ یعنی تلوار اشٹ۔ اشٹ کون یعنی ہشت پہلو شکل ان تمام کے نشان موجود ہوں یا کسی ایک کا موجود ہو۔ خواہ آدمی ہو یا عورت ہو۔ دھنوان سکھی ہوگا۔ پدم کے نشان سے راجہ یا رانی ہووے۔ دھنش کے نشان سے دھنش دہاری و شور بیر ہو۔ تلوار کا نشان ہونے سے بڑا بلوان اور استری کے ہو تو بہت پرتھوی کی مالک ہو۔ اشٹ کون کا نشان ہونے سے بھوپال و زمیندار بھومی پتی گرام پتی ہوگا سب پرکار کے سکھ بھوگے گا۔

شلوک ۶ شنکھ۔ چکر۔ دھوجا کا رونا ساکارشچہ درشیتے + سرب بید یا پرجانے نہ بدھانش بھولے نرہ۔

ترجمہ۔ جس شخص کے ہاتھ میں سنکھ اور چکر کا نشان ہو۔ تو پنڈت و شاستری ہو۔ اگر سنکھ کا ہو تو ودوان ہو۔ شاستروں کا جاننے والا ہو اگر چکر کا نشان ہو تو عقلمند اور دولتمند اور پنڈت ہو۔ اگر دھوجا یعنی جھنڈی کا نشان ہو تو دیو گیہ وید ویدانت کا گیاتا ہو۔ اگر ہاتھ میں ناسا کا نشان ہو تو ساما تیہ سنسار کی بیاپار ودیا سے نیپون یعنی واقف ہو۔ اگر مندرجہ بالا نشان تمام کے تمام ہاتھ میں ہوں تو سمپورن کھٹ شاستری چار وید سرب اونشد کا جاننے والا پنڈت۔ واعظ۔ یعنی بکتا۔ دھنی۔ اور سکھی منش ہوئے۔

شلوک ۷ ترشولنگ کرمدھیے تو نین راجہ پرورتنے + یگیے۔ دہرے چہ دانے چہ دوج دیو پریو جتنے۔

ترجمہ۔ جس آدمی کے ہاتھ میں ترشول کا نشان ہو تو راجہ ہونے کا لکشن ہے۔ اگر عورت کے ہاتھ میں ہو تو رانی ہو۔ اگر ترشول کے نشان میں کچھ کمی ہو تو راجہ کے پاس رہیگا۔ اور راجہ کے ذریعہ گذران کرے گا۔ اور دانی۔ دھرماتما۔ یگیہ کرنے والا ہو۔ اوپکاری ہو۔ گئو۔ برہمن۔ دیوتا۔ گورو۔ ماتا پتا سب کی سیوا کرنیوالا ہو۔ اور گنیوں میں عزت پاوے۔ اور لوک میں ایشٹ گری میں بکھیات ہو کر سوکھیش ہوگا +

(باقی آیندہ)

فالنامہ یعنی پرشناولی منتخب کردہ از جوتش گرنتھ آزمودہ مجرب

ز ۱	ض	ش										ا ۲۵
ض ۲	ہ	ن	ک	ا								ب ۱۵
ص ۲	ن	ل	ص	ف	ز	و						س ۵
و ۴	د	د	س	او	ن	پ	ا					د ۱۴
یو ۲۴	س	یو	ے	ٹ	ش	ا	ق	ہ	ل			ے ۱۰
ق ۲	ف	م	ٹ	و	ق	ک	ل	گ	ک			ف ۱
ن ۹	ی	ر	ر	پ	د	س	م	ن	ا	ق	ش	
ٹ ۱۹	ن	ے	ک	ا	ص	و	ب	ر	او			ک ۱۳
ش ۲۳	ل	ش	گ	ف	ص	ی	ب	ح				ح ۶
ر ۱۲	س	ق	و	ک	ل	ح	ب					ی ۱۸
ہ ۳	ق	ش	ٹ	ف	او	یو						ک ۸
پ ۲	ب	و	ب	ا								ل ۱۷
او ۱۶	او	ل										م ۲۲

طریقہ دیکھنے فالنامہ

جو شخص اس فال کو دیکھنا چاہے اُس کو چاہیئے کہ اپنے سوال کو جس کی بابت فال دیکھنا ہے سوچ لیوے۔ یا لکھ لیوے پھر پرماتما کا دھیان کر کے مدعا کو مدنظر رکھتا ہوا۔ آنکھ بند کر کے مندرجہ بالا حرفوں میں سے کسی ایک پر انگلی رکھ دیوے۔ اور اُس حروف کو دیکھ کر مندرجہ بالا حاشیہ پر دیئے ہوتے ہندسوں میں سے ہندسہ نکال کر اس کا پھل مندرجہ ذیل پڑھ لیوے اور بخوبی سمجھ کر مطلب برآری کرے +

(۱) یقین دلاتا ہے کہ آدمی اگر بیوپاری ہے۔ تو ایک مالدار لڑکی سے شادی ہو۔ لیکن لڑکی خوبصورت نہ ہو۔ اگر شادی شدہ ہو تو دھن بڑھے بچے ہوں اور آخیر عمر اچھی طرح بسر کرے۔ اگر عورت ہے تو خاوند اس سے زیادہ محبت کرے۔ اور کنواری ہے تو جلد شادی انجام ہو۔

(۳) عمدہ فال۔ اچھی قسمت ہو۔ یکایک خوشحالی ہو۔ بڑے آدمیوں سے رعب و عزت ہو۔ اور کوئی اچھی خوشخبری کی ملے۔

(۷) عورت کے واسطے اُسکے سوال کی تعبیر عین سعد ہے۔ اگر کنواری ہو تو خوبصورت۔ مالدار۔ وفادار خاوند ملے۔ اگر شادی شدہ ہے۔ بہت اچھی طرح سے اور خاندانی کے ساتھ بسر کرے اور اُس کا خاوند بلند مرتبہ والا ہو۔ مرد کے لئے بھی ایسا ہی ہو۔

(۸) جواب بہت اچھا ہے۔ دلی مرادیں پوری ہوں۔ اور جو کام زیر تجویز ہیں پورے ہوں۔

(۹) اگر شادی شدہ مرد عورت اس فال کو دیکھیں اور ان کی عمر پچاس سال سے کم ہو تو ان کو اپنے خاندان کی بابت کچھ فکر نہ کرنا چاہیئے۔ اگر کنوارہ یا کنواری دیکھے تو جلد شادی ہو۔

(۱۰) تمہارا دوست نزدیک آرہا ہے۔ اور کوئی چیز کھیر لائیگا۔ اور دھن کے ساتھ آئیگا جس سے تم کو فائدہ ہوگا۔

(۱۲) یہ فال دلالت کرتا ہے کہ تم کو ہر ایک کام میں کامیابی ہوگی۔

(۱۵) اس فال کے دیکھنے والے کو شک نہیں کرنا چاہیئے۔ اور کام کو شروع کرے۔ بیشک سوال کرنیوالا غریب آدمی ہے اور خیالات بھی وسیع نہیں مگر دوستوں کی مدد سے کام ہو کیونکہ اسکے ساتھ محبت کرتے ہیں۔

(۱۶) سفر درپیش ہووے۔ اور ایک نیک ساتھی سفر میں ملے۔ اُس کی صحبت سے تمہیں کچھ لابھ ہووے۔

(۱۸) یکایک برخلاف جنس یعنی اپنے سے دوسری جنس سے واقفیت ہو۔ جو کہ پہلے کچھ مخالفت پیدا کرے مگر اس شخص کو کچھ استقلال رکھنا چاہیئے۔ اور یہ ان کے فائدہ کے لئے ہوگا۔

(۲۱) کوئی ضروری خط تمہارے پاس آوے جسمیں کسی رشتہ دار کی موت کا ذکر ہو جس کی بابت تم کو زیادہ خیال نہ ہو۔ لیکن وہ تمہیں کچھ وصیت چھوڑ چلا ہے۔

(۲۲) اپنے چال چلن میں بہت دور اندیشی کرو۔ کیونکہ یہ فال ظاہر کرتا ہے کہ تم اپنے اوپر بھروسہ رکھو نتیجہ اچھا ہوگا۔

(۲۳) اس فال سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل کو شادی سے اچھی عورت ملے۔ یا مرد ملے اگر عورت دیکھے۔

(۲۴) ذرا استقلال رکھو تمہارے ارادے اور تجاویز ضرور پورے ہوں گے۔

(۲) دوستوں کی وا ذکی مدد کی کمی دھن کا خرچ مقدمہ کا نتیجہ خراب ہو۔

(۴) یہ فال دھن کے نقصان کی خبر دیوے۔

(۵) فال دیکھنے سے پہلے اپنے تلوں کا ملاحظہ کرو جس سے تم بخوبی واقف ہو سکتے ہو۔ اچھا نہیں ہے۔

(۶) تمہارے ارادوں میں ناامیدی بستی۔ اور اپنے کاروبار میں کوئی کامیابی یا ترقی نہ دیکھو۔

(۱۱) تمہارے فال سے یہ مراد ہے کہ تمہاری عورت یا خاوند کی وفاداری پر شک ہو سکتا ہے۔ اگر کنواری یا کنوارہ ہو تو تمہیں ضروری دھوکا لگے۔

(۱۳) یہ فال ظاہر کرتا ہے کہ تم کو روپیہ قرض لینے کی ضرورت ہے مگر تمہارے ساتھ دھوکا ہو۔

(۱۴) تمہارے گذران کا جیور اور مدار ہے وہ جلد شادی کرلے۔ اور اس کی شادی سے کوئی بچہ پیدا ہو وہ ناقص ہوگا۔

(۱۷) تم ایسے آدمیوں کے ساتھ رہتے ہو جو ہمارے فال میں یقین نہیں مگر پھر بھی طبیعت میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ اِس لئے کسی پر بھروسہ کرو۔ اور دیکھو تمہاری کوئی بے عزتی ہوگی۔

(۱۹) جنکا تم کو روپیہ دینا ہے۔ اُن کا خیال کرو۔ جا ہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ تقاضہ کی بھی مع طعنہ و تشنع جلد وصول ہو۔

(۲۰) تمہارا حصہ دار شرابی۔ غافل ہو۔ اور تجارت میں کامیابی نہ ہو لیکن تم کبھی غریب نہ ہو۔ ہمیشہ خوش رہو۔

(۲۵) فال دیکھنے والا خواہ مرد عورت ہو اپنے چال چلن کا خیال رکھے۔ انصاف گو آہستہ آہستہ سامنے آتا ہے لیکن بدمعاش کو یقیناً گراتی ہے۔

قواعد محصول ڈاک خانہ

قسم	مقدار وزن یا قسم	محصول
خطوط و لفافے	پوسٹ کارڈ ۰ر جوابی	ار
	لفافہ ½ ۲ تولہ	ار
	½ ۲ تولہ سے زائد ہر ½ ۲ یا اس کے جزو مقدار پر	ار
پیکٹ و پارسل اندرونِ ہند	پیکٹ ۵ تولہ تک	۰ر
	۵ تولہ سے زائد ہر ۵ تولہ اور اس کی جزو مقدار پر	۰ر
	پارسل ۲۰ تولہ وزن تک	۲ر
	۲۰ تولہ سے زائد ۴۰ تولہ تک	۳ر
	۴۰ تولہ سے زائد ہر ۴۰ تولہ اور اس کے جزو مقدار پر ۴۰ تولہ تک	۴ر فی
	۴۴۰ تولہ سے ۴۸۰ تولہ تک	۔
	۴۸۰ تولہ سے زائد ہر ۴۰ تولہ پر ۴۰ تولہ تک	۴ر اضافہ

صرف رجسٹری ۲ر علاوہ ہوگا ویلیو پی ایبل پیکٹ یا پارسل بلا رجسٹری نہیں جا سکتے

بیمہ فیس یک صد روپیہ یا اس کے جزو پر ۲

فیس منی آرڈر		
	دس روپیہ تک	۲ر
	دس روپیہ سے پچیس روپیہ تک	۴ر
	پچیس روپیہ سے پینتیس روپیہ تک	۶ر
	پینتیس روپیہ سے پچاس روپیہ تک	۸ر
	پچاس روپیہ سے ساٹھ روپیہ تک	۱۰ر
	ساٹھ روپے سے پچھتر روپے تک	۱۲ر
	پچھتر روپے سے پچاسی روپے تک	۱۴ر
	پچاسی روپے سے ایکصد روپے تک	عہ

منی آرڈر بذریعہ تار بھیجنے پر تار کا خرچ علاوہ فیس منی آرڈر دینا ہوگا۔

غیر ملکی پوسٹل نرخ

	برطانیہ عظمیٰ اور اسکے مقبوضات کے لئے	یونین کے دوسرے ملکوں کے لئے باستثنائے سیلون ویرتگال ہند	
پوسٹ کارڈ	ار جوابی ۳ر	ار	۲ر
لفافہ (چٹھی) جس کا وزن ایک اونس تک ہو	ار		۳ر
ہر مزید اونس یا جزو اونس پر	ار		ار
پیکٹ کا محصول فی اونس	ار		۱ر
غیر ملکی رجسٹری محصول	۳ر		۶ر

سیلون اور پرتگیز انڈیا کیلئے وہی محصول ہے جو ہندوستان کے لئے ہے

شرح محصول تار برقی ممالک غیر

	(معمولی)
انگلستان براہ عدن و دیگر یورپی ممالک	۴ر
عدن براہ بمبئی فی لفظ	عہر
برٹش ایسٹ و ساؤتھ افریقہ براہ عدن و زنجبار	عہر
آسٹریلیا براہ مدراس	عہر
چین ہانگ کانگ شنگھائی براہ مدراس	عہر
جاپان براہ مدراس	۱۲ر
فرانس و ایران براہ عدن	۴ر
عراق عرب فوجی ملازمین کے لئے	۶ر
آسٹریا روس ٹرکی براہ عدن	۴ر
مکہ براہ عدن	۷ر
بیت المقدس براہ عدن	۸ر
ایران و بندر عباس براہ کراچی	عہر
جرمن ایسٹ افریقہ براہ بمبئی عدن	۴ر
مصر سکندریہ براہ عدن	۶ر

ہندوستان کے لئے تار برقی کا محصول

آرڈنری فی لفظ ار کم سے کم	۱۲
ارجنٹ ، ۲ر ،	عہر

رسوم کورٹ فیس ضروری

رسید	ار
حلف نامہ (معاہدہ یا سرخط)	عہر
برائے فروخت حصص یا ہنڈوی	ار
حق تصنیف یا تالیف کی خریداری	۵ر
طلاق نامہ	۵ر
شراکت نامہ عہ ، انفساخ شراکت	۵ر
تمسک جبکہ عہ سے زائد نہ ہو	۲ر
دس روپیہ سے زیادہ ۵	۴ر
پچاس سے زیادہ یکصد روپیہ تک	۸ر
مار سے مار تک عہ مار سے مار تک	عہ
مار سے للعہ تک للعہ سے مار تک	۴ر
مار سے سار تک للعہ سار سے مار تک	عہ
مار سے مار تک سے مار سے لعار تک	۱۲
لعار سے الف تک	عہ
بیعنامہ جبکہ ۵ سے زائد نہ ہو	۱۴ر
۵ سے مار تک عہ مار سے مار تک	عہ
مار سے مار تک للعہ مار سے للوار تک	عہ
للعار سے مار تک عہ مار سے سار تک	لعہ
سار سے مار تک عہ مار سے مار تک	عہ
مار سے لعار تک عہ لعار سے الف تک	عہ
بیعنامہ بابتہ جائداد جو حدود میونسپلٹی کے اندر ہو فی سیکڑہ	عہ
چارٹر پارٹی	۴ر
مختار نامہ عام ۔ ۵	عہ
مختار نامہ خاص	عہر
شراکتنامہ شراکت کمپنی جبکہ سرمایہ ایک لاکھ سے زیادہ نہ ہو	عہ
دیگر صورت میں	۵
کسی دستکاری یا پیشہ پر پابندی کا اقرار	۵ر

شگون وچار

شگون ۸ بائیں طرف سے داہنے طرف آتے ہوئے سانپ۔ گوہ یا سور کا درشن ہو تو کاریہ سدھ ہوگا اُتم ہوا۔ اگر گاؤں میں داخل ہوتے
ملیں تو شبھ ہے۔ شگون ۹ اگر گیدڑ بائیں تو دل کی مراد پوری ہو اگر سامنے یا پیٹھ کی طرف بولے تو ناقص ہے۔ شگون ۱۰ بائیں طرف یا دائیں
طرف یعنی کسی طرف رو دگی۔ ریچھ یا شار آوے اور رات کو چاروں طرف گیدڑی بولتی ہوئی سُنائی دیوے تو یہ شگون ناقص ہے۔ شگون ۱۱
جب نیلکنٹھ و ہنش آکاش میں اُڑان کرے اور اُس کے درشن ہوں تو وہ سفر بامراد اور کامیاب ہوگا۔ اور منو کامنا پوری ہوگی۔ شگون ۱۲ جو
بائیں جانب شما یا تیتر بیٹھے سُر سے بولے تو شگون بچارنے والے سے کہدو کہ تمہارا کام پورن ہوگا اور دھن کی پراپتی ہوگی۔ شگون
۱۳ جو دائیں جانب بولے تو شگون ناقص ہے۔ شگون ۱۴ جو کوئی شخص بائیں جانب سے دائیں جانب کو مچھ یا مچھلی لئے جاتا ہوا ملے
تو دھن لابھ جلدی ہو اور دائیں سے بائیں جلدی سے آوے تو سکھ پراپتی نت کال اور دھن لابھ ہو۔ شگون ۱۵ جب صبح و شام
میں پربھات اور ملہار گاتا ہوا سنائی دیوے تو شبھ ہے اور اگر صبح کو ملہا اور شام کو پربھات گاتا ہووے تو ناقص ہے۔ شگون ۱۶
جب مرگ بائیں جانب سے دائیں جانب کو جلدی سے آوے تو علی الصباح دھن لابھ ہوگا۔ اور اگر دائیں سے بائیں ہرن آوے
مگر سندھیا سمے سفر کرے تو سفر کامیاب ہووے۔ شگون ۱۷ دائیں طرف اتفاقیہ دو آدمی باتیں کرتے ملیں تو دلی مراد پوری ہووے
شگون ۱۸ اگر بگلا۔ مور۔ سارس۔ طوطا۔ کوئل وغیرہ ان کے درشن شبھ شگون ہیں۔ اگر یہ تمام بائیں جانب بولیں تو سب اچھے ہیں
شگون ۱۹ اگر چلتے وقت اپ شگون ہو یعنی ناقص شگون ہو تو اس شگون میں کاریہ آرنبھ نہ کرے۔ شگون ۲۰ جب شگون نزدیک ہو
تو نزدیک پھل دے۔ اور دور ہووے تو دور پھل دے۔ یعنی دیر والے کا پھل لابھ نہ ہوگا۔ شگون ۲۱ بوقت روانگی کوئی پرند پھل دار
درخت پر بیٹھکر بولے تو جلدی ہی پھل اچھا ہے کاریہ سدھ ہوگا۔ شگون ۲۲ اگر بوقت روانگی چڑیا بولتی اور پھدکتی ہو کبھی اس منڈیر پر اور
کبھی دوسری منڈیر پر بیٹھتی ہوئی ہو تو کاریہ جلد سدھ ہوگا اور جلد کامیابی ہوگی۔ شگون ۲۳ اگر بوقت روانگی خاکروب معہ ٹوکرا گندگی
سامنے آوے تو جس کاریہ کے لئے سفر کرنا بچار کیا وہ کامیاب ہووے۔ اور اگر خالی جھاڑو سمیت سامنے آوے تو کاریہ سدھ ہوگا
مگر کچھ دیر سے ہوگا۔ شگون ۲۴ اگر بوقت روانگی کوئی شخص بائیں ہاتھ پر گھڑا خالی یا کلسہ خالی لئے ملے تو جان لینا کہ شگون ناقص ہے
کاریہ درست نہ ہوگا۔ اور اگر گھڑا یا کلسہ خالی اُلٹا لئے ہووے تو جان لینا کہ شگون کے بچار سے کاریہ میں کامیابی نہ ہوگی بلکہ اُلٹا ہوگا۔
شگون ۲۵ اگر گھڑا پانی سے بھرا ہوا یا کلسہ پانی سے بھرا ہوا سر پر موجود ہوئے تو کاریہ جلد ہوگا۔ اور سرب سدھ ہوگا اور مال
ہاتھ آوے گا۔ شگون ۲۶ اگر گھڑا یا کلسہ پانی سے بھرا ہوا ایک دوسرے اوپر رکھا ہوا سر پر اُٹھایا ہوا ملے تو کاریہ جلد سدھ ہوگا۔ اور
سب پرکار کی کامیابی ہوگی۔ شگون ۲۷ اگر بوقت روانگی کوئی شخص کوئی پھل لئے ہوئے ملے تو جان لو کہ کاریہ میں کامیابی کسی
حد تک ہوگی۔ شگون ۲۸ اگر بوقت روانگی گائے بھینسہ۔ بیل۔ بھیڑ۔ بکری۔ اونٹ۔ گھوڑا۔ ہرن وغیرہ جانور کے درشن ہوں
تو جان لینا کہ کاریہ میں کامیابی ہوگی۔ شگون ۲۹ اگر کتا۔ بلا۔ گیدڑ۔ اود بلاؤ۔ الو۔ کبوتری وغیرہ جانور کا درشن ہووے تو جان لینا کہ
کاریہ میں تکلیف درپیش ہوگی اور کاریہ درست نہ ہوگا۔ شگون ۳۰ اگر بوقت روانگی جانور لڑتے ہوئے ملیں تو جان لینا کہ شگون
ناقص ہے۔ شگون ۳۱ اگر بوقت روانگی شیر دار جانور معہ اپنے بچوں کے ملیں تو جان لینا کہ کاریہ کسی حد تک درست ہوگا۔ شگون مدھم ہے۔
شگون ۳۲ اگر بوقت روانگی جانور لڑتے ہوئے ملیں تو جان لو کہ شگون ناقص ہے۔ دھن کا نقصان ہوگا۔ شگون ۳۳ اگر بوقت روانگی
کوئی جانور جفتی کرتے دکھائی دے تو جان لو کہ کاریہ میں ابھی دیر ہے اور رُکاوٹ ہے۔ شگون ۳۴ اگر بوقت روانگی عورتیں لڑتی یا مرد
لڑتے ملیں تو جان لو کہ شگون ناقص ہے بیکار لڑائی ہوگی کاریہ بگڑ جاوے گا۔ شگون ۳۵ اگر بوقت روانگی عورت یا مرد کوئی کپڑا خرید کر
یا ایک دوسرے کو دیتے ملیں تو جان لینا کہ شگون ناقص ہے۔ کاریہ میں مشکلات درپیش ہوں گی + (باقی آئندہ)

جنتری برآورد تنخواہ ایک روز ہر مہینے کا ایک روپے سے دس ہزار روپے تک

مشاہرہ	۲۸ یوم روپیہ	۲۸ یوم آنہ	۲۸ یوم پائی	۳۰ یوم روپیہ	۳۰ یوم آنہ	۳۰ یوم پائی	۳۱ یوم روپیہ	۳۱ یوم آنہ	۳۱ یوم پائی	مشاہرہ	۲۸ یوم روپیہ	۲۸ یوم آنہ	۲۸ یوم پائی	۳۰ یوم روپیہ	۳۰ یوم آنہ	۳۰ یوم پائی	۳۱ یوم روپیہ	۳۱ یوم آنہ	۳۱ یوم پائی
[illegible]	۰	۰	۷	۰	۰	۶	۰	۰	۶	[illegible]	۱	۵	۹	۱	۴	۳	۱	۳	۷
[illegible]	۰	۱	۲	۰	۱	۱	۰	۱	۰	[illegible]	۱	۶	۳	۱	۴	۱۰	۱	۴	۲
[illegible]	۰	۱	۹	۰	۱	۷	۰	۱	۷	[illegible]	۱	۶	۱۰	۱	۵	۴	۱	۴	۸
[illegible]	۰	۲	۴	۰	۲	۲	۰	۲	۱	[illegible]	۱	۷	۵	۱	۵	۱۰	۱	۵	۲
[illegible]	۰	۲	۱۰	۰	۲	۸	۰	۲	۷	[illegible]	۱	۸	۰	۱	۶	۵	۱	۵	۸
[illegible]	۰	۳	۵	۰	۳	۳	۰	۳	۱	[illegible]	۱	۸	۷	۱	۶	۱۱	۱	۶	۲
[illegible]	۰	۴	۰	۰	۳	۹	۰	۳	۷	[illegible]	۱	۹	۲	۱	۷	۶	۱	۶	۹
[illegible]	۰	۴	۷	۰	۴	۳	۰	۴	۲	[illegible]	۱	۹	۹	۱	۷	۱۱	۱	۷	۳
[illegible]	۰	۵	۲	۰	۴	۱۰	۰	۴	۸	[illegible]	۱	۱۰	۳	۱	۸	۶	۱	۷	۹
[illegible]	۰	۵	۹	۰	۵	۴	۰	۵	۲	[illegible]	۱	۱۰	۱۰	۱	۹	۱	۱	۸	۳
[illegible]	۰	۶	۳	۰	۵	۱۰	۰	۵	۸	[illegible]	۱	۱۱	۵	۱	۹	۸	۱	۸	۹
[illegible]	۰	۶	۱۰	۰	۶	۵	۰	۶	۲	[illegible]	۱	۱۲	۰	۱	۱۰	۲	۱	۹	۳
[illegible]	۰	۷	۵	۰	۶	۱۱	۰	۶	۹	[illegible]	۱	۱۲	۷	۱	۱۰	۸	۱	۹	۱۰
[illegible]	۰	۸	۰	۰	۷	۶	۰	۷	۳	[illegible]	۱	۱۵	۵	۱	۱۳	۴	۱	۱۲	۵
[illegible]	۰	۸	۷	۰	۸	۰	۰	۷	۹	[illegible]	۲	۲	۳	۲	۰	۰	۱	۱۵	۰
[illegible]	۰	۹	۲	۰	۸	۶	۰	۸	۳	[illegible]	۲	۵	۲	۲	۲	۸	۲	۱	۰
[illegible]	۰	۹	۹	۰	۹	۱	۰	۸	۹	[illegible]	۲	۸	۰	۲	۵	۴	۲	۴	۲
[illegible]	۰	۱۰	۳	۰	۹	۷	۰	۹	۳	[illegible]	۲	۱۰	۱۰	۲	۸	۰	۲	۶	۹
[illegible]	۰	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۲	۰	۹	۱۰	[illegible]	۲	۱۳	۹	۲	۱۰	۸	۲	۹	۳
[illegible]	۰	۱۱	۵	۰	۱۰	۸	۰	۱۰	۱۰	[illegible]	۳	۰	۷	۲	۱۳	۴	۲	۱۱	۱۰
[illegible]	۰	۱۲	۰	۰	۱۱	۳	۰	۱۰	۱۰	[illegible]	۳	۳	۵	۳	۰	۰	۲	۱۴	۵
[illegible]	۰	۱۲	۷	۰	۱۱	۹	۰	۱۱	۴	[illegible]	۳	۶	۳	۳	۲	۸	۳	۱	۰
[illegible]	۰	۱۳	۲	۰	۱۲	۳	۰	۱۱	۱۰	۱۰۰	۳	۹	۳	۳	۵	۸	۳	۳	۷
[illegible]	۰	۱۳	۹	۰	۱۲	۱۰	۰	۱۲	۵	۲۰۰	۷	۲	۲	۶	۱۰	۰	۶	۷	۳
[illegible]	۰	۱۴	۳	۰	۱۳	۴	۰	۱۲	۱۱	۳۰۰	۱۰	۱۱	۵	۱۰	۰	۰	۹	۱۰	۱۰
[illegible]	۰	۱۴	۱۰	۰	۱۳	۱۰	۰	۱۳	۵	۴۰۰	۱۴	۴	۷	۱۳	۵	۴	۱۲	۱۴	۵
[illegible]	۰	۱۵	۵	۰	۱۴	۵	۰	۱۳	۱۱	۵۰۰	۱۷	۱۳	۹	۱۶	۱۰	۸	۱۶	۲	۱
[illegible]	۱	۰	۰	۰	۱۴	۱۱	۰	۱۴	۵	۶۰۰	۲۱	۶	۱۰	۲۰	۰	۰	۱۹	۵	۸
[illegible]	۱	۰	۷	۰	۱۵	۶	۰	۱۵	۰	۷۰۰	۲۵	۰	۰	۲۳	۵	۴	۲۲	۹	۳
[illegible]	۱	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۱۵	۶	۸۰۰	۲۸	۹	۲	۲۶	۱۰	۸	۲۵	۱۲	۱۱
[illegible]	۱	۱	۹	۱	۰	۶	۱	۰	۰	۹۰۰	۳۲	۲	۳	۳۰	۰	۰	۲۹	۰	۶
[illegible]	۱	۲	۳	۱	۱	۱	۱	۰	۶	۱۰۰۰	۳۵	۱۱	۵	۳۳	۵	۴	۳۲	۴	۲
[illegible]	۱	۲	۱۰	۱	۱	۷	۱	۱	۰	۲۰۰۰	۷۱	۶	۱۰	۶۶	۱۰	۸	۶۴	۸	۳
[illegible]	۱	۳	۵	۱	۲	۲	۱	۷	۷	۳۰۰۰	۱۰۷	۲	۳	۱۰۰	۰	۰	۹۶	۱۲	۵
[illegible]	۱	۴	۰	۱	۲	۸	۱	۲	۱	۴۰۰۰	۱۴۳	۱۳	۹	۱۳۳	۵	۴	۱۲۹	۰	۶
[illegible]	۱	۴	۷	۱	۳	۲	۱	۲	۷	۵۰۰۰	۱۷۸	۹	۲	۱۶۶	۱۰	۸	۱۶۱	۴	۸
[illegible]	۱	۵	۲	۱	۳	۹	۱	۳	۱	۱۰۰۰۰	۳۵۷	۲	۳	۳۳۳	۵	۴	۳۲۲	۹	۳

مختصر ریلوے قواعد

ٹکٹ - ہر ایک مسافر کو چاہیئے کہ وہ گاڑی چھوٹنے سے کم از کم بیس منٹ بیشتر اسٹیشن پر پہنچکر منزل مقصود کیلئے ٹکٹ خرید کرے۔ بچوں کا کرایہ تین سال کی عمر کے بچے کا کرایہ معاف ہوا در تین سال سے زائد بارہ سال کی عمر کے بچے کا نصف کرایہ لگتا ہے واپسی ٹکٹ صرف عدم گنجائش مسافران یا دیگر وجہ سے مسافر اپنے ٹکٹ کو استعمال نہ کر سکا ہو تو وہ گاڑی کے چھوٹنے کے وقت سے ۳ گھنٹے بعد تک سٹیشن ماسٹر کو دیکر واپس کر سکتا ہے انقطاع سفر ہر ایک مسافر جس کے پاس ۱۰۰ میل سے زائد سفر کر نیکا ٹکٹ موجود ہے ہر ایک سو میل پر ۲۴ گھنٹے کے لئے ٹھہر سکتا ہے مگر ٹھہرنے کے سٹیشن پر دستخط سٹیشن ماسٹر سے ٹکٹ پر کرالینا چاہیئے مسافر جاپانیا ٹکٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کسی مسافر نے ٹکٹ خرید اگر کسی وجہ سے سفر کرنے سے مجبور ہوا اور اس ٹکٹ سے فائدہ نہ اٹھا سکتا ہو تو سٹیشن ماسٹر کو درخواست دینے پر اس کے ٹکٹ واپس لئے جاسکتے ہیں اور اس کا کرایہ واپس دیدیا جائیگا۔ اگر کسی خاص درجے میں جگہ نہ ہونیکے باعث ادنیٰ درجہ میں سفر کیا گیا ہو تو ایسی حالت میں گارڈ کو اطلاع دیکر منزل کو پہنچکر بقیہ رقم ریلوے سے واپس لی جاسکتی ہے۔

اسباب - ہر ایک مسافر کا اسباب تولا جاتا ہے اور مندرجہ ذیل درجہ کے ٹکٹ پر حسب ذیل وزن کا اسباب بغیر مزید کرایہ کے لیجانے کا حق ہے۔ ہر ایک اول درجہ کے ٹکٹ پر ۱½ من ۰ ہر ایک انٹر کے ٹکٹ پر ۲۰ سیر ۰ ہر ایک دوم درجہ کے ٹکٹ پر ۳۰ سیر ۰ ہر ایک تیسرے درجہ کے ٹکٹ پر ۱۵ سیر۔ نصف ٹکٹ کے لئے نصف وزن لیا جاتا ہے۔ اس سے زائد وزن کے اسباب کو پہلے بک کرالینا چاہیئے۔ پارسل کا کرایہ حسب ذیل شرح سے چارج کیا جاتا ہے۔ پارسل کا کرایہ یا تو وزن پر لیا جاتا ہے یا بہ پیمائش گھی تیل اور کھانے کا سامان وزن سے مستثنے رہیگا اور بلا محصول لیجایا جاسکتا ہے۔ پیمائش میں مکعب فٹ ۱ سیر کے برابر شمار ہوتا ہے۔ پارسل میں ڈھائی سیر وزن کا کرایہ ہر ایک ۵۰ میل یا اسکے جزو پر ہر زائد سے زائد ۲ تک اور ۵ سیر کا ہر ایک ۵۰ میل یا اس کے جزو پر ہر زائد سے زائد ۲ تک ہے۔ لگیج میں کم از کم ۱۰ سیر وزن کا کرایہ چارج ہوتا ہے۔

کرایہ پارسل و لگیج

فاصلہ بحساب میل	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۲۵ میل	۵ر	۵ر	۵ر	۵ر	۵ر	۵ر	۵ر	۵ر
۲۵ میل سے ۵۰ تک	۵ر	۵ر	۸ر	۵ر	۷ر	۸ر	۹ر	۱۰ر
۵۰ سے ۷۵ تک	۵ر	۵ر	۷ر	۹ر	۱۱ر	۱۳ر	۱۴ر	۱۵ر
۷۵ ″ ۱۰۰ ″	۵ر	۶ر	۹ر	۱۲ر	۱۴ر	عہر	[illegible]	[illegible]
۱۰۰ ″ ۱۲۵ ″	۵ر	۸ر	۱۱ر	۱۴ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۱۲۵ ″ ۱۵۰ ″	۵ر	۸ر	۱۳ر	عہر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۱۵۰ ″ ۱۷۵ ″	۵ر	۹ر	۱۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۱۷۵ ″ ۲۰۰ ″	۵ر	۹ر	۱۴ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۲۰۰ ″ ۲۲۵ ″	۵ر	۱۰ر	۱۵ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۲۲۵ ″ ۲۵۰ ″	۶ر	۱۱ر	عہر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۲۵۰ ″ ۲۷۵ ″	۶ر	۱۲ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۲۷۵ ″ ۳۰۰ ″	۶ر	۱۲ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۳۰۰ ″ ۳۲۵ ″	۷ر	۱۳ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۳۲۵ ″ ۳۵۰ ″	۷ر	۱۴ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۳۵۰ ″ ۳۷۵ ″	۷ر	۱۴ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۳۷۵ ″ ۴۰۰ ″	۸ر	۱۵ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۴۰۰ ″ ۴۲۵ ″	۸ر	عہر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۴۲۵ ″ ۴۵۰ ″	۸ر	عہر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۴۵۰ ″ ۴۷۵ ″	۹ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۴۷۵ ″ ۵۰۰ ″	۹ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

فاصلہ بحساب میل	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۵۰۰ سے ۵۲۵ تک	۹ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۵۲۵ ″ ۵۵۰ ″	۱۰ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۵۰ ″ ۵۷۵ ″	۱۰ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۵۷۵ ″ ۶۰۰ ″	۱۱ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۶۰۰ ″ ۶۲۵ ″	۱۱ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۶۲۵ ″ ۶۵۰ ″	۱۱ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۶۵۰ ″ ۶۷۵ ″	۱۲ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۶۷۵ ″ ۷۰۰ ″	۱۲ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۷۰۰ ″ ۷۲۵ ″	۱۲ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۷۲۵ ″ ۷۵۰ ″	۱۳ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۷۵۰ ″ ۷۷۵ ″	۱۳ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۷۷۵ ″ ۸۰۰ ″	۱۳ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۸۰۰ ″ ۸۲۵ ″	۱۴ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۸۲۵ ″ ۸۵۰ ″	۱۴ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۸۵۰ ″ ۸۷۵ ″	۱۴ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۸۷۵ ″ ۹۰۰ ″	۱۵ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۹۰۰ ″ ۹۲۵ ″	۱۵ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۹۲۵ ″ ۹۵۰ ″	۱۵ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۹۵۰ ″ ۹۷۵ ″	۱۵ر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۹۷۵ ″ ۱۰۰۰ ″	عہر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

سپردگی مال ریلوے - اگر کوئی مسافر اپنا مال اثنا سفر میں ریلوے کی ذمہ داری پر کسی سٹیشن پر محفوظ رکھنا چاہے تو ہر سٹیشن پر جہاں جاہے چھوڑ سکتا ہے کلوک روم میں سٹیشن پر محفوظ رہیگا۔ کرایہ فی پیکج اول ۲۴ گھنٹے کا ۲ر اور دیگر ہر ۲۴ گھنٹہ کا ۱ر لیا جائیگا۔ اور اسکی رسید ریلوے سے ملیگی جو بوقت واپسی مال داخل کرنی پڑے گی۔ ایسے پیکج ایک ماہ تک محفوظ رکھے جاسکیں گے بعدہٗ لاوارث خیال کئے جاویں گے۔

چارپائی و بائیسکل کا کرایہ خواہ کیسی ہی ہو ایک من کا محصول لیا جاویگا۔ البتہ چارپائی اگر کھلی ہوئی ہو اور واقعی وزن میں کم ہو تو وزن ہو کر کرایہ لیا جاوے گا۔

کتا ہمراہ لیجانے کا قاعدہ و کرایہ

کتے کا کرایہ فی ۵۰ میل یا اسکے جزو حصہ کا ۶ر پڑے گا کتے کی گردن میں پٹہ اور زنجیر ہونا اور اسکے کھانے پینے کا انتظام ذمہ مالک لازمی ہے مگر مسافر اپنے ساتھ گاڑی میں کتا نہیں لیجا سکتا تا وقتیکہ سٹیشن ماسٹر اور دیگر مسافروں کی اجازت نہ حاصل کرلیوے اور ایسی حالت میں بھی ڈبل کرایہ دینا پڑے گا اور اثنا سفر میں اگر نا راضی دیگر مسافران کی ہو تو نکال دینا پڑے گا۔ اور محصول واپس نہ ہوگا۔ البتہ سپیشل ٹرین ہو یا ریزرو گاڑی ہو تو اپنے ہمراہ تین کتے تک لے جا سکتا ہے۔ کرایہ اس کا اول الذکر ۶ر ۵۰ میل فی کتا پڑے گا۔

گھر بیٹھے علم حب تسخیر ہمزاد، تاش کے جادو مردہ روحوں سے بات چیت ٹیلی پیتھی کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے کتب ذیل منگوائیے

قانون محبت عرف کالا جادو

کہاں ہیں وہ بدنصیب عشاق جو دیدار یار کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کو آمادہ ہیں۔ آئیں اور کالا جادو کے ذریعہ وصل یار کا لطف حاصل کریں۔ کالا جادو کوئی عام بازاری کتاب نہیں جسمیں ناممکن العمل اور لایعنی عملیات ہوں بلکہ اسمیں معشوقوں کو تسخیر کرنے اور ان کو اپنی محبت میں مبتلا کرنیکے وہ عجیب و غریب خفیہ جادو درج ہیں جن کو عمل کرنیکے لئے کسی جنگل یا پہاڑ پر نہیں جانا پڑتا بلکہ گھر بیٹھے چند منٹوں میں ہر ایک عمل کی تکمیل ہو جاتی ہے اور پھر وہ عمل عمر بھر کے لئے کارآمد ہو جاتا ہے۔ کالا جادو کے مطالعہ سے آپ کا دامن امید گوہر مراد سے بھر جائے گا۔ اور ایسی خوشی حاصل ہوگی کہ لفظوں میں اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا کورس کے ذریعے پتھر دل معشوق کو اپنا مطیع کرنا۔ نیز دشمن کو زیر کرکے اپنا فرمانبردار بنا لینا آپ کے لئے کچھ مشکل نہ ہوگا۔ نیز کالا جادو میں آپ کو وہ راز ملیں گے جن کے ذریعہ آپ انسان کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر سب کو دیکھیں مگر آپ کو کوئی نہ دیکھ سکے گا۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت فی جلد صرف دو روپے ہے مگر ناپسندانہ یا غلط نکلنے پر دوگنی کی شرط ہے

مُردے بھی باتیں کرنے لگے

"ہاؤ ٹو سپیک ود دی ڈیڈ" کا نہایت سلیس اور بامحاورہ اردو ترجمہ۔ سر آرتھر کانن ڈائیل اور لنڈن کے ماہران علم ارواح کی انتہائی کوششوں کا نتیجہ۔ مرحوم ارواح سے براہ راست بات چیت کرنے کا جامع اور مکمل کورس۔ لنڈن میں اس کتاب کی مقبولیت کا یہ حال ہے کہ باوجودیکہ اس کتاب کے درجنوں اڈیشن چھپکر ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو چکے ہیں۔ مانگ برابر جاری ہے۔ اس کے ہر ایک باب کو عملی شکل میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اول سے آخر تک تمام عبارت اتنی سلیس ہے کہ بچہ بھی پڑھ کر سمجھ لے۔ مترجم کی قابلیت قابل داد ہے کہ ایک روکھے مضمون میں خاص دلکشی و دلفریبی پیدا کر دی ہے۔ نہایت ہی سنسنی خیز اور کارآمد کتاب ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو روحوں کی ہستی کو نہیں مانتے۔ آئیں اور اس عجیب و غریب کتاب کی مدد سے مجسم شکل میں ارواح کو دیکھیں ان سے مصافحہ کریں تبادلۂ خیالات کریں۔ اور سب سے بڑھ کر ان کے ساتھ شریک محفل ہوں۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے اس بے نظیر کتاب کی قیمت فی جلد صرف تین روپے (۳ر)

تاش کے کھیلوں کا مکمل کورس باتصویر

۵۰۰ روپیہ نقد انعام اس شخص کو دیا جائیگا جو یہ ثابت کردے کہ اردو زبان میں تاش کے کھیلوں پر ایسی جامع اور مکمل کتاب تاش میجک بک سے بڑھ کر اس سے پہلے بھی شائع ہو چکی ہے۔ یوں تو آپ نے تاش کے کھیلوں کی عام بازاری کتابیں بہت دیکھی ہوں گی۔ مگر حال ہی میں ایک مستند میجکل پروفیسر نے نہایت آسان اور بالکل سہل تاش کے کھیلوں کی ایک ایسی مکمل کتاب تیار کی ہے کہ جس کے پڑھنے سے بالکل انجان سے انجان آدمی بھی تاش کے کھیلوں سے پورا واقف ہو کر پروفیسر بن جاتا ہے اس لاجواب اور بے نظیر کتاب میں تاش کے وہ کھیل درج ہیں کہ جب اس کتاب کا کوئی ایک کھیل دکھایا جاتا ہے تو لوگ جادو اور مسمریزم خیال کرتے ہیں۔ یہ وہ لاثانی اور گرانقدر کتاب ہے کہ جس نے میجکل دنیا میں ہلچل ڈال دی ہے۔ اور جس کے ایک ایک کھیل کیلئے پروفیسر صاحب کو پچاس پچاس روپیہ دیکر بھی لوگ سیکھنے کے مشتاق تھے۔ لیکن پروفیسر صاحب پھر بھی یہ خاص کھیل کسی کو نہ بتلاتے تھے۔ مگر ہم نے بہت سا روپیہ خرچ کرکے بہت عمدہ طریقے سے فائدہ عام کے لئے باتصویر نہایت اعلیٰ چھپوائی ہے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کھیلوں کے تمام طریقے نہایت آسان اور سہل عبارت میں باتصویر دئے گئے ہیں۔ بس کتاب مذکورہ کو پڑھتے جاؤ اور اپنے ہاتھ سے کھیل کرتے جاؤ۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت تاش میجک بک باتصویر فی جلد صرف تین روپے فوراً طلب کریں۔ ورنہ دوسرے اڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ یہ کتاب بالکل نئی چھپی ہے۔ اور اس کی مانگ بہت زیادہ ہے۔

اسرار ہمزاد عرف زندہ جادو

ہمارا دعویٰ ہے کہ تسخیر ہمزاد پر ایسی نایاب کتاب آج تک دنیا میں کبھی شائع نہیں ہوئی۔ اسمیں ہمزاد کو تسخیر کرنے کے تمام قدیم و جدید طریقوں کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ہمارے اسباق نہایت سیدھے سادے اور آسان ہیں جن کے ذریعہ ہمزاد پہلے ہی دن نظر آجاتا ہے۔ مگر رفتہ رفتہ مشق سے چند روز میں ہی آپ سے ہمکلام ہوگا۔ اور آپ کا ہر مشکل سے مشکل کام فوراً سرانجام دیگا۔ تسخیر ہمزاد کے ذریعہ ہر شخص گھر بیٹھے انواع و اقسام کے کھانے بے موسم کے پھل نیز دور دراز کی خبریں پل بھر میں منگوا سکتا ہے۔ نیز پتھر دل معشوق کو فوراً مطیع کرنا۔ گمشدہ کا پتہ لگانا۔ موت کا حال ۶ ماہ قبل معلوم کرنا عامل کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تسخیر کے دنوں میں آپ کی کائنات میں ایک نمایاں تبدیلی واقع ہوگی اور ہمزاد آپ کو بے اندازہ دولت سے مالا مال کر دیگا۔ ہندو۔ مسلمان۔ سکھ۔ عیسائی بچہ۔ بوڑھا ہر شخص ہمزاد کو تسخیر کرکے دنیا جہان کی تمام خواہشیں پوری کر سکتا ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے تسخیر ہمزاد کے مکمل کورس کی رعایتی قیمت بمعہ مکمل ہدایات وغیرہ صرف تین روپے اور ساتھ ہی ہمزاد پہلے روز دیکھنے کی ترکیب" ہمراہ مفت بھیجی جاتی ہے۔

ٹیلی پیتھی کا مکمل کورس

ٹیلی پیتھی ایک نئی سائنس ہے جس کے راز سے ابھی تک اہل ہندوستان ناواقف ہیں۔ جس طرح بے تار کی تار رسانی سے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک خبر پہنچائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اس سائنس کی بدولت دو ہم خیال آدمی چاہے ان کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہو تبادلۂ خیالات کر سکتے ہیں۔ یہ صرف یہی نہیں اس سائنس کی مدد سے بدچلن اور آوارہ آدمیوں کی درستی کی جا سکتی ہے۔ پتھر دل معشوق کے دل کو گھر بیٹھے اپنی طرف پھیرا جا سکتا ہے۔ حاکم یا افسر کو مہربان بنایا جا سکتا ہے۔ دشمن کو مغلوب اور زیر کیا جا سکتا ہے۔ نیز فاصلے پر پڑے ہوئے مریض کا علاج نہایت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ الغرض یہ اردو میں اپنی قسم کی پہلی کتاب ہے۔ اور اس کے ہر ایک باب کو عملی سبق کی شکل میں ترتیب دیا گیا ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے فی جلد صرف

دو روپے ۲ر

فالنامہ تاش عرف قسمت کے کاروبار باتصویر

حال ہی میں یورپ والوں نے ایک نئی سائنس کی دریافت کی ہے۔ یعنی صرف تاش کے پتوں سے قسمت کا حال معلوم کر لینا۔ اب نجومیوں اور جوتشیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ ہر شخص تاش کے ذریعہ نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی قسمت کا حال آناً فاناً معلوم کر لیا کرے گا۔ اس کے طریقے نہایت آسان اور عام فہم ہیں جن کو بچہ بھی جانے ہر شخص کی قسمت کا حال فوراً بتلا سکتا ہے۔ کتاب فالنامہ تاش کے ذریعہ ہر شخص کے زمانہ ماضی، حال، مستقبل کے حالات معلوم کئے جا سکتے ہیں۔ عورت مرد۔ بچہ۔ بوڑھا۔ جوان ہر مذہب و ملت کا آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قیمت فالنامہ تاش عرف قسمت کے کارڈ باتصویر جو کہ اس فن پر ایک جامع اور مکمل کورس ہے جس کے انگریزی میں کئی اڈیشن شائع ہو چکے ہیں فی جلد صرف دو روپے۔ مگر تمام کتابوں کے خریدار کو یہ کتاب مفت ملے گی۔

تمام کتب ملنے کا پتہ دفتر آل انڈیا میجکل ہاؤس (کے ڈیپارٹمنٹ ۱) ملتان شہر

بے روزگاروں کے لئے

ایک پیسہ کی پونجی سے ایک روپیہ آٹھ آنہ روزانہ کمالو

ایک دھیلے کی سیاہ مرچ اور ایک دھیلے کے چاول اب ان میں سے ہر ایک پائی سو دانہ گن کر لو اور دو سو پچاس پتے نیم کے۔ اب ان تینوں چیزوں کو پیس ڈالو اور دو سو چھوٹی سی پڑیاں بناؤ۔ کیونکہ ایک کل وزن دو سو رتی ہوگا۔ اب تم ان پڑیوں کو ایک پیسہ فی پڑیہ فروخت کرو۔ یہ پڑیہ درد شقیقہ یعنی درد آدھا سیسی کا مجرب و بے خطا علاج ہے۔ صدہا مریض اس سے شفا پا چکے ہیں۔ ان کو آپ چل پھر کر قصبہ گاؤں شہر سب فروخت کر سکتے ہیں۔ ایک دن ان کے سونگھنے سے برسوں کا درد سر چلا جاتا ہے۔ سورج نکلنے سے پیشتر اس طرف کے ناک میں سونگھے جس طرف درد ہو۔ تین چٹکی سونگھنی چاہیئے۔ یہ دوا ایک سال تک خراب نہیں ہوتی۔

ایک آنہ کے سرمایہ سے ۸ر پیدا کر لو

نمک طعام آدھ سیر دو پیسے کا مرچ سیاہ چھ ماشہ سونٹھ ۱ تولہ دونوں چیزیں۔ سکی کوئلہ زین جوت کی لکڑی کا ایک چھٹانک مولسری کی پسی ہوئی خشک چھال ایک چھٹانک ان پانچوں چیزوں کو پیس کر ملا لو یہ دانت صاف کرنے کا منجن تیار ہو گیا جو دانت صاف کرے گا اور بالکل سفید نکال دیگا۔ منہ کے بادی پانی کو خارج کریگا۔ دانت کی جڑوں کو مضبوط کریگا اس کی ۳۲ پڑیہ بناؤ اور ایک پیسہ پڑیہ بیچو۔

دو آنہ کے سرمایہ سے دو روپیہ دو آنہ پیدا کرو

سرمہ سیاہ ڈھائی تولہ دو پیسے کا سونف ایک پیسہ کا دانہ الائچی ۳ ماشہ والی شیشی ایک ارکی ایکدر جن اول سونف کو ۵ تولہ پانی میں جوش دو جب نصف رہ جائے تو سرمہ کو باریک پیسکر ہر دو کو ملا کر سونف کا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالکر گھوٹو جب سب پانی خشک ہو جائے سرمہ بادیانی تیار ہے۔ بارہ شیشیوں میں بھر کر تین آنہ فی شیشی فروخت کرو۔ یہ سرمہ نظر کو تیز کرتا ہو آنکھوں کو قوت دیتا ہو۔

دلچسپ معلومات

آسٹریلیا میں ایک شخص ہو جسکی عمر تئیس سال کی ہو۔ مگر اب تک اس کا ایک دانت بھی نہیں پیدا ہوا۔ لیکن وہ چنے اور بادام بھی چبا کر کھا لیتا ہے۔

پیرس میں ایک روسی چوہوں کو تعلیم دے رہا ہو آسنے ایک چھوٹی سی ریل بنائی ہے اور اسی کے مطابق ایک ٹرین بھی جسکو چلانیوالے بھی چوہے ہیں اور مسافر بھی چوہے ہیں۔

آنڈے میں ایک ماہی گیر نے مچھلی شکار کی ہو جس کا اگلا دھڑ انسان کا اور پچھلا مچھلی کا ہے۔

پچھلے دنوں روم کے علاقہ میں ایک غلام بھی تھا جو مٹی۔ پتھر۔ اور لوہے سخت ترین اشیا رکھا کر ہضم کر جاتا تھا۔ اسنے عوام الناس کو اپنی عجیب طاقت ہاضمہ سے حیران کر دیا۔ اسنے پہلے مٹی کھانیکی مشق کی۔ رفتہ رفتہ وہ کوئلے۔ پتھر اور لوہے کے کیل کانٹے کھانے لگ گیا۔ اور اسنے چاقو وغیرہ تیز اور دھاردار آلات شرط لگا کر کھا لئے جو صاف ہضم کر گیا۔ ایک دفعہ اسنے ایکدم ۱۵ چاقو کھا لئے اور بہت سا روپیہ جیتا۔ اس دفعہ اس کو تکلیف تو بہت ہوئی مگر سب اسکے پیٹ میں گل گئے اس بلا نوش آدمی نے مختلف وقتوں میں تین چار من لوہا کھایا۔ آخر چاقو کے نگلنے سے ہی اس کی موت واقع ہوئی۔

ایک ڈاکٹر نے تجربہ کیا ہو کہ نمک علاوہ کھانے کے اور بھی مندرجہ ذیل باتوں میں کام آتا ہو اگر کسی کے سر میں درد ہو تو نمک کی ایک چٹکی زبان پر رکھکر دس منٹ کے بعد ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پینے سے درد سر ہٹ جاتا ہو۔ اگر پسا ہوا نمک بطور منجن کے استعمال کریں تو دانت صاف کرنے اور مسوڑھوں کو سخت کرنے میں بہت مفید ہے۔

اگر پانی میں قدرے نمک گھولکر اسمیں گلدستہ رکھدیں تو اس کے پھول بہت دنوں تک مرجھاتے نہیں ✣

[illegible]

تتھ وار یکھائے گذشتہ تین سال برائے استعمال عرائض نویسان و وکلاء وغیرہ بابت ۱۹۲۹ء مطابق سمت ۱۹۸۶ بکرم

تاریخ انگریزی	جنوری ۱۹۲۹ء سمت ۱۹۸۵ پوہ بدی	فروری ۱۹۲۹ء سمت ۱۹۸۵ ماگھ بدی	مارچ ۱۹۲۹ء سمت ۱۹۸۵ پھاگن بدی	اپریل ۱۹۲۹ء سمت ۱۹۸۵ چیت بدی	مئی ۱۹۲۹ء سمت ۱۹۸۶ بیساکھ بدی	جون ۱۹۲۹ء سمت ۱۹۸۶ جیٹھ بدی	جولائی ۱۹۲۹ء سمت ۱۹۸۶ اساڑھ بدی	اگست ۱۹۲۹ء سمت ۱۹۸۶ ساون بدی	ستمبر ۱۹۲۹ء سمت ۱۹۸۶ بھادوں بدی	اکتوبر ۱۹۲۹ء سمت ۱۹۸۶ اسوج بدی	نومبر ۱۹۲۹ء سمت ۱۹۸۶ کاتک بدی	دسمبر ۱۹۲۹ء سمت ۱۹۸۶ منگھر بدی
۱	۶	۷	۶	۷	۷	۹	۹	۱۱	۱۳	۱۳ ۱۴	اماوس	اماوس
۲	۷	۸	۷	۸	۸	۱۰	۱۰	۱۲	۱۴	اماوس	کاتک شدی ایکم	منگھر شدی ایکم
۳	۸	۹	۸	۹	۹	۱۱	۱۱	۱۳	پورنماشی	اسوج شدی ایکم	۲	۲
۴	۹	۱۰	۹	۱۰	۱۰	۱۲	۱۲	۱۴	بھادوں بدی ایکم	۲	۳	۳
۵	۱۰	۱۱	۹	۱۱	۱۱	۱۳	۱۳ ۱۴	اماوس	۲	۳	۴	۴
۶	۱۱	۱۲	۱۰	۱۲	۱۲	۱۴	پورنماشی	ساون شدی ایکم دوج	۳	۴	۵	۵
۷	۱۲	۱۳	۱۱	۱۳	۱۳	اماوس	اساڑھ شدی ایکم	۳	۴	۵	۶	۶
۸	۱۳	۱۴	۱۲	۱۴	۱۴	جیٹھ شدی ایکم	۲	۴	۵	۶	۷	۷
۹	۱۴	اماوس	۱۳	اماوس	اماوس	۲	۳	۵	۶	۶	۸	۸
۱۰	اماوس	ماگھ شدی ایکم	۱۴	چیت شدی ایکم	بیساکھ شدی ایکم	۳	۴	۶	۷	۷	۹	۹
۱۱	پوہ شدی ایکم	۲	اماوس	۲	۲ ۳	۴	۵	۷	۸	۸	۹	۱۰
۱۲	۲	۳	پھاگن شدی ایکم	۳	۴	۵	۶	۸	۹	۹	۱۰	۱۱
۱۳	۳	۴	۲	۴	۵	۶ ۷	۷	۹	۱۰	۱۰	۱۱	۱۲
۱۴	۳	۵	۳	۵	۶	۸	۸	۹	۱۱	۱۱	۱۲	۱۳
۱۵	۴	۶	۴	۶	۷	۹	۹	۱۰	۱۲	۱۲	۱۳	۱۴
۱۶	۵ ۶	۷	۵ ۶	۷	۸	۱۰	۱۰	۱۱	۱۳	۱۳	پورنماشی	پورنماشی
۱۷	۷	۸	۷	۸	۹	۱۱	۱۱	۱۲	۱۴	۱۴	منگھر بدی ایکم	پوہ بدی ایکم
۱۸	۸	۹	۸	۹	۱۰	۱۲	۱۲	۱۳	پورنماشی	پورنماشی	۲	۲
۱۹	۹	۱۰	۹	۱۰ ۱۱	۱۱	۱۳	۱۳	۱۴	اسوج بدی ایکم	کاتک بدی ایکم	۳	۳
۲۰	۱۰	۱۱ ۱۲	۱۰	۱۲	۱۲	۱۴	۱۴	پورنماشی	۲	۲	۴	۴ ۵
۲۱	۱۱	۱۳	۱۱	۱۳	۱۳	۱۴	پورنماشی	بھادوں بدی ایکم	۳	۳	۵	۶
۲۲		۱۴	۱۲	۱۴	۱۴	پورنماشی	ساون بدی ایکم	۲	۴	۴	۶	۷
۲۳	۱۳	پورنماشی	۱۳	پورنماشی	پورنماشی	اساڑھ بدی ایکم	۲	۳	۵	۵	۷	۸
۲۴	۱۴	پھاگن بدی ایکم	۱۴	بیساکھ بدی ایکم	جیٹھ بدی ایکم	۲	۳	۴	۶	۶ ۷	۸	۹
۲۵	پورنماشی	۲	پورنماشی	۲	۲	۳	۴	۵	۷	۸	۹	۱۰
۲۶	ماگھ بدی ایکم	۳	چیت بدی ایکم	۳	۳	۴	۵	۶	۸	۹	۱۰	۱۱
۲۷	۲	۴	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۲۸	۳	۵	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
۲۹	۴	۰	۴	۵	۶	۷	۸	۹ ۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
۳۰	۵	۰	۵	۶	۷	۸	۹	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	اماوس
۳۱	۶	۰	۶	۰	۸	۰	۱۰	۱۲	۰	۱۴	۰	پوہ شدی ایکم

تتھ وار یکھائے گذشتہ تین سال برائے استعمال عرائض نویسان و وکلاء وغیرہ بابت ۱۹۲۸ء مطابق سمت ۱۹۸۵ بکرم

تاریخ انگریزی	جنوری ۱۹۲۸ء سمت ۱۹۸۴ پوہ شدی	فروری ۱۹۲۸ء سمت ۱۹۸۴ ماگھ شدی	مارچ ۱۹۲۸ء سمت ۱۹۸۴ پھاگن شدی	اپریل ۱۹۲۸ء سمت ۱۹۸۵ چیت شدی	مئی ۱۹۲۸ء سمت ۱۹۸۵ بیساکھ شدی	جون ۱۹۲۸ء سمت ۱۹۸۵ جیٹھ شدی	جولائی ۱۹۲۸ء سمت ۱۹۸۵ اساڑھ شدی	اگست ۱۹۲۸ء سمت ۱۹۸۵ ساون شدی	ستمبر ۱۹۲۸ء سمت ۱۹۸۵ بھادوں بدی	اکتوبر ۱۹۲۸ء سمت ۱۹۸۵ اسوج بدی	نومبر ۱۹۲۸ء سمت ۱۹۸۵ کاتک بدی	دسمبر ۱۹۲۸ء سمت ۱۹۸۵ مگھر بدی
۱	۹	۱۰-۱۱	۱۰	۱۲	۳	۳	۱۴	پورنماشی	بھادوں بدی ایکم	۲	۴	۵
۲	۱۰	۱۲	۱۱	۱۳	۱۳	۱۲	۱۴	ساون بدی ایکم	۳	۳	۵	۶
۳	۱۱	۱۳	۱۲	۱۳	۱۴	پورنماشی	پورنماشی	۲	۴	۴	۶	۷
۴	۱۲	۱۴	۱۳	۱۴	پورنماشی	اساڑھ بدی ایکم	ساون بدی ایکم	۳	۵	۵	۷	۸
۵	۱۳	پورنماشی	۱۴	پورنماشی	جیٹھ بدی ایکم	۲	۲	۴	۶	۶	۸	۹
۶	۱۴	پھاگن بدی ایکم	پورنماشی	بیساکھ بدی ایکم	۲	۳	۳	۵	۷	۷	۹	۱۰
۷	پورنماشی	۲	چیت بدی ایکم	۲	۳	۴	۴	۶	۸	۸	۱۰	۱۱
۸	ماگھ بدی ایکم	۳	۲	۳	۳	۵	۵-۶	۷	۹	۹	۱۱	۱۲
۹	۲	۴	۳	۴	۴	۶	۷	۸	۱۰	۱۰	۱۲	۱۳
۱۰	۳	۵	۴	۵	۵	۷	۸	۹-۱۰	۱۱	۱۱	۱۳	۱۴
۱۱	۴	۶	۵	۶	۶	۸	۹	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۴
۱۲	۵	۶	۶	۷	۷	۹	۱۰	۱۲	۱۳	۱۳	اماوس	اماوس
۱۳	۶	۷	۷	۸	۸	۱۰	۱۱	۱۳	۱۴	۱۴	کاتک شدی ایکم	مگھر شدی ایکم
۱۴	۷	۸	۸	۹	۹	۱۱	۱۲	۱۴	اماوس	اماوس	۲	۲
۱۵	۸	۹	۹	۱۰	۱۰	۱۲	۱۳	اماوس	بھادوں شدی ایکم	اسوج شدی ایکم	۳	۳
۱۶	۹	۱۰	۹	۱۱	۱۱	۱۳	۱۴	ساون شدی ایکم	۲	۲	۴	۴
۱۷	۱۰	۱۱	۱۰	۱۲	۱۲	پورنماشی	اماوس	۲	۳	۳	۵	۵
۱۸	۱۱	۱۲	۱۱	۱۳	۱۳	اساڑھ شدی ایکم	ساون شدی ایکم	۳	۴	۴	۶	۶
۱۹	۱۲	۱۳	۱۲-۱۳	۱۴	۱۴	۲	۲	۴	۵	۵	۷	۷
۲۰	۱۳	۱۴	۱۴	اماوس	اماوس	۳	۳	۵	۶	۶	۸	۸
۲۱	۱۴	اماوس	اماوس	بیساکھ شدی ایکم	جیٹھ شدی ایکم	۴	۴	۶	۷	۷	۹	۹
۲۲	اماوس	پھاگن شدی ایکم	چیت شدی ایکم	۲-۳	۲	۵	۵	۷	۸	۸	۱۰	۱۰
۲۳	ماگھ شدی ایکم	۲	۲	۴	۳	۶	۶	۸	۹	۹	۱۱	۱۱
۲۴	۲	۳	۳	۵	۴	۷	۷	۹	۱۰	۱۰	۱۲	۱۲-۱۳
۲۵	۳	۴-۵	۴	۶	۵	۸	۸	۱۰	۱۱	۱۱	۱۳	۱۴
۲۶	۴	۶	۵	۷	۶	۹	۹	۱۱	۱۲	۱۲	۱۴	پورنماشی
۲۷	۵	۷	۶	۸	۷	۱۰	۱۰	۱۲	۱۳	۱۳	پورنماشی	پوہ بدی ایکم
۲۸	۶	۸	۷	۹	۸	۱۱	۱۱	۱۳	۱۴	پورنماشی	مگھر بدی ایکم	
۲۹	۷	۹	۸	۱۰	۹	۱۲	۱۲	۱۳	پورنماشی	کاتک بدی ایکم	۲	۳
۳۰	۸	۰	۹	۱۱	۱۰	۱۳	۱۳	۱۴	اسوج بدی ایکم	۲	۳-۴	۴
۳۱	۹	۰	۱۰-۱۱	۰	۱۱	۰	۱۴	پورنماشی	۰	۳	۰	۵

رسالہ مست قلندر لاہور (القصور)

آپ کو رسالہ مست قلندر لاہور کی خریداری کیوں کرنا چاہیے؟

(۱) اسلئے کہ یہ اہل دنیا کے لئے عالمگیر محبت، اطمینان اور دائمی مسرت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ وہ جو حوادثات زمانہ کے ہاتھوں تنگ آکر ہمیشہ ملول اور آزردہ خاطر رہتے ہیں رسالہ مست قلندر کے مطالعہ سے انہیں اپنے آپ کو خوش رکھنے اور دوسروں کو خوش کرنے کا سلیقہ آجائے گا (۲) اسلئے کہ یہ دل لگی کے بہترین مضامین، عاشقانہ غزلیات، مستانہ کہانیوں، طب کے نادر چٹکلوں اور گوناگوں دلچسپیوں کا باتصویر ماہوار اردو رسالہ ہے (۳) اس لئے کہ تمام جہان کی مسرتوں، ہنسیوں، نیز مذاق اور چہل کے قہقہوں کو رسالہ مست قلندر کے لئے بند کرا لیا گیا ہے۔ جن کی نور پاش کرنوں سے اس کے ناظرین کے خانہ ہائے تاریک ہر مہینے منور ہوتے رہتے ہیں (۴) اس لئے کہ اسمیں ہندوستان بھر کے چیدہ چیدہ رسالوں اور بہترین اخباروں کا انتخاب ہر مہینے شائع کیا جاتا ہے۔ گویا رسالہ مست قلندر کے پڑھنے والے ہندوستان کے تمام رسائل کے مطالعہ کا حظ حاصل کر سکتے ہیں (۵) اس لئے کہ قیمت کی ارزانی میں دنیا کا کوئی پرچہ اسکا مقابلہ نہیں کر سکتا یعنی سالانہ چندہ صرف ۱؎ ادا کرنے پر ہر مہینے ... صفحات کا ضخیم رسالہ فوٹو بلاکس کی متعدد تصاویر سے مزین ہو کر ناظرین کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ ہر نئے خریدار کو ۳۰ عدد چوٹی کے ناول اور کئی بیش قیمت تحائف مفت نذر کئے جاتے ہیں (۶) اسلئے کہ رسالہ مست قلندر میں مضامین لکھنے والے وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک ایک سطر ایک ایک اشرفی خرچ کرنے پر بھی مل سکتی ہے (۷) اس لئے کہ یہ کسی خاص فرقے کا پرچہ نہیں بلکہ ہر مذہب و ملت اور ہر قماش کا آدمی اس کے مطالعہ سے یکساں لطف حاصل کر سکتا ہے بیماروں اور قسمت کے ماروں کے لئے رسالہ مست قلندر مسیحا ثابت ہوگا۔ کیونکہ اسکے مطالعہ سے ان کی سنجیدگی ایک معصوم بچہ کی ایسی مسکراہٹ میں اور ان کی افسردگی کسی لاٹری کا نمبر جیتنے والے کی ایسی مسرت میں ایک دم بدل جائیگی۔ نمونہ کا پرچہ ۳ آنہ کے ٹکٹ موصول ہونے پر بھیجا جاتا ہے مفت نہیں

المشتہر — مینیجر رسالہ مست قلندر پوسٹ بکس نمبر ۱۵ لاہور

لذتوں کا بادشاہ

کھانے کے ساتھ چٹ پٹے مسالے اور آچار کھانے سے معدہ کی قوت ہاضمہ کمزور جگر کے فعل میں نقص اور دائمی قبض کی شکایت پیدا ہو کر جسم صدہا امراض کا گھر بن جاتا ہے فی زمانہ **اسی فیصدی لوگ بھوک نہ لگنے** کے باعث بھانت بھانت کی اشتہاری دوائیاں استعمال کر کے اپنے معدہ کو حکیم کی دکان بنا رہے ہیں **لذت مزید** دسترخوان بھوک کے بیماروں کو چٹ پٹے مسالوں اور نقصان دہ دواؤں سے ہمیشہ کیلئے بے نیاز کر دیگا۔ ایک معمولی پیمانہ کے صرف سے **لذت مزید کی ایک چٹکی صبح اور ایک چٹکی شام** جس دال بھاجی یا سالن میں ڈال دی جائیگی وہ **موہن بھوگ** بن جائیگا اور اسکی بھینی بھینی مہک سے آپکے دل و دماغ پر وہ کیفیت طاری ہوگی جسکا اظہار لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس سالن کے کھانے پر ایسی لذت حاصل ہوگی کہ بہشت کی نعمتوں کو آپ بھول جائینگے اور بادشاہی دسترخوانوں پر بیٹھ کر انواع و اقسام کے کھانوں پر ہاتھ صاف کرنے کی ہوس آپکے دل میں رہیگی۔ زبان اس لطف کو برسوں تک فراموش نہ کر سکیگی جو **لذت مزید** سے تیار شدہ سالن کے چکھنے پر حاصل ہوگا صرف یہی نہیں **لذت مزید** بلا کا ہاضم ہے۔ یہ آپکے کھانے کی بھوک کو دو چند کر دیگا۔ جگر اور معدہ کے فعل کو **باقاعدہ** کر کے انتڑیوں کو صاف کر دیگا۔ پاخانہ کھلکر لائیگا۔ نیز دل و دماغ کو تقویت دیگا۔ آنکھوں کی بصارت کو تیز کریگا اور نیند خوب لائیگا مزید لطف کی بات یہ کہ **لذت مزید** عورت، مرد، بچہ، بوڑھا سب کے لئے یکساں مفید اور بے ضرر ہے۔ اسکے متواتر استعمال سے جسم میں بافراط تازہ خون پیدا ہوگا۔ اور چہرہ کندن کی طرح دمک اٹھیگا **لذت مزید** دیا میں گھول دینے سے ایسی لذیذ چٹنی بن جاتی ہے کہ بادشاہ بادام و مونگ کے دانے کے برابر ہمارا منہ کھانے سے یہ طاقت کی بہترین اور خوش ذائقہ دوا ہے جس کا مقابلہ سونے چاندی کے کشتے بھی نہیں کر سکتے۔ الغرض کہاں تک لکھا جائے۔ ایک بار تجربہ کر دیکھیے اس کی خوبیاں آپ پر ظاہر ہونگی۔ بایں ہمہ صفات قیمت فی ڈبہ جو سارے کنبہ کو مدت کے لئے کافی ہوگا۔ صرف ایک روپیہ چار آنے (۱؎) محصولڈاک سمیت۔ پرچہ طریق استعمال ہمراہ پارسل روانہ ہوگا

اشتہار — **یونیورسل ٹریڈنگ کمپنی پوسٹ بکس نمبر ۱۵ لاہور** — رجسٹری شدہ

مضمون اشتہار رجسٹری شدہ

ساٹ سیر دُودھ روزانہ ہضم کرلو

نہ کوئی دوائی کھاؤ نہ کسی قسم کی ورزش کرو

کئی دائم المریض اور دُبلے پتلے آدمی موٹے اور جسیم ہونے کی خواہش میں اِدھر اُدھر مارے مارے پھرتے ہیں ان کو واجب ہے کہ مشتہرین کی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسکر اشتہاری دواؤں پر روپیہ ستیاناس کرنے سے پہلے ایک بار دُودھ کے علاج کو آزما دیکھیں **دُودھ یا آبحیات** اس فن پر ایک بہترین تصنیف ہے جو ایک صد کے قریب انگریزی کتب کی مدد سے لکھی گئی ہے۔ جس کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ مسٹر فیلڈ نیویارک نے کس ترکیب سے ۱۲ سیر دودھ روزانہ پی کر تین ماہ میں اپنے جسم کا وزن ۳۳ سیر بڑھا لیا تھا مختصر فہرست مضامین ملاحظہ ہو (۱) دُودھ سے علاج (۲) دُودھ دنیا میں طاقت بڑھانیکی بہترین غذا ہے (۳) دُودھ اور سو سال تک جوان بنے رہنے کا راز (۴) دودھ کا صحیح طریق استعمال جس طرح ہم دُودھ پیتے ہیں وہ سراسر غلط اور نقصان دہ ہے (۵) دُودھ اور لیموں کا رس (۶) دُودھ اور فاقہ کشی (۷) دُودھ کے بہترین معالج میکفڈن کی رائے (۸) دُودھ سے خطرناک بیماریوں کا ازالہ (۹) امریکہ میں دُودھ سے علاج کے شفاخانے اور وہاں کا انوکھا طریق علاج (۱۰) مایوس علاج اور زندہ درگور مریضوں کی دُودھ کے علاج سے شفایابی (۱۱) دودھ سے علاج کرنے والوں کے لئے خاص ہدایات (۱۲) روزانہ کس قسم کا اور کتنا دُودھ پینا چاہئے (۱۳) بغیر کسی ورزش یا دوائی کے سات سیر دُودھ روزانہ ہضم کرنیکی ترکیب (۱۴) دُودھ کے علاج سے چھ سیر وزن روزانہ بڑھ سکتا ہے (۱۵) دُودھ کے علاج سے دائمی قبض کی شکایت رفع کرنے کی ترکیب وغیرہ وغیرہ مختصراً یہ کتاب موتیوں میں تولنے کے قابل ہے **قیمت** صرف ایک روپیہ (عہ) مع محصول ڈاک حجم تقریباً دو صد صفحات مجلد سنہرا چھاپہ۔ مقبولیت کا یہ حال ہے کہ تیسرا ایڈیشن جو تین ہزار شائع کیا گیا ہے شاید اسی ماہ میں ختم ہو جائے گا۔ **ایک سب ڈویژنل افیسر کی رائے** - میرے ایک دوست نے جو گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدیدار ہیں آپ کی شہرہ آفاق کتاب دیکھنے کی پرزور سفارش کی ہے۔ اس لئے دُودھ یا آبحیات نامی کتاب بواپسی ڈاک بذریعہ وی۔پی بھجوائیے۔ مجھے دائمی قبض کی عرصہ سے شکایت ہے۔ (موہن لعل سب ڈویژنل افیسر یکوکوہ برما) (۲) اپنی جسمانی طاقت کو بڑھانے کے لئے دُودھ یا آبحیات کے مطابق دودھ سے علاج کا سلسلہ یکم اپریل سے باوجود دوستوں کے منع کرنیکے میں نے جاری کیا اور چند دنوں کے بعد میرے وزن میں ۵ پونڈ کا اضافہ ہوگیا۔ گرد و نواح میں آپ کے اس جدید طریق علاج کی بہت پرچا ہو رہی ہے (بختاور سنگھ مانڈلے)

باتصویر

جادُوگروں کا بادشاہ

بہترین لکھائی چھپائی۔ ولائتی کاغذ۔ بیشمار تصویریں۔ خوبصورت سنہری جلد اشتہار کے مطابق نہ ہونے پر پوری قیمت واپس

اُردو میں فن جادو پر اس سے بہتر کتاب پیش کرنے والے کو ایک ہزار روپیہ انعام

مسٹری آف میجک کا اُردو ترجمہ اسکے سامنے دنیا جہان کے تمام جادو کچھ حقیقت نہیں رکھتے دو صد صفحہ کی ضخیم کتاب میں سب کچھ بتلا دیا گیا ہے۔ کوئی راز پوشیدہ نہیں رکھا گیا جادو کا بڑے سے بڑا کھیل اسمیں ایسی آسان ترکیب سے لکھا گیا ہے کہ ایک بچہ بھی پڑھکر چند منٹوں میں کھیل کرنیکے قابل ہو جاتا اور بڑے بڑے اُستادوں کو محو حیرت بنا سکتا ہے مختصر فہرست ملاحظہ ہو (۱) منہ سے آگ نکالنا اور جلتے ہوئے سُرخ لوہے کے اُوپر چلنا (۲) حاضرین کو اپنی ناک کاٹ کر دکھا دینا اور پھر جوڑ دینا (۳) ہوا سے چھنا چھن روپے پیدا کرنا (۴) حاضرات یعنی جنوں بھوتوں کا آناً فاناً پیدا کر دینا (۵) انگوٹھی کو غائب کرکے کسی شخص کی جیب سے برآمد کر دینا (۶) دو خالی سلیٹوں کے درمیان پنسل رکھ کر بند کر دینا۔ کسی شخص کے سوچے ہوئے سوال کا جواب غیب سے خود بخود اس سلیٹ پر لکھا جائیگا۔ ایک حیرت انگیز ترکیب (۷) دور کھڑے کھڑے جلتی ہوئی موم بتیوں کو ہاتھ کے اشارے سے گل کرکے پھر جلا دینا (۸) میز کے اوپر کٹا ہوا سر باتیں کریگا یہ کھیل بڑا دلچسپ اور سنسنی خیز ہے (۹) بیجان انڈا ہاتھ کے اشارہ سے ناچنے لگیگا (۱۰) مرغی کے چوزے کا سر کاٹنے پر بھی وہ زندہ رہیگا (۱۱) رومال یا کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرکے پھر صحیح سالم بنانا (۱۲) آدمی کا سر کاٹ کر جسم سے ایک گز کے فاصلہ پر رکھ دینا اور پھر زندہ کر دینا (۱۳) کسی شخص کو بغیر کسی چیز کے سہارے کے ہوا میں کھڑا کر دینا یہ کھیل گھر بیٹھے چند منٹوں میں سیکھیئے (۱۴) معمول کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسٹیج پر لانا اور منتر پڑھکر فوراً اسے روشن ضمیر بنا دینا۔ پھر وہ حاضرین کے ایک سوال کا جواب ٹھیک ٹھیک دیگا محض یہ کھیل سیکھکر آپ ہزاروں روپے کما سکتے ہیں۔ اسکے علاوہ تاش، رومال، اور روپیہ، غائب برآمد کرنیکے بیسیوں کھیل تصویروں کے ساتھ ظاہر کئے گئے ہیں۔ کتاب کے آخر میں ایک نسخہ ہے جس کی رو سے آپ دوسرے شخص کے دل کی سوچی ہوئی بات فوراً بتا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ سب سے بڑی خوبی کتاب مذکور میں یہ ہے کہ اس میں مہارت حاصل کرنیکے لئے کسی قسم کی محنت و مشقت جھیلنا یا چلہ وغیرہ کھینچنا نہیں بس کتاب کو پڑھتے جایئے اور اپنے ہاتھ سے کھیل کرتے جایئے۔ آج ہی ایک کارڈ لکھکر (عہ) کے وی پی سے طلب کیجئے کتاب بالکل نئی چھپی ہے۔ اور اس کی مانگ اتنی زیادہ ہے کہ پہلا ایڈیشن شاید اسی مہینے ختم ہو جائے گا۔

ملنے کا پتہ: **یونیورسل ٹریڈنگ کمپنی پوسٹ بکس نمبر ۱۵۰ لاہور**

اردو کا سب سے زیادہ ...

مرے ہوئے عزیزوں سے ملاقات بلکہ بات چیت گھر بیٹھے کرلو

اشتہار مضمون

اُن کو اُسی روپ میں ان آنکھوں سے دیکھ لو جس روپ میں کہ وہ اس دنیا میں رہتے تھے!

رجسٹری شدہ

اسپرٹس کمیونی کیٹر

یہ انسانی دل کی مانند نہایت ہی عجیب و غریب آلہ امریکہ کے ایک بہترین دماغ کی اختراع ہے جس نے ایتھر کی قسم کی ایک برقی قوت اس میں کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے۔ جس طرح اژدہا آنکھوں کی مقناطیسی کشش سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے اور وہ خود بخود کھچے ہوئے اسکے منہ میں آپڑتے ہیں۔ بعینہ اس کی برقی قوت کی کشش سے روحیں آپ سے آپ آلۂ مذکور پر کھچ آتی ہیں۔ اس کے دو پاؤں اور ایک ہاتھ ہیں۔ ہاتھ کے مقام پر پنسل پکڑی ہوتی ہے اور وہی ہاتھ کا کام دیتی ہے۔ تختہ کاغذ پر رکھ کر موجب ہدایت عمل کرنے سے چند منٹوں میں ہی یہ متحرک ہو جاتا ہے۔ گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس روح کو بلایا گیا تھا وہ آلہ مذکور پر آموجود ہوئی ہے۔ اور ابھی ابھی پنسل کی مدد سے دریافت طلب سوالوں کے جواب لکھنا شروع کردے گی۔ بچھڑے ہوئے عزیز جن کا وجود اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یا جو بظاہر مرچکے ہیں ان سے ملاقات بات چیت بلکہ ہر قسم کی امداد حاصل کرکے عامل کو ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ وہ جامہ میں پھولا نہیں سماتا۔

اسپرٹس کمیونی کیٹر **عورت۔ مرد۔ بچہ۔ بوڑھا۔** سب کے لئے یکساں مفید اور کارآمد ہے۔ کیونکہ ہر ایک شخص بلا کسی خطرہ کے احتمال کے اسکا عامل بن سکتا ہے۔ الغرض بڑے کام کی چیز ہے اور اس قابل ہے کہ ہر گھر میں موجود ہے۔ باوجود ان خوبیوں کے قیمت صرف (۱۲؍) علاوہ محصول ڈاک پرچہ ترکیب استعمال معہ مکمل کورس **"مردہ روحوں سے بات چیت"** ہر دو حصہ کے ہمراہ پارسل روانہ کیا جائے گا۔ **نوٹ** چند روزہ مشق سے نتیجہ خاطر خواہ برآمد نہ ہونے پر دام واپس کرنے کی شرط۔

آلہ اسپرٹس کمیونی کیٹر کی مدد سے کون کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں

خاص بات سب سے بڑی خوبی آلہ مذکور میں یہ ہے کہ یہ معمول یا کسی دوسرے شخص کی مدد کے بغیر ہر خواہشمند ۱۵ یا ۲۰ منٹ کی روزانہ مشق سے ایک ہفتہ میں شاندار نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ لکھا تو دوسرے تیسرے روز سے ہی جانے لگے گا۔ مگر رفتہ رفتہ جوں جوں ترقی ہونے لگے گی روحیں صرف مجسم شکل میں دکھائی دینے لگیں گی۔ بلکہ باتیں بھی کرینگی +

فوائد بیشمار ہیں۔ مگر یہاں مختصر درج کئے جاتے ہیں

(۱) روحوں کی بدولت اپنی اور دوسروں کی زندگی کے حالات جان لینا (۲) سخت اور لاعلاج امراض کے نسخہ جات دریافت کرلینا (۳) گمشدہ اشخاص و اشیاء کا پتہ لگالینا (۴) ہزاروں میل بیٹھے ہوئے عزیز یا معشوق کو اپنی محبت میں مبتلا کرکے اپنی جانب کشش کرلینا (۵) مقفل صندوق کی اشیاء بتادینا یا سربمہر لفافوں کی عبارت پڑھ لینا (۶) ترقی رزق اور کشائش روزگار کی ایسی ایسی ترکیبیں روحیں بتلائیں گی۔ کہ عامل گنتی کے دنوں میں دولت دنیا سے مالا مال ہو جائیگا (۷) روحیں آنیوالی مصیبت سے قبل از وقت آگاہ کرکے عامل کو ہوشیار کر دیتی ہیں (۸) تسخیر جنات کیلئے چلہ کشی کرکے پھر بھی جان جوکھم میں ڈالنی پڑتی ہے۔ اور بصورت کامیابی صرف جن ہی عامل کی تابعداری کرتا ہے۔ مگر اسپرٹس کمیونی کیٹر کا عامل سینکڑوں روحوں کو اپنی جانب کشش کرکے ان سے اپنا ہر مشکل سے مشکل کام نکلوا سکتا ہے۔ یہ تو ہیں آلۂ مذکور کے دنیاوی فوائد۔ روحانی طور پر عالم بالا کے عجیب و غریب اور مسرت آمیز حالات۔ نیز بقائے حیات کے کبھی نہ ٹلنے والے ثبوت بہم پہنچا کر اسپرٹس کمیونی کیٹر عامل کو "موت" کے خوف سے ہمیشہ کے لئے بے نیاز کر دیتا ہے +

آلہ مذکور کے خریدنے پر مردہ روحوں سے بات چیت کرنیکا مکمل کورس آپ کو مفت ملیگا

نیویارک کی اسپرچوال سوسائٹی کے سینہ بسینہ منتقل ہونیوالے رازوں کا انکشاف روحوں سے براہ راست تعلق قائم کرنیکے لئے جن حیرت انگیز اور سربمہر رازوں کو سوسائٹی مذکور کے ممبر جان کے برابر عزیز سمجھتے ہیں۔ انہیں رازوں کی پردہ کشائی خاص الخاص شاگردوں کے لئے اس کورس میں کیگئی ہے اسکے مطالعہ کے بعد پھر اور کچھ جاننے کی ضرورت باقی نہ رہیگی۔ اور ہر طالب "ہوم سرکل" یا از خود نویسی کی بدولت گھر بیٹھے مرحوم عزیزوں کی ارواح سے بات چیت کر سکے گا +

کورس اوّل کی فہرست

(۱) روحانی حلقے قائم کرنیکی مختلف ترکیبیں (۲) روحانی طاقتوں کے نشوونما کے لئے کن قواعد کو مدنظر رکھنا ضروری ہے؟ (۳) حلقہ نشینی کے اوقات (۴) حلقہ نشینی کیلئے کیسی جگہ ہونی چاہیئے (۵) عامل کیلئے کن چیزوں سے پرہیز لازم ہے (۶) حلقہ۔ کتنے آدمیوں کا بنایا جائے (۷) بہترین نتائج حاصل کرنے کیلئے مشق کے کمرہ میں روشنی کیسی ہونی چاہیئے (۸) لیڈر کون ہے (۹) کلیئر وائنس یعنی دور کی چیزیں بلا کسی آلہ کی مدد کے دیکھ لینے کا راز (۱۰) میڈیم بننے کا طریق وغیرہ وغیرہ

کورس دوم کی فہرست

(۱) ساکنان عالم ارواح کیساتھ بات چیت کرنیکے مزید طریقے (۲) فن از خود نویسی میں دسترس حاصل کرنیکا راز (۳) اکیلا آدمی کیسے روحوں کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے (۴) قلب بخبر اور قلب باتحت کی تشریح (۵) مرحوم عزیز کی تصویر سامنے رکھ کر مشق کرنیکا فائدہ (۶) روحوں کی طلبی (۷) طریقہ نشست (۸) مشق کتنی مدت جاری رکھنی چاہیئے (۹) مشق کی کیفیات (۱۰) بعض پیش آنیوالی مشکلات اور انکا حل (۱۱) عزیز روحوں کے علاوہ دوسری روحوں کی طلبی اور بات چیت کرنے کے طریقے (۱۲) روحوں کی جانب سے موصول شدہ پیغامات کے نمونے (۱۳) بائیں ہاتھ سے لکھنے کا راز (۱۴) ٹیلی پیتھی یا ابلاغ خیال (۱۵) بغیر کسی آلہ کی مدد کے ہزاروں میل دور کی باتیں سن لینے کا راز (۱۶) عامل کیلئے چند نہایت ضروری باتیں (۱۷) بند اور مہر شدہ لفافوں کے پڑھنے کا راز وغیرہ وغیرہ +

پبلشنگ ہوم آف میجک اینڈ مسمیریزم پوسٹ بکس نمبر (۱۵۰) لاہور

... کے خریداروں کو ... قیمتی تحفے مفت انعام ملتے ہیں +

جو چاہو گے ہو جائے گا

کچھ عرصہ ہؤا الہ آباد کے اخبار لیڈر میں جب خبر شائع ہوئی تھی کہ بنارس میں بھارت مندر کا سنگ بنیاد رکھنے کے وقت جو گائتری منتر کا جپ ہاں کیا گیا۔ اسکے اثر سے آس پاس کے خشک درخت ہرے ہو گئے اور پھل لانے لگے۔ اور اس نظارہ کو پنڈت مالویہ جی۔ راجہ موتی چند۔ پنڈت گنہیا لال سابق جج ہائیکورٹ اور بابو رام دیو صاحب ایسے معزز اصحاب نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو عوام کو بہت تعجب ہوا۔ مگر جن لوگوں نے ہماری کتاب **گائتری شکتی** کا مطالعہ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی معمولی بات تھی (۱) اگر آپ کسی مقدمہ بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہیں (۲) اگر آپکی آمدنی کے ذرائع مسدود ہیں اور ترقی رزق کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی (۳) اگر آپ کسی رشتہ دار کی وجہ سے پریشان ہیں جو سفر میں ہے یا بیمار ہے (۴) اگر آپ کسی کی محبت میں مبتلا ہیں اور وہ آپکی جانب التفات نہیں کرتا (۵) اگر آپکو اولاد کی چنتا ہے۔ اولاد پیدا ہو کر مر جاتی ہے۔ یا نرینہ اولاد پیدا ہی نہیں ہوتی (۶) اگر آپ کسی دشمن کی وجہ سے خائف ہیں جو آپکے مٹانے کے درپے ہو رہا ہے۔ ہمیشہ نقصان پر نقصان کئے جاتا ہے اور اس سے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی (۷) اگر آپ کسی حاکم یا افسر کی خوشنودی کے طالب ہیں جسکی جنبش نظر آپکی سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کی طاقت رکھتی ہے یا (۸) اگر آپکے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جو باوجود ہزار کوششوں کے بھی پوری نہیں ہوتی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں آج ہی ہماری کتاب **گائتری شکتی** طلب کرو۔ اور پرم پتا پرماتما کے چرنوں میں بیٹھ کر صرف ایک گھنٹہ یومیہ جپ کرنے سے گنتی کے دنوں میں من مانی مرادیں پاؤ گے۔ کون ہندو گھرانا ایسا ہے جو **گائتری منتر** کی مہما کو نہ سمجھتا ہو۔ ہمارے وید پران ہمارے شاستر یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ پرماتما کو خوش کرنیکا آسان ترین سادھن گائتری منتر کا جاپ ہے۔ یوں تو ۸۰ فیصدی ہندوؤں کو گائتری منتر زبانی حفظ ہے۔ مگر ہر مراد کے حصول کے لئے جاپ کرنیکا طریق مختلف ہے۔ یہ بہت کم آدمی جانتے ہیں۔ اصل کتاب سنسکرت میں تھی۔ ہم نے اسے آسان اردو کا لباس پہنایا ہے۔ اور جاپ کے متعلق ہر ایک ترکیب ایسی طریق سے لکھی ہے کہ ایک بچہ بھی پڑھے تو آسانی سے سمجھ لے معاوضہ صرف ایک روپیہ معہ محصولڈاک حجم ۱۶۰ صفحات باتصویر ولائیتی کاغذ تیسری مرتبہ تین ہزار شائع ہوئی تھی مگر اب صرف ایک سو جلدیں باقی رہ گئی ہیں اس لئے جلدی منگوالیں۔ **ایک خاص بات** اصل منتر کو پہلے سنسکرت اور پھر اردو میں لکھ کر اسکی شرح اس خوش اسلوبی سے اور ایسی عام فہم عبارت میں کی گئی ہے کہ آپکو تعجب ہو گا۔ اور آپ بے اختیار کہہ اٹھینگے "ہیں" گائتری منتر میں ایسی شکتیاں بھری پڑی ہیں۔ کتاب کے سرورق پر وشنو بھگوان کی رنگین تصویر ہے۔ جن کے عالمگیر نور کے مقابلہ میں سورج۔ چاند۔ ستارے۔ اور لاتعداد دیوتاؤں کی روشنی پھیکی پڑتی جا رہی ہے اور دیکھنے والے کو چہار اطراف عالم میں وشنو بھگوان نظر آتے ہیں۔ ایسی یہ تصویر رام بھگتوں کو ایک سو روپیہ خرچ کرنے پر بھی مل سکے تو سستی ہے۔ سینکڑوں میں سے **چند تعریفی خطوط کا خلاصہ** دفتر میں آکر اصل خطوط ملاحظہ فرمائیے (۱) گائتری شکتی واقعی دنیا میں لاثانی تصنیف ہے۔ اس کے بدلہ میں اگر عمر بھر کی کمائی آپ کی نذر کی جائے تو کم ہے۔ رام کشن مشرا پٹھان کوٹ (۲) کتاب کیا ملی گویا جواہرات کا خزانہ میرے ہاتھ آگیا۔ اس کی ہدائیتوں کے مطابق جب سے گائتری جاپ شروع کیا ہے۔ میری حالت سدھر گئی اور ہر گھڑی طبیعت بشاش رہتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس امولیہ پستک کے درشنوں سے محروم ہے وہ نہایت بدبخت ہے۔ لالتا پرشاد دفتر ضلعداری پلیا کلاں کھیری (۳) جس دن سے گائتری کا جپ کتاب کی ہدایت کے مطابق کیا ہے، میرے تفکرات دور ہو گئے ہیں۔ اور دھن پراپتی بھی ہو رہی جاتی ہے۔ چودھری نتھو سنگھ رام پور منہاراں سہارنپور

ملنے کا پتہ

یونیورسل ٹریڈنگ کمپنی پوسٹ بکس ۱۵ ایکسچینج لاہور

رسالہ مست قلندر لاہور میں دنیا بھر کے رسالوں اور اخباروں کا انتخاب شائع کیا جاتا ہے

زندہ جادوگری کے کرشمے

قدیم ہندو یوگیوں کے سینہ بسینہ منتقل ہونیوالے خفیہ جادو کے سربمہر رازوں کا انکشاف کیا گیا ہے۔ یہ وہی نادر کتاب ہے جس کی دنیا والوں کو تلاش تھی اور جس میں کا ایک ایک راز لاکھ لاکھ روپیہ کو بھی سستا ہے مقبولیت کا یہ حال ہے کہ تین مہینوں میں پہلا اڈیشن ختم ہو گیا اور اب دوسرا چھپکر ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے۔ مختصر تعریف ملاحظہ ہو (۱) بیمار کو صرف سانس کی تبدیلی سے اچھا کر دینا (۲) اپنی یا دوسرے کی موت کا حال جان لینا (۳) راہ چلتے آدمی سے آنکھ لڑا کر اپنا ہم خیال بنا لینا (۴) اعجاز محبت یعنی حسینوں کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کی نہایت ہی آسان اور چٹکی بجاتے میں حل ہونیوالی ترکیبیں (۵) بغیر دوائی کے قدرتی طاقت حاصل کر کے سو سال تک جوان اور تندرست بنے رہنے کا راز (۶) صرف ایک ترکیب سے بیوی کو اپنی الفت میں اسیر کر کے اس قدر بیخود بنا دینا کہ اسے سوائے تمہارے اور سب طرف تاریکی دکھائی دینے لگے گی (۷) لڑکے کی پیدائش حسب مرضی کرنا (۸) حاکم افسر یا سنگدل دشمن کو تسخیر کر کے اپنا کام نکالنا (۹) ایک ایسا طریق اختیار کرنا جس کی بدولت ہر جگہ عزت ہو (۱۰) بیتے ہوئے اور آئندہ ہونیوالے واقعات کو قبل از وقت جان لینے کے مختلف طریقے (۱۱) قدیم ہندو یوگی کس طریق سے پیشینگوئی کرتے تھے۔ سائل کے سوالوں کے صحیح جواب دینے کے مختلف طریقے (۱۲) سانس کے ذریعہ سخت سے سخت اور مہلک امراض کے آناً فاناً رفع کر دینے کا راز وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ کتاب مذکور کی مکمل تعریف کیلئے جنتری کے دس صفحات بھی تھوڑے ہیں۔ باوجود ان خوبیوں کے پورے کورس کی قیمت صرف دو روپیہ (۲) محصولڈاک سمیت رکھی گئی ہے جملہ اسباق نہایت ہی آسان اور عام فہم ہیں۔ عامل ہونے کے لئے کسی قسم کی محنت یا مشقت جھیلنا نہیں پڑتی صرف کورس مذکور کے مطالعہ سے ہی سب رازوں سے آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ درخواست کے ہمراہ اس بات کی حلفیہ تحریر آنی چاہئے کہ آپ کورس مذکور کے کسی راز کو افشا نہیں کرینگے۔ ورنہ آرڈر کی تعمیل نہ ہوگی +

تعریفی خطوط کا خلاصہ دفتر میں آکر ملاحظہ فرمائیے بیشک آپ کی کتاب سچی اور اسکے طریقے بالکل سہل ہیں۔ نیز آپ قابل پرستش ہیں جو اس طرح خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تازہ... راقم غلام احمد برج رود ڈمبئی (۲) آپ کی کتاب بہت اچھی بلکہ لاکھوں میں ایک ہے۔ اس قسم کی نادر تصنیف آج تک میری نظر سے نہیں گذری (گیان چند راماں منڈی) (۳) ایسی کتاب آج تک میری نظر سے نہیں گذری تھی ہر خواندہ شخص کے لئے مفید ہے۔ اسمیں کا ایک ایک راز لاکھ لاکھ روپیہ کا ہے (الٰہی بخش...)

پانچ منٹ میں ہمزاد

مضمون اشتہار — رجسٹری شدہ

کسی ہندوستانی فقیر سے یہ ترکیب ہمیں حاصل ہوئی ہے جس کی بدولت ہر شخص گھر بیٹھے ۵ منٹ میں ہمزاد کو دیکھ سکتا ہے۔ ترکیب مذکور کو اگر آپ بالکل مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہماری کتاب **رموز ہمزاد** عہ کے وی پی سے طلب کیجئے جسمیں تسخیر ہمزاد سے متعلق قدیم ہندو یوگیوں اور مسلمان درویشوں کے سینہ بسینہ منتقل ہونیوالے خفیہ رازوں کا انکشاف عملی اسباق کی شکل میں کیا گیا ہے جو بالکل بغیر عام فہم اور ایسے سہل الحصول ہیں کہ ایک بچہ بھی چاہے تو آسانی سے حل کر لے کسی قبرستان یا ندی کے کنارے جانیکی ضرورت نہیں گھر میں بیٹھکر عمل کیا جاتا ہے۔ ہماری بتلائی ہوئی ترکیب سے آپ ہمزاد کو دیکھ تو پہلے ہی روز لیں گے۔ مگر تسخیر ہو کر وہ ہمکلام ۲۱ یوم میں ہوگا۔ ایک صد روپیہ کا انعام اس شخص کے لئے رکھا گیا ہے جو یہ ثابت کر دے کہ تسخیر ہمزاد سے متعلق رموز ہمزاد سے بہتر کتاب زبان اردو میں شائع ہو چکی ہے۔ تسخیر ہمزاد کے فائدے۔

(۱) سات پردوں میں چھپے ہوئے نامہربان اور سنگدل محبوب کو بھی ہمزاد ایک بار کھینچ لائیگا اور آپکے قدموں پر گرا دیگا (۲) مہلک اور لاعلاج بیماریوں کے بیحد مفید نسخے تجویز کر دیگا (۳) ہزاروں میل کے فاصلے سے بے موسم کے پھل انواع واقسام کے تحفے نیز دور کی خبریں پل بھر میں لا دیگا (۴) حاکم و افسر کو مہربان بنا کر بڑے بڑے کام نکلوا دیگا (۵) گمشدہ کا پتہ لگا دیگا (۶) بیتے ہوئے اور آئندہ ہونیوالے واقعات یا حالات بے کم و کاست بتلا دیگا (۷) کشائش روزگار یا ترقی مراتب کی ایسی ایسی آسان ترکیبیں ہمزاد بتلائیگا کہ عامل گنتی کے دنوں میں دولت دنیا سے مالا مال ہو جائیگا۔ الغرض کہاں تک لکھا جائے۔ تمام جہان کی دولت رموز ہمزاد کے سامنے ہیچ ہے۔ بہت تھوڑی جلدیں باقی رہ گئی ہیں اسلئے آج ہی خط لکھ دیجئے۔ ورنہ کچھ عجب نہیں کہ آپ کو مایوس ہونا پڑے۔ **تازہ تعریفی خطوط کا خلاصہ** :- دفتر میں آکر اصل خطوط ملاحظہ فرمائیے۔ (۱) کتاب ملی بہت شکریہ میں نے تسخیر ہمزاد سے متعلق بہت سی کتابیں دیکھی ہیں۔ مگر رموز ہمزاد کو ان سب سے بہتر پایا (محمد صدیق خاں رامپور) (۲) کچھ دن ہوئے آپ سے ایک کتاب رموز ہمزاد منگوائی تھی۔ اس بات کو دعوی سے کہتا ہوں کہ تسخیر ہمزاد پر اس سے بہتر کتاب میرے دیکھنے میں آج تک نہیں آئی (ارجن سنگھ ڈیرہ دون)

محبوب عاشق کے قدموں پر

تسخیر محبت کا چلتا ہوا ٹوٹکہ ہتھیلی پر سرسوں جما کر دیکھ لو مٹھی بھر چاولوں کی دو تاثیریں۔ چاول کا ایک دانہ تسخیر محبوب کے لئے بخطا ثابت ہوگا تو دوسرا جدائی ڈلوانے کے کام آئیگا۔ فقیر حاجی شمس الدین صاحب کی زندہ کرامات کا ایک نمونہ جو لوگ تسخیر محبوب کے لئے چلہ کشی کرنے کی ہمت نہیں رکھتے یا اشتہاری منتروں کے الٹ پھیر میں پھنس کر اپنا قیمتی وقت اور روپیہ برباد کرنے سے جنہیں عار ہے وہ اس عجیب غریب تنتر کی بدولت اپنے دل کی مراد حاصل کریں + صرف اوپر کی دونوں کتب اکٹھی خریدنے پر یہ تنتر مفت بتلایا جائے گا + ورنہ معاوضہ صرف عہ

نیو مارکٹ میجکل کمپنی پوسٹ بکس نمبر ۱۵ لاہور (برانچ)

گھر بیٹھے مسمریزم ہپناٹزم زندہ جادوگری اور خفیہ علوم روحانیت کی عملی تعلیم حاصل کرنے کیلئے مینیجر پبلشنگ ہوم آف میجک اینڈ مسمریزم پوسٹ بکس نمبر ۱۵ کو خط لکھئے

اشتہار مضمون — رجسٹری شدہ

کھوئی ہوئی جوانی پھر واپس آسکتی ہے

بڈھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانیوالی طاقت کی بینظیر دوائی

فاسفرول

قیمت صرف (؏)

رجسٹرڈ کا استعمال کرو **فاسفرول** تمام ہندوستان میں مشہور ہے اور ہر قصبے اور گاؤں میں اس کی تعریف کرنے والے موجود ہیں +

فاسفرول ہر قسم کی دماغی کمزوری کے لئے اکسیر ہر عمر اور ہر موسم میں کھانے کے لائق ہے +

فاسفرول کی استعمال سے بارہ گھنٹے روزانہ کام کروگے تو بھی تکان معلوم نہ ہوگی

فاسفرول جریان۔ احتلام اور سرعت انزال کو جڑ سے اکھیڑ دے گی۔ دنیا میں جسقدر طاقت کی دوائیاں ہیں اُنکی تاثیر عموماً گرم خشک ہوتی ہے نیز وہ قبض کی شکایت پیدا کرکے اعضائے رئیسہ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ مگر

فاسفرول تاثیر میں گرم تر اور قبض کشا ہے۔ یہ جگر کے فعل کو درست کرکے قبض کی شکایت ہمیشہ کیلئے رفع کردیگی +

فاسفرول چہرہ کو گلاب کے پھول کی طرح شاداب اور کندن کی طرح مصفےٰ بنادے گی +

فاسفرول کے سامنے سونے چاندی کے کشتے نیز سینکڑوں قسم کی قیمتی دوائیاں بے کار ہیں۔ +۔ +۔

فاسفرول کے استعمال سے بھوک اسقدر لگتی ہے کہ سیروں دودھ اور چھٹانکوں گھی ہضم کرجاؤ +

فاسفرول دماغی قوائے کے لئے اتنی مفید ہے کہ برسوں کی بھولی ہوئی باتیں خود بخود یاد آنے لگیں گی +

فاسفرول کے ایک ایک قطرہ میں دنیا جہان کی لذتیں حل کی گئی ہیں +



فاسفرول کوئی نئی چیز نہیں سینکڑوں نامراد اس کی بدولت بامراد بن چکے ہیں۔

فاسفرول کا ایک ایک قطرہ آبحیات کا ایک ایک گھونٹ ہے یہ عورتوں کے لئے ویسی ہی مفید ہے۔ جیسی مردوں کے لئے اکسیر صفت ہے

فاسفرول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حد درجہ کی مقوی ہے۔ امساک اس درجہ بڑھتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے جو شخص ایک شادی کرکے بھی پشیمان اور ناکام ہو۔ اس ناکام شخص کو اسکی آرزو سے ۵ حصہ قوت زیادہ حاصل ہوگی۔

فاسفرول کے استعمال سے پہلے اپنا وزن کرلو اور استعمال کرنے کے بعد اپنا وزن کرو۔ ایک بکس چار سیر خون بڑھا دے گا۔

المختصر جو بات تحریر میں نہیں آسکتی اسکو عملی طور پر تجربہ کرکے دیکھ لیجئے اس سے بہتر طاقت بڑھانیکے لئے اور کوئی دوائی نہیں ملیگی ایک بکس کی قیمت جسمیں مہینہ بھر کی خوراک بند رہتی ہے صرف ؏

ایک ہزار روپیہ نقد انعام

اس شخص کو دیا جائیگا جو مندرجہ ذیل سندات میں سے کسی ایک کو فرضی ثابت کرے۔ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک زبان ہوکر کہتے ہیں ؟ (۱) فاسفرول بیشک آبحیات ہے۔ ایک شیشی اور بھجوائیے۔ مہیش بخش سنگھ سیتاپور (۲) فاسفرول نے واقعی جادو کردیا میں نے اپنی زندگی میں طاقت کی ایسی زبردست دوائی کبھی دیکھی تھی۔ ایک شیشی اور بھجوائیے۔ بھگوتی سنگھ مقام بہہ یو۔پی۔ (۳) تین شیشی اور ارسال فرمائیے کیونکہ آپکی دوائی سے مریض کو بیحد فائدہ ہوا ہے۔ محمد حسین منی پور آسام (۴) فاسفرول کے استعمال سے میری بیوی کو بہت فائدہ ہوا ایک شیشی اور بھجوائیے۔ جے آر فلپ علی گڈھ (۵) فاسفرول کی شیشی پچھلے مہینے منگوائی تھی بہت فائدہ حاصل ہوا دو ماہ کی خوراک اور بھیجدیجئے کامتا سنگھ فرخ آباد (۶) فاسفرول نے میری مایوسی کو خوشی کیساتھ بدل دیا۔ ایک شیشی اور بھجوائیے۔ گھیر نحان خاں سرونج مالوہ (۷) فاسفرول کی ایک شیشی استعمال کرچکا ہوں غیر معمولی فائدہ ہوا ہے۔ ایک اور بھجوا دیجئے۔ خوشدل لاری اہلکار محافظ خانہ گورکھپور (۸) فاسفرول کو میرے چند احباب اور خود میں نے بھی چند قطرے استعمال کئے توقع سے زیادہ مفید پایا حقیقی معنوں میں آبحیات ہے، اگر چند دنوں اس کا مسلسل استعمال کیا جائے تو غیر معمولی فائدہ ہوگا نصاحت حسین ہیڈ کلرک کلکٹری گورکھپور +

ملنے کا پتہ:۔ ڈاکٹر رتی سنگھ اینڈ سنز (ڈاکٹر رتی سنگھ بلڈنگز اسٹریٹ) لاہور

گھر بیٹھے طب ہومیوپیتھی کی عملی تعلیم اور کلکتہ کے مستند کالج سے ڈپلومہ حاصل کرکے ۲۔۳ سو روپیہ ماہوار کی مستقل آمدنی پیدا کرنیکے خواہشمند ہماری ساتھ خط وکتابت کریں +

بیسویں صدی کا کوک شاستر

قیمت ہر حصہ صرف ۲ / ۔ ع

باتصویر مجلد

لے لو ملتا ہے گوہر مقصود پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی

اسکے مطالعہ سے عورتوں کے متعلق آپکو ایسی عجیب و غریب واقفیت حاصل ہوگی کہ تمام اشتہاری کوک شاستروں کو بھول جائینگے۔ لدھیانہ اور کانپور کی بنائی ہوئی نکمی اور بھدی تصویریں تو آپ کئی مرتبہ دیکھ چکے۔ آئیے اب ہم پیرس کے باکمال مصوروں کی کاریگری کا بہترین نمونہ ہاف ٹون بلاکس کی رنگین اور منہ بولتی تصویروں کی شکل میں دکھا کر عورت کی مختلف حالتوں کا نقشہ آپ کے ذہن نشین کرائیں جو باتیں تحریر میں نہیں آسکتیں جن کو جاننے کیلئے آپنے سینکڑوں روپے اشتہاری کوک شاستروں پر پانی کی طرح بہا دیئے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہی باتیں آپکو ہماری نادر کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہونگی۔ مختصر فہرست مضامین ملاحظہ ہو (۱) عورت کی پہچان۔ عورت کیا چیز ہے؟ جس عورت کا بھید سنتی ہیں کہ برہما بھی نہ جان سکا۔ اس کے متعلق مغربی، ۲۰ چوٹی کے ماہرین علم النسائی نے اپنی عمریں صرف کر کے کیا دریافت کیا (۲) کیا عورت پاکباز اور باعصمت ہے اسکی پہچان کرنیکا طریق (۳) عورت کی خوبصورتی بڑھانیکے مختلف طریقے۔ صرف غذاؤں کی تبدیلی سے حسن و خوبصورتی بڑھانیکا راز (۴) چہرہ کے داغ دھبے حتیٰ کہ چیچک کے داغ دور کرکے جلد کو ملائم اور خوبصورت بنانیکے آسان ترین طریقے (۵) چھوٹے قد کی عورت بغیر کسی دوائی کی مدد کے کس طریق سے بلند قامت ہو سکتی ہے (۶) بغیر کسی مشین یا دوائی کی مدد کے بالوں کو گھونگروالے بنانیکی ترکیب (۷) ہاتھوں کی سختی اور کھردراپن کیسے دور ہو سکتا ہے (۸) بوئے دہن یعنی منہ کی بدبو اور بغل گند دور کرنیکی ترکیب (۹) عورت کی ڈھیلی اور گری ہوئی چھاتیوں کو سخت بنانے اور انکی خوبصورتی کو دوبالا کرنیکا طریق (۱۰) کیا عورت کا جسم سڈول ہے؟ یہ دیکھنے کی ترکیب (۱۱) عورت کا مجسمہ اسکے جسم کی ساخت اور خفیہ مقامات کی تشریح تصویروں کیساتھ (۱۲) حمل کس طرح قرار پاتا ہے (۱۳) مواصلت کے فوراً بعد یہ جان کرنیکا طریق کہ حمل قرار پا گیا ہے یا نہیں (۱۴) خود اختیاری اولاد پیدا کرنیکا راز یعنی جب چاہو بچہ پیدا ہو۔ نہ چاہو نہ ہو (۱۵) بانجھ عورت کس طرح اولاد کے قابل ہو سکتی ہے (۱۶) مواصلت کے مختلف طریقے (۱۷) کن حالتوں میں مواصلت کرنا مضر صحت اور نقصان دہ ہے؟ یہی وہ راز ہے جس کو نہ جاننے سے کئی مرد جوانی میں بڈھے ہو گئے۔ اور اب بیٹھے سر دھنتے ہیں (۱۸) جسم پر مالش کرنے کے فوائد مالش کرنیکی ایک ایسی ترکیب جسکی بدولت بڈھے بھی جوان ہو سکتے ہیں (۱۹) دائم المریض اور قوت باہ کے لئے اشتہاری دواؤں پر بلا دریغ سینکڑوں روپیہ خرچ کرنے والے بھولے بھالے انسانوں کیلئے کئی مجرب اور سہل الحصول نسخے جنکے اجزا ہر جگہ چند پیسوں کی لاگت سے بآسانی دستیاب ہو سکتے ہیں جو ہر موسم میں کھانیکے لائق ہیں۔ اور جنکے متواتر استعمال سے تھوڑے دنوں میں انکی کایا پلٹ جائیگی (۲۰) سو سال کی عمر تک جوان اور تندرست بنے رہنے کا راز وغیرہ وغیرہ۔ غرضکہ ساری کتاب میں اس قسم کی سو سے زائد سرخیاں ہیں کتاب ہذا کا سب سے قیمتی حصہ وہ ہے جسمیں فرانس کے ڈاکٹروں نے اپنی ساری دانائی اور ساری حکمت صرف کرکے حسب ذیل سوال کا حل کیا ہے۔ کیا کوئی ایسی ترکیب ہے کہ باوجود بچے جننے کے بھی عورت کی خوبصورتی اور جوانی مدت العمر تک جوں کی توں قائم رہے۔ یعنی ۴۰۔ ۵۰ سال کی عمر میں بھی وہ ۱۸۔ ۲۰ سال کی جوان معلوم ہو اسکی۔۔۔ سخت چہرہ کا رنگ گلاب کے پھول کی طرح شگفتہ اور کندن کی طرح دمکتا رہے۔ یہی وہ راز ہے جس کو ہر ایک دنیادار بڑی سے بڑی قیمت دیکر بھی سیکھنے کے لئے بیتاب ہوگا محض اسی راز کی قیمت اگر ہزار روپیہ ہوتی تو کم تھی مگر اس کا مکمل حل کتاب ہذا سے بلا کسی معاوضہ کے آپ کو ملیگا۔ اشتہار کے خلاف ایک بھی بات ثابت ہونے پر ہم دو چند قیمت واپس دینے کو تیار ہیں اس لئے آج ہی آرڈر بھجوایئے اس کی ایک ایک تصویر دو دو روپیہ قیمت کی ہے۔

بیسویں صدی کا کوک شاستر حصہ دوم محافظ شباب

مضمون اشتہار رجسٹری شدہ

کی چند موٹی موٹی سرخیاں ملاحظہ ہوں (۱) بیسویں صدی کے دولہا دولہن بیسویں صدی کے میاں بیوی (۲) نیک بد عورتوں کے شناخت کرنیکی مخصوص علامات (۳) نیک بد مردوں کے شناخت کرنیکی مخصوص علامات (۴) محض شکل دیکھ کر یہ جان لینے کا راز کہ فلاں مرد و عورت کس چال چلن کے ہیں (۵) دولہا دولہن کا انتخاب یعنی کس قسم کے مرد کو کس قسم کی عورت کے ساتھ شادی کرنا باعث خانہ آبادی ہوگا۔ اولاد والوں کے لئے یہ باب نہایت ہی بیش قیمت ہے (۶) ایام حیض اور چاند کی تاریخوں کا اثر (۷) عورتوں کی خوبصورتی اور جوانی کو قائم رکھنے کے زرین اصول حکمائے فرانس کی تحقیقات کی رو سے (۸) مصر کے لوگ ایام حیض اور چاند کی تاریخوں کی مناسبت سے عورت کی آئندہ زندگی کے حالات کیسے معلوم کر لیتے ہیں اس کا راز (۹) عورت کی تسخیر کا عمل۔ بیوی کو کیسے خوش رکھا جا سکتا ہے عورت کی تسخیر کا سب سے بڑا جادو۔ ایک دبلا پتلا اور بدشکل آدمی بھی کس طرح عورت کے دل پر فتح پا سکتا ہے (۱۰) وصل کی پہلی رات۔ امتحان محبت میں کامیاب ہونے کا راز (۱۱) مواصلت میں امساک (۱۲) چاند کی تاریخوں کا حساب۔ عمر بھر بیوی کو فرمانبردار بنائے رکھنے کا راز (۱۳) چوراسی آسنوں کا راز کس حالت میں کونسا آسن جائز ہے۔ اس کی تشریح (۱۴) مواصلت کے بعد کیا کرنا چاہیئے؟ جس سے کسی قسم کی جسمانی کمزوری نہ ہونے پائے۔ ہر دنیادار کے لئے نہایت ضروری واقفیت (۱۵) بیوی کی حفاظت یعنی اس کو کس طرح بد چلنی سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ (۱۶) بیوی کے عصمت تاب رہنے کے اسباب (۱۷) بدمعاش مردوں کے ہتھکنڈے (۱۸) بازاری عورتوں کی محبت۔ بازاری عورتوں کا حسن آتشین۔ بازاری حسن کے خریداروں کا حشر وغیرہ وغیرہ۔ الغرض ساری کتاب میں دو صد کے قریب سرخیاں ہیں۔ اس کے مطالعہ کے بعد آپ تمام بازاری کتابوں کو بھول جائیں گے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے ہر دو حصہ کی قیمت صرف دو روپے ہے (عہ)

ایکہزار روپیہ نقد انعام

اردو میں اس فن پر اس سے بہتر کتاب پیش کرنیوالے کو ایکہزار روپیہ انعام دیا جائیگا

ملنے کا پتہ:- پدما اینڈ کمپنی پوسٹ بکس نمبر ۱۰۸ دہلی

(معاوضہ) (مضمون اشتہار) (رہبری ہاشندہ) (صرف عہ)

تقدیر کے مالک تم ہو وہ لونڈی ہے

کون کہتا ہے کہ جنتروں میں اثر نہیں ہوتا۔ سرب اچھیا پورن جنتر کی برکت سے آپ اپنی قسمت کو جس رُخ چلانا چاہیں چلا سکتے ہیں۔ قدیم ہندو یوگیوں۔ جٹا دھاری سادھوؤں اور گوشہ نشین درویشوں کی عظمت اور کمالیت کا زندہ ثبوت اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا منظور ہے کہ فقیروں کے کلام پاک میں کتنی تاثیر ہوتی ہے تو ہمارے جنتر کو منگوا کر ایک بار اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیجئے اور پھر غیب کے دروازے خود بخود آپکے لئے کھل جائیں گے۔ اور قدرت ایسے اسباب مہیا کرے گی کہ نہ صرف آپ کی خواہشات آپ سے آپ پوری ہونے لگینگی بلکہ مایوس امیدوں میں کامیابی کی جھلک ایکدم نمایاں ہو جائیگی سرب اچھیا پورن جنتر بظاہر ایک کاغذ کا پرزہ ہے۔ مگر حقیقت میں موتیوں اور جواہرات سے بھی زیادہ بیش قیمت ایک تارک الدنیا بزرگ کا خاص الخاص عطیہ جس کو بجلی کی مانند پُر تاثیر بنانے کے لئے صرف چاند گہن میں تیار کیا جاتا ہے۔ سینکڑوں آزما چکے ہیں پھل پا چکے ہیں۔ آپ بھی آزمائیے اور اپنے دل کی مراد کو حاصل کیجئے اسکے فائدے حسب ذیل ہیں (۱) ہر مشکل سے نجات ہو گی (۲) ہر بیماری سے شفا ہو گی (۳) جس کے پاس جاؤ گے عزت کریگا (۴) حاکم زیر ہونگے (۵) مقدمہ تمہارے حق میں فیصل ہوگا (۶) ہزار امیدوار ہوں مگر نوکری تمہیں کو ملیگی (۷) طالب علم امتحان میں کامیاب ہونگے (۸) جس کا خیال دل میں ہو وہ محبت کرے گا (۹) میاں کے پاس ہوگی تو بیوی لونڈی کی طرح فرمانبردار رہے گی (۱۰) بیوی کے پاس ہو تو میاں عاشق زار رہیگا (۱۱) دلہن کے پاس ہو تو سسرال والے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے (۱۲) اہل کاروبار اور دوکاندار اپنے پاس رکھیں گے تو دن دونی اور رات چوگنی ترقی ہوگی۔ الغرض جس کے پاس سرب اچھیا پورن جنتر ہوگا وہ کبھی ننگا اور بھوکا نہ رہیگا

لوگ کیا کہتے ہیں؟

(۱) جنتر ملا۔ واقعی اس کا اثر بجلی کی مانند کام کر گیا۔ جس کام میں میں نے بہت صرفہ کیا تھا مگر ناکام رہا تھا اس کو ایک آن میں درست پایا۔ کنور بہادر ماتھر رئیس شیر کوٹ (۲) آپکا تعویذ استعمال کیا۔ خدا کے فضل سے مجھے مقدمہ میں کامیابی حاصل ہوئی۔ سید امیر احمد میسور (۳) آپکا جنتر نہایت پُر تاثیر ثابت ہوا یعنی وہ تمام کام پورے ہو جاتے ہیں جن کو کہ اس وقت خیال کر کے باندھا جاتا ہے میں آپ کا شکریہ کس زبان سے ادا کر سکتا ہوں زبر سنگھ گوسائیں گنج لکھنؤ (۴) میں نے آپکے تعویذ کی لڑکے کے امتحان میں آزمائش کی اور اسکی برکت سے وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ رگھو بنس سروپ بھٹناگر مراد آباد +

باوجود ان خوبیوں کے معاوضہ صرف عہ دو روپے محصولڈاک سمیت

اپنی تقدیر آپ دیکھ لو

پنجہ تقدیر یعنی تقدیر جانچنے کا آلہ رجسٹرڈ۔ یہ چارٹ کی شکل کا آلہ ہے جسمیں ہاتھ کی ریکھاؤں کا نقشہ دیا گیا ہے۔ اس نقشہ اور پاکٹ بک موسومہ کلید پنجہ تقدیر (جو ہمراہ ارسال ہوگی اور جسمیں مختلف قسم کی ہتھیلیوں کے نقشے دیئے گئے ہیں) کی مدد سے آپ دس منٹ میں کامل دست شناس بن سکتے ہیں اور ہر شخص کی ہتھیلی دیکھ کر اس کی ترقی تنزل مقدمہ میں ہار جیت۔ روزگار۔ شادی صحت چال چلن۔ اور اولاد کے متعلق کل حال ٹھیک ٹھیک بتلا سکتے ہیں۔ چارٹ اور کلید پنجہ تقدیر میں ہر ایک بات اس آسان طریقہ سے اور ایسی خوش اسلوبی کیساتھ سمجھائی گئی ہے کہ کسی شخص کا کیسا ہی پیچیدہ ہاتھ ہو آپ صرف ایک نظر دیکھ کر اسکی ساری زندگی کا حال جان جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ فن دست شناسی یا سامدرک ودیا کی بڑی بڑی ضخیم کتابیں طاقچہ میں دھری رہ جائینگی۔ اور پنڈتوں اور نجومیوں کی آمدنی ماند پڑ جائیگی۔ کیونکہ ہر شخص گھر بیٹھے پنجہ تقدیر کی مدد سے اپنی اور دوسروں کی قسمت کا حال جھٹ پٹ دیکھ لیا کریگا۔ نوجوان لڑکیاں آئندہ بیوہ نہ ہونگی نہ مرد رنڈوے ہونگے۔ بلکہ آئے دن کی خانہ جنگیاں یکدم مفقود ہو کر ہر گھر نمونہ جنت بن جائیگا۔ کیونکہ پنجہ تقدیر کی ہدایت کی مطابق شادیاں مرد و عورت کی ہست ریکھاؤں کی مطابقت سے ہوا کرینگی۔ اسکے علاوہ لڑکوں کی تعلیم پر ہزاروں روپے برباد کرنیکی بھی ضرورت نہ رہیگی اور نہ ہی آئندہ وہ گریجوایٹ بنکر تلاش ملازمت میں دربدر ذلیل و رسوا ہونگے۔ کیونکہ ہر ایک باپ لڑکے کی ہتھیلی سے اس کی طبیعت کا رجحان دیکھ کر صنعت و حرفت دستکاری یا جس فن کی جانب لڑکے کی ذہنی رغبت ہوگی اسے ویسی ہی تعلیم دلایا کریگا۔ الغرض پنجہ تقدیر وہ چیز ہے جس کی ہر گھر میں ضرورت ہے۔ پنجہ تقدیر کے موجد انگریز منجم مسٹر چیرو ہیں۔ جنہوں نے لارڈ کچنر کی موت کی پیشینگوئی بیس سال قبل کر دی تھی۔ شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم کو ۶۹ ویں سال ان کی رحلت کی تاریخ سے باخبر کر دیا تھا۔ اور اٹلی کے بادشاہ ہمبرٹ کے قتل کا حال ایک ماہ قبل شاہ مرحوم کے ہاتھ سے پڑھ لیا تھا باوجود اتنی خوبیوں کے قیمت صرف عہ محصولڈاک سمیت

کروڑپتی ہو

(اردو ترجمہ) یعنی پانچ روپے کے سرمایہ سے کروڑپتی بننے کا راز۔ اس کتاب کو امریکہ کے ایک کروڑپتی نے جو پہلے بالکل معمولی آدمی بلکہ مفلس و قلاش تھا اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اور وہاں یہ لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہو چکی ہے کیونکہ اسمیں امریکن کروڑپتی نے اس راز یا ہنر کو عملی طور پر ظاہر کیا ہے۔ جسکی بدولت ہر شخص صرف ۵ روپیہ کی پونجی سے کام جاری کر کے ہزاروں لاکھوں کا مالک بن سکتا ہے۔ فیاض دل مصنف نے کتاب میں سب کچھ ظاہر کر دیا ہے ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیا۔ صرف محنت و استقلال کی ضرورت ہے۔ پھر چاہے کیسا ہی کم علم آدمی ہو کسی گاؤں میں بیٹھ کر بھی اس نئے کاروبار کو جاری کر کے چاروں طرف سے روپیہ اپنی جانب کھینچ سکتا ہے۔ زیادہ تعریف فضول۔ کتاب خود اپنی تعریف آپکے منہ سے کہلوائیگی۔ قیمت صرف ایک روپیہ (۱) وی پی نہیں کیا جائے گا۔ بذریعہ منی آرڈر بھجوائیے۔

اشتہار کے خلاف ہونے پر دوچند قیمت واپس دینگے +

پبلشنگ ہوم آف میجک اینڈ مسمیرزم پوسٹ بکس نمبر (۱۵۰) لاہور

رسالہ "مست قلندر" لاہور میں مراقبہ غزلیں۔ مزیدار کہانیاں اور طبی ٹوٹکے ہر ماہ چھپتے ہیں +

زہر ہے زندگانی کا اگر یہ لطف حاصل ہو

محبت کے مارے ہوئے

کسی پہ جان جاتی ہو کہیں آیا ہوا دل ہو

مضمون اشتہار — رہبری ہاشندہ

جو سب طرف سے مایوس ہو چکے ہوں ذیل کے چار منتروں سے اپنے دل کی مراد کو حاصل کریں کامروپ دیس کے ایک سیلانی فقیر سے ان منتروں کو ہم نے حاصل کیا ہے جو کہ مجرب المجرب آزمودہ اور چٹکی بجاتے میں حل ہونیوالے ہیں۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر ان منتروں کا اثر خالی نہیں جا سکتا۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر مذہب کا آدمی ان کا عامل ہو سکتا ہے۔ پڑھنے میں ایسے آسان کہ ایک معصوم بچہ بھی پڑھ لے۔ کسی قبرستان شمشان یا خوفناک جگہ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ نہ ہی تصور کی مشق کرنا ہوگی۔ آپ گھر میں ہوں یا سفر میں ہر جگہ ان کو پڑھ سکتے ہیں (۱) **تین منٹ میں تسخیر محبوب** ۔ اس منتر کو ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی سدھی حاصل ہو جاتی ہے۔ پڑھنے میں صرف پندرہ منٹ صرف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسکا عامل بنکر اور صرف تین مرتبہ منتر پڑھ کر ہر شخص روزانہ نئے معشوق کو تسخیر کر سکتا بلکہ اپنی محبت میں پاگل بنا سکتا ہے۔ (۲) **پان موہنی منتر** یہ منتر بھی رام بان کی مانند اثر کرنیوالا ہے۔ اسکا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا۔ سات دنوں میں روزانہ اکیس بار پڑھ کر اس کی سدھی ہوتی ہے۔ اسکے بعد ۲۱ بار پڑھکر اور پان پر پھونک مارکر جسکو کھلاؤ گے وہ تمہاری محبت میں بیتاب ہو اُٹھے گا پیچھے پیچھے پھریگا اور زندگی بھر علیحدہ نہ ہو سکیگا۔ (۳) **موہنی چھو منتر** یعنی صرف معشوق کی پیٹھ پر پھول مارکر موہ لینے کا منتر۔ منگل کے روز ۲۱ بار پڑھنے سے اس منتر کی سدھی حاصل ہوگی۔ جب ایک بار سدھی حاصل ہو گئی تو پھر وقت کا کوئی لحاظ نہیں۔ جب موقعہ دیکھو کسی پھول پر سات بار اس منتر کو پڑھکر دم کردو اور معشوق کی پیٹھ پر مارو۔ اسکے بعد جادو کا تماشہ نظر آئے گا۔ یعنی معشوق اگر پردہ نشین ہوگا تب بھی باؤلے کتے کی طرح تمہارے پیچھے لگ جائیگا (۴) **پھول موہنی منتر** یعنی صرف پھول سونگھا کر معشوق کو بس میں کر لینے کا راز۔ پہلے رات کو صرف ۱۰۰ مرتبہ منتر پڑھ کر سدھی حاصل کرلے۔ پھر جب ضرورت ہو گیارہ بار پڑھکر کسی پھول پر دم کرے (پھونک مارے) اور معشوق کو سونگھا دے۔ پھر کچھ نہ کہے۔ منہ سے نہ بولے نہ چالے صرف ایک بار اس سے اپنی آنکھیں لڑائے۔ اور گھر چلا آئے۔ اسکے بعد جو کچھ ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نے **نوٹ**:۔ چاروں عملیات اکٹھے روانہ کئے جاویں گے۔ معاوضہ صرف دو روپے بذریعہ منی آرڈر بھجوائیے۔ وی پی کسی کے پاس نہیں بھیجا جائیگا اشتہار کے برعکس ہونے پر پوری قیمت واپس۔ ملنے کا پتہ:۔ **نیو یارک میجکل کمپنی پوسٹ بکس نمبر ۱۰۸ دہلی**

منتر شکتی سے علاج

اگلے وقتوں میں ہندو یوگی صرف منتروں کے ذریعہ سے ہر مرض کا علاج اور ہر آفت کا دفعیہ آناً فاناً کر دیتے تھے۔ منتر شکتی اس سائنس پر ایک جامع اور مکمل کورس ہے جسمیں ایک باکمال یوگی نے ان منتروں کو ظاہر کیا ہے جو زمانۂ قدیم سے ہندو یوگیوں میں سینہ بسینہ چلے آتے رہے اور جنکی بدولت وہ لوگ ہتھیلی پر سرسوں جما کر دکھا دیا کرتے تھے۔ یہ منتر نہایت ہی سہل الحصول اور عام فہم ہیں۔ کیونکہ انکی سدھی حاصل کرنے کے لئے کسی قسم کی محنت یا مشقت جھیلنا نہیں پڑتی۔ بلکہ ہر منتر کا ایک ہی بار نصف گھنٹہ جاپ کرنے سے اسکی سدھی حاصل ہو جاتی ہے اور پھر عمر بھر کیلئے وہ منتر بجلی کی ایسی سرعت کیساتھ اپنا اثر دکھانے لگتا ہے۔ سارے کورس میں ایک منتر بھی ایسا نہیں جسکی سدھی حاصل کرنے کے لئے کسی شمشان یا جنگل میں جاکر چلہ کھینچنا پڑے۔ یا کسی جن بھوت۔ دیوی۔ دیوتا کی تسخیر سے جان کو خطرہ میں ڈالا جائے۔ مثال:۔ ایک شخص کو سانپ یا بچھو نے کاٹ کھایا ہے یا کسی بیماری کے باعث اسکے کسی حصہ جسم میں شدت کی درد ہو رہی ہے آپ منتر پڑھنا شروع کرتے ہیں اور انگلی کے اشارے سے زہر یا درد کو زمین کی طرف اتارتے جاتے ہیں۔ اور سچ مچ مریض محسوس کرنے لگتا ہے کہ اسکا زہر یا درد نیچے اتر رہا ہے۔ اسی قسم کا فوری اثر دکھانیوالے سب کے سب منتر ہیں جنکی بدولت سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مریضوں کی جانیں بچ چکی ہیں۔ اسکے علاوہ وہ پراسرار نقوش اور تعویذ بھی اس میں درج کئے گئے ہیں۔ جو قدیم ہندو یوگیوں میں رائج تھے اور جنکو بھرنے اور کام میں لانیکی ترکیب ہر شخص گھر بیٹھے سیکھ کر نہ صرف لکھو کھا بندگانِ خدا کا بھلا کر سکتا ہے۔ بلکہ خود بھی مالدار بن سکتا ہے۔ مثلاً بھوت پریت اتارنیکا تعویذ۔ پاگل پن دور کرنیکا تعویذ۔ بانجھ عورت کے لڑکا پیدا کرنیکا تعویذ۔ اسقاط حمل کو روکنے کا تعویذ۔ منحوس ستاروں کے اثرات کو بدل کر خوش قسمت بننے کا تعویذ۔ ہر ایک خواہش کو کامیاب بنانیکا تعویذ۔ ہر قسم کی بیماری کو رفع کرنے کا تعویذ۔ بس کرن تعویذ وغیرہ وغیرہ کتاب کے آخر میں پراچین جادو کی ایک ایسی مجرب المجرب ترکیب درج کی گئی ہے جسکی بدولت راہ چلتے آدمی کو تسخیر کرکے اپنا ہمخیال بنایا جا سکتا ہے الغرض منتر شکتی جس کا ایک ایک منتر اور تعویذ صداقت پر مبنی اور تجربہ کی کسوٹی پر بار ہا پرکھا جا چکا ہے۔ اردو میں پہلی مرتبہ صرف مستحق اصحاب کیلئے چھاپی گئی ہے۔ اور باوجود اتنی خوبیوں کے مکمل کورس کا معاوضہ صرف ۴ ہے لیکن جو شخص وعدہ کرے کہ ان منتروں کو سیکھ کر زندگی بھر غریبوں کا مفت علاج کروں گا۔ اس سے نصف قیمت ایک روپیہ چار آنے لی جائے گی۔ کتاب بالتصویر اور مجلد ہے۔

روپیہ کماؤ

(انگریزی سے ترجمہ) انگلستان اور امریکہ میں یہ دستور ہے کہ تمام زن و مرد فالتو وقت میں فاضل کمائی کے لئے کوئی نہ کوئی شغل ضرور کرتے ہیں اور ماہوار تنخواہ سے دو چند بلکہ سہ چند زیادہ کماتے ہیں۔ "روپیہ کماؤ" امریکہ کی ایک بہترین کتاب کا اردو ترجمہ ہے جسمیں گھر بیٹھے بغیر کسی سرمایہ کے کم از کم دو گھنٹہ یومیہ کی محنت سے ہر شخص دو روپے سے لیکر دس روپیہ روزانہ کمانے کے قابل ہو جائیگا۔ امریکہ میں یہ کتاب کئی مرتبہ چھپکر لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہو چکی ہے۔ وجہ کیا کہ اسمیں وہ آسان ترین ہنر اور ایسے ایسے روپیہ کمانیکے مشغلے بتلائے گئے ہیں جنکو سمجھنے اور اپنے ہاتھ سے کرنیکے لئے نہ تو کسی استاد کی ضرورت اور نہ سرمایہ کی۔ ہر حیثیت اور ہر لیاقت کا آدمی ان ہنروں سے پہلے روز ہی فائدہ اُٹھا سکتا ہے۔ جیسے کہ کوئی بیس سال کا پرانا دستکار۔ مختصر فہرست مضامین ملاحظہ ہو (۱) پرانے چیتھڑے اور ردی کاغذ کے ٹکڑوں سے روپیہ پیدا کرنیکی ترکیب (۲) خربوزوں کے چھلکوں سے روپیہ کمانا (۳) آم کی گٹھلیوں سے روپیہ پیدا کرنا (۴) چولہے کی راکھ سے کس طرح دولت پیدا کی جا سکتی ہے (۵) ایک پیسہ میں دو لیمونیڈ کی بوتل تیار کرنیکی ترکیب (۶) بغیر چربی اور آگ کے صابون تیار کرنا (۷) جادو کا سانپ بنانا۔ چند پیسوں کی لاگت سے گھر بلو پریس تیار کرنا (۸) میل آرڈر بزنس یعنی اشتہاروں کے ذریعہ سے روپیہ کمانیکی حیرت انگیز ترکیبیں وغیرہ وغیرہ غرضکہ یہ کتاب اشرفیاں خرچ کرکے ملے تب بھی سستی ہے مگر اس خیال سے کہ غریب سے غریب آدمی بھی فائدہ اُٹھا سکے ہم نے صرف ۱۲ قیمت رکھی ہے۔

یونیورسل ٹریڈنگ کمپنی پوسٹ بکس نمبر ۱۵ لاہور

رسالہ مست قلندر لاہور میں نو رنگین تصویریں نکلتی ہیں نمونہ مفت آنے کے ٹکٹ بھیجکر منگوا لیجئے۔

پورا ۳۶ رنگین تصاویر والا

لاکھوں میں ایک

اصلی گپت کوک شاستر باتصویر

شریمان کوکہ پنڈت وزیراعظم شمبھو سنگھ مہاراجہ کشمیر کا بنایا ہوا

ہم تمام اشتہاری "کوک شاستر" والوں کو چیلنج دیتے ہیں کہ جو شخص ہمارے کوک شاستر سے اپنی کتاب علم النساء یا کوک شاستر کو مطابق کر دے اس کو مبلغ **ایکہزار روپیہ نقد انعام** دینگے۔ ہمارے کوک شاستر میں کوکہ پنڈت کی مکمل لائف موجود ہے دیگر یہ کتاب اُنکے اپنے قلمی نسخے کا لفظ بلفظ ترجمہ ہے اگر کوک شاستر کے شائقین وہی اصلی کتاب ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو جلد درخواست کریں۔ ہاں اگر آپ ہر زمرہ کی عورت کی پہچان چاہتے ہیں اگر آپ **باکرہ نابالغ خنثے۔ حاملہ اور بانجھ** عورت کی تشخیص کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوک شاستر ۳۶ **رنگین تصاویر والا** فوراً خریدیں اگر آپ کمزوری اور بدکاری کے عوارض سے تمام عمر کے لئے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی حسب مرضی لڑکا یا لڑکی پیدا کرنے اور حمل میں نطفہ تبدیل کرنیکے خواہشمند ہیں اگر آپ خوبصورت بے عیب و تندرست اولاد کے جویا ہیں اگر آپ کو اپنی عورت سے پیار ہے اور اس کو تمام عمر جوان اور خوبرو رکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، ہاں اگر آپ چاند کی تاریخوں سے عورت کے ویرج کا تعلق، عورت کو قابو میں کرنے عمدہ اور آسان آسن، جماع کرنیکے طریقے۔ کس وقت اور کس حالت میں جماع مضر ہے اور کس حالت میں مفید اور دیگر کار آمد باتیں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو **اصلی گپت کوک شاستر** کو خرید کر اپنا ہمدم و مشیر بنایئے جس میں آپ کے مطلب کی ۳۶ دلکش اور رنگین تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ کاغذ۔ لکھائی۔ چھپائی۔ نہایت تحفہ۔ خوبصورت جلد بندھی ہوئی ہے باوجود ان خوبیوں کے قیمت معہ محصولڈاک صرف ڈیڑھ روپیہ (عہ) بخط ہندی و گورمکھی بھی تیار ہے۔ اس کی قیمت بھی صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ (عہ) ہے۔

دھوکے سے بچو ہمارا کوک شاستر مدت سے فروخت ہو رہا ہے اور تمام دنیا ہندوستان، برہما، مصر، بصرہ، افریقہ، امریکہ تک مشہور ہو چکا ہے اور پچاس ہزار سے زیادہ بک چکا ہے بعض تاجروں نے اس کی زیادہ بکری دیکھ کر نقلی کتابیں بنائی ہیں اور بے جوڑ اشتہار دیکر پبلک کو لوٹ رہے ہیں اسلئے آپ ان کے دھوکے سے بچیں اور سوچ سمجھ کر منگائیں زیادہ تصویروں کے لالچ میں نہ پھنسیں۔ اصلی گپت کوک شاستر سرکار سے رجسٹری شدہ ہے۔ ہمارے سوا کسی کو چھاپنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس لئے ہم سے یا ہمارے ایجنٹوں سے طلب کریں۔

تین کتابیں مفت کوک شاستر کے خریداروں کو تین کتب۔ قینچی کتا لطیفے۔ روپیہ پیدا کرنے کی مشین۔ انمول رتن۔ بالکل مفت روانہ ہوں گی۔

ضروری التماس۔ یہ وہ کتاب نہیں ہے جو لدھیانہ، جھانسی، علیگڈھ، ہاتھرس وغیرہ کے تاجر فروخت کرتے ہیں، بلکہ یہ ہماری اپنی شائع کردہ ہے۔ ہم نے سنسکرت کی پُرانی کتاب سے ترجمہ کرا کر چھپوائی ہے۔ ہمارے سوا دوسری جگہ نہ ملے گی۔

دیکھئے لوگ کیا کہتے ہیں؟ (۱) جناب بابو رامچندر صاحب رنگون ملک برہما سے رقمطراز ہیں "آپکے کوک شاستر کا وی پی پہنچا۔ کتاب پڑھنے اور دیکھنے سے معلوم ہوا کہ ابھی سچے اشتہاری بھی دنیا میں موجود ہیں۔ میں لدھیانہ۔ جھانسی وغیرہ سے کئی بار کتب منگوا کر روپیہ برباد کر چکا ہوں۔ اب آپکی کتاب پڑھ کر تسلی ہوئی ہے دوستوں کیلئے چار جلدیں اور بھیجدیں"۔ (۲) ایک صاحب جو اپنا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتے کنجاہ ضلع گجرات سے لکھتے ہیں "آپکا کوک شاستر دوسرے کوک شاستروں سے اچھا اور مفید مطلب ہے"۔ (۳) جناب لالہ بڈھا سنگھ صاحب ساہوکار قلعہ سوبھا سنگھ لکھتے ہیں "آپکی کتاب کوک شاستر دیکھی دل بہت خوش ہوا جو نسخے آزمائے مجرب پائے"۔ (۴) جناب بابو محمد حبیب صاحب کھلنہ سے لکھتے ہیں "آپ کی کوک شاستر آپکے اشتہار سے زیادہ قابل تعریف ہے مہربانی فرما کر ایک ہندی اور ایک اردو بھیجدیں"۔ (۵) جناب منشی کرم الٰہی صاحب چھاؤنی بولارام (دکن) سے تحریر فرماتے ہیں "کوک شاستر پہنچا ملاحظہ سے ویسا ہی پایا جیسا اشتہار تھا۔ مہربانی فرما کر کتاب مجربات گپتا بذریعہ وی پی ارسال کر دیں"۔ (۶) جناب مرزا احمد حسین صاحب سہسرام ضلع آرہ سے لکھتے ہیں "آپنے جو کتاب کوک شاستر منشی وحید الدین کے نام بھیجی ہے اس سے نسخہ جات آزماکر شناخت حمل وغیرہ دلچسپ مضامین دیکھ کر شوق ہوا ایک جلد کتاب مذکور معہ ایک جلد مجربات گپتا میرے نام ارسال کر دیں"۔ اور بہت سی تعریفی چٹھیات موجود ہیں بوجہ عدم گنجائش نہیں لکھیں۔

ملنے کا اصلی پتہ:- مینیجر صاحب اصلی کوک شاستر والے - لُدھیانہ، ایس، پی، ریلوے

آتشک کی شرطیہ گولیاں

نہ مرہم لگانے کی ضرورت نہ سفوف بُرکنے کی حاجت نہ پرہیز کا خوف نہ جلاب لینے کی جھنجھٹ نہ منہ آتا ہے نہ دست صرف دو گولی روزانہ کھاؤ پرانے سے پرانا آتشک صرف چودہ دن میں کافور۔
قیمت ۱۴ گولی صرف دو روپے محصولڈاک سات آنہ ۷

سوزاک کی مجرّب دوا

یہ بہت بُرا مرض ہے اس سے زندگی وبال جان ہو جاتی ہے جلن کا رہنا پیشاب کی حاجت بار بار ہونا۔ مادہ تولید کا ضائع ہو جانا پیشاب کرتے وقت پیپ کا نکل جانا معمولی بات ہے ہماری دوا کے استعمال سے تمام شکایات رفع ہو جاتی ہیں۔ قیمت صرف عہ محصول ڈاک ۷

افیم چھڑاؤ گولیاں!

جو لوگ دو دو تولے افیون کھانے کے عادی تھے ان گولیوں کے استعمال سے انکی بھی افیم چھوٹ گئی۔ اگر خدانخواستہ آپ یا آپ کا کوئی دوست اس بد عادت میں گرفتار ہے تو اُسے فوراً ہدایت کردیں کہ یہ گولیاں منگا کر استعمال کرے قیمت ۶۰ گولی صرف دو روپے محصولڈاک ۷

بال اُڑانیکا خوشبودار بے ضرر صابون

معمولی صابون کی طرح پانی کے ساتھ بالوں پر لگا ہیں چند منٹ میں بال صاف کر دیگا۔ کھونٹی بالکل نہیں رہیگی جلد مانند ریشم کے صاف اور نرم نکل آئیگی کوئی اشتہاری صابون اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں کوئی مضر شے نہیں پڑتی۔ قیمت فی بکس تین ٹکیہ دس آنے ۱۰ محصولڈاک ۷ تین بکس معہ محصولڈاک دو روپیہ ۲ اکٹھا میں ملیں گے ایجنٹوں کو بارہ بکس صابون صرف پانچ روپیہ میں ملیگا +

صرف ایک منٹ میں بالوں کو سیاہ عمدہ اور چمکدار بنانے والا

مہاراجہ خضاب نمونہ شباب

یہ خضاب نہایت نفیس خوشبودار اور اعلیٰ درجہ کا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ایسا سستا اور زود اثر خضاب آج تک دوسری جگہ کہیں ایجاد نہیں ہوا معمولی تیل کی طرح برش کیساتھ بالوں پر لگائیں چند منٹ میں بغیر حیرانی و پریشانی کے بال سیاہ اور چمکدار ہو جاویں گے۔ نہ گھولنا لگانیکی ضرورت نہ باندھنے اور دھونیکی۔ ہزار ہا معزز صاحبان نے اس خضاب کو آزمائش کرکے تعریفی سندات ارسال کی ہیں۔ جہاں ایک شیشی پہنچی ہے وہاں سے بیسیوں فرمائشیں آتی ہیں آپ بھی ایک شیشی منگوا کر آزمائش کریں قیمت فی شیشی معہ برش صرف ۱۲ محصولڈاک ۷، ۲ شیشی معہ برش عہ محصول ۸

دھوکے سے بچیں

بعض دھوکہ باز اشتہاریوں نے مہاراجہ خضاب نمونہ شباب کی زیادہ بکری دیکھکر نقلی خضاب بنائے ہیں اور اصلی کا لفظ لگا کر لوگوں کو مغالطہ میں ڈالتے ہیں اس لئے سوچ سمجھ کر منگوائیں۔ ہمارے اور ہمارے ایجنٹوں کے سوا اصلی خضاب دوسری جگہ نہ ملیگا۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں ۲۰۵ ایجنٹ اس کے موجود ہیں اگر آپ کے شہر میں کوئی ایجنٹ نہیں تو فوراً درخواست کریں +

بابا آنکھیں بڑی نعمت ہیں

کسی نے سچ کہا ہے آنکھیں گئیں جہان گیا۔ اندھا آدمی دنیا کے عجیب و غریب نظاروں سے محروم رہتا ہے!
اندھا آدمی خدا کی قدرت کا تماشہ نہیں دیکھ سکتا۔ غرضیکہ آنکھوں کے بغیر دنیا کی کسی چیز کا لطف نہیں رہتا اور زندگی وبال جان معلوم ہوتی ہے اگر آپ اشرف المخلوقات کہلاتے ہوئے بھی ایسی انمول چیز کی قدر نہیں کرتے تو سخت افسوس کا مقام ہے۔ آنکھوں کی صحت کا خیال رکھنا ہر فرد بشر کے لئے ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بینائی بڑھاپے تک ویسی ہی قائم رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنکھوں کا کوئی مرض نہ ہو تو

(رجسٹری شدہ) **گپت فیض سُرمہ کا استعمال کریں** (رجسٹری شدہ)

یہ سُرمہ ہم نے بڑی محنت اور جانفشانی سے تیار کیا ہے اور ہزار ہا اشخاص میں نمونہ مفت تقسیم کرکے تجربہ کیا جا چکا ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اس میں ممیرا اور سچے موتی شامل ہیں بلکہ یہ سُرمہ جنگل کی جڑی بوٹیوں اور نایاب ادویات سے اور سُرمہ کو کیمیائی طریق پر صاف کرکے تیار کیا گیا ہے۔ آنکھوں کی تقریباً تمام امراض کو شرطیہ فائدہ کرتا ہے مثلاً دھند غبار۔ جالا۔ ابتدائی موتیابند ضعف بصارت۔ خارش چشم۔ پانی بہنا۔ غرضیکہ پھولا اور ناخونہ چیچک کے سوا سب کے لئے اکسیر ثابت ہوا ہے صرف چند روز استعمال کرنے سے آنکھوں کی روشنی دو چند ہو جاتی ہے اور عینک لگانیکی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ اگر تندرست آدمی بھی دوسرے تیسرے روز لگایا کرے تو آنکھوں کا کوئی مرض نہ ہوگا۔ جہاں ایک شیشی پہنچتی ہے وہاں سے بیسیوں فرمائشیں آتی ہیں جو ایک دفعہ منگواتا ہے ہمیشہ کا گاہک بن جاتا ہے۔ آزمائش ہر فرد بشر کے لئے ضروری ہے۔ آپ بھی منگوا کر آزمائش کریں۔ قیمت بہت کم یعنی ایک تولہ کی شیشی ایک روپیہ ۱، چھ ماشہ کی شیشی ۸ محصول ڈاک ہر ایک کا سات آنے۔ دو تولہ کے خریدار کو محصول ڈاک معاف ہوگا +

S. P. R.

تمام ادویات کے ملنے کا پتہ:- منیجر چندر گپت اوشدھالیہ مقام لوہانہ۔ ایس، پی، اے ریلوے۔

غلامی کا جوا گردن سے اتار دو

اگر آپ صنعت و حرفت سیکھ کر آزادانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کتاب "گنج قارون" یعنی ہر فن معلم کو خریدیں ہمارا دعویٰ ہے کہ صنعت و حرفت کے متعلق ایسی مفید اور مستند کتاب آج تک کسی زبان میں شائع نہیں ہوئی اس کتاب کی برکت سے ایک معمولی لیاقت کا آدمی بھی ہر ایک علم و ہنر میں بغیر استاد کے ماہر ہو سکتا ہے اور ہزاروں روپیہ کما سکتا ہے پھر اس کو کسی دوسرے کی غلامی کرنیکی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ جس قدر ہنر اس میں درج ہیں تمام تجربہ آزمودہ ہیں (**مختصر فہرست مضامین**) بال اڑانیکا ہر قسم کا صابون بنانیکی ترکیب بلا آمیزش چربی۔ ہر قسم کی ادویات اور پھولوں کی روح عطر تیل بنانا۔ گھڑی سازی۔ فوٹوگرافی۔ تار برقی کا کام۔ پریس کا مکمل کام۔ گلٹ سازی کا کام بلا بیٹری اور بذریعہ بیٹری ہر قسم کا سوڈا واٹر بنانا۔ گیس کی روشنی پیدا کرنا۔ ربڑ کی مہر بنانا۔ کاغذ اور بلاٹنگ پیپر بنانا۔ موم بتی۔ دیا سلائی بنانیکی آسان ترکیب ڈبل روٹی بسکٹ بنانا۔ گندھک۔ پارہ کافور سنگ بھیپالی و گلاس بنانا۔ آخر میں نفیس اور مجرب المجرب نسخہ جات ہیں جن کو بلا مبالغہ اکسیر کہہ سکتے ہیں۔ سر سے پاؤں تک ہر ایک مرض کی تیر بہدف دوا ہر قسم کے بخار سر کو لگانے سے دور ہو جائیں پیٹ پر مرہم لگانے سے جلاب لگ جائے خضاب کے بے نظیر تیل وغیرہ وغیرہ سینکڑوں نرالی چیزیں۔ کتاب کی خوبصورت جلد بندی ہوئی ہے۔ باوجود ان اوصاف کے قیمت صرف ایک روپیہ چھ آنہ (عہ۱) معہ محصولڈاک

ایک بالکل نئی نہایت مفید اور کار آمد کتاب

لطف زندگی یا رفیق ہمدم

اس کتاب کو مصنف نے بیسیوں برس کی محنت اور دماغ سوزی کے بعد تمام عمر کے تجربات اور معلومات سے آراستہ کیا ہے اس میں دنیا کے مشکل کاموں کو آسان کر دکھایا ہے جس نے اس کتاب کو دیکھ لیا گویا تمام دنیا کے کتب خانہ کی سیر کر لی اور تمام دنیا کے رازوں سے واقف ہو گیا اگر آپکو سچے رفیق کی تلاش ہے جو ہر وقت دکھ سکھ میں ساتھ دے یا اگر لطف زندگی اٹھانا چاہیں تو ضرور اس کتاب کو خرید کر اپنے پاس رکھیں تمام خوبیاں پڑھنے سے ظاہر ہوں گی۔ لکھائی چھپائی کاغذ نہایت نفیس۔ خوبصورت جلد ضخامت ۲۷۰ صفحے۔ باوجود ان خوبیوں کے قیمت صرف دو روپیہ چار آنہ (عہ۲) ہے لیکن پہلے پانچسو خریداران سے معہ محصولڈاک صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ (عہ۱) لیا جاویگا +

مجربات گپتا

علم طب کی نادر کتاب جو صرف دو سال کے عرصہ میں چھ مرتبہ چھپ چکی ہے اور جس نے چھپتے ہی تمام دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے کیونکہ ہمنے اس کتاب میں اپنے تمام عمر کے تجربات بغیر کسی ممسک پن کے درج کر دئے ہیں۔ اس کتاب کو خرید کر سینکڑوں صاحب حکیم بن کر ہزاروں روپے ماہوار کما رہے ہیں۔ اس کتاب میں ایک بھی نسخہ ایسا نہیں لکھا جو کم از کم پچاس دفعہ آزما کر نہیں دیکھا۔ دوائیں ایسی درج ہیں جو ہر جگہ فوراً مل جائیں سر سے پیر تک تمام بیماریوں کے عجیب و غریب نسخہ جات۔ خضاب کے بے نظیر تیل لاثانی اور حیرت انگیز دوا جن سے ہر شخص کامل مرد بن جائے اور کسی اشتہاری دوا فروش کے پھندے میں نہ آئے ہر ایک دھات کا کشتہ کرنا۔ ہر دوا کا جوہر اڑانا تمام زہروں کے تریاق۔ خوبصورتی حاصل کرنیکے راز۔ عورتوں اور بچوں کی تمام موٹی موٹی بیماریوں کے نہایت آسان علاج درج کئے ہیں چھوٹے سے اشتہار میں کیا کیا لکھیں۔ ہم شرط کرتے ہیں کہ اگر کتاب آپکو ناپسند ہو گی تو قیمت بلا حجت واپس دیں گے۔ اگر فوراً درخواست کرو تو مجلد کتاب معہ محصولڈاک صرف ایک روپیہ (عہ) میں دیں گے +

خاص رعایت

ہر دو کتب لطف زندگی۔ اور مجربات گپتا اکٹھی منگوانے پر معہ محصولڈاک صرف دو روپیہ چار آنہ (عہ۲) لئے جاویں گے +

ہر قسم کے صابون بنانا سکھانیوالی عجیب و غریب لاثانی کتاب

صابون سازی

ایسی مفید کارآمد فیض بخش کتاب آج تک کہیں چھپی اور نہ چھپے گی اسمیں صابون سازی کے تمام بھید بغیر کسی بخل کے کھولدئے ہیں جنکو پڑھ کر ایک معمولی لیاقت کا آدمی بغیر استاد کے گھر بیٹھے ہر قسم کا صابون بنا کر ہزاروں روپے کما سکتا ہے معقول منافع کی خاطر ایسے ڈھنگ لکھدئے ہیں جو استاد لوگ ہزاروں روپے لیکر بھی نہیں بتلاتے۔

اس کتاب میں سینکڑوں قسم کے دیسی انگریزی خالص اور میلدار۔ رنگدار خوشبودار صابون بنانیکے نہایت آسان طریقے درج ہیں جو جاہل سے جاہل اور گھر بیٹھے عورتیں بنا سکیں جائیں اور فوراً بن جائے۔ خالص دیسی صابون بذریعہ آگ بنانا۔ چونا بذریعہ کاسٹک سوڈا جو بغیر آگ دس منٹ میں تیار ہو جائے۔ ملاوٹ دار میدہ صابون۔ چاک صابون۔ امرتسری صابون۔ انگریزی پیئر سوپ۔ کاربالک۔ ارنڈیکا رنگدار خوشبودار موتیا۔ کیوڑہ۔ نارنجی۔ گلابی۔ صندلی روزمرہ کے کام کا عام بکنے والا۔ جو دنوں میں ہزاروں ٹکیہ بنالو۔ بال صفا میں قسم کا ہر ایک تیل کا بنانا عمدہ وزن دار کرنا وغیرہ وغیرہ۔ علاوہ ازیں

ہزاروں روپے کا نسخہ

یعنے سرسوں کے تیل کو سفید اور بلون کرکے کو بناندگھی بنانا اس کتاب میں درج ہے کاغذ سفید لکھائی صاف۔ عبارت عام فہم۔ خوبصورت جلد۔ اصلی قیمت دس روپیہ ہے۔ مگر پہلے پانچسو خریداروں سے صرف (عہ) لیا جاویگا۔ محصولڈاک ۵ علاوہ ہوگا۔ فوراً درخواست بھیجئے۔

تجربات ورمن

یہ کتاب مصنف نے خاص اپنے مجربات سے لکھی ہے ایک نسخہ بھی سنا سنایا درج نہیں کیا۔ مختصر فہرست یہ ہے ۵ منٹ میں بال سیاہ کرنیکا خضاب بنانا۔ بال اڑانیکا صابون۔ عرق تیل بنانا دو روپیہ روز کمانیکا ہنر۔ بوٹ پالش جو ہزاروں روپے سالانہ کا بکتا ہے۔ خوشبودار ہیر آئل۔ چاکی سفید کی ٹکیا۔ دانتوں کا منجن بنانا۔ سٹر پریس بنانا جس سے اشتہارات وغیرہ جو مرضی ہو چھاپو اس قسم کے بہت سے ہنر درج ہیں۔ قیمت اصلی (عہ) ہے۔ مگر پہلے ایک سو خریداروں سے صرف چودہ آنہ (۱۴) معہ محصولڈاک لئے جاویں گے +

خاص رعایت

ہر دو کتب صابون سازی اور تجربات ورمن اکٹھی منگوانے پر معہ محصول صرف (عکہ) لئے جاوینگے

تمام کتابوں کے ملنے کا پتہ

کارخانہ چند رگپت اوشدھالیہ۔ ٹوہانہ ایس پی ریلوے

TOHANA.
SP.Ry.

675/0/0

مبلغ چھ سو پچھتر روپیہ کے چار نسخے

یہ وہ مشہور عالم چوٹی کے نسخے ہیں جن سے غیر ممالک کے لوگ ہندوستان سے کروڑوں روپے سالانہ کما رہے ہیں لیکن اب بعض حضرات نے ان نسخوں کو فیس سے سکھانا شروع کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ وہ فیس غریب لوگوں کیلئے بہت زیادہ ہے اس لئے ہمنے ان نسخہ جات کو نہایت دریا دلی سے

کنز المجربات

میں درج کر دیا ہے ان چاروں نسخہ جات کی فہرست درج ذیل ہے

(۱) فینائل نہایت عمدہ بنانیکا نسخہ جو پانی میں ملانے ہی دودھ کیطرح ہوجاتا ہے اور جو کہ اعلیٰ درجہ کی جرم کش دوا ہے ہمارے ہندوستان میں لاکھوں روپیہ سالانہ کی فروخت ہوتی ہے بنانے میں نہایت سہل اور سستی ہے ایک صاحب ولایت میں پانسو روپیہ فیس لیکر بتاتے ہیں (۲) جاپانی خضاب فیس مبلغ پچاس روپیہ جو نہایت خوشنما رنگ دیتا ہے (۳) جرمنی خضاب ایک پوڈر والا فیس مبلغ سو روپیہ بڑھی پکی رنگت دینے والا ہے (۴) ایک بہشتی والاعرق خضاب جوان سب سے اعلیٰ اور خالص دیسی ہے پچیس روپیہ فیس دیکر سیکھا گیا تھا۔ علاوہ ازیں بال شربت سپاری پاک۔ لاجواب شاہی طلاء۔ رطبی صندوقچہ۔ روغن احمر۔ پوڈر آف آرسنک وغیرہ وغیرہ سینکڑوں مجرب نسخے جنکے ذریعہ سے اشتہاری حکیم لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ انسان کی سر سے پاؤں تک کی تمام بیماریوں کی تشریح اور ان کا مجرب علاج درج کیا ہے۔ تمام موذی بیماریوں مثلاً آتشک۔ سوزاک۔ جریان۔ احتلام۔ سرعت انزال۔ سستی نامردی وغیرہ کے شرطیہ علاج۔ نسخے ایسے لکھے ہیں جو بنانے میں بالکل آسان اور فوائد میں آب حیات ثابت ہونگے۔ جو بارہا تجربہ کی کسوٹی پر کسے جا چکے ہیں پھر لطف یہ کہ کوئی نسخہ کتابی نہیں بلکہ خاص صدری سنیاسی ہیں مثلاً جریان کے تین بے خطا نسخے جس میں ایک تو صرف مفرد دوائی ہے اس سے بیس سالہ جریان بھی دور ہو جاتا ہے۔ دوسرے نسخے سے جریان احتلام خواہ کتنا ہی پرانا ہو تین خوراک سے دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر مالش کرنے سے پرانے سے پرانا آتشک۔ بازو پر بوٹی باندھنے سے ڈاڑھ کا درد ہمیشہ دور وغیرہ وغیرہ سینکڑوں نسخے جو آجتک کبھی نہ سنے ہونگے۔ عورتوں اور بچوں کی تمام بیماریوں کی تشریح اور مجرب علاج درج کیا ہے۔ کاغذ لکھائی۔ چھپائی نہایت نفیس ٹائیٹل خوشرنگ سنہری چھپا ہوا۔ خوبصورت جلد۔ حجم ۲۳۰ صفحے باوجود ان خوبیوں کے قیمت صرف ڈھائی روپے۔ محصولڈاک ۷؍ لیکن پہلے پانسو خریداروں کو محصول ڈاک معاف ہوگا +

مجربات گپتا علم طب کی نادر کتاب جو صرف دو سال کے عرصہ میں چھ مرتبہ چھپ چکی ہے اور جس نے چھپتے ہی تمام دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے کیونکہ ہمنے اس کتاب میں اپنے تمام عمر کے تجربات بغیر کسی مسک پن کے درج کر دیئے ہیں اس کتاب کو خرید کر سینکڑوں اصحاب حکیم بنکر ہزاروں روپے ماہوار کما رہے ہیں۔ اس کتاب میں ایک بھی نسخہ ایسا نہیں لکھا جو کم از کم پچاس دفعہ آزما کر نہیں دیکھا۔ دوا میں ایسی درج ہیں جو ہر جگہ فوراً مل جاتیں۔ سر سے پیر تک تمام بیماریوں کے عجیب غریب نسخہ جات خضاب کے بینظیر نسخے لاثانی اور حیرت انگیز دوا جن سے ہر شخص کامل مرد بن جائے اور کسی اشتہاری دوا فروش کے پھندے میں نہ آئے۔ ہر ایک دھات کا کشتہ کرنا۔ ہر دوا کا جوہر اڑانا۔ تمام زہروں کے تریاق۔ خوبصورتی حاصل کرنیکے راز۔ عورتوں اور بچوں کی تمام موذی بیماریوں کے نہایت آسان علاج درج کئے ہیں جھوٹے سے اشتہار میں کیا کیا لکھیں۔ ہم شرط کرتے ہیں کہ اگر کتاب آپ کے پسند نہ ہوگی تو قیمت بلا حجت واپس دینگے اگر فوراً درخواست کرو تو مجلد کتاب مع محصول صرف ایک روپیہ میں دیں گے۔

بلا استاد کے ہر قسم کے صابون بنانا سکھانیوالی نادر و نایاب کتاب

صابون سازی

ایسی مفید کارآمد فیض بخش کتاب آجتک کہیں چھپی نہ چھپیگی اسمیں صابون سازی کے تمام بھید بغیر کسی بخل کے کھولدیئے ہیں جنکو پڑھ کر ایک معمولی لیاقت کا آدمی بغیر استاد کے گھر بیٹھے ہر قسم کا صابون بنا کر ہزاروں روپیہ کما سکتا ہے معقول منافع کی خاطر ایسے ڈھنگ لکھدیئے ہیں جو استاد لوگ ہزاروں روپے لیکر بھی نہیں بتلاتے۔

اس کتاب میں سینکڑوں قسم کے دیسی۔ انگریزی۔ خالص اور ملیدار، رنگدار خوشبودار صابون بنانیکے نہایت آسان طریقے درج ہیں جو جاہل سے جاہل اور گھر بیٹھے عورتیں تک بنا جائیں اور فوراً بکتا جائے خالص دیسی صابون بذریعہ آگ بھی جو بذریعہ کاسٹک سوڈا جو بغیر آگ دس منٹ میں تیار ہو جاوے۔ ملاوٹ دار میٹھا صابون۔ چاک صابون۔ امرتسری صابون انگریزی پیر سوپ۔ کاربالک۔ ارنڈیکا رنگدار خوشبودار موتیا کیوڑہ۔ نارنجی۔ گلابی مندلی روزمرہ کے کام کا عام بکنے والا جو دن میں ہزاروں ٹکیہ بنالو۔ بال صفا۔ تین قسم کا ہر ایک تیل کا بنانا۔ عمدہ وزن دار کرنا وغیرہ وغیرہ۔ علاوہ ازیں

ہزاروں روپے کا نسخہ!

یعنی سرسوں کے تیل کو سفید اور تلوں کے تیل کو مانند گھی بنانا اس کتاب میں درج ہے کاغذ سفید لکھائی صاف عبارت عام فہم خوبصورت جلد اصلی قیمت دس روپیہ ہے مگر پہلے پانسو خریداروں سے صرف ۱ عہ ؍ لیا جاویگا۔ محصولڈاک ۵ علاوہ ہوگا۔ فوراً درخواست بھیجئے!

تجربات ورمن

یہ کتاب مصنف نے اپنے خاص مجربات سے لکھی ہے ایک نسخہ بھی سنا سنایا درج نہیں کیا۔ مختصر فہرست یہ ہے۔ پانچ منٹ میں بال سیاہ کرنیکا خضاب بنانا۔ بال اڑانیکا صابون۔ عرقی تیل بنانا اور روپے رونکانیکا ہنر۔ بوٹ پالش جو ہزاروں روپے سالانہ کا بکتا ہے۔ خوشبودار ہیر آئل چار کی سفری ٹکیہ۔ دانتوں کا منجن بنانا۔ ربڑ پریس بنانا۔ جس سے اشتہارات وغیرہ جو مرضی ہو چھاپ لو۔ اس قسم کے بہت سے ہنر درج ہیں۔ قیمت اصلی ۱ عہ ؍ ہے مگر پہلے ایک سو خریداروں سے صرف چودہ آنہ معہ محصول لئے جاویں گے +

خاص رعایت

ہر دو کتب صابون سازی اور تجربات ورمن اکٹھی منگوانے پر معہ محصول ڈاک صرف دو روپے (عار) لئے جاویں گے *

ملنے کا پتہ: مینیجر گپتا اینڈ کمپنی ۲ مقام ٹوہانہ ایس پی ریلوے

TOHANA
S.P.Ry.

شربت فولاد

جو شکل دیکھو تو دلربا ہے و ذائقے میں بھی خوش مزہ ہے — ہے پھول سے بڑھکر اس میں خوشبو جو اثر دیکھو تو بے بہا ہے
جسم کو مضبوط کر دے ایسا کہ ہووے فولاد سے بھی بڑھکر — لیا ہے سب کی زباں سے اسنے خراج تحسین و مرحبا ہے
ہر اک بشر اس کے بالمقابل بنانے میں تین کر چکا ہے — ہو نہ اسکے ہمسر کوئی بھی شربت یہ کاہر گز نہ بن سکا ہے

معزز خریداران! آپ نے کئی کمپنیوں کے شربت اور قسم قسم کے مرکبات فولاد استعمال کئے ہوں گے اب ہمارا شربت فولاد بھی منگوا کر استعمال کریں تاکہ آپ کو مندرجہ بالا اشعار کی صداقت کا ثبوت ملجائے اور جو بدظنی اشتہاری ادویات کی نسبت آپکے دل میں جاگزین ہو چکی ہو وہ آپکے دل سے جاتی رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ

آخر کیا باعث ہے؟

کہ دیگر کمپنیوں کے شربت فولاد آزمائش پر اچھے ثابت نہیں ہوتے اور ہمارا شربت فولاد خریداران کی زبان مبارک سے خراج تحسین حاصل کر رہا ہے اس کا سبب ہم آپکو بتلاتے ہیں

آپ

سطور ذیل کو ملاحظہ فرما کر ہماری محنت و صداقت کی آزمائش کریں کئی صاحبان تو سفوف کی شکل میں فولاد کا مرکب تیار کرتے ہیں جو معدہ میں کلی طور پر حل نہیں ہوتا بلکہ انتوں کی راہ فضلہ میں خارج ہو جاتا ہے کئی صاحبان تیزاب میں اس کا محلول بنا کر فروخت کرتے ہیں وہ اکثر مزاجوں میں خراش امعا کا باعث ہوتا ہے یا پھیپھڑے کے لئے مضر ہو کر بجائے فائدہ کے سخت کھانسی کر دیتا ہے لیکن ہمارا

شربت فولاد

بغیر آگ و دھوپ و تیزاب کی آمیزش کے صرف جڑی بوٹیوں کی کیمیاوی ترکیب سے سائنٹفک اصول کو مدنظر رکھکر تیار کیا گیا ہے تاکہ پہلے وہ معدہ کی قوتوں کو درست کرے اور پھر جاکر خون صالح پیدا کرکے اس کو تقویت بخشے پھر تمام بدن میں اسکی تاثیر قوت جوہریہ سرایت کر جاتے یہ کم خرچ و بالا نشین شربت فولاد جسم کے لئے ہر قسم کی تاثیر و تقویت رکھتا ہے جسکے سامنے ولایت کے محلول فولاد ہیچ ہیں۔ نہ اسمیں کوئی جوہر شامل کیا گیا ہے کہ کھانے میں تلخ ہو نہ کسی قسم کی کونین کی آمیزش ہے کہ پیا ہی نہ جائے ہمارا شربت فولاد نہایت خوش ذائقہ خوشبودار اور چند خوراکوں میں ہی اپنا بے بہا اثر نمایاں کر دیتا ہے۔ یہ بوڑھوں کا عصا اور کمزوروں کا مسیحا ہے۔ جسنے ایکدفعہ استعمال کیا ہمیشہ کے لئے شیدا ہو گیا۔ مرض ضعف جگر یعنی جس میں ہاں بدن سفید اور زرد ہو کر جسم پر ورم ہو جاتی ہے از بس مفید اور سریع الاثر ہے خون صالح پیدا ہو کر چہرہ کندن کی طرح دمکنے لگتا ہے اور کمزور جسم میں اتنی طاقت آجاتی ہے کہ موسم سرما کی سردی بھی محسوس نہیں ہوتی اگر ایک سال تک متواتر اس کا استعمال جاری رکھا جائے تو تمام سفید بال سیاہ ہو کر از سر نو جوانی کا لطف حاصل ہوتا ہے۔ معدہ سخت سے سخت غذا ہضم کرنے لگ جاتا ہے بھوک کھلکر لگتی ہے خون زیادہ مقدار میں اور صالح پیدا ہوتا ہے طویل بیماریوں کے بعد کے ضعف کو فوراً دور کر دیتا ہے رنگ روز بروز سرخ اور قوت رفتار تیز اور طبیعت میں ہمت بڑھتی ہے کمزوری اعصاب یعنی پٹھوں کے لئے بمنزلہ ایک روح کے ہے کثرت پیشاب کو روکنے والا اور پرانے اسہال کی بیخکنی کرنے میں تیر بہدف ہے جریان و احتلام سرعت انزال وغیرہ کے لئے مجربات کا ملہ سے ہے منی کو گاڑھا کرنے اور اعضائے رئیسہ کو طاقت دینے میں یہ شربت اپنی نظیر آپ ہے۔ دم پھولتا ہو۔ زینے پر چڑھنے سے سانس چڑھ جاتا ہو ان سب کیلئے اکسیر ہے غرضیکہ قوت معدہ۔ جگر۔ دماغ اور مثانہ و رفتار گفتار کو مضبوط کرنیوالا۔ کمزور و ضعیفوں کا رفیق بیکس کا شفیق اور غریبوں و مفلسوں کا شفیق بلکہ رفیق مانند موتیوں اور یاقوت کے بخشنے والا اکسیر باہ اکسیر دماغ۔ اکسیر بدن۔ اکسیر اعظم۔ اکسیر شباب۔ اگر ہے تو یہ حیرت انگیز ایجاد شربت فولاد ہے اور بس۔

باوجود انتی خوبیوں کے قیمت ایک پونڈ کی بوتل کی دو روپیہ (عہ) محصولڈاک ۱۰ / علاوہ ہوگا

سنتان اوتپادک رسائن

ہندوستان میں کثیر التعداد اشخاص ایسے ملیں گے جو دھن دولت وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی اصلی سکھ نہیں پا سکتے کیونکہ گھر کے چراغ سے محروم ہیں کے سبب سے ہر وقت فکر و تردد کا شکار بنے رہتے ہیں۔ مستورات کا تو کہنا ہی کیا ہے بچاری اولاد کے لئے گنڈے تعویذوں کی خاطر سنڈے مسنڈے اور غنڈے فقیروں اور پیروں کی بیجا خوشامد کرتے ہوئے اپنے دھرم اور ایمان کو بھی فروخت کر دیتی ہیں۔ ان باتوں کو محسوس کر کے ہم کو خیال پیدا ہوا کہ کوئی ایسی دوا نکالی جاوے جو ایسے مایوس صاحب کو شعاع امید کی جھلک دکھا دے۔ چنانچہ بہت کچھ دوڑ دھوپ اور فقیر سنیاسیوں کی خدمت اور زر کثیر کے خرچ سے ہم کو وہ نسخہ ملا ہے کہ بایدوشاید اس نسخہ کو ہمنے کئی جگہ آزمایا بالکل درست ثابت ہوا۔ اس کے استعمال سے وہ عورتیں جو بالکل اولاد سے ناامید ہو چکی تھیں ثمر اولاد سے بار ور ہو گئیں اس دوا کی موجودگی میں اب کسی کو بھٹکنے اور لچے لفنگوں کے بھترے میں آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ آزمائش شرط ہے۔

قیمت بہ مد نظر رفاہ عام کم رکھی گئی ہے یعنے صرف پانچ روپے (صر) علاوہ محصول ڈاک *

پتر دایک وٹی

یہ ایک حیرت انگیز ایجاد ہے جن لوگونکے گھر صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں وہ حمل کے تیسرے مہینے کے شروع میں یہ گولی منگوا کر صرف ایک دن استعمال کرائیں انکے ہاں یقیناً لڑکا پیدا ہوگا۔ قیمت صرف دس روپیہ (للعہ) (ضروری شرط) اگر لڑکی پیدا ہو تو حلفیہ تحریر آنے پر قیمت واپس کر دی جاوے گی +

ملنے کا پتہ:- کارخانہ چندر گپت اوشدھالیہ مقام ٹوہانہ ایس پی ریلوے

رجسٹری شدہ

ہر مرض کی صرف ایک دوا

ہندوستان کی جڑی بوٹیوں کا ادبھت کرشمہ

چشمۂ آبحیات!

چشمۂ آبحیات ایک ایسی پرتاثیر دوائی ہے جو کہ تقریباً تمام امراض کے لئے اکسیر کا حکم رکھتی ہے:-

چشمۂ آبحیات اُن تمام امراض کو جو اچانک آ دباتے ہیں فوراً دور کر دیتا ہے مثلاً سر درد، پیٹ درد، کان درد، کمر درد، جوڑوں کا درد، پسلی کا درد وغیرہ وغیرہ ہر قسم کے اندرونی و بیرونی درد۔ زکام۔ نزلہ۔ کھانسی۔ دمہ۔ نمونیا۔ اسہال پیچش۔ بدہضمی۔ ہیضہ۔ مرگی۔ پھوڑہ پھنسی۔ آتشک۔ سوزاک۔ بواسیر کمزوری دماغ۔ ضعف باہ۔ بخار ہر قسم۔ بچھو۔ بھڑ۔ سانپ کا زہر۔ آگ یا تیزاب سے جلنا وغیرہ وغیرہ کل امراض

چشمۂ آبحیات کے کھانے اور لگانے سے فوراً دور ہو جاتے ہیں

چشمۂ آبحیات کو جس نے ایک دفعہ آزمایا ہمیشہ کے لئے اپنا یار و مددگار بنایا۔ جہاں ایک شیشی پہنچی وہاں سے بیسیوں فرمائشیں آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ چشمۂ آبحیات کی ہزاروں شیشیاں سالانہ فروخت ہوتی ہیں:-

چشمۂ آبحیات کی شیشی ہر ایک گھر میں اور سفر میں ہر ایک شخص کی جیب میں ضرور موجود ہونی چاہیئے۔ ایشور جانتا ہے کس وقت ضرورت پڑ جائے

قدر گوہر شاہ بداند۔ قدر جوہر جوہری

چشمۂ آبحیات کی ایک شیشی اپنے پاس رکھنا گویا تندرستی کی رجسٹری کرا لینا ہے پھر کسی حکیم یا ڈاکٹر کی خوشامد کی ضرورت نہیں۔

چشمۂ آبحیات کی بڑی شیشی کی قیمت سوا روپیہ ہے اور چھوٹی کی قیمت آٹھ آنے ہے۔ محصول ڈاک ۷ علاوہ ہوگا:-

چشمۂ آبحیات کی چار شیشی کلاں یا دس شیشی خورد یک مشت خریدنے پر محصول ڈاک معاف ہوگا:-

چشمۂ آبحیات کے متعلق سینکڑوں حکیموں ڈاکٹروں اور معزز اصحاب کے سارٹیفکٹ موجود ہیں جنہوں نے چشمۂ آبحیات کو آزما کر سارٹیفکٹ دیئے ہیں مگر بوجہ عدم گنجائش درج نہیں ہو سکے:-

چشمۂ آبحیات کی زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود منگوا کر آزمائش کر سکتے ہیں +

چشمی کلاں ۱۲ چشمی خورد ۸

دیکھئے لوگ کیا کہتے ہیں

جناب لالہ امین چند صاحب انچارج سپرنٹنڈنٹ ریاست منڈی لکھتے ہیں تین عدد شیشی چشمۂ آبحیات بواپسی ڈاک بذریعہ وی پی ارسال فرماویں۔ قبل ازیں میں آپ کے کارخانہ سے دس شیشیاں منگوا کر اپنے اقرباء میں تقسیم کر چکا ہوں نہایت مفید اور حیرت انگیز دوا ہے

سانپ کے کاٹے کو آرام

جناب مہاشہ گوبند سنگھ جی مسوتہ ڈاکخانہ گوردکل سکندرآباد لکھتے ہیں آپ کے کارخانہ سے ایک شیشی چشمۂ آبحیات منگوائی تھی اسنے مجھ کو اور میرے دوستوں کو ہر ایک مرض میں مدد دی۔ اسکی تعریف کہاں تک کروں ایک لڑکا جسکی عمر ۱۴ سال تھی اسکو سانپ نے کاٹ کھایا دو تین روز دوا اور علاج کرتے ہو گئے چشمۂ آبحیات پلایا اور لگایا تو دو تین بار کے پلانے سے اسکو آرام ہو گیا۔ ایک شیشی اور بھیجدیں۔

جناب ڈی ایس سنگھ ننگل دونا سنگھ ضلع گوجرانوالہ سے لکھتے ہیں۔ پہلے بھی آپ سے دو عدد شیشی چشمۂ آب حیات آپ کے کارخانہ سے منگوائی گئی تھیں جس سے بہت فائدہ حاصل ہوا۔ ایک شیشی کلاں اور روانہ فرمادیں۔

جناب لالہ ملک راج بالی سکنہ مناور لکھتے ہیں ودیں نے ایک شیشی چشمۂ آبحیات آپ کے کارخانہ سے منگوائی تھی واقعی قابل قدر اور لائق تعریف دوائی ہے جتنی تعریف کیجائے تھوڑی ہے" **جناب** لالہ سریرام نمبردار ریاست نابھہ لکھتے ہیں۔ نیازمند نے پہلے پانچ عدد شیشی چشمۂ آبحیات منگوائی تھیں جو ہر مرض میں کامل تھیں میں آپ کا نہایت مشکور ہوں۔ چار عدد شیشی کلاں اور بھیجدیں مہربانی ہوگی۔

اور بھی ہزاروں شہادتیں موجود ہیں جو بوجہ عدم گنجائش درج نہ ہو سکیں مفصل فہرست منگوا کر ملاحظہ کریں۔

ملنے کا پتہ

چندر گپت اوشدھالیہ مقام ٹوہانہ ایس پی ریلوے

TOHANA
S.P.Ry

دیکھئے لوگ کیا کہتے ہیں

عالیجناب ہیڈ چودھری جھنڈو مل صاحب باغیچہ کوٹھی جناب چیف منسٹر صاحب دیوان امرناتھ صاحب بہادر ریاست جموں تحریر فرماتے ہیں۔ "پیشتر جو ادویات ہیں نے ایک شخص کے لئے منگوائی تھیں اُنہوں نے اکسیر کا کام دیا۔ وہ شخص آپ کے کارخانہ کا تہ دل سے دعاگو ہے کرپا کر کے ایک شیشی طلاء اکسیر اعظم اور ایک شیشی گولیاں خط دیکھتے ہی بھیجدیں۔ ایک اور شخص کیلئے ضرورت ہے"

جناب بابو مولک چند صاحب سب اوورسیر بھنڈارہ سے لکھتے ہیں۔ آپ کا طلاء اکسیر اعظم بیشک اسم بامسمیٰ ہے۔ ڈیڑھ سال ہوا۔ اس کو استعمال کیا تھا اور بموجب آپ کی ہدایات پرہیز بھی نہیں رہ سکا تھا۔ لیکن آفرین ہو اس طلاء کے کہ ڈیڑھ سال گذر چکا طاقت میں ذرا بھی کمی نہیں ہوئی۔ اُمید ہے کہ اگر آپ ایسی ہی دیانتداری سے ادویات فروخت کرینگے تو ایشور آپ کا بھلا کریگا۔ اور آمدنی میں برکت دیگا۔ ایک پوری شیشی میرے نام بھیجدیں۔"

جناب منشی رگھبیر سنگھ اہلمد محکمہ نہر قصبہ نواب گنج ضلع بریلی لکھتے ہیں کہ میں نے آپ کی ادویات طلاء اکسیر اعظم اور یاقوتی گولیوں کی تعریف منشی امیر حسن صاحب سے سنی ہے (جو استعمال کر کے فائدہ اٹھا چکے ہیں) تو مجھ کو اشتیاق پیدا ہوا۔ لہٰذا عرض ہے کہ ہر دو ادویات بذریعہ وی پی بھیجدیں۔"

جناب نانک چند صاحب چپڑاسی تحصیل کرنال سے لکھتے ہیں۔ "پنڈت پرسرام صاحب پٹواری نہر باڈھانے آپ کی ادویات کی تعریف کی ہے۔ اس لئے عرض ہے کہ طلاء اور گولیاں بذریعہ وی پی بھیجدیں۔"

جناب منشی غلام حسین صاحب چھاؤنی گلبرگہ سے لکھتے ہیں "ایک شیشی برقی طاقت کی گولیاں بذریعہ وی پی بھیجدیں۔ پہلے جو ایک شیشی آئی تھی اس سے بہت فائدہ ہوا۔

جناب ابو عبدالرحمن خاں صاحب ڈریور آگرہ سے لکھتے ہیں۔ آپ کی برقی طاقت کی یاقوتی گولیاں اور طلاء سے بہت فائدہ ہوا۔ مشکور ہوں۔ ایک بکس بال اڑانے کا صابون بھیجدیں۔

گورنمنٹ آف انڈیا سے رجسٹری شدہ

نامرد کو مرد اور مرد کو جواں مرد بنانیوالی
برقی طاقت کی یاقوتی گولیاں

یاقوتی گولیاں خاص طور پر جلق زدہ مریضوں کیواسطے بنوائی گئی ہیں جو نہایت مقوی باہ و مقوی اعضائے رئیسہ ہیں۔

یاقوتی گولیاں استعمال کرنے سے ویرج کی تمام شکایات مثلاً جریان و احتلام۔ رقت منی۔ سرعت انزال وغیرہ چندروز میں دور ہو جاتی ہیں۔

یاقوتی گولیاں ان لوگوں کے لئے جو اپنے ہاتھوں اپنی جوانی برباد کر چکے ہیں اور جن کو ہر وقت دردسر۔ دردکمر۔ دل کا دھڑکنا۔ دھات کا گرنا۔ اعضاء میں سستی کاہلی وغیرہ امراض کی شکایت رہتی ہے اکسیر کا حکم رکھتی ہیں۔

یاقوتی گولیاں استعمال کرنے سے منی بیحد پیدا ہوتی ہے اور تھوڑے ہی عرصہ میں جسم لوہے کی لاٹھ بن سکتا ہے۔

یاقوتی گولیاں۔ بدن میں خون صالح پیدا کر کے تھوڑے دنوں میں چہرہ کندن کی طرح چمکا دیتی ہیں۔

یاقوتی گولیاں ایک شیشی میں پوری تیس ہوتی ہیں جسکی قیمت ایک روپیہ ہے محصولڈاک ۔ الگ ہوگا۔

یاقوتی گولیاں تین شیشی ایک ساتھ منگوانیسے محصولڈاک معاف اور چھ شیشی معہ محصولڈاک پانچروپے آٹھ آنے میں ملیں گی +

گورنمنٹ آف انڈیا سے رجسٹری شدہ

گپت فیض طلاء اکسیر اعظم

طلاء اکسیر اعظم ان لوگوں کے لئے جو بچپن کی غلط کاریوں میں پھنسکر اپنے ہاتھوں اپنا ستیاناس کر چکے ہیں اور تمام پٹھے سست اور کمزور ہو کر اعضا میں کجی و لاغری آ گئی ہے آب حیات کا کام دیتا ہے۔

طلاء اکسیر اعظم کی چندروزہ مالش سے ہی تباہ شدہ رگوں و پٹھوں کی کمزوری دور ہو کر پہلے سے بھی زیادہ طاقت آجاتی ہے۔

طلاء اکسیر اعظم اگر تندرست آدمی بھی ایک بار استعمال کر لیں تو پھر تمام عمر کمزور نہ ہونگے۔ بڑھاپے میں بھی قوت مردمی قائم رہیگی۔

طلاء اکسیر اعظم میں بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے استعمال سے کسی قسم کی جلن نہیں ہوتی اور نہ آبلہ پڑتا ہے۔

طلاء اکسیر اعظم کی پوری شیشی کی قیمت (عہ) ہے محصولڈاک ۔ الگ ہوگا۔

سونے پر سہاگہ

یاقوتی گولیوں کے ساتھ گپت فیض طلاء اکسیر اعظم کا استعمال سونے پر سہاگہ کا کام دیتا ہے۔

خاص رعایت ہر دو ادویات طلاء اکسیر اعظم اور یاقوتی گولیاں منگوانے پر معہ محصولڈاک صرف تین روپیہ چار آنہ (للعہ) لئے جائینگے +

طلاء اکسیر اعظم اور یاقوتی گولیاں ملنے کا پتہ

مینیجر چندر گپت اوشدھالیہ (گپتا بھون) مقام ٹوہانہ ایس پی ریلوے

گھڑیوں کی لوٹ



یہ وہی اصلی ریلوے ریگولیٹر واچ ہے جسکو دوسرے سوداگر پانچ پانچ اور چھ چھ روپے میں فروخت کرتے ہیں لیکن چونکہ ہمنے یہ گھڑیاں بہت زیادہ تعداد میں ولایت سے منگوائی ہیں اس لئے ہمکو سستے داموں میں پڑی ہیں اور ہم بہت کم منافع پر فروخت کر رہے ہیں کیونکہ ہم "ارزاں مے فروشی بسیار مے فروشی" کے قائل ہیں۔ گھڑی نہایت خوبصورت مضبوط اور پائدار ہے وقت بالکل ٹھیک دیتی ہے۔ اعلےٰ درجہ کی پائدار لیور مشین معہ سیکنڈ کی سوئی کے۔ باوجود ان خوبیوں کے قیمت رعایتی صرف تین روپیہ آٹھ آنہ (۳/۸) محصول ڈاک علاوہ بذمہ خریدار ہوگا



یہ گھڑی نہایت خوبصورت مضبوط اور پائدار ہونیکے علاوہ وقت بالکل صحیح دیتی ہے دیکھنے میں بیس روپیہ کی معلوم ہوتی ہے اور طلائی زیورات کو مات کرتی ہے عورتوں کیلئے نہایت خوشنما اور حسن افزا ہے۔ مردوں کیلئے بینظیر تحفہ ہے جو ایک دفعہ منگواتا ہے دوستوں کے لئے درجنوں طلب فرماتا ہے دوسری جگہ سے دس روپیہ سے کم میں نہ ملیگی ہم چونکہ بھاری تعداد میں ولایت سے منگواتے ہیں اس لئے سستے داموں میں فروخت کر رہے ہیں۔ جلد منگوائیے ورنہ پھر سٹاک ختم ہونے پر کف افسوس ملنا پڑے گا۔ قیمت رعایتی صرف چار روپیہ آٹھ آنہ (۴/۸) علاوہ محصول ڈاک



یہ گھڑی ابھی ابھی تازہ ولایت سے آئی ہے جو نہایت شاندار اور خوبصورت ہے۔ اس کا خوب صورت سنہری کیس اور فینسی چمکدار ڈائل عجیب بہار دیتا ہے تحفہ کے لائق چیز ہے۔ وقت بالکل صحیح دیتی ہے مشین لیور ہے۔ جس نے ایک مرتبہ خریدی دوستوں کے لئے درجنوں طلب فرمائیں۔ دیکھنے میں بیس روپیہ کی معلوم ہوتی ہے۔ قیمت سُنو تو حیران رہ جاؤ یعنے صرف چار روپے (۴) دوسری جگہ سے آٹھ روپیہ سے کم میں نہ ملے گی محصول ڈاک بذمہ خریدار ہوگا۔

یہ گھڑی اصلی راسکوپ سسٹم پیٹنٹ لیور واچ ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسکے ڈائل پر انگریزی میں راسکوپ پیٹنٹ کندہ ہے ڈائل چینی کا سوئیاں سنہری خوشنما دیکھنے کے علاوہ پچھلی طرف شیشہ بھی لگا ہوا ہے چال لیور ہے اس میں خوبی یہ ہے کہ زیادہ چابی دینے سے اسکا فنر نہیں ٹوٹتا نہایت مضبوط اور ٹھیک وقت دیتی ہے معہ خوشنما زنجیر کے قیمت ۵/- معہ سکنڈ ۵/۱۲ سنہری کیس فینسی ۵/۸



یہ گھڑی دیکھنے میں پوری پچاس روپیہ کی معلوم ہوتی ہے اسکا سفید رو پہلی کیس عجیب بہار دیتا ہے پرزے نہایت مضبوط اور پائدار ہیں وقت بالکل ٹھیک دیتی ہے ملازمان ریل۔ ڈاکخانہ پولیس نمبردار پٹواریاں اسکے سوا دوسری گھڑی نہیں خریدتے ایک گھڑی منگواؤ تو دوستوں کیلئے درجنوں طلب فرماؤ قیمت سنو تو حیران رہ جاؤ یعنی صرف ۴/- معہ سکنڈ ۴/۸ محصول ڈاک علاوہ ہوگا۔ تین گھڑی یکمشت خریدنے پر محصول ڈاک معاف ہوگا۔ جلد خریدئیے



واہ واہ گھڑی کیا ہے ایک خوبصورت تحفہ ہے اسکی پائداری اسکی مضبوطی اور اسکی خوبصورتی غضب ڈھاتی ہے اسکی چمک دمک دیکھکر عقل حیران ہوتی ہے رات کو اندھیرے میں بجلی کیطرح روشنی دیکر وقت ٹھیک طرح بتلاتی ہے تعریف فضول ہے قیمت نکل کے کیس کی ۷/- چاندی کے کیس کی ۹/- لیور مشین جویلدار اعلیٰ قسم پندرہ روپیہ (۱۵/-)



ان گھڑیوں کی مشین بالشدار ہے چلنے میں پائدار اور مضبوط۔ وقت دینے میں سچی ہیں۔ اگر آپ کو سستی اور خوبصورت گھڑی کی ضرورت ہو تو یہ گھڑی خریدیں قیمت بہت کم دیکھنے میں خوبصورت۔ قیمت نکل سلور کیس معہ تسمہ چرمی چار روپے (۴/-)
قیمت نکل سلور کیس معہ تسمہ چرمی معہ سکنڈ ۴/۸
سنہری کیس " " بلا سکنڈ ۴/۸
" " سکنڈ والی ۵/۸
ریڈیم ڈائل کا ایک روپیہ زائد ہوگا۔

یہ لیور چال کی اصلی گارڈ واچ ہے اور واقعی کم خرچ بالانشین مضبوط اور پائدار گھڑی ہے۔ کیونکہ یہ گھڑی درست وقت دینے میں نام پا چکی ہے اسلئے ریلوے کے ملازم اور گارڈ بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں یہ خوبصورت ہے کیس ہے ڈائل چینی کا غرضیکہ عمدہ گھڑی کی سب خوبیاں اس میں موجود ہیں قیمت معہ بکس و خوشنما زنجیر کے پانچ روپیہ آٹھ آنہ (۵/۸)



ملنے کا پتہ گپتا اینڈ کمپنی (مالکان گھڑیوں کی سستی دکان) رجسٹرڈ لوہانہ۔ ایس، پی، ریلوے

تیر نشانہ پر

امراض پیدا ہونا اور امراض کو دور کرنا

خود انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آجکل اشتہاروں کا طوفان بے تمیزی دیکھکر عقلمند خود سمجھ سکتے ہیں کہ اصلیت کتنی دور ہے یوں ڈھینگ تو ہزاروں مارتے ہیں مگر امراض کو دور کرنا۔ بڑھانا سب ان ادویات کے ہی سر ہے جو طریقہ علاج ویدک قدیم ہی بزرگوں کی تبلائی ترکیب سے تیار شدہ ادویات کبھی خطا نہیں کرتیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جتنے موسم ہوتے ہیں ہر موسم کی تبدیلی کا اثر یہاں کے رہنے والوں پر ہوتا ہے۔ سرد ملک جہاں ہمیشہ یکساں ہی موسم رہتا ہو وہاں کی ادویات کا اثر بھارت ورش پر کیا ہوتا ہے۔ چند دن کی تیزی پہلے سے بھی ناکارہ بنا دیتی ہے جب دوائی کا استعمال رہا تب تک فائدہ رہتا ہے دوائی چھوڑتے ہی پہلے سے بھی حالت بدتر ہو جاتی ہے۔ بھاڑے کے ٹٹو بن جاتے ہیں۔ ہندوستان میں پیدا شدہ ادویات (جنہوں نے تمام موسموں کی تاثیروں کو اپنے اندر جذب کیا ہوا ہے) کو استعمال کر کے دیکھیں۔ ایک ماہ کے استعمال سے کس طرح دائمی فائدہ ہوتا ہے یقیناً آپ لمبے چوڑے دلفریب خوبصورت اشتہاروں میں نہ پھنستے ہوئے صداقت کا زندہ ثبوت دیکھنا ہو تو

اندر شکتی

طاقت کی مشہور آزمودہ مجرّب گولیاں

محصول بذمہ خریدار

حالات کا لکھکر بھیجیں وہ ایک خط مفصل مشورہ دیا جاوے گا ۔ ہر بیکلیں وید صاحب خود دوائی تجویز ... مفت

سفوف سیاہ کی ... قیمت عہ
سفوف منجن ... کا علاج (عہ)
... قیمت ... دوائی

کو استعمال کریں۔ یہ ایک بزرگ مہاتما کا عطیہ ہے۔ جسے بوڑھے جوان سب استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے قوت باہ بڑھتی ہے۔ نامردی کی تقریباً تمام حالتوں کو مفید ہے (مادرزاد نہ ہو) امراض مخصوصہ مردان کے واسطے لاجواب چیز ہے۔ ضعف باہ دور ہوتا ہے۔ امراض بادی۔ بلغمی۔ کھانسی۔ نزلہ زکام۔ درد کمر۔ جوڑ۔ گھٹنہ۔ ران وغیرہ جریان۔ احتلام۔ دور ہوتے ہیں۔ تاثیر معتدل ہونے سے سب مزاجوں کے موافق آتی ہیں۔ ہمیشہ سردیوں میں ایک دو ماہ کھانے سے تمام سال قوت زائل نہیں ہوتی۔ بوڑھا کھاوے جوان ہو جاوے۔ شوقیہ کھانے سے قوت بہت بڑھتی ہے دل و دماغ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ وہیریہ گاڑھا اور قابل اولاد بنتا ہے۔ غرضکہ مردانہ قوتوں کا ذخیرہ ہے۔ قیمت خوراک ایکماہ چھ روپے ایک ہفتہ ایک روپیہ آٹھ آنہ (عہ) بیرونی نقص بھی ہوں تو سبز طلا منگوا کر استعمال کریں اس سے ذرا تکلیف ہوتی ہے مگر فائدہ جلد ہوتا ہے قیمت تین روپے طلا زرد۔ یہ معمولی ہے۔ فائدہ دیر میں ہوتا ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔ (عہ) **طلا ورازی** قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے (عہ)

اکسیر البدن اس سے جوہر بدن خوب بڑھتا اور گاڑھا ہوتا ہے دل و دماغ میں تراوٹ آتی ہے دماغی کام کرنیوالوں کے کام کی چیز ہے۔ سرعت ہمیشہ کیواسطے دور ہوتی ہے۔ جریان احتلام دور ہوتے ہیں دوائی کی دوائی غذا کی غذا۔ قیمت دو روپے آٹھ آنے (۲/۸)

سنبھک بالکل بے ضرر حسب خواہش ہوتا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوتا قیمت دو روپے ۲/-

سفوف جریان یہ سفوف جریان کے واسطے بہت مفید ہے خاصکر گرم مزاجوں کو جن کو پیشاب کرتے وقت جلن ہوتی ہے سوزاک کے ...

بعد جریان ہو گیا ہو۔ خونی پیچش ہو۔ سرعت احتلام سب کو مفید ہے۔ گرم مزاج والے ضرور استعمال کریں دوسرے بھی کھا سکتے ہیں قیمت دو روپے

حب زعفران ان کے استعمال سے دل و دماغ میں تقویت آتی ہے طبیعت خوش رہتی ہے سرعت کے واسطے خاص طور پر مفید ہے قیمت خوراک ایک ماہ تین روپے ۳/-

حب جریان جریان کے واسطے عجیب دوائی ہے۔ کثرت احتلام اس سے دور ہوتا ہے ویریہ کے گاڑھا کرنے میں بے نظیر ہے۔ قیمت دو روپے ۲/-

لال مرہم تمام قسم کے پھوڑے زخم آتشک چاقو وغیرہ کے زخم جو برسوں سے ہرے ہوں۔ اس کے اثر سے بھر جاتے ہیں

قیمت ایک روپیہ ۱/-

معجون حیات یہ معجون عورتوں کے واسطے آب حیات ہے امراض زنانہ دور ہوتے ہیں چھاتی سخت اور جسم نرم ہو جاتا ہے رنگ روغن نکھرتا ہے حیض کے کل امراض دور ہوتے ہیں۔ حاملہ کھاوے تو بچہ تندرست اور آسانی سے پیدا ہو۔ بعد وضع حمل طاقت بہت جلدی آجاتی ہے امراض سوت وغیرہ نہیں ستاتے ہیں۔ دمہ۔ کھانسی۔ کمزوری بدن۔ جریان الرحم سب دور ہوتے ہیں قبض کشا ہے۔ قیمت پانچ روپے۔ نسخہ ایک روپیہ۔ سپاری پاک عہ

کمار کلیان وٹی پانچ سال تک کے بچوں کی ہر ایک بیماری کا مجرب علاج قیمت عہ

سنڈھولی سوزاک درجہ اول میں اکسیر ایک دن میں جلن موقوف قیمت ایک روپیہ

بنگ جیت سوزاک کی ہر حالت میں مجرب دوائی۔ قیمت چار روپے (للعہ)

روشن ارشس وٹی سب قسم کی رسولی موروثی کی) بواسیر کا حکمی علاج قیمت تین روپے

شکتی ہیضہ کی مجرب ایک خوراک سے آرام۔ قیمت ایک روپیہ (عہ)

وھو نتری چورن ہاضمہ کے متعلق کل امراض کا مجرب علاج۔ کھایا پیا سب ہضم ہو جاتا ہے۔ پیٹ درد۔ گڑگڑاہٹ۔ قے ہوں۔ کھٹے ڈکار۔ اوجی۔ اپھارہ دست وغیرہ سب کو دور کرتا ہے ہر بچہ بوڑھا جوان کھا سکتا ہے بعد از غذا ذرا سا کھا لیں۔ اور بے فکر رہیں قیمت دو روپے۔ نمونہ مر...

المشتہر

مینیجر اندر شکتی اوشدھالیہ حلقہ نمبر ۱۵ K لاہور

میسرز لکشمی نرائن اینڈ کمپنی چاندنی چوک دہلی

خاص آرڈر سے تیار کرائی ہوئی پیٹنٹ گھڑیاں!

لکشمی لیور ۱۵ جوئل رسٹ واچ



ایسی خوبصورت - ایسی مضبوط - ایسی پائدار اور ایسا صحیح وقت دینے والی گھڑی آج تک آپ کے ملاحظہ سے نہ گذری ہوگی۔ اس میں پندرہ جول لگے ہوتے ہیں لیور چال ہے۔ موٹا شیشہ دو ڈھکنے۔ کم از کم بیس سال چلنے والی پتھر پر گرنے سے بھی نہیں ٹھہرتی۔ غرضیکہ تمام خوبیاں جو ایک مضبوط اور پائدار گھڑی میں ہونی چاہئیں۔ اس میں موجود ہیں ضرور منگوائیے۔ قیمت نکل سلور کیس دس روپیہ چاندی کے کیس کی بارہ روپے ۱۲ روپے
رولڈ گولڈ کیس پندرہ روپیہ ۱۵ (گارنٹی ۱۰ سال)
ریڈیم ڈائل والی کا ایک روپیہ زائد ہوگا +

پاکٹ واچ

یہ گھڑی خوبصورتی مضبوطی - پائداری اور وقت صحیح دینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی - اس میں پندرہ جول لگے ہوئے ہیں موٹا شیشہ جو کبھی نہیں ٹوٹتا - ڈبل ڈوم اگر آپ کو اچھی اور عمدہ گھڑی کی ضرورت ہے تو اس گھڑی کو خرید کیجئے۔ ایک گھڑی منگواؤ تو دوستوں کے لئے درجنوں طلب فرماؤ۔ باوجود ان خوبیوں کے قیمت نکل سلور کیس ۱۲ بغیر جول مگر مضبوط ۴ سنہری کیس ۶

آٹھ روزہ پاکٹ واچ

اس گھڑی کو آٹھ روز میں صرف ایک مرتبہ چابی دیجاتی ہے اور ہفتہ بھر برابر ٹھیک چلتی ہے۔ لطف یہ کہ لیور ہے سیکنڈ کا پہیہ سامنے رقص کرتا ہوا عجیب لطف دیتا ہے۔ پرزے نہایت خوبصورت مضبوط اور پائدار ہیں برسوں تک بگڑنے کا نام نہیں لیتی جس نے ایک مرتبہ خریدی دوستوں کیلئے درجنوں طلب فرمائیں قیمت صرف آٹھ روپے (۸) اصلی ہیڈ وس کے کارخانہ کی ۱۰ چاندی کے کیس کی چودہ روپیہ (۱۴)

خوشنما چوکور سنہری رسٹ واچ



اس چوکور رسٹ واچ کی خوبصورتی دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے اسکے دونوں جانب کنڈے لگے ہوئے ہیں جن میں بجائے چمڑے کے سنہری تسمہ لگا ہوا ہے۔ پرزے نہایت مضبوط۔ ٹائم بالکل ٹھیک دیتی ہے۔ ایک منگاؤ تو دوستوں کے لئے درجنوں طلب فرماؤ۔ قیمت صرف پانچ روپے (۵)
ریڈیم ڈائل چھ روپے (۶) محصول بذمہ خریدار

اسپرنگ دار سنہری چوڑی کی گھڑی



اہا، کیا نایاب تحفہ ہے اسلئے کاریگر نے کمال کر دکھایا ہے سنہری رنگ کی اسپرنگ دار چوڑی میں سنہرے رنگ کی گھڑی اس خوبی سے لگائی ہے کہ خواہ کیسی ہی موٹی یا پتلی کلائی ہو سب میں ٹھیک آجاتی ہے وقت بالکل ٹھیک دیتی ہے پرزے نہایت مضبوط اور پائدار ہیں۔ دیکھنے میں ایسی خوبصورت ہے کہ طلائی زیور کو مات کرتی ہے۔ عورتوں کے لئے ایک خوشنما اور حسن افروز زیور ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کو بطور تحفہ بھیجئے قیمت چھ روپے (۶) محصول ڈاک ہر گھڑی کا بذمہ خریدار اور گارنٹی کا پرچہ ہر گھڑی کے ہمراہ ہوگا +
فہرست مفت منگائیں۔

اصلی ریلوے فیلڈ واچ



یہ گھڑی حال میں ہی ہم نے ولایت سے تیار کرا کر منگوائی ہے ایسی سستی مگر مضبوط اور پائدار گھڑی دوسری آپ کو نہ ملیگی یہی وجہ ہے کہ دوسرے سوداگر اس کو چھ اور سات روپیہ میں فروخت کرتے ہیں۔ ہم آپکو سیکنڈ کی سوئی والی للعہ چار روپے میں اور بلا سیکنڈ تین روپیہ آٹھ آنے میں دیں گے۔ ریڈیم ڈائل کا ایک روپیہ زائد ہوگا +

المشتہر میسرز لکشمی نرائن اینڈ کمپنی چاندی چوک دہلی

ہمارے ہاں سے ہر ایک گھڑی اچھی طرح چلا کر اور ... کر بھیجی جاتی ہے ... نہیں ہوتا +

دہلی میں گھڑیوں کی مشہور و معروف دکان

میسرز لکشمی نرائن اینڈ کمپنی چاندنی چوک دہلی

ہماری دکان سے ہر قسم کی گھٹیا اور بڑھیا جیبی اور ہاتھ کی گھڑیاں۔ گھنٹے کلاک ٹائم پیس سُنہری اور روپہری فینسی زنجیریں تسمے۔ گھڑی سازی کے تمام اوزار اور گھڑیوں کے پرزے نہایت سستے داموں پر مل سکتے ہیں۔ گھڑی سازوں اور دکانداروں سے خاص رعایت کیجاتی ہے۔ ایک دفعہ ضرور آرڈر دیکر آزمائش کریں اور دوسری دکانوں سے مقابلہ کرکے دیکھیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ دوسرا کوئی دکاندار ہم سے سستا مال نہیں دے سکتا۔ آپ دہلی آویں تو ہماری دکان پر ضرور تشریف لاکر مشکور فرماویں +

فینسی ڈائل کی خوبصورت سُنہری رسٹ واچ



گارنٹی ۳ سال
نمبر ۵۲۵
قیمت صرف چار روپیہ آٹھ آنہ

سُنہری کیس کی نہایت خوبصورت اور شاندار رسٹ واچیں

یہ گھڑیاں دیکھنے میں نہایت خوبصورت چلنے میں مضبوط اور پائدار۔ وقت صحیح دینے میں لاثانی ہیں۔ انکے ڈائل نہایت چمکدار سنہری اور فینسی بنے ہوئے ہیں۔ جس نمونہ کی درکار ہو اس کا نمبر تحریر فرمائیے ٭

سُنہری کیس کی چوکور کٹ ڈائل رسٹ واچ



گارنٹی ۳ سال
نمبر ۱۳۴
قیمت صرف چار روپے

نقلی ہیرے جواہرات والی سنہری رسٹ واچ



گارنٹی ۳ سال
نمبر ۱۰/۷
قیمت ۷/ سات روپے

اس گھڑی میں نقلی ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں دیکھنے میں پچاس روپیہ کی معلوم ہوتی ہے دیکھ کر خوش ہو جائیے گا۔ ضرور منگوائیں۔ قیمت صرف سات روپے (۷)

خاص رعایت

سُنہری کیس کی ریڈیم رسٹ واچ معہ سکینڈ



گارنٹی ۳ سال
نمبر ۹۳

اندھیرے میں وقت بتاتی ہے اس کے ہندسے اور سوئیاں اندھیرے میں مثل ستاروں کے چمکتی ہیں۔ قیمت صرف پانچ روپے (۵)

سنہری کیس نہایت خوشنما چوکور شب چراغ رسٹ واچ



گارنٹی ۳ سال

یہ گھڑی بھی اندھیرے میں وقت بتاتی ہے اس کا چوکور شیپ نہایت خوبصورت معلوم ہوتا ہے قیمت صرف پانچ روپے (۵)

پہننے کے کام کی نہایت خوشنما رسٹ واچ



گارنٹی ۳ سال
۱۰۷
قیمت چھ روپے

بیضوی شکل کی نہایت خوبصورت سنہری رسٹ واچ



گارنٹی ۴ سال
نمبر ۷
قیمت آٹھ روپے

چھوٹے سائز کی فینسی رسٹ واچ



گارنٹی ۵ سال
نمبر ۹۲
قیمت آٹھ روپے

سُنہری کیس کی نہایت خوشنما رسٹ واچ



گارنٹی ۳ سال
۱۰۵
قیمت چھ روپے

چوکور شیپ کی قابل دید سُنہری رسٹ واچ

۹۷
قیمت آٹھ روپے

سُنہری کیس کی چھ پہلو رسٹ واچ معہ سکنڈ



گارنٹی ۳ سال
نمبر ۹۶
قیمت

سنہری کیس کی بہت چھوٹی خوشنما رسٹ واچ



گارنٹی ۳ سال
۱۰۷
قیمت پانچ روپے

ملنے کا پتہ
میسرز لکشمی نراین اینڈ کمپنی چاندنی چوک دہلی

اکسیر لال فولاد

لال فولاد میں دیگر بیش قیمت ادویات شامل کرکے خاص

شوقین مزاجوں کیلئے یہ واقعی لاجواب اکسیر بنائی ہے جو ضعف جگر ضعف معدہ کو دور کرتی معدہ کو طاقت دیکر بھوک کو بڑھاتی اور دماغ کو تقویت دیکر حافظہ اور آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتی ہے ضعف جگر دلکی دھڑکن جگر کی گرمی کو دور کرکے تازہ خون پیدا کرتی اور چہرے کی رنگت سرخ بناتی اور قوت مردمی سقدر زوردار پیدا کرتی ہے کہ بالکل ناکارہ اور مایوسی کی حالت میں عیش و عشرت کے متوالوں کو از سر نو عیش و عشرت کی بہار کا لطف دکھاتی ہے۔ کمر مضبوط جسم فولاد مثل لوہے کی لاٹھ ایسا بنا دیتی ہے کہ بڑھاپے تک بھوکر نہ لگنے دیگی قیمت بکس دو ہفتہ کی خوراک آٹھ روپے نمونہ ایک ہفتہ کی خوراک ۴

خفیہ کوک شاستر مصور

سرٹیفکیٹ۔ آپکا خفیہ کوک شاستر میرے دوستوں نے بہت پسند کیا۔ اب چھ جلدیں میرے دوستوں کے نام روانہ کریں۔ دستخط ایس۔ ایم دین جنرل مرچنٹ حیدرآباد دکن

آج ہی خط لکھکر منگوالیں ورنہ پچھتانا پڑیگا

خطوط پوشیدہ رکھے جاتے ہیں۔ بیشک اس سے پہلے آپنے اس قسم کی بہت سی کتابیں دیکھی ہونگی مگر دلی مطلب کسی سے پورا نہ ہوا ہوگا ہماری کتاب میں کچھ تو خوبی ہے کہ شوقین مزاج عیش و عشرت کے متوالے اس کتاب کو اپنی جان کے ساتھ سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ہاں ہاں۔ یہ وہی بیش بہا خفیہ خزانہ ہے جسکا صرف نام ہی تمام یار دوستوں سے سنا کرتے تھے مگر کہیں سے دستیاب نہ ہوتی تھی اب ہم سے منگوا کر اپنی دلی حسرتیں پوری کریں۔ ہمیں دو ٹکے لیے ایسے عجیب کارآمد نسخے لکھے ہیں کہ بس حد ہی ہوگئی ہے لطف یہ کہ اس میں عورتوں مردوں کی پوری ۱۶۴ رنگین تصویریں ایسی ترتیب سے دکھائی گئی ہیں کہ ہر جوڑہ تصویر کا بیان انکے ساتھ ساتھ لکھا ہے۔ چاندکی تاریخوں کا بھی پورا حساب لکھا ہے جو کسی دوسری کتاب میں نہ ملیگا۔ عورتوں کو مسخر کرنیکا فن۔ تماشبینی کے کرشمے اور ایک لاجواب آسن عیش و عشرت کے متوالوں کے لئے عجیب و غریب ٹوٹکے لکھے ہیں مگر قیمت ہم معہ محصولڈاک تین روپے آٹھ آنے سے ایک پائی کم نہیں لیں گے۔ قیمت مجلد تین روپیہ آٹھ آنے ۔۔۔۔ 3/8

۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶

مشکل کشا

یہ جنتر جادو منتر کام کرنیوالی بیخطا کتاب ہے اس میں دشمنوں کو اپنے بس میں کرنے روٹھے ہوئے کو مہربان دوست بنانے کیلئے ایسے ایسے نقش گنڈے تعویذ لکھے ہیں کہ جسطرف نظر ڈالوگے فریفتہ و شیفتہ جان و مال سے حاضر حکم کے فرمانبردار بگڑے دل مہربان یار غار دوست بنجاتے ہیں گے جو کچھ دلکا مطلب ہو گا سب پورا ہو گا۔ ہر مشکل مصیبت بیماری بیکاری تنگدستی سب دور ہوکر خوشی و خوشحالی ہوگی۔ نوشتہ تقدیر فالنامہ خوابنامہ آسیب اتارنا اسم اعظم نقش مشکل کشا استخارہ قرآنیہ سب کچھ لکھا ہے بارگاہ الہی سے اولاد رزق مال و دولت حاصل کرنیوالوں لئے نقش گنڈے۔ تعویذ لکھنے والوں کیلئے بیش بہا کتاب ہے۔ قیمت فی جلد مجلد دو روپے آٹھ آنے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲/۸

شاہجہانی طلا

بچپن کی غلط کاریوں یا دیگر وجوہات کے باعث اگر عضو مخصوص میں سستی، کمزوری، کجی، لاغری وغیرہ کے عیب پڑ گئے ہوں تو اسکی چند روزہ مالش سے ایسی نادر شاہی طاقت پیدا ہوگی جو آپکی دلی خواہش ہے۔ قیمت فی شیشی دس روپے نمونہ کی شیشی پانچ روپے

دلپسند گولی

خاص شوقین مزاجوں اور خوش طبع حضرات کیلئے یہ منہ میں رکھنیوالی گولی ہے ضرورت سے پانچ دس منٹ پیشتر ایک گولی منہ میں رکھ لیں اور کرشمہ دیکھیں اس سے زیادہ لکھنا خلاف قانون و ادب ہے۔ ایک درجن سے کم ہرگز روانہ نہیں کی جائیں گی۔ قیمت فی درجن دو روپے آٹھ آنے

مہاراجہ خضاب جبرو

ہمارے مہاراجہ خضاب میں سب سے بڑی خوبیاں ہیں کہ صرف ایک شیشی کا خوشبودار عرق ہے لگانے میں بہت آسان اور کم خرچ ہوتا ہے۔ سفید بالوں کو چند منٹوں میں ایسے جیسے شوخ سیاہ چمکدار بنا دیتا ہے۔ اگر ایک دفعہ لگا لیا ہوا مدت تک یکساں شوخ سیاہ رنگ ہی رہیگا ادھر لگاؤ ادھر کام میں لگ جاؤ۔ قیمت فی شیشی ایک اونس ایک روپیہ تین شیشی دو روپے آٹھ آنے ۔۔۔۔۔ ۲/۸

داڑھی مونچھ بڑھانیکا تیل

جسجگہ بال نہ پیدا ہوتے ہوں یا کم ہوں گنج یا چھوٹے چھوٹے خال خال ہوں تو اسکے چند روزہ استعمال سے بال لمبے اور گنجان پیدا ہونگے قیمت فی شیشی ایک اونس دو روپے چار آنے ۔۔۔ ۲/۴

صفائی کا دروغن

اگر آپکو ضرورت ہو کسی پوشیدہ مقام پر تمام عمر بھر بال نہ پیدا ہوں تو ہم سے تیل صفائی کا روغن ضرور طلب کریں خوبی یہ کہ لگانے میں دوسری کرنی پڑتی ہے نہ تکلیف نہ جلن نہ جلد پر داغ دھبہ پڑتا ہے صرف ۴۔۵ مرتبہ لگانے سے آئندہ عمر بھر بال قطعی پیدا نہ ہونگے صرف عورتوں کیلئے مخصوص ہے قیمت فی شیشی صرف تین روپے ہے ۔۔۔ ۳

عشرت

جن کے پستان ڈھلک گئے یا لاغر ہوں ڈھیلے پڑ گئے یا لٹکنے لگتے ہوں عشرت کے استعمال سے اپنی قدرتی حالت پر جوانی کی طرح ٹھوس ہو جائینگے قیمت بڑا بکس پانچ روپے نمونہ چھوٹا بکس تین روپے

جیون ساری پاک

نوے فیصدی عورتوں کو پرسوت جریان الرحم یعنی سفید رطوبت جاری رہنے کی شکایت ہوتی ہے جو گھن کیطرح کھا جاتی ہے جیون ساری پاک کے استعمال سے سفید رطوبت کا آنا قطعی بند ہوکر ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ رطوبت کا نام نشان نہ رہیگا اور گود ہری بھری ہوگی قیمت بڑا بکس تین روپے نمونہ چھوٹا بکس ایک روپیہ بارہ آنے

فقیری چٹکی

سوزاک نیا ہو یا پرانا پیپ یا قرحہ پڑ گیا ہو پیشاب رک رک کر جلن سے آتا ہو نہیں ہوتی ہو تو یقین کریں فقیری چٹکی کے استعمال سے پہلے ہی دن سوزش کم ہو جائیگی تین دن میں آرام ہفتہ بھر میں پوری صحت ہو گی قیمت بکس ۱۴ خوراک ۲/۸

انتھری جیون گولیاں

خون حیض خواہ کیسا ہی درد تکلیف سے آتا ہو ان گولیوں کے استعمال سے ماہ بماہ کھل کر بلا تکلیف آسانی سے آئیگا قیمت ۴۰ گولی ۔۔ ۲/۸

موتی منجن

دانت داڑھ میں درد ہو یا کیڑا لگ گیا ہو مسوڑھوں سے بدبودار پانی بہتا ہو سب شکایات دور ہوکر دانت موتی کی طرح چمکنے لگ جائیں گے قیمت فی بکس ایک روپیہ چار آنے

افیون چھڑانے کی گولیاں ۵۰ گولی تین روپے

بہرہ پن کا تیل

کانوں میں سائیں سائیں کی آواز آتی ہو کچھ سنائی نہ دیتا ہو پیپ بہتی ہو زخم پڑ گیا ہو تو اسکے استعمال سے ہفتہ بھر میں سب تکلیف دور ہوکر صاف سنائی دیگا قیمت فی شیشی ایک روپیہ

اصلی مصر کا سلیمانی جادو باتصویر

آپکے خاص کام اور مطلب کی جادو کی یہ مشہور کتاب ہے۔ بیشک اس سے پہلے آپنے جادو کی کئی کتابیں دیکھی ہونگی۔ مگر دلی مطلب کسی سے پورا نہ ہوا ہوگا۔ سچ مانیں کہ اسمیں جادو کرنے۔ جادو چلانے۔ جادو اتارنے کے ایسے نقش۔ گنڈے۔ تعویذ۔ سحر و طلسم لکھے ہیں کہ جس مطلوبہ شے کو چاہنا پا لینا۔ حاضر کر لینا جسکو چاہنا اپنی طرف رجوع کرکے مہربان دوست بنا لینا۔ دشمن کو زیر۔ مقدمہ میں فتح پانا نقش گنڈے تعویذ لکھکر اپنی اور دوسروں کی دلی مرادیں پوری کرنا ہو تو ہمارا اصلی مصر کا سلیمانی جادو باتصویر ضرور خریدیں۔ اردو۔ گورمکھی۔ ہندی۔ تینوں زبانوں میں موجود ہے۔ قیمت مجلد دو روپے چار آنے ۲/۴

جادو کی کراماتی انگوٹھی

جو دلکی خواہش ہو پوری کر لو۔ جو دیکھنا ہو دیکھ لو۔ حاضر کرکے ملاقات کر لو۔ قیمت فی عدد معہ پرچہ ترکیب عمل دو روپیہ (۲)

کرامات بنگالہ باتصویر

آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپکی دلی مراد کیا ہے۔ آپکو کیا مشکل درپیش ہے۔ آپ کا وہ کونسا پیچیدہ کام ہے جو اس کتاب کے ذریعے سے پورا نہ ہوگا۔ علاوہ ازیں جن بھوت۔ چڑیل۔ سایہ۔ آسیب اتارنے کے لیے سحر و طلسم بھی لکھے ہیں جن کا حیرت انگیز فی الفور ہوتا ہے۔ قیمت مجلد ایک روپیہ بارہ آنے ۱/۱۲

راز طب

علم طب کی یہ مشہور کتاب ہے۔ مایوس اور ناکارہ مردوں کے لیے قوت مردمی پیدا کرنے۔ تپ ملنے۔ جوش میں لانے کیلئے ایسے اکسیر اور مجرب نسخے لکھے ہیں کہ شاید ہی آپکو کسی دوسری کتاب میں ملینگے۔ قیمت مجلد دو روپے چار آنے

جرمن ماسٹر

اس کتاب میں آجکل کی ضرورت کے چلتے ہوئے روزگار ایسے درج ہیں کہ اگر ایک نسخہ بھی مطابق نکل آیا تو ہزاروں روپے کما لوگے۔ قیمت مجلد تین روپے

ملنے کا پتہ:- بابو غلام احمد قادری مومن منزل لودیانہ

ملنے کا پتہ:- منیجر دفتر مہاراجہ خضاب شہر لودیانہ

سرٹیفکیٹ: آپ کے شاہی طلاء اور سفوف سے بہت فائدہ ہوا اب سفوف اور سرمہ فوراً پھر بھیجدیں۔ حاجی محمد علی گنج ... ہم اپنی گھڑیوں کے ہر طرح ذمہ دار ہیں گارنٹی کا پرچہ چین تسمہ ساتھ مفت ملینگے بلا اجرت درست کر کے دینگے۔

گھڑیاں ہوں تو ایسی ہوں

بجلیوالی چندر مکھی رسٹ واچ

آہا یہ سیپ کے کیس والی کیا ہی خوبصورت من موہنی رسٹ واچ ہے۔ نئی بناوٹ نئی ایجاد بجلی کی ایسی تیز روشنی کہ ہاتھ پر لگاتے ہی بس چودھویں کا چاند اس میں خوبی یہ ہے کہ پانی یا پسینہ لگنے سے عمر بھر زنگ لگتا ہے نہ بدرنگ ہوتی ہے شریف بیبیاں عورتیں اور تمام شوقین مزاج بڑے شوق سے کلائی پر لگاتے ہیں۔ گارنٹی دس سال قیمت درجہ اول بجلی والی نو روپے آٹھ آنے نمبر۲ سادہ آٹھ روپے

بجلیوالی سورج مکھی رسٹ واچ

یہ آٹھ پہلو والی نہایت ہی خوشنما ایسی عجیب سنہری رسٹ واچ ہے کہ دیکھنے والے اس کی خوبصورتی اور بجلی کی چمک دیکھتے ہی مست ہو جاتے ہیں۔ بجلی کی ایسی تیز روشنی پڑتی ہے کہ دو رسے اندھیرے میں وقت دیکھ لو خوبی یہ کہ شریف لڑکیاں عورتیں مرد سب شوق سے لگاتے ہیں۔ وقت بالکل ٹھیک عین بل اور رفتار کے مطابق دیتی ہے مشین نہایت مضبوط پائیدار ہیں۔ بگڑنے کا نام نہیں لیتی ایک منگوالو تو سب یار دوست فرمائش کرینگے یہ شرطیہ گارنٹی ۱۰ سال قیمت ۱؎ سنہری نو روپے آٹھ آنے ۲؎ چاندی کی ونڈسٹیپ دس روپے بارہ آنے

بجلیوالی اتھلیمین رسٹ واچ

تمام شوقین مزاج جنٹلمین دفتروں کے بابو کلرک فوج اور پولیس کے جوان جو بالکل ٹھیک وقت پر اپنی ڈیوٹی پر آنا جانا چاہتے ہوں اس فیشنیبل اتھلیمین رسٹ واچ کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ وقت عین ریل اور تار کے مطابق بالکل ٹھیک دیتی ہے ایسی خوبصورت بجلی کی ایسی چمک دمک کہ ایک منگوالو تو سب یار دوست فرمائش کرینگے گارنٹی ۱۰ سال قیمت جرمن سلور سادہ ... بجلی والی ... چاندی کی ... سونے کی رولڈ گولڈ ...

بجلیوالی ریلوے گائیڈ گارڈ واچ

یہ بڑی مشہور ریلوے گائیڈ گارڈ واچ ہے جو اپنی شہرت کا ڈنکا انگلستان سے لے کر ہندوستان تک بجا چکی ہے اس کا ٹھیک وقت دینا ہی سب سے بڑی خوبی ہے۔ دو چار منٹ کا فرق پڑ جانے سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے اگر آپ کو عمدہ مگر کم قیمت کی گھڑی لگانے کا شوق ہو تو اسکو ضرور خریدیں گارنٹی ۱۰ سال قیمت ۱؎ بجلی والی سات روپے آٹھ آنے ۲؎ سادہ سات روپے .... معہ ...

گارنٹی ۷ سال — قیمت سات روپے | گارنٹی ۸ سال — قیمت ... | گارنٹی ۹ سال — قیمت ...

یہ تینوں گھڑیاں ان سمجھدار لوگوں کیلئے بہت ہی مفید ہیں جو دام بھی کم خرچ کرنا چاہتے ہوں اور گھڑی بھی اچھی پائیدار عمر بھر چلنے والی لینا چاہتے ہوں ان گھڑیوں کی خوبی یہ ہے کہ سب کی مشین مضبوط اور پختہ ہیں اگر آپ ہم پر اعتبار کر کے ایک گھڑی خرید لیں تو دیکھنے والے خود بخود خریدار بنتے جائینگے گارنٹی ۷، ۸، ۹ سال قیمت ...

بجلیوالی جرمن واچ

یہ تھوڑے دام زیادہ کام دینے والی کم خرچ بالا نشین گھڑی ہے گارنٹی ۵ سال قیمت صرف پانچ روپے

سنہری روپہلی سٹریپ

اسکے لگانے سے گھڑیوں کی شان دوبالا ہو جاتی ہے خوبی یہ کہ ... سنہری ... روپہلی ...

سفوف اکسیر اعظم

بیجان جسم میں جان ڈالنے والا یہ لاجواب نسخہ ... کا بندہ ... مہاراجہ صاحب کشمیر مصنف کوک شاستر کے مجربات میں سے ہے جریان۔ احتلام۔ کثرت عیاشی ... دھات پتلی پڑ جانے یا دھات گرنے کے باعث سستی کمزوری۔ مایوسی ہو گئی ہو دل کی دھڑکن سانس کا پھولنا تھوڑا کام کرنے اور چلنے سے جسم اور گھٹنوں کا ٹوٹنا ضعف باہ ضعف دماغ ضعف معدہ و جگر حد سے زیادہ ہو۔ وقت پر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہو اور دل کی باتیں دل ہی میں رہ جاتی ہوں۔ اٹھتے بیٹھتے کمر میں درد۔ رنگت زرد و جسم بیجان طبیعت پریشان رہتی ہو۔ دل دھڑکتا سر چکراتا آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہو جسم دبلا پتلا کمزور ہڈیوں کا پنجر رہ گیا ہو تو یاد رکھیں اور خوب یاد رکھیں کہ سفوف اکسیر اعظم کے استعمال سے پتلا ویرج گاڑھا ہو کر ایک نئی بجلی کی سی طاقت مردمی پیدا ہو گی کہ بڑھاپے تک کمر میں کبھی تھکاوٹ ہو گی ہی نہیں جسم فولاد مثل لوہے کی لاٹھ بنجائیگا آزما کر تو دیکھیں کہ کیا سے کیا رنگ بدلتا ہے۔ قیمت پورا بکس چالیس خوراک دس روپے ۱۰؎: نمونہ نصف بکس بیس خوراک .... پانچ روپے

سانڈھے کا اصلی تیل

سانڈھے کی اگر کمر بھی توڑ دی جائے تو پھر بھی ویسے کا ویسا اکڑا ہی رہتا ہے۔ بالکل ناکارہ اور مایوسی کی حالت میں اگر اس تیل کی عضو مخصوص پر چند روز مالش کی جائے تو بس پھر کیا ہی بات ہے قیمت فی شیشی پانچ روپے نمونہ تین روپے

سرمہ الفت — عاشقانہ پوڈر

پان یا کسی کھانیوالی چیز میں ذرا سا پوڈر ملا کر جسکو کھلا دو گے آپکی محبت میں ہمیشہ غلام بن جائیگا قیمت فی شیشی ایک روپیہ بارہ آنے

چند یوم ایک ایک سلائی آنکھوں میں ڈال لینے سے جسپر نظر ڈالوگے دیکھنے والے آپکی محبت میں شیفتہ و فریفتہ رہتے ہوئے مہربان دوست بنجائینگے قیمت فی شیشی صرف تین روپے

جوانی کی گولیاں

اگر آپ سچ مچ سست مرد سے چست مرد بنکر جوانی کا ٹھیک لطف اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں اگر آپ جوانی میں بڈھے بابا بن چکے ہیں اگر آپ صرف دیکھنے کے مگر کام کاج کے جوانمرد نہیں ہیں تو اب بھی ہماری مشہور جوانی کی گولیاں اور تیلی طلاء استعمال کریں۔ حمل قائم ہونے میں رکاوٹ ہوتی ہو۔ قوت مردمی نام کو نہ ہو کمر میں درد رنگت زرد و جسم بیجان طبیعت پریشان رہتی ہو تو یقین کریں آپکی وہ تمام پوشیدہ شکایات جیسے پہلے اور کھٹنے ... پسر ... جوانمردوں کی طرح ... جوانی کا لطف حاصل ہوگا اور جسم فولاد مثل لوہے کی لاٹھ بنجائیگا قیمت فی بکس ۳۲ گولی تین روپے

فولادی پوڈر

اگر عمر بھر میں کبھی جریان ہو جائے تو ہمارا ذمہ۔ دھات پتلی پڑ گئی ہو پیشاب سے پہلے یا بعد دھات گرتی ہو اٹھتے بیٹھتے کمر میں درد۔ رنگت زرد۔ آنکھیں اندر کو گھس گئی ہوں تو مردمی نام کو نہ رہی ہو تو فولادی پوڈر کے استعمال سے دھات گاڑھی پتھر کی سند سخت ہو جائیگی۔ قیمت اکیس خوراک تین روپے آٹھ آنے

ترت جادو

اگر طلاء کے استعمال سے پہلے ترت جادو کا استعمال کر کے عضو مخصوص کی گندگی کو پانی سے نکال دیا جائے تو سستی کبھی ہو گی ہی نہیں قیمت فی شیشی ...

قبض لیگا

تمام شوقین حضرات ... لاگ کی بیماریوں سے بچانیوالی عجیب ہتھیلیاں ہیں خوبی یہ کہ ہندو اور مسلم بھی ... قیمت ... زنانہ ہتھیلی معہ دو پانچ روپے

جادو کی گولی

چاہت گولی جن مردوں کو وقت پر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہو یعنی گھنٹہ پیشتر ایک گولی پانی یا دودھ سے کھائیں طبیعت بیحد خوش ہوگی قیمت فی شیشی ۲۴ گولی تین روپے نمونہ درجن ۱۲ عمر

جادو کی گولی ضرور تجربہ کریں۔ ایک گھنٹہ پیشتر ایک گولی اپنے لب یا پانی سے تھوک لگائیں بس جانو کہ جادو ہو گیا قیمت ۲۴ گولی تین روپے نمونہ درجن ۱۲ عمر

شاہی طلاء

اگر بچپن کی غلط کاریوں یا پرانی سوزاک جریان کے باعث عضو مخصوص کی رگیں ڈھیلی ہو گئی ہوں تو شاہی طلاء کی چند روز مالش سے سستی کمزوری ٹیڑھا پن دور ہو کر ... ایسی چال آ جائیگی ...

ملنے کا پتہ

مینیجر دفتر کام کلول بلاک ۱۱ شہر لودیانہ پنجاب

ملنے کا پتہ: مینیجر کارخانہ لنڈن واچ ایجنسی بلاک ۱۱ لودیانہ

بقائے نسل کا آلہ قلعہ کو فتح کرنیوالا

ناظرین کو واضح کیا جاتا ہو کہ ہمارا طلاء غوک رجسٹرڈ و اکسیر جریان رجسٹرڈ عرصہ انیس ۱۹ سال سے ملک میں اپنی مسیحائی اور صداقت کا سکہ جما کر شہرت وقبولیت کا ڈنکہ بجا رہا ہو اور اٹھارہ سال سے ہر ایک اخبار و رسالہ جنتری و غیرہ بعنوان شتہاری طلاؤں سے بچو کی سُرخی سے شائع ہوتا رہا ہو یہ وہی طلا ہو جس نے ہزارہا مایوسین کی زندگی عیش آرام میں بسر کرادی جو دیتے اور شکریہ کے خطوط لکھتے نہیں تھکتے۔ ہزاروں مریضوں نے استعمال کے بعد اسکے مفید ہونیکے سارٹیفکٹ مرحمت فرمائے ہیں جو دفتر میں اور ہمارے ایجنٹوں کے پاس موجود ہیں یہ کس وجہ سے صداقت اور مجرب ہونے کے باعث اور اسمیں مندرجہ ذیل خواص موجود ہیں۔ مردہ زندہ کرنے والا۔ مرجھائے ہوئے دلوں کو ہرا کرنے والا۔ کجی اور لاغری کو دور کرنے والا۔ کمزوری رفع کرنیوالا۔ سستی دور کرنے والا۔ زائل شدہ طاقتوں کو واپس لانے والا۔ ناطاقتی کو دور کرنے والا۔ مجلوقین کو درست کرنے والا۔ جوانی کا جوش پیدا کرنے والا۔ مردہ رگوں کو زندگی بخشنے والا۔ غرضکہ جملہ امراض عضو مخصوص کو رفع کرنے میں اعجاز مسیحائی رکھتا ہی۔ آپ تجربہ کرکے دیکھ لیجئے کہ کیا اوصاف رکھتا ہو اور لطف یہ ہو کہ اس طلاء سے آبلہ نہیں پڑتا ہو اور نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے۔ ہر ایک موسم میں اس کا استعمال ہوتا ہے نازک سے نازک حضرات اسکو استعمال کرتے ہیں اور ایک ہفتہ کے استعمال سے وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ تازندگی قایم رہتی ہے ایک شیشی ایک مریض کو کافی ہوتی ہے جسکی قیمت مبلغ پانچروپے معہ محصول ڈاک ہو۔ اکسیر جریان اکیس ۲۱ روزہ خوراک کی قیمت تین روپے معہ محصولڈاک ہو اگر آپ کو کسی دیگر امراض کی مجرب ادویہ کی تلاش ہو تو ہمارے دواخانہ کی فہرست کلاں ایک آنہ کا ٹکٹ روانہ کرکے طلب کریں۔ اگر آپنے ہماری مشتاق عالم جنتری آجتک نہ دیکھی ہو تو تین آنہ کے ٹکٹ روانہ کرکے طلب کریں۔ اِس جنتری میں بیحد معلومات کا ذخیرہ موجود ہو جو دیکھنے سے ظاہر ہوگا۔ فقط

ہماری ادویہ ہمارے سول ایجنٹ مغیر سرب ہتیشی ودیا پارمنٹرل دریبہ کلاں دہلی سے بھی ملتی ہیں۔

ملنے کا پتہ: منیجر دواخانہ مشتاق عالم رجسٹرڈ و مؤلف مشتاق عالم جنتری آفس جلال آباد ضلع بجنور

ایکہزار روپیہ انعام

بڑی فہرست مفت طلب فرمائیے

اُن صاحب کو دیا جائے گا جو یہ ثابت کردیں کہ یہ گولی پارہ کی نہیں ہے

فقیری حب پارہ رجسٹرڈ

نامردی۔ سستی۔ جریان۔ درد کمر۔ کمی باہ۔ سوزاک وغیرہ مرضوں کو دودھ میں ڈال کر دودھ پینے سے چندروز میں دور کردیتی ہو اگر ہمیشہ استعمال کرتے رہیں تو تازیست قوت باہ میں کمی نہ آئیگی۔ اسکے علاوہ جبتک منہ میں رہے۔۔۔ نشہ گا۔ قیمت فی گولی خورد پانچروپے کلاں یعنی خورد سے دوگنی آٹھ روپیہ۔ دو پندرہ روپیہ۔ محصول ڈاک وغیرہ ۸/

نوٹ:۔ ایک گولی کلاں ایک شخص کے لئے تمام عمر کو کافی ہے واپسی کا اقرار نامہ بھی ہمراہ روانہ کیا جاتا ہے۔

پچھلے چھ سال سے برابر ہزارہا مریض اسکے استعمال سے صحتیاب ہوچکے ہیں

نقلوں سے ہوشیار رہیئے چونکہ یہ ہمارا ایجاد کا فخر ہمارے ہی کارخانے کو حاصل ہے

ملنے کا پتہ: کارخانہ جنتری حب پارہ رجسٹرڈ امروہہ

تار کا پتہ:۔ پارہ امروہہ

وید حکیم بننے کا آسان ذریعہ

اِس میں کوئی شک نہیں کہ جو صاحب حکیم تلسی پرشاد اگروال موجد بال جیون گھٹی کی بنائی ہوئی نادر و نایاب کتاب مجربات تلسی کا بغور مطالعہ کرلینگے وہ اپنی اور دوسروں کی ہر ایک بیماری کا علاج نہایت ہی سہولت کے ساتھ کرنے قابل بنجاوینگے اور اگر وہ چاہینگے تو اسکے ذریعہ دوا دیکر وید و حکیموں کے مانند گھر بیٹھے سینکڑوں روپیہ کمالینگے اسمیں ویدک و حکیمی طریق علاج کے اصلی اصول نہایت ہی آسان و عام فہم عبارت میں بتلائے گئے ہیں اور مرد عورتوں۔ بوڑھوں بچوں جوانوں و نوجوانوں کی ہر ایک بیماری کے وہ وہ نایاب بوٹی کے نسخے مندرج کئے گئے ہیں جو کوڑیوں میں تیار ہوتے اور اکثر فوری فائدے دکھلاتے ہیں۔ قیمت فی کتاب مجلد ایک روپیہ علاوہ محصول

بال جیون گھٹی رجسٹرڈ

بچوں کے بخار۔ کھانسی۔ بدہضمی۔ دودھ ڈالنا۔ دست ہونا وغیرہ ہر ایک بیماری کو دور کرنے اور لاغر و کمزور بچوں کو موٹا تازہ تندرست و طاقتور بنانے کے لئے مشہور دوا ہو میٹھا ہونیسے بچے اسکو خوش ہوکر پی لیتے ہیں اور یہ سب جگہ بازاروں میں سب سوداگروں و دیسی انگریزی دوا فروشوں کے یہاں فروخت ہوتی ہو قیمت فی شیشی ۵/ سوداگروں سے فی درجن ۲/۴ بارہ درجن ۲۴ علاوہ محصول۔ اشتہارات و سائن بورڈ ہمراہ پارسل مفت۔ فروخت نہونے پر واپسی کی شرط

چراغ صحت رسالہ مفت لیجیے

دس ہزار روپیہ سے معزز لوگوں کے نام معہ مکمل پتے کے بھیجنے پر چراغ صحت رسالہ مفت بھیجا جائیگا

المشتہر منیجر بال جیون کاریالیہ۔ علی گڑھ شہر (یو۔پی)

کلکتہ کے نامی ڈاکٹر ایس کے۔ برمن کی پیٹنٹ دوائیں
چھیالیس سال سے

تمام ہندوستان میں مشہور ہیں

مفصل کیفیت جاننے کیلئے کافوری جنتری مفت منگا کر ملاحظہ کیجئے اسمیں جملہ ادویات کے متعلق مفصل طور سے بیان کیا گیا ہے

دوا خریدتے وقت ستارہ TRADE SKB MARK رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ضرور دیکھیں

کیونکہ ہماری دواؤں کی بہت سی نقلیں کرلی گئی ہیں

چند مفید ادویات کے نام درج کئے جاتے ہیں

عرق کافور اسکو عرق کافور کہیں یا آبحیات۔ کیونکہ ہیضہ جیسے مہلک مرض میں یہ عرق واقعی آبِ حیات کا کام دیتا ہے۔ سو میں نوے فیصدی کو شفا بخشنے والی یہ ایک بے نظیر دوا ہے۔ قیمت فی شیشی ۶ چھ آنے ۶ محصولڈاک ایک سے تین شیشی تک چھ آنے ۶

دمہ کی دوا اب آپ دمہ سے بیدم نہ ہوں۔ صرف تین چار خوراک کے پینے سے ہی دورہ رک جاتا ہے اور چند روز کے استعمال سے پھر دورہ ہونے کا خوف نہیں رہتا اسکی تعریف میں کتنے ہی سرٹیفکٹ موجود ہیں قیمت فی شیشی ۱؎۶ ایک روپیہ چھ آنہ محصولڈاک چھ آنہ تین شیشی کی قیمت للعہ ر چار روپیہ محصول ڈاک آٹھ آنہ ۸ ر

کولاٹانک انسان کو دماغی وجسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جب یہ دونوں ہی اسمیں موجود ہیں توپھر اس سے زیادہ اور کیا چاہیئے؟ یہ قوت حافظہ کو بڑھاتا ودسر وچکروں کو روکتا۔ اور جسم کی تکان کو دور کرکے تروتازہ بنا دیتا ہے اسکے استعمال سے دماغ کو فرحت دلکو تقویت اور جسم کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ قیمت فی شیشی ایک روپیہ دو آنہ ۱؎۲ محصولڈاک ۸ر تین شیشی تین روپے چار آنہ۔ محصول ڈاک آٹھ آنہ ۸ر

لال شربت یہ شربت اسم بامسمےٰ ہے یعنی جیسا خود لال ہے ویسا ہی بچوں کو بھی لعل گلال بنا دیتا ہے۔ اس سے خون گاڑھا ہوکر چہرہ اور جسم مثل گلاب کے گلابی ہو جاتے ہیں بچے بڑی خوشی سے اسے پیتے ہیں کیونکہ نہایت شیریں اور خوش ذائقہ ہے آپ بھی اپنے پیارے بچوں کو پلایئے قیمت فی شیشی بارہ آنے ۱۲ر محصولڈاک ۸ر آٹھ آنہ۔ تین شیشی ۲؎۳ دو روپیہ تین آنہ محصول ڈاک ۱۴ر چودہ آنہ۔

کیشراج تیل لگاتے ہی دماغ معطر ہو جاتا ہے اسکی خوشبو دور تک پھیلتی ہے اور سونگھنے والوں کے دلوں کو مست کر دیتی ہے اگر آپ کا دماغ تھک گیا ہو یا سر درد کرتا ہو تو اسکی مالش کیجئے اور دیکھے دماغ کو کیسی تراوٹ و آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ قیمت فی شیشی ایک روپیہ ۱؎ محصولڈاک ۸ر تین شیشی منگانے پر ۲؎۱۴ر دو روپیہ چودہ آنہ۔ محصولڈاک ۱۴ر

ہیلک جلدی امراض کے لئے تیر بہدف ہے جسم کے پھوڑے پھنسی خارش داد چھیپ داغ دھبے وچھائیوں کو مٹاتا ہے اسکے لگانے سے سانپ بچھو زہریلے کیڑے کوڑوں کا زہر بھی دور ہو جاتا ہے قیمت فی ڈبی ۱۰ر دس آنہ محصولڈاک ۸ر تین ڈبیہ کی قیمت ۱؎۱۲ ایک روپیہ بارہ آنہ۔ محصول ڈاک ۸ر آٹھ آنہ

نوٹ! ہماری جملہ ادویات مندرجہ فہرست قیمت میں ہمارے ایجنٹ ودوافروشوں کے یہاں دستیاب ہوتی ہیں خریداری سے پہلے اپنے مقامی دوافروشوں سے دریافت کرلیں۔ اس سے وقت اور محصول ڈاک کی بچت ہوگی۔

ڈاکٹر ایس کے۔ برمن (صیغہ نمبر ۱۹۲) پوسٹ بکس نمبر ۵۵۴ کلکتہ

ایجنٹ ڈاکٹر بیدہ ویر سنگھ کٹرہ نیل چاندنی چوک دہلی۔ جمنا داس اینڈ کمپنی۔ چاندنی چوک دہلی

رنگین تصویروں والا

اصلی کوک شاستر

ایسی مفید ایسی کار آمد ایسی دلچسپ اور دلفریب کتاب آجتک دوسری جگہ کہیں نہیں چھپی۔ یہ کتاب شہریان کوکہ پنڈت وزیر اعظم شمبھو سنگھ مہاراجہ کشمیر کی قلمی سنسکرت میں لکھی ہوئی کتاب کا اُردو ترجمہ ہے۔ اسمیں کوکہ پنڈت کی مکمل تالیف موجود ہے۔ اگر آپ وہی اصلی اور پرانی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو خریدیں۔ ہمارے سوا یہ کتاب دوسری جگہ سے نہ مل سکیگی۔ اسمیں ہر قسم کے مرد عورتوں کی قسمیں اُن کی شناخت۔ زنانی و مردانی بیماریوں کا علاج۔ نیک و بد عورت کی پہچان حسب مرضی لڑکا یا لڑکی پیدا کرنا۔ کوکہ پنڈت کے ذاتی مجرب ٹوٹکے۔ عورت کا عمر بھر خوبصورت و تندرست بنائے رکھنا۔ خود پورے سو سال تک تندرست رہنا۔ چاند کی تاریخوں سے عورت کے ویرج کا تعلق۔ عورت کو قابو میں کرنیکے عمدہ اور آسان آسن۔ جماع کرنیکے طریقے۔ کس وقت اور کس حالت میں جماع مضر ہے اور کس حالت میں مفید وغیرہ وغیرہ بہت سی مفید اور کار آمد باتیں درج ہیں۔ علاوہ ازیں اس کتاب میں آپکے مطلب کی پوری ۲۶ دلکش رنگین تصاویر بنی ہوئی ہیں جنہیں دیکھکر آپ بہت خوش ہو جائینگے۔ کاغذ۔ لکھائی چھپائی نہایت عمدہ خوبصورت جلد بندھی ہوئی۔ باوجود ان خوبیوں کے قیمت معہ محصولڈاک صرف ڈیڑھ روپیہ۔ ہندی و گورمکھی میں بھی موجود ہے قیمت وہی (عہ)

قارون کا خزانہ

اگر آپ کو صنعت و حرفت کے سیکھنے کا شوق ہے اور تھوڑے ہی عرصہ میں دولتمند بننا چاہتے ہیں تو ہماری کتاب قارون کا خزانہ خریدیں۔

ہمارا دعویٰ ہے!

کہ صنعت و حرفت کے متعلق ایسی مفید اور مستند کتاب آجتک کسی زبان میں شائع نہیں ہوئی۔ اس کتاب کی برکت سے ایک معمولی لیاقت کا آدمی بھی ہر ایک علم و ہنر میں بغیر اُستاد کے ماہر ہو سکتا ہے اور ہزاروں روپیہ کما سکتا ہے اسکو کسی دوسرے کی غلامی کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ جسقدر ہنر اسمیں درج ہیں تمام چیزیں آزمودہ ہیں۔ **مختصر فہرست مضامین۔** بال اُڑانیکا و نیم کا صابن بنانیکی ترکیب بلا آمیزش چربی ہر قسم کی ادویات اور پھولوں کی روح عطر تیل بنانا۔ گھڑی سازی۔ فوٹو گرافی۔ تار برقی کا کام۔ پریس کا مکمل کام۔ گلٹ سازی کا کام بلا بیٹری اور بذریعہ بیٹری ہر قسم کا سوڈا واٹر بنانا۔ گیس کی روشنی پیدا کرنا۔ ربڑ کی مہر بنانا۔ کاغذ اور بلاٹنگ پیپر بنانا۔ دیا سلائی بنانیکی آسان ترکیب۔ ڈبل روٹی بسکٹ بنانا۔ گندھک بارہ۔ کافور نمک کے پیالے و گلاس بنانا۔ باب آخری میں نفیس اور مجرب المجرب نسخہ جات جنکو بلا مبالغہ اکسیر احمر کہہ سکتے ہیں سر سے پاؤں تک ہر ایک مرض کی تیر بہدف دوا ہر قسم کے بخار سر لگانے سے دور ہو جائیں۔ پیٹ پر مرہم لگانے سے جلاب لگ جائے۔ خضاب کے بینظیر عمل وغیرہ وغیرہ سینکڑوں نرالی چیزیں۔ کتاب کی خوبصورت جلد بندھی ہوئی ہے باوجود ان اوصاف کے قیمت صرف ایک روپیہ چند آنہ (عہ) معہ محصول ڈاک +

ملنے کا پتہ:۔ گپتا اینڈ کمپنی ۶ نئی سڑک دہلی

روتوں کی ہنسانیوالی زندہ دل بنانے والی نہایت دلچسپ اور لاجواب کتاب

ہنسی کا گول گپا مکمل ہر دو حصص (عہ)

ظریفانہ مضامین کی ایسی دلچسپ اور لاجواب کتاب آجتک تمام عالم میں طبع نہیں ہوئی۔ جسنے چھپتے ہی تمام دنیا میں دھوم مچادی۔ ہر طرف سے دھڑا دھڑ درخواستیں آرہی ہیں۔ صرف دو سال میں بارہ ہزار سے زیادہ بک چکی۔ لوگوں نے اس کتاب کی زیادہ کبری دیکھکر نقلی کتابیں بنالی ہیں اور دھوکہ دیکر پبلک کو لوٹ رہے ہیں اسلئے سوچ سمجھ کر منگوائیں اور اصلی کتاب ہم سے طلب فرمادیں۔ اس کتاب میں ہر مذاق کے لوگوں کے لئے ایسے دلچسپ انوکھے لطیفے درج کئے ہیں جن کو پڑھ کر دل میں سرور آنکھوں میں نور پیدا ہو اور خواہ مخواہ ہنسی آئے۔ مثلاً عقلمندوں۔ بیوقوفوں کے لطیفے۔ افیونی۔ کنجوس۔ ادبی لطیفے۔ اخلاقی اور منظوم لطیفے عقل بڑھانے والے معمے۔ دلچسپ پہیلیاں۔ چیستان وغیرہ اور لاجواب سوال وجواب انوکھے رنگ ڈھنگ کی مذاقیہ غزلیں۔ لاجواب دلفریب مذاقیہ مضامین جن کے پڑھنے سے طبیعت نہایت خوش اور محظوظ ہو۔ دماغ کے کواڑ کھل جائیں۔ دل جگر چٹکیاں لینے لگیں۔ علاوہ ازیں چند نہایت دلچسپ خوشکن تصاویر بھی دی گئی ہیں جن کو دیکھ کر خواہ مخواہ ہنسی آتی ہے (۱) مسٹر ہارمونیم اور اس کی برادری والے (۲) ٹھگوں کی بڑھیا اور اشتہاری حکیموں کی لسانی چالاکی (۳) شرابی کے دیدوں کی صفائی (۴) تھیٹر کا ٹکٹ ارکود (۵) مسٹر بدمذ صاحب مع اپنے بچوں کے (۶) ہنسی ہوتی نہیں ہونٹوں سے باہر تکلف ہی تمہاری ہلادائیں غرضیکہ کتاب کو ہم پاسنے بنانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا گیا۔ اس کتاب کی موجودگی میں ممکن نہیں کہ انسان رنجیدہ اور اداس رہ سکے۔ لکھائی چھپائی کاغذ نہایت اعلیٰ خوبصورت جلد بندھی ہوتی ہے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ (عہ) مع محصول ڈاک ✦

ہمہ دان طبیب قیمت (عہ)

یہ وہی نادر کتاب ہے جسنے تھوڑی ہی دنوں میں دھوم مچادی جس نے ایک نظر دیکھی اسکی خوبی کا فیدائی ہو گیا جہاں یک کتاب پہنچی ہماری بیسیوں فرمائشیں آئیں بڑے بڑے نامی گرامی اخبارات نے اور نامور ڈاکٹروں نے اسپر نہایت تعریفی ریویو کئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ایک سال میں دو ہزار جلدیں بک چکی ہیں اس میں اصلی کوک شاستر۔ علم النسا رانگ رنگ۔ کوک منجری۔ مجربات بوعلی سینا وغیرہ ایسی تمام کتابوں کا جوہر۔ عورتوں کی قسمیں اور انکی شناخت حیض وحمل کے کل امراض کی پوری تشریح اور نیز بہدف علاج آجتک کی قدیم وجدید معلومات کا خزانہ مردونکی تمام موذی بیماریاں مثلاً آتشک۔ سوزاک۔ جریان۔ سستی نامردی وغیرہ کے مجرب نسخے ڈاکٹری۔ ویدک۔ یونانی۔ فقیری اور عطائی جو آجتک سینہ بسینہ تھے سینکڑوں روپیہ لیکر کوئی نہ بتاتا تھا علاوہ اس کے بیس میں بیماریوں کا ایک ہی نسخہ بال سیاہ کرنیکے کیمیائی خضاب آخری حصہ علاج بے دوا مثلاً کل امراض کا علاج بذریعہ مسمریزم بذریعہ چاند وسورج نقطہ فضا سے پانی سے مالش سے پرہیز سے گھر کی معمولی چیزوں سے جنگل کے گھاس پات سے وغیرہ وغیرہ نوجوانوں کو عیبوں سے بچانیکی موثر تعلیم زندگی پوترا اور کامیاب بنانیکے ڈھنگ اس کتاب کو خرید کر پورے حکیم بنجاؤ گے پھر کسی کتاب کے خریدنے کی ضرورت نہ رہیگی۔ باوجود ان خوبیوں کے بھی قیمت صرف ایک روپیہ چھ آنہ (عہ)

مسمریزم میں کرامات نہ ہو کیا معنے
جس سے دل چاہے ملاقات نہ ہو کیا معنے

یوگیشو یعنی روحانی معلم

اس کتاب میں علم یوگ کی تمام شاخوں کا مکمل بیان ہے مثلاً مسمریزم علم تسخیر سرت شبد۔ اگھور ودیا۔ کھیچی ودیا۔ علم تصور۔ روشنضمیری حاضرات۔ جادو سحر۔ ہر ایک کی اصلیت سادہ اردو میں بیان کردی ہے مختصر فہرست مضامین یہ ہیں یوگ کا لطف۔ یوگ کی عظمت۔ یوگ کی دلچسپیاں۔ یوگ کی کمالیت کا راز۔ یوگ کے بھیاس راج یوگ کی آٹھ منزلیں۔ یم نیم پرانایام۔ مسمریزم کے شعبدے سانس کی تشریح۔ پرتیاہار دھارنا۔ دھیان سمادھی۔ ہٹ یوگ کی تعلیم۔ یوگ کی آٹھ سدھیاں مسمریزم یوگ کی ایک شاخ ہے مسمریزم کا عمل اور مقناطیس بڑھانے کے طریقے۔ علم تصور علم روشنضمیری علم تسخیر۔ ہمزاد و شتی نداے ابجد۔ بچوں کو حمل میں تعلیم دینا۔ بچے دونوں ہاتھوں اور آنکھوں سے جدا جدا کام لے سکیں وغیرہ وغیرہ۔ ایسی لاجواب کتاب آجتک تمام عالم میں طبع نہیں ہوئی خوشناسی کا مجرب نسخہ۔ علم غیب کا آئینہ۔ جس کو دیکھنے ہی نئی روشنی والوں کی آنکھیں بھی چندھیا جائیں۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت صرف ایک روپیہ (عہ) خوبصورت جلد بندھی ہوئی۔ محصول ڈاک ۸ر علاوہ ہوگا

علم طب کی نادر کتاب

مجربات گپتا

یہ تمام عمر کے تجربات کا ذخیرہ محض برادران وطن کی بہبودی اور راحت کے لئے شائع کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے کنجوس حکیموں اور سنیاسیوں کی سیوا میں خوشامد اور کئی طرح کی حکمت عملیوں سے یہ مجربات اکٹھے کئے گئے ہیں جسمیں آپکو ایسی ایسی بینظیر ادویات ملیں گی جو بنانے میں آسان اور فوائد میں اکسیر ثابت ہونگی اس کتاب میں ایک بھی ایسا نسخہ نہیں لکھا جو کم از کم پچاس دفعہ آزما کر نہیں دیکھا۔ دوائیں ایسی درج ہیں جو ہر جگہ فوراً مل جائیں سر سے پیر تک تمام بیماریوں کے عجیب غریب نسخہ جات خضاب کے تیل بال عمر بھر پیدا نہ ہونے کی سریع الاثر دوا۔ لاثانی اور حیرت انگیز دوا جن سے ہر شخص کامل مرد بن جائے اور کسی اشتہاری دوا فروش کے پھندے میں نہ آسکے۔ ہر ایک دھات کشتہ کرنا۔ ہر دوا کا جوہر اڑانا۔ تمام زہروں کے تریاق خوبصورتی حاصل کرنے کے راز۔ عورتوں اور بچوں کی تمام معمولی موٹی بیماریوں کے نہایت آسان علاج درج کئے ہیں چھوٹے سے اشتہار میں کیا کیا لکھیں ہم شرط کرتے ہیں اگر کتاب آپکو ناپسند ہوگی تو قیمت واپس کردینگے۔

قیمت مجلد کتاب بمعہ محصول ڈاک ایک روپیہ (عہ)

بلامدد اُستاد کے انگریزی لکھنا پڑھنا اور بولنا سکھانیوالی کتاب

انگلش ٹیچر مع لیٹر رائٹر ترجمہ اردو

اگر آپ بغیر اُستاد کے گھر بیٹھے انگریزی لکھنا۔ پڑھنا۔ بولنا اور انگریزی میں خط وکتابت کرنا۔ عرضیاں۔ درخواستیں۔ بل۔ لیٹر فارم وغیرہ لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری کتاب انگلش ٹیچر مع لیٹر رائیٹر اردو کو خرید کریں۔ یہ کتاب اپنی خوبیوں کے باعث علاوہ ہندوستان کے ممالک افریقہ۔ آسٹریلیا تک پہنچ گئی ہے۔ جو باتیں انگریزی زبان حاصل کرنے کے لئے ضروری ہیں یعنی حروف کی آوازیں اور علامت۔ الفاظ کے ہجے اور تلفظ حروف سے الفاظ بنانا۔ الفاظ سے جملہ بنانا ترجمہ کرنا۔ انگریزی سے اردو میں۔ اردو سے انگریزی میں گفتگو کرنا خط وعرضی لکھنا وغیرہ وغیرہ باتیں ایسے عمدہ طور سے بیان کیگئی ہیں جو کسی دوسری انگلش ٹیچر میں نہیں سمجھائی گئیں۔ بڑی خوبی یہ ہے کہ انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو میں تلفظ یعنے ترجمہ صاف اور خوشخط لکھائی میں چھپا ہوا ہے خوبصورت جلد بندھی ہوئی قیمت ایک روپیہ (عہ) محصول ڈاک ۸ر علاوہ ہوگا ✦

تمام کتابوں کے ملنے کا پتہ:- نیشنل بک ڈپو نمبر ۶ نئی سڑک دہلی

سردار جسونت سنگھ ورما کی دوسری معرکتہ الآرا تصنیف

آریہ سنگیت مہابھارت

اس کا بھی باتصویر ایڈیشن بڑی شان کیساتھ چھپکر تیار ہے

رامائن کے بعد آریہ جاتی کا اگر کوئی مستند اتہاس ہوسکتا ہے تو وہ مہابھارت ہی ہے رامائن کے ہیروز کے مقابلہ کیلئے اگر موزوں ہوسکتے ہیں تو وہ مہابھارت کے ہی بہادر ہیں۔ اگر پتی دہرم کی جیتی جاگتی مورتی شریمتی جانکی جی کا جیون آریہ جاتی کیلئے ایک آدرش جیون ہے تو مہارانی دردپدی کا جیون بھی ہمارے لئے مایۂ ناز ہے۔ اگر اپنے پرن (قول) کے مقابلہ میں پرانوں کی پرواہ نہ کرنیوالے مہاراجہ دشرتھ ہمارے لئے قابل فخر ہیں۔ تو راج رشی بال برہمچاری بھیشم پتامہ کا جیون بھی ایک آدرش جیون ہے۔ اگر مریادا پرشوتم شری رامچندر جی وا اپنا تن من نچھاور کرنیوالے بھائی لکشمن کی جیونی آریہ جاتی کی مردہ ہڈیوں کو زندگی بخش ثابت ہوسکتی ہے تو دہرم کرم سچائی کی ساکشات مورتی مہاراجہ یدشٹر اور بھراتری بھگت بھائی ارجن و بھیم وغیرہ کا ادائگی فرض ہمارے لئے امرت سے کم نہیں۔ اگر راون کے برے کرم نفس پرستی کا انجام آپ کے آگے رکھتے ہیں تو دریو دہن کی عیاریاں آنے والی نسلوں کو زبان حال سے پکار پکار کر نفرت دلاتی ہیں۔

مہابھارت کے ان واقعات کو قابل مصنف نے اسقدر دلاویز، جگر سوز پیرایہ میں دکھایا ہے کہ پڑہنے والے کے دل پر ایک ایک لفظ بجلی کا اثر ڈالتا ہے۔ باوجود اس کے اس نئے ایڈیشن میں ہاف ٹون بلوک سے چھپی ہوئی ۲۵ قابل دید خوبصورت تصاویر دیگئی ہیں جنکو دیکھکر تمام مہابھارت کے واقعات بائسکوپ کی طرح نظر کے سامنے ناچنے لگتے ہیں۔ قیمت (ے ہندی (ہے) بلا تصویر بھی ملتی ہے۔ قیمت (۱۲) ہندی (عا) گورمکھی (عا) محصول ڈاک ایک کتاب کا ۹ ر دو کا ۱۲ ر تین کا عہ علاوہ مجلد کتاب کی قیمت ۵ ر زیادہ۔

سنگیت حقیقت رائے باتصویر

(سردار جسونت سنگھ ورما ٹوہانوی کی تیسری معرکتہ الآرا تصنیف)

یہ کوئی فرضی فسانہ یا من گھڑت قصہ نہیں ہے بلکہ ہندو دہرم کے شہید صادق حقیقت رائے دہرمی کی شہادت کی منہ بولتی تصویر ہے جس نے صرف گیارہ سال کی عمر میں جبکہ ابھی اس عمر کے بچوں کو کھیلنے اور کھانے کی بھی پوری سدھ بدھ نہیں ہوتی۔ اپنی لاثانی اور بےنظیر قربانی سے ہندو عظمت کو چار چاند لگادئے۔ ماں باپ کا بڑھاپا۔ اپنی زندگانی نوعمر بیوی کی نوجوانی۔ دنیا کی جاہ و حشمت ایک طرف ہے اور صرف ہندو دہرم دوسری طرف مگر کمسن شہید ان فانی چیزوں کو اپنے لاثانی دہرم پر قربان کرکے زندہ جاوید کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ اس محدود اور مختصر سی جگہ میں تمام واقعات کا لکھنا ناممکن ہے اول تو یہ قصہ ہی سخت اور جگر سوز ہے اس پر مصنف کا طرز بیان کچھ اس غضب کا ہے کہ ایک سنگدل سے سنگدل انسان کے بھی خون کے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ بلاشبہ اگر کوئی انسان اس کتاب کو بغیر آنسو بہائے ختم کردے تو وہ انسانی درجہ سے بالاتر اور انعام پانے کا مستحق ہے کاغذ چھپائی اور لکھائی نہایت نفیس۔ علاوہ ازیں اس نئے ایڈیشن میں ہاف ٹون بلاک سے چھپی ہوئی ۹ قابل دید خوشنما برنگ برنگی تصاویر دیگئی ہیں جنکو دیکھکر تمام واقعات بائسکوپ کی طرح آنکھوں کے سامنے ناچنے لگتے ہیں۔ باوجود ان خوبیوں کے قیمت مکمل باتصویر کی عہ ہندی ۸ر گورمکھی ۸ر

آریہ سنگیت رامائن باتصویر

سر بلو رنگا

مصنفہ سردار جسونت سنگھ ورما ٹوہانوی

چوبیس رنگ برنگی تصویروں کیساتھ نئے رنگ ڈہنگ اور بانوکھی سج دہج سے نیا ایڈیشن چھپکر تیار ہوگیا ہے۔ یہ پستک کیا سرب گنوں کا بھنڈار ہے۔ اس سے آپ اپنے مذاق کیمطابق ہر قسم کا کام لے سکتے ہیں۔ کتھا کریں۔ ناٹک کریں۔ ڈرامہ کریں۔ بطور تفریح پڑہیں دوستوں کو بطور تحفہ ارسال کریں۔ کامیاب طلبا کو بطور تحفہ انعام دیں۔ اس کے دلچسپ گانے اور دلفریب ناٹک ایسے پیرایہ میں لکھے گئے ہیں کہ ایک دفعہ شروع کرکے بغیر ختم کئے کتاب ہاتھ سے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ ہندو سوسائٹی کے ہر فرد نے بلا لحاظ خیالات و بلا امتیاز مذہب و ملت اس کتاب کو بیحد پسند فرماکر جو خطوط مصنف کو بطور مبارکباد ی لکھے ہیں انکی تعداد کئی ہزار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بےنظیر کتاب کو اردو سے ہندی و گورمکھی میں ترجمہ کرانا پڑا۔ اور اس قلیل عرصہ میں اس کی اشاعت

ایک لاکھ (۱۰۰۰۰۰)

سے بھی تجاوز کرگئی ہے۔ استریوں کے لئے پتی برت دہرم کا بھنڈار۔ کنیاؤں کے لئے سچا سنگھار۔ بھراتری۔ پریم اور پتری سیوا کی سچی تصویر یہ رامائن آریہ عظمت کا ہو بہو فوٹو غرضیکہ ہر ایک فرقہ کے نیش ناری کے لئے اپدیش کا ایک بےنظیر خزانہ ہے۔ اگر آپ

شری رامچندر جی کے جیون سے

کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے اندر سچا آریہ جیون پردیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں اگر آپ اپنی کنیاؤں کو بھی ساکشات دیویاں بنانا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ان کے ہاتھوں میں دیجئے۔ لکھائی چھپائی و کاغذ نہایت نفیس باوجود ان خوبیوں کے اس نئے ایڈیشن میں ہاف ٹون بلاک کی جیت کو لبھانیوالی ۲۴ رنگ برنگی تصاویر دیگئی ہیں جنکو دیکھکر گذشتہ زمانہ کے منوہر سین بائسکوپ کی طرح آنکھوں کے سامنے جلوہ نما ہوجاتے ہیں۔ قیمت باتصویر مکمل اردو کتاب کی صرف ۲ ہندی اور گورمکھی باتصویر کتاب کی (۲)

" بلا " " " " لگا

اگر آپ جلد والی طلب کریں گے تو کپڑے کی جلد کے ۵ ر اور سنہری پٹھے والی جلد کے ۸ ر علیحدہ چارج ہوں گے۔ محصول ڈاک ایک کتاب کا ۹ ر دو کا ۱۲ ر تین کا ایک روپیہ عہ لگے گا۔ جو بذمہ خریدار ہوگا۔

ہنومان جی کا جیون چرتر

یہ وہی مشہور و معروف کتاب ہے جس کے کئی ایڈیشن اردو ہندی گورمکھی میں شائع ہوکر ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوچکے ہیں۔ اس بار ہم نے اپنے اہتمام سے خاص طور پر عمدہ چکنے کاغذ پر بڑھیا لکھائی چھپائی سے تیار کراکر شائع کیا ہے۔ شری ہنومان جی کو جو آجکل بندر کہا جاتا ہے کہ وہ بند رکھتے اس کے متعلق اس کتاب میں واقعات کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ دراصل شری ہنومان جی ایک ودیا پاتی۔ دہرماتما یودھ پرستے۔ تاریخی پہلو سے یہ کتاب پراز تحقیقات تواریخ ہے اگر ناول کے پیرایہ میں لیں تو ایک بےنظیر دل ہلا دینے والا ناول ہے۔ ہنومان جی کی ماتا انجنا دیوی کی مصیبت اور استقلال انجنا دیوی پر بہتان سسرال اور ماتا پتا کے گھر سے نکالا جانا جنگل میں بسر اوقات۔ ہنومان کا جنم۔ پون کی جنگ سے واپسی۔ اصل واقعات کا انکشاف۔ انجنا کے ماتا پتا ساس سسر کا پچھتاپ ویر ہنومان کے حیرت انگیز کارنامے۔ بڑے ہی پرلطف طریقے پر لکھے گئے ہیں۔ رامائن کی قریباً تمام کتھا بھی اسمیں آجاتی ہے۔ استری پرش بچے سب کے پڑہنے یوگیہ پستک ہے۔ ہر ورق پر ایک خوبصورت تصویر بھی دی گئی ہے۔ اور پراچین ہندوستان کا نقشہ بھی ہے۔ قیمت اردو صرف ۱۰ ہندی (۸ر) گورمکھی (۸ر)

ملنے کا پتہ نیشنل بک ڈپو نمبر ۶ نئی سڑک دہلی

کوی بھوشن مہاشہ راج بہادر شرما بی اے دہلوی کی زبردست تصنیف
ہندو جاتی کی آن کا سچا فوٹو۔ راجپوتی بہادری کی جیتی جاگتی تصویر
ودھارمک اور تواریخی ناٹک

ہندوپت مہارانا پرتاپ سنگھ

اگر آپ اپنے ان راجپوت بزرگوں کے کارنامے پڑھنے کے خواہشمند ہیں جنکی ہمت بہادری اور دلاوری کی داستانیں اب بھی مردہ دلوں میں زندگی اور ٹھنڈے خون میں گرمی اور حرارت پیدا کرسکتی ہیں۔ اگر آپ راجستھان کے شیر ہندوؤں کے سرتاج مہارانا پرتاپ سنگھ کی زندگی کے دل ہلانے والے حالات پڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہلدی گھاٹ کے زبردست معرکہ۔ راج رشی مہارانا پرتاپ کا ادبھت بلیدان راجپوتی جوہر اور بہادر راج سنگھمینوں کے اپنے دھرم کی رکھشا کیلئے ہنستے کھیلتے آگ کے شعلوں میں کود جانے کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور پڑھیئے اگر آپ اپنے بچوں کو دیرتا کا اُپدیش دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی استریوں میں پتی ورت دھرم اور نربھیتا کی روح پھونکنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ضرور انکے ہاتھ میں دیجئے۔ اس کتاب میں دو ہاف ٹون بلاک کی سہ رنگی تصاویر بھی دی گئی ہیں جن سے تمام سین بائسکوپ کی طرح آنکھوں کے سامنے پھر جاتے ہیں۔ لکھائی چھپائی اور کاغذ نہایت نفیس قیمت صرف (عہ) محصول ڈاک چھ آنے (۶)

سنگیت ہریشچندر

(سردار جسونت سنگھ ورما ٹوہانوی کی جادو اثر قلم سے نکلی ہوئی چوتھی لیسنک) بھارت ماتا کے مایۂ ناز آریہ جاتی کے قابل فخر سپوت تخت اجودھیا کے درخشاں ستارے مہاراجہ رامچندر جی کے جدامجد ستیہ دھاری۔ ستیہ وکتا۔ ستیہ وان۔ ستیہ وادی مہاراجہ ہریشچندر کے نام نامی سے نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام دنیا کا بچہ بچہ واقف ہے جس نے راج جیسی نایاب چیز کو جس کے لئے دنیا میں خون کے دریا بہے۔ جس کے لئے دنیا کے شہنشاہوں نے اپنے باپ بھائیوں اور بھتیجوں کو تہ تیغ کرنے سے گریز نہ کیا۔ اپنی سچائی اور زبان کی پاسداری کے مقابلہ میں بالکل ہیچ سمجھا اور ایک سادھو کے مانگنے پر تمام راج ایسی فراخدلی سے انکے حوالے کردیا جس طرح ایک گرہستی معمولی روٹی کا ٹکڑا کسی بھکاری کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ خود بکا۔ رانی کو بیچا۔ اپنے لخت جگر کو فروخت کیا۔ دنیا کی وہ مصیبتیں جو کبھی خواب میں بھی دیکھی نہ تھیں برداشت کیں۔ مگر باوجود اس قدر تکالیف اور مصائب کے سچائی کو ہاتھ سے نہ دیا۔ دنیا کی بے شمار زبانوں میں اپنے اپنے ڈھنگ اور اپنے اپنے طرز میں اس مہان آتما کے جیون چرتر موجود ہیں

قیمت اُردو ۸ ر باتصویر ۱۰ ر ہندی باتصویر ۱۰ ر

سنگیت پرتھوی راج

(مصنفہ سردار جسونت سنگھ ورما ٹوہانوی)

جس کتاب کا پبلک عرصہ سے نہایت بیقراری کے ساتھ انتظار کر رہی تھی وہ چھپ کر تیار ہوگئی ہے۔ ہندو جاتی کے آخری عروج و اقبال کا ایک نایاب مرقع ہے۔ گھر کی پھوٹ اور باہمی جنگ و جدال کے خوفناک نتائج کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ آپ کو تبلائے گا کہ کس طرح یہ جاتی بام عروج سے گر کر تحت الثریٰ پہنچی کھتری بہادروں کی دیرتا اور پرن پرتگیا کا نقشہ اس خوبی سے دکھلایا گیا ہے کہ لفظوں میں اس کا اظہار نہیں کیا جاسکتا۔ ایک ایک لفظ ویررس اور کرونا رس کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ طرز بیان اور عبارت آرائی کی ضمانت کے لئے صرف مصنف کا نام ہی کافی ہے جن کے زور قلم کا تمام زمانہ معترف ہے جن کی تصانیف کے شیدائی بلا امتیاز مذہب و ملت ملک کے ہر گوشے میں پائے جاتے ہیں زیادہ تعریف اپنے منہ میاں مٹھو والی مثال ہے۔ منگوا کر مطالعہ کیجئے۔ ہماری صداقت اور مصنف کی عرق ریزی کی داد دیجئے۔ کاغذ نفیس۔ لکھائی چھپائی دیدہ زیب ہونے کے باوجود قیمت صرف سوا روپیہ (عہ) محصول چھ آنے (۶)

لائق وکیل

(قانون کی جیبی کتاب) جن لوگوں کو مقدمات دیوانی یا فوجداری سے واسطہ پڑتا ہے یا جو اپنے محکمہ یا کاروبار کے قانون سے واقف ہونا چاہتے ہیں انکے لئے یہ کتاب لائق وکیل نہایت کارآمد اور بیش بہا تحفہ ثابت ہوگا اسمیں ۲۶ قوانین کا خلاصہ مثلاً تعزیرات ہند۔ ضابطہ فوجداری۔ قانون شہادت۔ رجسٹری آبکاری۔ ندرالت۔ خفیفہ۔ کورٹ فیس۔ لگان۔ پولیس۔ ریل۔ ڈاک خانہ۔ تار۔ میونسپلٹی۔ کانجی ہوس۔ جیلخانہ۔ قانون کمپنی۔ کاپی رائٹ وغیرہ وغیرہ اس قسم کے چونسٹھ قوانین کا خلاصہ عام فہم عبارت میں درج کیا ہے۔ کوئی ضروری بات نہیں چھوڑی۔ وکیل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ خود بخود سمجھ لو یہ کتاب قانونی مشورہ کے لئے ایک لائق وکیل کا کام دے گی اور فضول روپیہ برباد ہونے سے بچائے گی۔ فی جلد ایک روپیہ چار آنے (عہ)

ملنے کا پتہ: نیشنل بک ڈپو نمبر ۶ نئی سڑک دہلی

دولت مند بنانے والی نایاب کتب

675/0/0
مبلغ چھ سو پچھتر روپیہ کے چار نسخے

یہ وہ مشہور عالم چوٹی کے نسخے ہیں۔ جن سے غیر ممالک کے لوگ ہندوستان سے لاکھوں کروڑوں روپے سالانہ کما رہے ہیں۔ لیکن اب بعض حضرات نے ان نسخوں کو فیس سے سکھانا شروع کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ وہ فیس غریب لوگوں کیلئے بہت زیادہ ہے اس لئے ہمنے ان نسخہ جات کو نہایت دریا دلی سے

کنز المجربات

میں درج کر دیا ہے۔ ان چاروں نسخہ جات کی فہرست درج ذیل ہے۔
(۱) فینائل نہایت عمدہ بنانے کا نسخہ جو پانی میں ملاتے ہی دودھ کی طرح ہو جاتا ہے اور جو کہ اعلیٰ درجہ کی جرم کش دوا ہے ہمارے ہندوستان میں لاکھوں روپے سالانہ کی فروخت ہوتی ہے۔ بنانے میں نہایت سہل اور سستی ہے ایک صاحب ولایت میں پانسو روپیہ فیس لیکر بتاتے ہیں۔ (۲) جاپانی خضاب فیس مبلغ پچاس روپیہ جو نہایت خوشنما رنگ دیتا ہے (۳) جرمنی خضاب ایک پوڈر والا فیس مبلغ سو روپیہ بڑی پکی رنگت دینے والا ہے (۴) ایک شیشی والا عرق خضاب جو ان سب سے اعلیٰ اور خالص دیسی ہے پچیس روپیہ فیس دیکر سیکھا گیا تھا۔ علاوہ ازیں بال صفا شربت سپاری پاک۔ لاجواب شاہی طلاء۔ طبی صندوقچہ روغن احمر۔ پوڈر آف آرسنک وغیرہ وغیرہ سیکڑوں مجرب نسخے۔ جن کے ذریعہ سے انتہائی حکیم لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ انسان کی سر سے پاؤں تک کی تمام بیماریوں کی تشریح اور انکا مجرب علاج درج کیا ہے۔ تمام موذی بیماریوں کی تشریح اور انکا مجرب علاج درج کیا ہے۔ تمام موذی بیماریوں مثلاً آتشک، سوزاک، جریان، احتلام، سرعت انزال، سستی، نامردی وغیرہ کے شرطیہ علاج۔ نسخے ایسے لکھے ہیں جو بنانے میں بالکل آسان اور فوائد میں آبحیات ثابت ہونگے۔ جو بارہا تجربہ کی کسوٹی پر کسے جا چکے ہیں۔ پھر لطف یہ کہ کوئی نسخہ کتابی نہیں بلکہ خاص صدری سنیاسی ہیں۔ مثلاً جریان کے تین بیخطا نسخے جس میں ایک تو صرف سفوف دوائی ہے۔ اس سے بیس سالہ جریان بھی دور ہو جاتا ہے۔ دوسرے نسخے سے جریان احتلام خواہ کتنا ہی پرانا ہو تین خوراک سے دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر مالش کرنے سے پرانے سے پرانا آتشک۔ بازو پر بوٹی باندھنے سے ڈاڑھ کا درد ہمیشہ دور وغیرہ وغیرہ سینکڑوں نسخے جو آج تک کبھی سنے ہوں گے۔ عورتوں اور بچوں کی تمام بیماریوں کی تشریح اور مجرب علاج درج کیا ہے۔ کاغذ۔ لکھائی۔ چھپائی نہایت نفیس۔ ٹائیٹل خوش رنگ سنہری چھپا ہوا۔ خوبصورت جلد۔ حجم ۳۵۴ صفحے۔ باوجود ان خوبیوں کے قیمت صرف ۱۲ محصول ڈاک ۷

گنجینۂ روزگار

اس کتاب میں ایسی آسان دستکاریاں اور مالا مال کر دینے والے ہنر درج ہیں جن کو سیکھ کر آپ کم از کم ایک سو روپیہ ماہوار بخوبی کما سکتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ نہ بڑے سامان کی ضرورت ہے۔ اور نہ سرمایہ کی۔ نیز ان کا سمجھنا اور عمل کرنا اسقدر آسان ہے کہ معمولی لیاقت کا شخص بھی بغیر استاد کی مدد کے کسی قسم کے ہنر خود بخود سیکھ سکتا ہے۔ چونکہ تمام ہنر مصنف نے پہلے خود تجربہ کر کے درج کئے ہیں۔ اس لئے سب اس خوبی سے بیان کئے ہیں کہ جس دستکاری کو پڑھو گے اس کے متعلق مزید تحقیقات کی ضرورت نہ رہے گی۔ مختصر فہرست مضامین یہ ہے۔
باب اول صابون سازی کے متعلق ہے جسمیں ہر قسم کا صابون بنانے کی ترکیب درج ہے۔ اور امرتسر کا اصلی صابون اور دہلی کا سیاہ صابون بنانے کی ترکیب بھی درج کر دی گئی ہے۔ دھلائی کا کام جسمیں ہر قسم کے اونی۔ سوتی۔ ریشمی کپڑے دھونے کی ترکیبیں سر دھونے کا مصالحہ۔ آئینہ سازی۔ ہر قسم کی روشنائیاں بنانا۔ بلو بلیک۔ اودی۔ روپہلی سنہری۔ سرخ۔ وغیرہ وغیرہ گولیاں۔ سفوف اور تر حالت میں بنانا۔ موسم گرما کے تحفے۔ بغیر مشین سوڈا واٹر۔ ملائی کی کلفی بنانا۔ رنگین و خوشبودار شربت تیار کرنا۔ تیل کو صاف کرنا۔ رنگین کرنا۔ خوشبودار کرنا۔ آنولہ کا تیل بنانا۔ روغن گلدستہ۔ روغن عنبر۔ غلتہ بنانا۔ خوبصورت بننے کی دوائی۔ حسن یوسف بنانا۔ چہرے کے داغ دور کرنا۔ بال بڑھانے کا نسخہ۔ خضاب بنانا۔ دو شیشی کا عرق۔ خضاب دو شیشی کا پوڈر۔ خضاب ایک شیشی کا۔ عرق خضاب۔ دیسی پوڈر کا خضاب۔ بال سیاہ کرنے کا اعلیٰ صابون۔ ہر قسم کا اچار چٹنیاں۔ مربے بنانا۔ چائے کی سفری ٹکیاں۔ پان میں کھانے کا مصالحہ۔ تمبول بہار خوشبودار سپاریاں بنانا۔ سفری روزگار۔ لال گولیاں۔ طلسمی نسوار۔ سرمہ اکسیر چشم۔ ٹھنڈا سرمہ۔ نورانی سلائیاں۔ مصنوعات نقلی۔ سونا۔ کستوری۔ عنبر۔ شہد۔ بناسپتی گھی۔ مصنوعی گھی بنانیکی ترکیبیں۔ وارنش بنانا۔ چمڑہ رنگنا۔ بوٹ پالش ہر قسم۔ بغیر بیٹری کے گلٹ کرنا۔ پارہ کی گولی۔ گندھک۔ کافور۔ نمک کے گلاس بنانا۔ قلمی شورہ کے کھلونے بنانا۔ مچھر مار۔ چوہے مار۔ مکھی مار کاغذ بنانا۔ وغیرہ وغیرہ ایسے ایسے نادر نسخے و ہنر درج کئے ہیں جن کو سیکھ کر دو چار روپے روز کما لینا معمولی بات ہے۔ آج ہی آرڈر دیکر کتاب منگوالیں۔ پسند نہ ہو تو دام واپس دینگے۔ کاغذ۔ لکھائی۔ چھپائی نہایت نفیس۔ خوبصورت جلد

قیمت صرف ڈیڑھ روپیہ

محصول ڈاک ۶ آنے علاوہ ہوگا

رعایت۔ ہر دو کتب کنز المجربات اور گنجینۂ روزگار اکٹھی منگوانے پر مع محصول ڈاک ساڑھے تین روپے سے ہمیں ملیں گی۔

ملنے کا پتہ
گپتا اینڈ کمپنی نمبر ۶ نئی سڑک دھلی

ہمارے ہاں سے ہر ایک گھڑی اچھی طرح دیکھکر اور چلا کر روانہ کی جاتی ہے اسلیئے کسی خریدار کو شکایت کا موقع نہیں ملتا

ولایت کے نرخ پر مضبوط اور پائدار گھڑیاں

یہ صرف بکری اور تجارت کے سامان کی فہرست ہے۔ اسمیں اشتہاری لوگوں کی طرح بیجا تعریف کا مبالغہ نہیں ہے بلکہ جو چیز جیسی ہے ویسی ہی بیان کی گئی ہے۔ دیگر سوداگروں کے نرخ سے مقابلہ کر کے دیکھیں۔ ہم براہ راست ولایت سے مال منگواتے ہیں۔ اس لئے ہمارے نرخ بہ نسبت بازار کے ارزاں ہیں۔ محصول ڈاک بذمہ خریدار +

اصلی ریلوے لیور واچ



قیمت للعہ
گارنٹی ۳ سال

یہ لیور چال کی اصلی ریلوے واچ ہے۔ کیونکہ یہ گھڑی درست وقت دینے میں نام پا چکی ہے۔ اس لیئے ریلوے اور تار کے ملازم اور گارڈ بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں یہ خوبصورت کیس ہے اسمیں ہنجس بھی ہے اور رڈوائل جیبی کا ہے۔ غرضکہ عمدہ گھڑی کی سب خوبیاں اسمیں موجود ہیں۔ باوجود ان سب خوبیوں کے قیمت بہت کم ہے یعنے قیمت گھڑی معہ خوشنما زنجیر و بکس کے صرف چار روپیہ آٹھ آنہ (للعہ)

ویسٹ اینڈ واچ کمپنی کی مشہور گھڑیاں



گارنٹی
پانچ سال

ہر ایک گھڑی کے ڈائل پر ویسٹ اینڈ واچ کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے ان گھڑیوں کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ اپنی پائداری کا ڈنکہ تمام ہندوستان میں بجا چکی ہیں۔

دوسٹ واچ قیمت ۱۳ روپیہ، خورد سائز ۱۳ روپیہ
نمبر ۲۔ انڈکس ۱۷ روپیہ، ہیجلس ۱۵ روپیہ
خورد سائز ۱۹ روپیہ، ویسٹ اینڈ کے کارخانہ کی رسٹ واچ پچیس روپے (۲۵ روپیہ)
اور چوبیس روپے (۲۴ روپیہ)

ہفت روزہ پاکٹ واچ

گارنٹی
۵ سال

اس گھڑی کو آٹھ روز میں صرف ایک مرتبہ چابی دیجاتی ہے اور ہفتہ بھر برابر ٹھیک چلتی رہتی ہے لطف یہ کہ لیور ہے سکنڈ کا پہیہ سامنے رقص کرتا ہوا عجیب لطف دیتا ہے پرزے نہایت پائیدار ہیں کیس اصلی نکل سلور کا ہے میلا ہونے پر ذرا کپڑے یا صابن سے پونچھ دیں صاف شفاف چمکدار نکل آویگا یہ صفت معمولی نکل کے کیس میں نہیں ہوتی قیمت معہ زنجیر آٹھ روپے۔ اصلی چاندی کیس کی معہ زنجیر و بکس صرف چودہ روپے (للعہ ۱۴)

شش چراغ فیشنی بیضوی باچوکور کٹ ڈائل رسٹ واچ



گارنٹی ۵ سال
قیمت

یہ نئی قسم کی خوشنما گھڑی بھی تھوڑے دنوں سے ولایت سے آئی ہے اسمیں بجائے گول کے بیضوی یا چورس ڈائل بڑا پیارا معلوم ہوتا ہے دیکھنے میں بالکل سونے کی معلوم ہوتی ہے اور سنورا دیے کی گھڑی کو مات کرتی ہے اعلیٰ درجہ کی پائدار وقت ٹھیک بتاتی ہے صفت یہ ہے کہ ریڈیم ڈائل جو اندھیرے میں بھی وقت دکھاتی ہے۔

قیمت معہ تسمہ صرف چھ روپے آٹھ آنے
〃 بلا ریڈیم کے پانچ روپے آٹھ آنے

لیور مشین کی نہایت مضبوط رسٹ واچ



گارنٹی
دس سال

یہ گھڑی ولایت کے ایک مشہور و معروف کارخانہ کی بنی ہوئی ہے جو ہم نے خاص طور سے تیار کرا کر منگائی ہے۔ وقت صحیح دینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اسکی مشین لیور ہے جس کے اندر ۵ اجول لگے ہوئے ہیں جو اس کی پائیداری کا بدیہی ثبوت ہے۔ موٹا گلاس بڑا ہی بھلا معلوم ہوتا ہے۔

قیمت نکل کیس سادہ ڈائیل پندرہ روپے (۱۵ روپیہ)
〃 چاندی کیس 〃 اٹھارہ روپے (۱۸ روپیہ)
〃 رولڈ گولڈ 〃 بیس روپے (۲۰ روپیہ)
ریڈیم ڈائل کا ایک روپیہ زائد تسمہ ہمراہ مفت

ہاف ہنٹنگ سُنہری پاکٹ واچ



گارنٹی
۵ سال

یہ گھڑی سُنہری کیس نہایت خوبصورت اور قابل دید چیز ہے۔ ہاف ہنٹنگ ہے۔ شیشے کے ٹوٹنے کا ڈر نہیں۔ وقت بالکل صحیح دیتی ہے۔ ایک منٹ کا فرق نہیں پڑتا پیچھے بھی ڈبل ڈھکن ہے مشین لیو اور پائدار ہے۔ باوجود ان خوبیوں کے قیمت بہت کم ہے یعنے صرف ساڑھے سات روپے معہ سُنہری زنجیر کے۔ (۷ روپیہ ۸ آنہ)
محصول ڈاک ہر ایک گھڑی کا بذمہ خریدار ہوگا۔

جالیدار سُنہری عمدہ سبز نگدار چوڑیکی گھڑی



گارنٹی
۵ سال

سُنہری رنگ کی چوڑی میں سُنہری گھڑی آویزاں ہے اور چوڑی میں یہ خوبی ہے کہ خواہ کلائی موٹی ہو یا پتلی سب میں ٹھیک آجاتی ہے۔ ہماری گھڑی ایسی خوبصورت ہے کہ طلائی زیورات کو مات کرتی ہے اور درست وقت دینے والی مضبوط اور پائیدار ہے۔ واقعی عورتوں کے لئے خوشنما حسن افزا زیور ہے۔ قیمت سات روپے۔ جڑاؤ جس میں ڈائل کے ارد گرد نہایت خوبصورت نقلی ہیرے جڑے ہوئے ہیں قیمت صرف آٹھ روپے (۸ روپیہ)

ویسٹ اینڈ واچ کمپنی کی مشہور و معروف گھڑیاں بھی ہمارے ہاں ہر قسم کی موجود ہیں فہرست مفت طلب فرماویں۔

ملنے کا پتہ: گپتا اینڈ کمپنی نمبر ۶ نئی سڑک دہلی

ہمارے ہاں سے ہر ایک گھڑی اچھی طرح چلا کر اور دیکھکر روانہ کی جاتی ہے اسلئے کسی خریدار کو شکایت کا موقع نہیں ملتا

چلو دوستو مال لٹا دیا ہے

دوسرے تاجروں کے نرخ سے مقابلہ کر کے دیکھیں ہمارے نرخ سب سے ارزاں ہیں کیونکہ ہم براہ راست ولایت سے مال منگواتے ہیں۔ اور زیادہ تعداد میں منگواتے ہیں۔ اس سے ہم کو ارزاں نرخ پر مال پڑتا ہے اور جسے ہم بہت کم منافع پر فروخت کر رہے ہیں کیونکہ ہم ارزاں فروشی بیارے فروشی" کے قائل ہیں۔ ایک دفعہ ضرور آزمائش کر کے دیکھیں +

سُنہری کیس کی خوبصورت فینسی رسٹواچیں



ان گھڑیوں کی خوبصورتی میں کاریگر نے کمال کر دیا ہے۔ ہم تحریر کے ذریعہ ان کی خوبصورتی نہیں دکھا سکتے۔ جو دیکھنے پر منحصر ہے۔ جیسی یہ گھڑیاں خوبصورت ہیں ویسی ہی پائدار بھی ہیں۔ ان کے ڈائل نہایت چمکدار سُنہری اور فینسی بنے ہوئے ہیں۔ دیکھنے میں پچاس روپے کی گھڑی کو مات کرتی ہیں۔ منگا کر دیکھیں خوش ہو جائیگا قیمت معہ تسمہ چرمی صرف پانچ روپیہ محصول ڈاک آٹھ آنے علاوہ ہوگا۔ تین گھڑی یکمشت خریدنے پر محصولڈاک معاف +

بجلی والی رسٹ واچ

واہ واہ گھڑی کیا ہے ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ اسکی پائداری اسکی مضبوطی اور اسکی خوبصورتی غضب ڈہاتی ہے اسکی چمک دمک دیکھکر عقل حیران ہوتی ہے رات کو اندھیرے میں بجلی کی طرح روشنی دیکر وقت ٹھیک طرح بتلاتی ہے۔ تعریف فضول ہے قیمت نکل کے کیس کی ۶ روپے ہے۔ چاندی کے کیس کی دس روپے (۱۰) لیور مشین جو لیدار اعلےٰ قسم بیس روپے (۲۰)

سکنڈ کی سوئی والی گارڈ واچ



قیمت صرف ۴ روپے

یہ لیور چال کی اصلی گارڈ واچ ہے اور واقعی کم خرچ بالانشین مضبوط اور پائدار گھڑی ہے کیونکہ یہ گھڑی درست وقت دینے میں نام پا چکی ہے اسلئے ریلوے کے ملازم اور گارڈ بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں یہ خوبصورت ہے کیس بھی ڈائل چینی کا ہے غرضکہ عمدہ گھڑی کی سب خوبیاں اسمیں موجود ہیں۔ قیمت معہ بکس خوشنما زنجیر کے (۵)

اصلی راسکوپ لیور واچ

گارنٹی ۳ سال

یہ گھڑی اصلی راسکوپ سسٹم پیٹنٹ لیور واچ ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسکے ڈائل پر انگریزی میں راسکوپ پیٹنٹ کندہ ہے ڈائل چینی کا سوئیاں سنہری خوشنما۔ ڈھکنے کے علاوہ پچھلی طرف شیشہ بھی لگا ہوا ہے چال لیور اسمیں خوبی یہ ہے کہ زیادہ چابی دینے سے اسکا فنر نہیں ٹوٹتا۔ نہایت مضبوط اور درست وقت دیتی ہے مع خوشنما زنجیر کے صرف ۳ روپے مع سیکنڈ ۳ روپے ۱۲ آنے

مضبوط اور پائدار گھڑیاں

خوبصورت کنڈیدار رسٹواچیں

اس گھڑی کی مشین پائدار ہے چلنے میں نہایت پائدار اور مضبوط وقت دینے میں سچی ہے اگر آپ کو سستی اور خوبصورت گھڑی کی ضرورت ہے تو یہ گھڑی خریدیں۔ قیمت بہت کم دیکھنے میں خوبصورت ہے۔

گارنٹی ۳ سال

قیمت نکل سلور کیس معہ تسمہ چرمی	۴
" " " " معہ سیکنڈ	۴ روپے ۸ آنے
سُنہری کیس، بلا سیکنڈ	۶
" " سیکنڈ والی	۷

ریڈیم ڈائل کا ایک روپیہ زائد ہوگا۔

شب چراغ فینسی بیضوی یا چوکور کٹ ڈائل رسٹ واچ

یہ نئی قسم کی خوشنما گھڑی بھی تھوڑے دنوں سے ولایت سے آئی ہے اسمیں بجائے گول کے بیضوی یا چورس ڈائل بڑا پیارا معلوم ہوتا ہے دیکھنے میں بالکل سونے کی معلوم ہوتی ہے اور سو روپے کی گھڑی کو مات کرتی ہے۔ اسلئے دیر تک پائدار وقت ٹھیک بتاتی ہے۔ اور صفت یہ ہے ریڈیم ڈائل ہے جو اندھیرے میں بھی وقت دکھاتی ہے۔ قیمت معہ تسمہ صرف چھ روپے آٹھ آنے ۶ روپے ۸ آنے بلا ریڈیم کی پانچ روپے آٹھ آنہ ۵ روپے ۸ آنے محصول ڈاک بذمہ خریدار ہوگا۔



گارنٹی ۵ سال

ملنے کا پتہ:- میسرز گپتا اینڈ کمپنی نمبر ۱۱ نئی سڑک دہلی

گھڑیوں کی لوٹ

صرف تین روپے آٹھ آنے (۳ روپے) میں

اصلی سکنڈ کی سوئی والی ریلوے ریگولیٹر واچ

قیمت معہ سکنڈ کی سوئی ۳ روپے — گارنٹی ۵ سال

یہی اصلی ریلوے ریگولیٹر واچ ہے جسکو دوسرے سوداگر پانچ پانچ اور چھ چھ روپے میں فروخت کر رہے ہیں لیکن چونکہ ہم نے یہ گھڑیاں بہت زیادہ تعداد میں ولایت سے منگوائی ہیں اس لئے ہم کو سستے داموں میں پڑی ہیں اور ہم بہت کم منافع پر فروخت کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم ارزاں و فروشی بسیار فروشی کے قائل ہیں۔ گھڑی نہایت خوبصورت مضبوط اور پائیدار وقت بالکل ٹھیک دیتی ہے۔ اعلیٰ درجہ کی پائیدار لیور مشین معہ سکنڈ کی سوئی کے۔ باوجود ان خوبیوں کے قیمت رعایتی صرف تین روپے آٹھ آنے (۳ روپے) (محصول ڈاک علاوہ بذمہ خریدار ہوگا)

صرف چار روپے آٹھ آنے (للعہ) میں

سنہری کیس کی فینسی رسٹ واچ معہ تسمہ



گارنٹی ۳ سال — قیمت للعہ

یہ گھڑی نہایت خوبصورت مضبوط اور پائیدار ہونے کے علاوہ وقت بالکل صحیح دیتی ہے دیکھنے میں بیس روپیہ کی معلوم ہوتی ہے اور طلائی زیورات کو مات کرتی ہے عورتوں کیلئے نہایت خوشنما اور حسن افزا زیور ہے۔ مردوں کیلئے بے نظیر تحفہ ہے جو ایکدفعہ منگواتا ہے دوستوں کے لئے درجنوں طلب فرماتا ہے دوسری جگہ سے دس روپیہ سے کم میں نہ ملیگی۔ ہم چونکہ بھاری تعداد میں ولایت سے منگواتے ہیں اسلئے سستے داموں میں فروخت کر رہے ہیں۔ جلد منگوائیے ورنہ پھر سٹاک ختم ہونے پر کف افسوس ملنا پڑے گا۔ قیمت رعایتی صرف (للعہ) علاوہ محصول ڈاک۔

صرف چار روپے (للعہ) میں

سنہری کیس کی فینسی پاکٹ واچ



قیمت للعہ — گارنٹی ۵ سال

یہ گھڑی ابھی ابھی تازہ ولایت سے آئی ہے جو نہایت شاندار اور خوبصورت ہے۔ اس کا خوبصورت سنہری کیس اور فینسی چمکدار ڈائل عجیب بہار دیتا ہے تحفہ کے لائق چیز ہے۔ وقت بالکل صحیح دیتی ہے مشین لیور ہے۔ جس نے ایک مرتبہ خریدی دوستوں کے لئے درجنوں طلب فرمائیں۔ دیکھنے میں بیس روپے کی معلوم ہوتی ہے۔ قیمت سنو تو حیران رہ جاؤ یعنے صرف چار روپے (للعہ) دوسری جگہ سے آٹھ روپے سے کم میں نہ ملیگی۔ محصول ڈاک بذمہ خریدار ہوگا۔

غیر معمولی رعایت

صرف بارہ روپے (۱۲ روپے) میں چار گھڑیاں لیجئے!

سنہری رسٹ واچ — گارنٹی ۴ سال | ریلوے ریگولیٹر واچ — گارنٹی ۵ سال | جرمنی بی ٹایم پیس — گارنٹی ۲ سال | الارم ٹایم پیس — گارنٹی ۲ سال

(۱) جرمنی بی ٹایم پیس (۲) ریلوے ریگولیٹر واچ جیبی گھڑی (۳) کلائی پر باندھنے والی سنہری رسٹ واچ معہ تسمہ (۴) الارم دار ٹایم پیس۔ یہ گھڑیاں مضبوط اور پائیدار ہونے کے علاوہ دیکھنے میں نہایت خوبصورت ہیں۔ وقت بالکل ٹھیک دیتی ہیں۔ انکی اصلی قیمت بیس روپیہ ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے یہ گھڑیاں بہت بڑی تعداد میں ولایت سے منگوائی ہیں۔ اسلئے بہت کم منافع پر فروخت کر رہے ہیں۔ جلد منگوائیے اور اپنے جاننے والے دوستوں۔ رشتہ داروں کو فوراً خبر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس رعایت سے فائدہ اٹھا سکیں ورنہ سٹاک ختم ہونے پر کف افسوس ملنا پڑیگا۔ پھر یہ گھڑیاں بیس روپے سے کم میں ہرگز نہ مل سکیں گی۔ محصول ڈاک ۱۲ روپے علاوہ ہوگا۔

نوٹ۔ بعض اصحاب ایک ہی قسم کی چار گھڑیاں یعنی چار رسٹ واچ بارہ روپے میں بعادہ کرنے کا آرڈر دیتے ہیں۔ سو ایسے آرڈر کی تعمیل نہ ہوگی۔ بلکہ مندرجہ بالا چار قسم کی چار گھڑیاں بارہ روپے میں ارسال ہوں گی۔ جن کو اگر آپ فروخت کرنا چاہیں تو بیس روپیہ میں آسانی سے بک جائیں گی۔

المشتہر میسرز گپتا اینڈ کمپنی نمبر ا نئی سڑک دہلی



نئی ایجاد
نیا تحفہ
دیکھو ایسی قابل قدر چیز کے منگانے میں دیر نہ کرو
بال عمر بھر نہ اُگنے کا جوہر
اس حیرت انگیز دوا کے استعمال سے بال عمر بھر پیدا نہیں ہوتے۔ بالوں کو موچنے سے اوکھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ صرف دوائی کے استعمال سے ہی بال جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر عمر بھر پیدا نہیں ہوتے خوبی یہ ہے کہ اسکے لگانے سے کسی قسم کی ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ نازک سے نازک مقام پر بےخطر استعمال کرسکتے ہیں۔ جلد سنیاسی کے مستک کی طرح صاف اور ملائم نکل آتی ہے۔ نہایت عجیب حیرت انگیز جادو اثر تحفہ ہے۔ ضرور منگوا کر دیکھئے۔ قیمت فی شیشی تین روپے ۳؎
نوٹ۔ اگر دوائی بموجب تحریر نہ ہو تو قیمت واپسی کی شرط ہے۔
ملنے کا پتہ
کارخانہ درباری خضاب ورکس نمبر ۶ - لودیانہ (پنجاب)
نایاب چیز ہے
ضرور منگاؤ

گیتا بھون قصبہ تراوڑی (کورکشیتر) ضلع کرنال پنجاب

سے

شری مد بھگوت گیتا کے متعلق سب قسم کا ہر ایک لٹریچر مل سکتا ہے ہمارے سٹوک میں شری مد بھگوت گیتا کے بھاشیہ انگریزی۔ فارسی۔ اردو ہندی بنگالی۔ بھاشاؤں میں ہیں۔ ہر ہندو کے گھر میں گیتا کا ہونا ضروری اور ثواب دارین ہے۔

نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت
شری مد بھگوت گیتا اردو	سے ر	راجپوت مہا پدمنی	۱۲ر	کورکشیتر مہاتم بڑا ہندی بھاشا	عہ ر	رامائن تلسی داس خورد	سے ر	پنڈت موتی لال نہرو سوانح	۱۲ر
،، سادھو سوانی	عار	قومی تلوار	۱۰ر	،، ،، چھوٹا ،، ،،	۴ر	،، ،، ،،	۱۲عہ	مہاراجہ اشوک	۱۲ر
،، الیف ٹی بروک	عہ	قومی فرشتہ	۹ر	تصویر مہابھارت	۴ر	رامائن آریہ سنگیت جسونت سنگھ	عگار	،، ،، خورد	۶ر
،، فیضی	عہ	وطن پرست	۸ر	مہابھارت بڑا اردو	سے عہ	رامائن نولکشور پریس با تصویر	سے	مہارانا پرتاپ	عہ ر
،، پنڈت تلسی رام	۱۰ر	باپ کا پرنام	۸ر	،، چھوٹا اردو	عگار	منوسمرتی ہندی	۴ سے	،، ،، ہندی	۴عہ
،، آریہ منی	سے ر	زخمی ہندو	۸ر	تصویر پانڈو	۴ر	،، اردو	سے	شیواجی مہاراج	۸ر
،، پنڈت راجہ رام	عگار	بھارت درشن مجلد	۸عہ	نقشہ کورکشیتر چھوٹا	۲ر	،، ہندی اردو	عگار	نل دمینتی اردو	۶ر
،، آریہ ہندو گھوشن بھومیکا	عہ ر	شہید قوم بیراگی بیر	۸ر	،، ،، بڑا	عہ ر	نیائے درشن	عگار	،، ،، ہندی	عہ ر
،،	سے ر	سوبھاگیہ سندری	۱۰ر	،، ،، ہندی	۲ر	یوگ درشن	۸عہ	لالہ لاجپت رائے	۴ر
،، مہابن شاستری	۸عہ	راجکماری للتا	۸ر	ستیارتھ پرکاش اردو	۱۰ر	سانکھیہ ،،	۲عہ	درگا داس راٹھور اردو	۸عہ
،، تعویذ مول	صہ ر	امر سنگھ راٹھور	۸ر	،، ،، ہندی	۱۰ر	ویدانت ،،	۲عہ	،، ،، ہندی	۱۲ر
،، مول ہندی	عار	چھترپتی ڈاکو	۸ر	جیون پرچھتی	۱۴ر	ویشیشک	۸عہ	سوامی رام تیرتھ	۸ر
،،	۴ر	حسن کی دیوی	۱۲ر	پنچ مہایگیہ ودھی	۲ر	اپنشد بھاشیہ	۲عہ	،، وویکانند	۱۰ر
،، گیتا اردو	۱۲ر	خوفناک قاتل	۶ر	جیون منتر	ار	دور نیستی ہندی	۸ر	سری کرشن چرتر	عگار
علاوہ ازیں اور بہت سی		عصمت کی دیوی	۸ر	جیون منتر ویراٹھنا	۲ر	بھاسکر پرکاش	عگار	سنگیت حقیقت رائے	عہ ر
گیتائیں ہیں جو بوجہ عدم		آزادی کی ملکہ دیوی جون	۵ر	سنسکار ودھی اردو	۸عہ	سام وید بھاشیہ	صہ ر	دلاور کرن	۴ر
گنجائش یہاں نہیں لکھی گئی		ہنومان کا جیون چرتر	عہ ر	،، ،، ہندی	۸ر	پارسکر گریہ سوتر	۱۲عہ	نل دمینتی	۸ر
ہیں ان کے لئے گیتا بھون		حقوق انسانی	۷ر	بواہ پدہتی سناتن دھرم	عہ ر	نگھنٹو	عگار	وردونا چاریہ	۴ر
کی فہرست کتب طلب کرو		محمود شکن دونوں بھاگ	۸ر	،، ،، نورتن	۲عہ	ویدک سندھیا	۲ر	بھیشم پتامہ	۱۲ر
اور جو مطلوب ہو اس کے		کلیات آریہ مسافر	للعہ	یگیوپویت پدہتی	عہ ر	،، ،، خورد	۴ر	رانی پدمنی	۴ر
لئے آرڈر عنایت کریں فہرست		ہنسی کا گول گپا مجلد	۲عہ	یجروید بھاشا بھاشیہ	للعہ	بھرتری شتک	۸ر	سوامی دیانند جیون چرتر	۴عہ
کے لئے ٹکٹ آنا ضروری ہے		انگلش ٹیچر	عہ ر	رگو بھاشیہ بھومیکا	۲عہ	سوانح عمریاں		رشی جیون کتھا	۱۲ر
مہارانا پرتاب سنگھ	عہ ر	رحم وطن	۴ر	رامائن بالمیک با تصویر	۵عہ	گاندھی چرتر	۱۰ر	سوانح عمری محمد صاحب ہندی	عہ ر
				،، ،، خورد	سے			علاوہ ازیں دیگر جگہ کی کتب	
بال بھگت پرہلاد	۱۲ر	جذبات خلیق	۴ر	،، تلسی داس بھاشا	صہ ر	،، ،، ہندی	عہ ر	بھی مل سکتی ہیں جو کفایت	
شاہی لکڑہارا	۸ر	جیبی روزگار	۶ر	،، ،، کلاں	للعہ	مالوی چرتر اردو	ار	اور اسی قیمت پر مل سکتی ہیں	

(نوٹ) فہرست کتب مفصل کے لئے ٹکٹ روانہ کریں۔ محصول ڈاک بذمہ خریدار

ملنے کا پتہ

گیتا بھون قصبہ تراوڑی (کورکشیتر) ضلع کرنال (پنجاب)

کرشمۂ جوتش

اپنی کنڈلی یعنی زائچہ ولادت کی نقل معہ تتھ و تاریخ و ماہ و سمت سن و سال کے تحریر کر کے معہ حالات زندگی گذشتہ و موجودہ ہمراہ ٹکٹ ایک آنہ ارسال کریں۔ آپ کی کنڈلی یا زائچہ کا مقابلہ بھرگو سنگھتا سے کر کے آئندہ کے حالات تم کو روانہ کئے جاویں گے جو آپ کو بہت مفید ثابت ہوں گی۔ مقابلہ کی فیس دو روپے ہے۔

پنڈت روی شنکر راجوتشی قصبہ تراوڑی تحصیل و ضلع کرنال

جنم پتری۔ نشٹ جنم پتری۔ برس پھل و موک پرش

ہمارے ہاں تیار کئے جاتے ہیں جن لوگوں کو ضرورت ہو مندرجہ ذیل اجرت پر تیار کرا سکتے ہیں

جنم پتری فیس مبلغ پانچ روپے سے لیکر ایک سو پچاس روپے تک۔ بھرگو سنگھتا کی کنڈلی کی فیس ۱۵ نشٹ جنم پتری کی اجرت ۵ برس پھل مفصل کی فیس تین روپے مختصر کی ۱ موک پرشن کی فیس دو روپے۔ مندی تیزی بازار کی فیس دو روپے

خط و کتابت کے واسطے جوابی کارڈ یا ٹکٹ ایک آنہ کا آنا ضروری ہے

گیتا بھون قصبہ تراوڑی (کورکشیتر) ضلع کرنال پنجاب

اصلی بلوری پتھر و گلاس کے چشمے

اصلی بلوری پتھر یعنی پیبل بلس و ہائنس ہر قسم و ہر سائز کے جس نمبر کا درکار ہو طلب کریں۔ مگر گلاس یا پیبل کا لفظ ضرور فرمائش میں درج کریں ورنہ احتمال غلطی ہے۔ نیز فریم طلائی۔ نقرئی مصالحہ دار۔ سپرنگدار ہر قسم موجود ہیں جس قسم کا درکار ہو طلب کریں۔

لینز اور فریم کو صاف کرنے کا پاؤڈر فی پیکٹ دو آنے ۲

ڈبل وٹ کلاتھ و چموئس لیدر فی ٹکڑا چار آنے ۴

فریم نکل ۱۲ سے لیکر پانچ روپے تک فی

فریم نقرئی چار روپے سے لیکر دس روپے تک فی

فریم رولڈ گولڈ ۵ سے لیکر بیس روپے تک فی

فریم گولڈ دس روپیہ سے لیکر چالیس روپے تک فی

چشمہ نقرئی و طلائی و رولڈ گولڈ و مصالحہ دار۔ پانچ روپے سے لیکر پچاس روپے تک فی

ڈارک یا سموکڈ دھوپ کی گرمی و آشوب چشم کیلئے ۱ سے لیکر ۲ تک

نیز لینز سنگل و ڈبل پیبل و کراؤن ۳ سے لیکر ۵ روپے تک

ملنے کا پتہ:۔ کورکشیتر میڈیکل سٹور قصبہ تراوڑی تحصیل و ضلع کرنال۔

کورکشیتر میڈیکل سٹور کی چند مجرّب و آزمودہ ادویات یعنی مرکبات

قائم شدہ ۱۹۰۲ء

ناظرین۔ چند مشہور و مجرب اور آزمودہ ادویات جو میدان کورکشیتر کی جڑی بوٹیوں سے تیار کی گئی ہیں برائے ملاحظہ درج ہیں ضرور طلب کر کے آزمایش و استعمال فرماویں مفصل فہرست کے لیے ایک آنہ کا ٹکٹ ارسال فرما کر طلب کریں۔

(۱) سُرمہ روشنگر چشم۔ دھند، جالا، پڑبال، ضعف بصارت، قریب نظری و بعید نظری میں مفید ہے ۔ فی تولہ عہ

(۲) سرمہ مفید چشم۔ امراض چشم میں جادو کا اثر رکھتا ہے۔ خواہ مرد و عورت بچہ بوڑھا کوئی استعمال کرے۔ ″ ۶ عہ

(۳) اکسیر اطفال۔ بچوں کی ہر قسم کی بیماریوں میں مفید ہے یعنی شکمی و جلدی کو رفع کر کے بچہ کو فربہ کرتا ہے فی شیشی ۱۲؍

(۴) گولی امساک۔ زیادہ پر اثر و ممسک و لذت دادر ہی لاثانی گولیاں ہیں قیمت ۲۵ گولی .... عہ

(۵) اکسیر جریان۔ مرد و عورت دونوں میں مفید ہے۔ ۳۰ خوراک .... مے

(۶) روغن بال بہار۔ جس کے لگانے سے بال عمدہ ملائم اور نفیس بلکہ سفیدی کو دور کر کے سیاہی پیدا کرتا ہے فی شیشی عہ

(۷) آملہ ہیر آئل ″ بشرح صدر ۱۲؍

(۸) روغن نکسیر۔ جو امراض نکسیر عشرہ۔ یعنی مالن جو ناک کی پھنسی ہوتی ہے جس سے نس کا مرض ہو جاتا ہے مفید ہے ″ ۱۲؍

(۹) اکسیر دمہ۔ جو پرانے سے پرانے دمہ کو رفع کرتا ہے۔ .... قیمت فی ڈبیہ عا

(۱۰) گولی بخار۔ بخار وبائی تو تپی۔ باری کا۔ چوتھیا۔ روز کا۔ ہر قسم میں مفید ہے قیمت فی شیشی ۲۴ گولی .... عہ

(۱۱) گولی کھانسی۔ جو کھانسی نئی و پرانی کے لئے بلکہ نزلہ زکام تک کے لئے مفید ہے۔ قیمت فی شیشی ۲۴ گولی۔ ۸؍

(۱۲) منجن دنداں۔ جو ہلتے دانت کو مضبوط اور مضبوط کو سفید اور دھن کی تمام شکایات کو رفع کر کے خوشبودار بناتا ہے فی ڈبیہ ۴؍

(۱۳) اکسیر داد۔ داد ہر قسم خشک و تر کو مانند بھوسی کے اڑا کر جلد کو نرم اور عمدہ بناتا ہے .... فی شیشی ۶؍

(۱۴) اکسیر خارش۔ خشک و تر کو رفع کر کے جلد کو نرم و صاف بناتا ہے .... ″ ۶؍

(۱۵) اکسیر کان۔ کان کے جملہ امراض میں مفید ہے۔ خواہ کان بہتا ہو یا گم ہو یا پھنسی ہو .... ″ ۸؍

(۱۶) ارجن بان چورن۔ بہت عمدہ لطیف خوشبودار اور خوش ذائقہ امراض شکم میں مفید .... ″ ۶؍

(۱۷) کرشن وٹی۔ جو ہمارے کارخانہ کا مشہور جلاب ہے۔ .... قیمت فی گولی ۱؍

ملنے کا پتہ:۔ کورکشیتر میڈیکل سٹور قصبہ تراوڑی تحصیل و ضلع کرنال۔

تار کا پتہ:۔ دھنونتری تراوڑی

دلچسپ سبق آموز قابل دید تواریخی و قومی ناٹک

بال بھگت پرہلاد (باتصویر)

یہ ڈرامہ پنجاب کے مشہور قوم پرست ڈرامہ نویس لالہ کشن چند زیبا مصنف زخمی پنجاب کی پر لطف تصنیف ہے۔ اس میں بال بھگت پرہلاد کے جیون کو ناٹک کے پیرایہ میں دکھلا کر ثابت کیا ہے کہ کس طرح ایک خونخوار حیوانی طاقت کے مقابلہ میں سچائی کی روحانی طاقت فتحیاب ہوتی ہے۔ اسمیں دکھلایا گیا ہے کہ کس طرح ایک بس پرادھین اور ننھے بالک نے صداقت کی عجیب و غریب طاقت سے جسمانی قوت کی خوفناک تلوار کا منہ موڑا کس طرح سچائی کے ہتھیار سے پاپی اور انیائی تیاہرناکشپ کی ناستکتا اور ابھمان کو توڑا! ایسا موثر اور دلچسپ ڈرامہ آپ نے پہلے شاید ہی پڑھا ہوگا۔ طرز تحریر اور بندش مضمون اس غضب کا ہے کہ دل پر جادو کا اثر ڈالتا ہے۔ نہایت خوبصورت بلاک کی چار تصاویر لگا کر کتاب کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیا ہے۔ لکھائی چھپائی بہت عمدہ۔

قیمت صرف بارہ آنے (۱۲) ہندی بارہ آنہ (۱۲)



راجپوت مہلا پدمنی

(از لالہ کشن چند زیبا)

اس ڈرامہ میں چتوڑ کی مہارانی پتی پرائن پدمنی کے پتی ورت دھرم کی مہانتا بڑے ہی دلچسپ پیرایہ میں بیان کیگئی ہے۔ یہ ناول کیا ڈرامہ مرد و عورت بچوں بزرگوں سب کے لئے تفریح طبع کے ساتھ ساتھ نصیحت کا بے بہا خزانہ ہے۔ مسلمان بادشاہ علاءالدین کی نفس پرستی اور ایک ہندو مہلا کے دھرم ڈرتا کی جیتی جاگتی تصویر دیکھنی ہو تو اس ناٹک کو ایکبار ضرور پڑھیئے تاریخی مطالعہ کے شائق راجپوتی دیرتا کے حیرت انگیز سین ملاحظہ فرمایئے۔ اس کے پڑھنے سے مردوں کے اندر جوش مردانگی ہمت وطن پرستی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں اور عورتوں کو یہ کتاب پتی ورت دھرم کی انمولیہ شکشا دیتی ہے۔ مہارانی پدمنی کا اُچیہ اور آدرش چرتر شوہر پرستی کی اعلیٰ مثال ان کے آگے پیش کرتا ہے۔ لکھائی چھپائی کاغذ عمدہ۔ قیمت صرف بارہ آنے (۱۲) ہندی بارہ آنے (۱۲)



ظلم ظالم یا شاہی لکڑہارا ناٹک

مشہور و معروف اخلاقی فسانہ بالکل نرالے ڈھنگ میں انسانی زندگی کے نشیب و فراز شوہر پرستی کی برکتیں ظالموں کے ظلم کا خوفناک انجام وغیرہ وغیرہ کے عبرتناک اور دلچسپ سین دیکھنا ہو تو اس ڈرامہ کا ضرور مطالعہ فرمایئے سرورق پر ایک رنگین تصویر دیگئی ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ قیمت صرف آٹھ آنہ (۸)

قومی تلوار

اس میں جنگ جرمنی سے لیکر اب تک کے واقعات کو اصلی روپ میں نہایت ہی دلکش و دلچسپ پیرایہ میں ظاہر کیا گیا ہے قومی رنگ میں رنگے ہوئے اور قومی جذبات میں ڈوبے ہوئے خیالات کو دلچسپ جوشیلی اور بھڑکیلی نظم و نثر میں پرو دیا گیا ہے کہ پڑھکر یقین ہو جاتا ہے اپنی بے کسی بے بسی اور انتہائی اگر دوٹ کا نسخہ سوائے اسمیں گی کی قومی تلوار کے اور کوئی نہیں۔ زیادہ تعریف بلا ضرورت ہوگی۔ اصلی قیمت (۱۲) مگر اب صرف دس آنہ (۱۰)

قومی فرشتہ

(از لالہ شگن چند روشن بی اے ایل ایل بی) اگر آپ مادر وطن کے سنگین زخموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایک غریب اور بیکس ملک کے حقوق کا خونی منظر دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ معصوم شہیدوں اور یتیم مظلوموں کی پھڑکتی ہوئی لاشوں پر رحم کے دو آنسو بہانا چاہتے ہیں تو فوراً ہی **قومی فرشتہ** کو منگا لیجئے اس ڈرامہ کا طرز تحریر اور زبان اسقدر موثر اور دلکش جگر سوز ہے کہ ایک ایک لفظ پر آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ قابل مصنف نے کمال کیا ہے۔ قیمت صرف نو آنہ (۹) بھارت ورشے۔ بخط ہندی قیمت صرف بارہ آنہ (۱۲)

وطن پرست

(از بابو آسا رام اخترؔ بی۔ اے)

ناظرین! اگر وطن پرستی کے وہ خوشنما نظارے جن کو دیکھکر مردہ دلوں میں بھی خوشی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے دیکھنے ہوں تو وطن پرست کو پڑھیئے قابل مصنف نے ہر سطر بلکہ ہر لفظ میں کچھ ایسا سوز بھر دیا ہے کہ خواہ مخواہ قومیت کا احساس پیدا ہوتا ہے تحریک اور سودیشی اور سوشل ریفارم پر اس سے اچھا ڈرامہ شاید ہی آپکی نظر سے گذرا ہوگا۔ قیمت صرف (۸)

ملنے کا پتہ۔ نیشنل بک ڈپو نمبر ۵ نئی سڑک۔ دہلی

کیا آپکو اپنی عورت سے محبت ہے؟

اگر ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اُسکی تندرستی و خوبصورتی کی حفاظت کریں۔ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ عورت کی خوبصورتی اور تندرستی کو خراب کرنے والی اکثر خون حیض کی خرابیاں ہیں۔ اسلئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ کو ماہواری ایام کی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی استری کو ان امراض کی تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے جو آئے دن عورتوں کو ستاتے رہتے ہیں مثل قبض آمد حیض۔ اعضائے شکنی اور درد کمر کا ہونا حیض کا درد اور بے قاعدگی کے ساتھ آنا۔ باؤ گولہ کی ناگفتہ بہ تکلیف نفخ معدہ اور درد سر کا رہنا وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دھرم پتی کو ضعف جگر، حبس اور بندش حیض کی تکلیف نہ ہو۔ ہاں ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیاری محبوبہ کا چہرہ امراض زنانہ کی تکالیف سے بے رونق و زرد نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کافی عرصہ تک خوبصورت و تندرست اولاد پیدا کریں اور آپ کی بیوی کی جوانی دیر تک برقرار رہے اور وہ ہمیشہ تندرست و خوبصورت بنی رہے تو

ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں

کہ آپ ایک بار اپنی عورت کو ناری رکھشک کا استعمال کرائیں۔ ناری رکھشک کے استعمال سے حیض و حمل کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ناری رکھشک کو بڑے بڑے حکیموں، ڈاکٹروں اور ویدوں نے جملہ امراض زناں کے لئے نہایت لاثانی دوا مانا ہے۔ ناری رکھشک رحم کے جملہ امراض کو دور کر کے قابل اولاد بنا دیتا ہے۔ ناری رکھشک امراض بانجھ پن کا دشمن ہے ناری رکھشک کی پہلی خوراک ہی اپنا فائدہ اور اثر دکھلاتی ہے۔ ناری رکھشک کی قیمت بلحاظ فوائد بہت کم رکھی ہے تاکہ ہر غریب امیر فائدہ اُٹھا سکے یعنی فی شیشی جو ایک ماہ کے لئے کافی ہے صرف ڈھائی روپے۔ محصولڈاک علاوہ ہوگا۔ جلد منگا لیجئے۔

پتر دایک وٹی

یہ ایک حیرت انگیز ایجاد ہے۔ جن لوگوں کے گھر صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں وہ حمل کے تیسرے مہینے کے شروع میں یہ گولی منگا کر صرف ایک دن استعمال کرائیں شرطیہ لڑکا پیدا ہوگا۔ قیمت صرف دس روپے۔

ملنے کا پتہ

کارخانہ چندر گپت اوشدھالیہ مقام ٹوہانہ

(ایس۔ پی ریلوے)

بچوں کو تندرست و طاقتور اور موٹا بنانیوالی لاثانی کتاب

بال رکھشک شربت

اگر آپ کا بچہ کمزور اور بیمار رہتا ہو اگر آپکے بچہ کو بدہضمی اور دستوں کی شکایت ہو اگر آپ کا بچہ دن بدن دبلا اور لاغر ہوتا جاتا ہو۔ اگر آپ اپنے بچہ کو خوبصورت طاقتور اور موٹا تازہ دیکھنے کے خواہشمند ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دانت نکلنے کی تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں تو اُسے

بال رکھشک شربت

کا استعمال کرائیں۔ اس شربت کے استعمال سے آپکے بچہ کا ہاضمہ درست ہو کر خوراک ٹھیک ہونے لگیگی اور بچہ دن بدن موٹا تازہ اور تندرست ہوتا جائیگا اگر آپ کا بچہ مرض سوکھا (مساان) کیوجہ سے ہر وقت کمزور و سست رہتا ہو تو ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ اس شربت کے استعمال سے ان امراض سے رہائی پا کر دن بدن خوبصورت تندرست و چست ہوتا جائیگا اگر آپکے بچہ کو نفخ شکم (پیٹ کا ابھرنا) درد شکم اور بدہضمی کی وجہ سے دورہ الٹنا قے اور اسہال وغیرہ کی شکایت رہتی ہو تو اسکو شربت بال رکھشک استعمال کریں۔ شربت بال رکھشک میں ان تمام امراض کے علاوہ ہچکی کثرت پیاس۔ کھانسی۔ کالی کھانسی۔ ڈوبہ اطفال (بچوں کو پسلی چلنے کا عارضہ) چھاتیوں ورم امراض سینہ کے دور کرنیکی تاثیر ہے شربت بال رکھشک منشی ادویات مضر صحت اجزاء سے بالکل صاف ہے شربت بال رکھشک کی شیشی ہر ایک گرہستی کے گھر میں رہنی چاہئیے جسکی قیمت صرف ۱۲؍ محصولڈاک ؍

سنتان اوتپادک رسائن

ہندوستان میں کثیر التعداد اشخاص ایسے ملیں گے جو دھن دولت وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی اصلی سکھ نہیں پا سکتے کیونکہ گھر کے چراغ سے محروم رہنے کے سبب ہر وقت فکر و تردد کا شکار بنے رہتے ہیں مستورات کا تو کہنا ہی کیا ہے بچاری اولاد کے لئے تعویذوں کی خاطر سنڈے مسٹنڈے اور غنڈے فقیروں اور پیروں کی بیجا خوشامد کرتے ہوئے اپنے دھرم اور ایمان کو بھی فروخت کر دیتی ہیں ان باتوں کو محسوس کر کے ہمکو خیال پیدا ہوا کہ کوئی ایسی دوا نکالی جاوے جو ایسے مایوس صاحبان کو شعاع امید کی جھلک دکھا دے۔ چنانچہ بہت کچھ دوڑ دھوپ اور فقیر سنیاسیوں کی خدمت اور زر خرچ کر کے ہمکو وہ نسخہ ملا ہے کہ باید و شاید اس نسخہ کو ہم نے کئی جگہ آزمایا بالکل درست ثابت ہوا۔ اسکے استعمال سے وہ عورتیں جو بالکل اولاد سے ناامید ہو چکی تھیں ثمر اولاد سے بارور ہو گئیں اس دوا کی موجودگی میں آپکو ٹھگنے اور بچے لفنگوں کے بھرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے آزمائش شرط ہے قیمت بہت کم یعنی صرف پانچ روپے علاوہ محصول ڈاک۔

ملنے کا پتہ

کارخانہ چندر گپت اوشدھالیہ مقام ٹوہانہ ایس پی ریلوے

تندرست ہو جاؤ - دولت کماؤ

دواخانہ شفاءالامراض - تجارہ - راجپوتانہ Tijara

۲۶ سال سے ہر مزاج کو موافق آنیوالی دوائیں اور ہر کسیکو نفع و ضرر آگاہ کرنیوالی کتابیں

الف - حافظ صحت - اس دوا کا حکما بادشاہوں کیلئے بنایا کرتے اور وہ ہمیشہ تندرستی سے زندگی بسر کرتے - اب بجائے پیالہ ایک چمچ کھائی جاتی - پچیس روپیہ ۵۰ خوراک -

۲ روغن اعجاز - خوشبودار - سر پر ملے - کانوں میں ڈالے - کمزوری خشکی - بیخوابی - دردسر کو صحت ہو - بال سیاہ و نرم اور جلد سفید نہوں ایک روپیہ

۹ ہوالاس - نزلہ - زوکام - کھانسی - بلغم - جاڑوں کی رطوبت - ناک کی سلبلاہٹ - آنکھوں کا پانی صاف ہوتا - اچھا دکھائی دیتا آٹھ آنہ

۱۱ بہار عیش - کو کین تن پیدا کرتی - زندہ درگور دکھاتی - یہ باہ کی قوت بڑھاتی عیش سوائی - روح میں تازگی - دماغ میں شگفتگی - دل میں امنگی بڑھاتی - پانچ روپیہ

۱۴ عرق روح افزا - کھانا خوب کھلاتا - دست صاف لاتا - پیبل چلو نکان نہیں ہوتا - دوڑ میں سب سے آگے نکل جاتا - سفید بال سیاہ کرتا تین روپیہ آٹھ آنہ

۱۶ سبق جلد یاد کراتی - حافظہ بڑھاتی امتحان پاس کراتی - دل دماغ میں قوت پہنچتی روزانہ کھائی جاتی

۲۹ نزلہ زوکام ہمیشہ بے آرام رکھے - جد ہر رجوع ہو اسی اعضا کو بیکار کرے - یہ دوا دماغی طاقت بڑھاتے - پھر یہ بیماری نہ ستاتے - دو روپیہ آٹھ آنہ

۳۱ گولی افیون مقطر - افیون چھوڑدو - اسے کھاؤ - دست صاف ہو - اپنے میں چستی و قوت مردمی دیکھو سو کا ایک روپیہ

۳۴ جالہ - پھولہ - دھند - غبار - موتیا بند - ڈھیلہ پر سفیدی تل کے اوپر کی گولائی صاف ہو - اچھا دکھائی دے - ایک روپیہ معہ سلائی خاص

۳۵ کم دکھائی دینے والوں کی نظر تیز ہوتی - آنکھوں کی روشنی بڑھتی - کھانے لگانے سونگھنے کی قیمت دو روپیہ

۴۱ کانوں سے کم سنائی دینے والے تنقیہ دماغ کی دوا کھائیں خشکی اور سدہ ہٹانے والی ڈالیں ضرور سننے لگیں - قیمت پانچ روپیہ ۵

۵۴ ملتے دانت جمتے - خون - پیپ مسوڑوں سے نہیں نکلتے - جیسا چمک ہو نہیں آرام دیکھئے قیمت ایک روپیہ

۶۲ شراب پینا چھوٹ جاتا کسی طرح کا درد دکھ دیکھنے میں نہیں آتا - معدہ اور پیٹھ قوت پاتا - ہاضمہ درست ہا بگڑ

۶۷ دمہ - سانس - پرانی کھانسی ضیق النفس ہے - دن میں صفائی بلغم وغیرہ ہوتی - پرانی تکلیف سے بھی نجات ملتی تین روپیہ

۶۸ دودھ زیادہ پیتا - دو بچے ہوں انکا پیٹ بھر جاتا - بچہ موٹا اور جسیم - عورت قوی ہو جاتا دو روپیہ

۷۸ نرم چھاتی اور ڈھیلی سخت ہو جاتی - وقت مساس مرد خواہش جلد بڑھاتی دو روپیہ آٹھ آنہ

۹۶ تلی پر پھاہ لگتا - نرم ہونے پر اسیقدر کاٹ دیا جاتا - گولی کھانے سے بھوک بڑھتی - چند دن میں سختی بالکل نہیں رہتی - دو روپیہ آٹھ آنہ

۹۹ ناف ٹلنے کی عورتوں کو زیادہ تر مردوں کو کمتر تکلیف ہوتی - کھانے - لگانے کی دوا سے ہمیشہ کو نجات ملتی دو روپیہ

۱۰۱ قبض کشا سفوف سے اجابت صاف ہوتی - بھوک لگتی - بدہضمی - بواسیر بادی و ریاحی پیچش - قراقر - ناک کے اوپر بوجھ - نفخ - اپھارہ - ڈکار وغیرہ نہیں آتی - دس تولہ ایک روپیہ

۱۰۳ اکسیر دوا سے چیونٹے مچھر ... اور بچھوں کے تن میں نکل جاتے ہمیشہ آرام سے رہتی - دو روپیہ

۱۰۴ بواسیر خونی و مسّوں کے رفعیہ کو کھاؤ نہ لگاؤ صرف ۳ دن لیجئے وں کے ۶ دن دہو لل پہونچانے سے خشک ہو کر مسّل کھال جسم ہو جاتے دو روپیہ آٹھ آنہ

۱۱۶ گولی پارہ منہ میں رکھو - امساک دیکھو - پہروں اڑے رہو - دودھ میں ملاؤ پیو - قوت مباشرت زیادہ مشاہدہ ہو - قیمت ایک روپیہ

۱۱۸ طلائے نادر - عضو مخصوصہ - دست مالیدہ - کجی گرفتہ - از کار رفتہ پژمردہ سست شدہ بالکل ناکارہ بھی شروع جوانی جیسا ولولہ شہوانی دیکھتا ۳ دن میں نیلی پیلی رطوبت نکالکر باکار بلکہ ہمبستری کے لئے بیقرار کر دیتا ہے - تین روپیہ

۱۱۹ قوت باہ کی ۱۲ دوا - ایک سے سیٹک بھر کر کھاتے - دوسری سردی پیدا ملتے تیسری تالی پیشاب میں رکھتے - جن میں تھوڑی کمزوری ہوتی - اسی رات عیش منواتی - زیادہ دن کی بعد چند روز خون میں دوران منی میں ہیجان دکھاتی - ہمیشہ کے لئے قوت مجامعت ولذت مباشرت دکھاتی قیمت دس روپیہ

۱۲۰ دس گولی ورق چاندی چڑھی - چار گھڑی پہلے ایک کھانے سے پہروں امساک سے طبیعت خوش رہتی - تندی و تیزی بڑھتی - ایک روپیہ

۱۲۱ ملذذ و منزل خود لگاتے - طرف ثانی کو کھلاتے - لذت سے فریقین مسرت حاصل کرتے ایک دوسرے کیطرف مائل رہتے دو روپیہ

۱۲۲ ممسک و طاقتور - صبح کھائیے - دن بھر دودھ پیجئے - تمام رات ہمبستری کیجئے کر دونہ اپنے تماشا پائیے - پانچ روپے

محبوب کو اپنا جیسا ساتھی بنانا ہو تو اسے بھی کھلائیے - دو خوراک دو روپیہ آٹھ آنہ

۱۲۳ روزانہ کھاؤ - ہر روز خوشی مناؤ - اس سے منی غلیظ ہوتی جو قوت مردمی کو ابھارتی رہتی - ۱۴ خوراک دو روپیہ آٹھ آنے

۱۲۴ رفعیہ جریان منی - دوا نمبر ایک پوڑیہ دست صاف لاتی - بھوک لگاتی - پتلی منی بو باس والی صاف ہو جاتی - جب تک صاف نہ ہو کیسی ہی اچھی غذا اور مفید دوا کھاؤ منی گاڑھی نہیں ہوتی - رقت منی - سرعت انزالی سے صحت نہیں ملتی - نمبر ۲ و ۳ سے اچھا خون بنتا - مادہ منی گاڑھا ہوتا - وقت قربت دیر تک نکلنے سے رکا رہتا - سوتے میں نہیں نکلتا - ہمبستری کو خوب جی چاہتا قیمت تین روپیہ آٹھ آنہ - خود کھاؤ - دوسروں کو بیچو - پچیس روپیہ سینکڑہ کمیشن لو - کیونکہ اس بیماری کی تھوڑی بہت ہر کسیکو شکایت ہے - دوا منگانے سے پہلے رات بھر کا پیشاب صبح سفید شیشی میں لیکر دیکھو اور اس کی جیسی شکل ہو ضرور لکھو -

نمبر ۱۲۴ کی دوائیں ہر ایک موسم میں کھائی جاتی ہیں لیکن یہ الف ۱۲۴ نمبر جاڑوں میں نمبر ایک ۱۲۴ کھا لینے کے بعد کھائی جائے تو زرد کمر - ورم پنڈلی - سستی اور سستی نزلہ - زوکام - کھانسی سے جلد آرام ہو جائے - تین روپیہ

۱۲۶ عضو مخصوص کی تمام خرابی - بلا کسی تکلیف رفع ہو جاتی - تیل نمبر ایک کی مالش اچھے خون کو ماتا رہتی - سکڑی تو ندی ۸ - ۹ - انگشت لمبی - جڑ پتلی موٹی نمبر طلا سے سختی و تندی بڑھ جاتی - اچھے خون اترے رگوں میں جذب ہوتی دو روپیہ آٹھ آنہ

طلائے جدید - مجلوقوں - مفلوجوں - جو بالکل سست ہوں اور ان کے عضو مخصوص میں ایسی سردی ہو کہ لحاف اوڑھنے پر بھی چھونے سے گرمی نہ معلوم ہوتی ہو گرمی اور تندی و سختی بڑھاتا - پس و پیش برابر کرتا - پژمردگی رفع کر کے برانگیختگی و انتشار بیحد دکھاتا - ڈنڈی موٹی - تکلیف دانہ و چھالہ زخم وغیرہ کچھ نہیں ہوتی ایک تولہ پانچ روپیہ

۱۲۸ سوزاک - ایک دوا سے زخم کی صفائی ہو جب تک مواد صاف نہو جلن و سوزش کو آرام نہ زخم کا اندمال ہو - جب کوئی گرم چیز کھائی جائے پھر اپنی تکلیف دکھائے دوسری نالی پیشاب میں رکھنے سے جلن - چبس چبک نہیں رہتی - تیسری سے زخم بھرتا - پرانا قرحہ بھی اچھا ہو جاتا دو روپیہ آٹھ آنے بعد میں ۱۲۴ نمبر کھانی ضروری کیونکہ اس کی گرمی سے منی اولاد پیدا ہونے کے قابل نہیں رہتی -

۱۳۰ آتشک کا مادہ فاسد صاف ہونے کو پہلے کھانیوالی دوا کھاؤ - لگانے کی لگاؤ آگ جیسی جلن میں فوراً ٹھنڈک ہو کر عمر بھر کو آرام ہو - چار روپیہ

۱۳۷ آنت دونوں فوطوں یا ایک میں پھانسی رگیں اترتی جو تہی دکھائی دیں کھانے لگانے کی دواؤں سے پھر نہیں اترتی - کمانی بھی نہیں لگانی پڑتی چار روپیہ آٹھ آنہ

۱۳۹ گنٹھیا جوڑ جوڑ کے درد سے چلنا پھرنا بھی دشوار ہو یا اور کسی اعضا میں درد ہو اس کو بھی یہ دوائیں جلد از جلد صحت دیتی - قیمت پانچ روپیہ -

۱۵۴ برص کھانے کی دوا سے سفید سفید داغ بہو لیجاتے دوسری لگانے سے چالیس دن میں تمام جسم کے ہمرنگ ہو جاتے ہیں - دس روپے

۱۸۱ خون حیض کھلکر نہ ہونے یا بالکل نہ آنے سے بہت سی بیماری پیدا ہوتی اور سخت تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں - بہت سی عورتوں کو یہ کل شکایتیں لاحق ہو جاتی ہیں - ہاضمہ میں خرابی - خون کی آنے میں کمی یا بالکل ہی آمد نہیں ہوتی - یا مہینے میں دو دو تین تین مرتبہ آجانا - پیڑو - رحم - ناف تلووں - کمر میں درد کسی کے کم اور کسی کے زیادہ خاصکر اسوقت جبکہ ایام ماہواری آنیکے دن ہونے ہوا کرتا - بجائے سرخ خون آنے کے سیاہ خون یا داغ دھبے یا گلابی رنگ جیسا دکھائی دیتا - کسی کی شرمگاہ سے رطوبت سفید گاڑھی گاڑھی آیا کرتی - بھوک نہیں لگتی - پیٹ میں جلن رہتی - گرمی بہت معلوم ہوتی - زیادہ دن خون نہ آنے سے ورم رحم - اختناق رحم زہر جیسے بیہوشی ہوتی وغیرہ تمام اعضاؤں میں درد یا اور کسی حصہ جسم میں درد ہوتا - ناف ٹلوں پر سیاہی - جسم کے اوپر یا اندر - پھوڑے پھنسی - تن بدن پر سیاہی - منہ بے رونقی - قبض کی زیادتی - یا کمی ضرور ہوتی - کسیکو کھانسی - دمہ - استسقا - پیٹ بھی بڑھ جاتا - بخار آنے لگتا - چونکہ یہ بیماری مثل مردوں کی سرعت انزالی نمبر ۱۲۴ کے عورتوں کو بھی عام طور سے کسیکو کم کسیکو زیادہ ضرور ہوتی ہے - اسلئے خون باسانی آنے - تمام تکلیفیں مرقومہ بھی ہوں تو ان کے رفع ہونیکو - معدہ وغیرہ کی صفائی کے لئے ماہواری ایام آنے سے کچھ دن پہلے کھائی ہوتی ہیں اور جب وہ تاریخ آمد خون قریب آجاتی ہو تو بتی شرمگاہ میں رکھی جاتی ہیں اور پلانیوالی کھائی پڑتی ہیں - بعض کے بجمے ہوئے خون کے لوتھڑے اور چھوٹی چھوٹی بو ٹی گوشت کی - اور کسی کے چیچھڑے اور کالے کالے تکے نکلتے - پھر خون صاف سرخ رنگ آنے لگ جاتا ہے - حالات پورے لکھیئے اگر ضرورت ہوئی تو معدہ صاف ہونیکی دوائیں بھی بھیجدی جائیںگی ورنہ

صرف رکھنے اور کھانے کی روانہ گرد بجائیں گی۔ خون حیض جاری ہونے پر بعد غسل ہمبستر ہونے سے بفضل رب غفور بالغفور حمل قرار پاتا اور نویں مہینے بچہ درازی عمر پیدا ہوتا۔ پانچ روپیہ ۵ر

۱۸۶ فراخی وڈھیلی شرمگاہ تنگ ہوتی۔ بوڑھی بھی جوانی دیکھتی۔ خواہش جنابی۔ دو روپیہ۔

۱۸۸ اسیلان رحمی۔ رطوبت اندام نہانی۔ شرمگاہ کی سفیدی۔ عورتوں کو نحیف وضعیف کردیتی استقراری حمل نہیں ہوتی۔ اگر ہو تو منی بہل جاتی۔ لذت جماعی سے ایکدم سرد بچہ خواہش نہیں ہوتی۔ پوٹلی اندر رکھی رہتی ناقص، مادہ کی صفائی ہو جاتی۔ کھانے والی رطوبت بند کرتی بسیلانی کی تمام تکالیف سے راحت ملتی۔ پھر سے کواری شکل خوبصورت نظر آتی قیمت تین روپیہ دس آنے

۱۸۹ جس کے بچہ پیدا نہو۔ حمل ٹھہراتی۔ بچہ پیدا کراتی۔ دوا نمبر ایک حیض سے نہا کر کھائیے دوسری شرمگاہ میں لگائیے تیسری وقت قربت مرد عورت کھائیں۔ اول شب کی ہمبستری سے لڑکے کا حمل قرار پائے دوسری رات کیجائے تو لڑکی اسی طرح سات دن تک ہم صحبتی ہونے سے لڑکا لڑکی کا نطفہ ٹھہرتا۔ نویں مہینے درازی عمر بچہ شرطیہ دنیا میں آتا۔ ماں باپ کا دل خوش ہوتا۔ سات روپیہ (معہ)

۱۹۰ حمل گرجاتا یا بچہ پیدا ہو کر مرجاتا۔ اس علاج سے اسقاط نہیں ہوتا۔ دوا کھانے سے بچہ رحم میں رکا رہتا پیدا ہوجانیکے بعد تین کرتے تعویذ لکھے یہاں سے بھیجے جاتے ہیں چھٹی چلہ میں پہننے سے زندہ رہتا۔ درازی عمر کو پہونچتا۔ پیٹ میں ضائع ہونیوالے حفاظت سے رہنے کو تعویذ گلے میں لٹکانے کو روانہ ہوتا ہے۔ سات روپیہ عہ ر

۱۹۶ زچہ آسانی سے بچہ جنتی۔ آنول نال بھی جلد نکالدیتی۔ دائی جنائی کی بھی حاجت نہیں ہوتی۔ دوا کھائیے تعویذ باندھے ایک روپیہ (عہ ر)

۱۹۷ نفاس کا خون بند ہونیسے زچہ بخار کی تکلیف پاتی۔ حرارت ہر وقت رہتی۔ علاج نہو تو دق وسل سے راہی بقا ہوتی۔ کچھ یا گانٹھ خون نفاس بند ہونے سے ناف تلول پر دکھائی دیتی بغیر تحلیل ہوئے صحت نہیں پاتی دوائیں فی الفور ادرار کرتی خون جما ہو خارج کرتی ہیں۔ قیمت پانچ روپیہ ۵ر

۲۰۰ ام الصبیان کو مسان۔ جن بھوت کا اثر بھی کہتے ہیں۔ در اصل یہ دماغی بیماری ہے جو بچوں کو ماؤں کی بے احتیاطی سے پیدا ہوتی ہے۔ سانس جلد جلد آتا۔ سانپ جیسے بل بھرتا۔ دماغی پردوں میں معدہ سے اٹھتے ہوئے ابخرے بند ہوتے جو بچہ کو بیہوش کردیتے۔ حکما کی ان دواؤں اور فقرائی علاج سے جلد اچھا ہو جاتا۔ پانچ سال تک ایسے بچہ کا نگراں حال رہنا پڑتا۔ پانچ روپے ۵ر

۲۰۱ سوکھیا مسان۔ شوکردنی۔ سوکھے کی بیماری بچوں کو بمنزلہ تپ دق ہوتی۔ روز بروز بچہ کو لاغر کردیتی۔ گولی کھانے۔ جسم پر پڑا ہوا مکھن ملنے سے بچہ موٹا تازہ ہوتا دوبارہ زندگی پاتا۔ قیمت پانچ روپیہ (۵ر)

۲۰۲ بچہ کی پسلی چلنے۔ گڈھا نیچے پڑنے۔ پیٹ لہکنے۔ سانس جلد جلد لینے کو آرام ہو جاتا چار روپے (للعہ ر)

۲۰۶ سقنقور ماہی میں ہے جو اثر + فلک سیر معجون ہے یہ شستنہ۔ کھانیسے دل خوش۔ فکر غم دور۔ رقت و سرعت کافور۔ انزال جلد ہونیکو پامال کرتی۔ دو روپیہ

۲۲۰۔ دو تاجداروں کا مجرب نسخہ فوائد جسمی میں اعجاز مسیحا۔ زود اثری میں معجزہ نما المشہور جوارش سقنقور والمعروف معجون مرصع۔ گوشت کھانیوالے ہندو مسلمان او عیسائی و سکھ صاحبان کیلئے تیار کیا ہے جو کہ بکرا بکری مرغا مرغی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں۔ شاہان اسلام میں صرف دو بادشاہ عالیجاہ دنیوی عیش و عشرت اور لذت مباشرت کے شائق تھے ایک محمد شاہ رنگیلے۔ دوسرے واجد علی شاہ ان کی خواہش پر دہلی کے نامور اطبا اور لکھنؤ کے گرامی قدر حکما نے اسی نسخہ کو تمام نسخے مقوی و مبہی پر ترجیح دیکر بنوایا۔ دونوں شاہوں کے تناول فرمانے پر مزاج میں حرارت کی افزائش اور خون کی پیدائش زیادہ ہوئی اور منی کی تولید اسقدر بڑھی کہ محلات کی صدہا بیگمات سے لذت خلوت حاصل کیجاتی تھی اور ولولہ شہوانی کی امنگ سے دن رات راگ ورنگ میں بسر ہوتی تھی۔ بعد ازاں جن رئیسان جہاں نے اپنے لئے بنوائی حکیموں نے اسکی مقدار خوراک بھی گھٹائی تاکہ زیادتی قوت شہوانی موجب بدنامی نہو یہی خیال رکھ کر ۴۰۔ ۴۵ سال سے جاڑوں کے شروع میں بنائی جاتی ہے۔ پانچ تولہ کے سات روپیہ دس تولہ کے تیرہ روپیہ۔ اس کے اور فوائد ملاحظہ فرمانے ہوں تو کتاب تحفہ جہان کا حصہ اول بزم عشرت طلب فرمائیے جسمیں نسخے اور تجربے حکما کا مفصل اندراج ہے +

۲۲۱ جواہر مہرہ یونانیوں کا مایہ ناز نسخہ۔ آجتک مغربی حاذقین نے نہ معلوم کیوں اس کا تجربہ نہ کیا اور کیوں جواہرات کہلانے کے قابل نہیں حالانکہ پاس رکھنے اور انگشتری میں پہننے سے بھی بہت فائدے ظاہر ہوتے ہیں۔ قریب المرگ بیماروں کو کہلاتے ہیں •

انکو کچھ دیر بات چیت کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے خدا کو اور عمر بڑھانی منظور ہوتی ہے تو دل کی حرارت غریزی بڑھتی اور عرصہ دراز تک زندہ رکھتی ہے تندرستی کی حالت میں کھاتے رہتے ہیں تو ہر ایک اعضا میں قوت دیکھتے اور اپنی صحت قائم رکھتے ہیں۔ ایک تولہ کی قیمت تیس روپیہ خوراک ۱۔ ۲ چاول

۲۰۹ سونے کا کشتہ۔ بڑھاپے کے تمام قوائے جسمانی و اعضائے شہوانی کی کمزوری میں طاقت و توانائی پیدا کرتا۔ مادہ بلغمی۔ سردی و بادی۔ نزلہ و زکام کھانسی و دمہ درد ہر ایک اعضا کو جلد آرام ہوتا حرارت غریزی کہ جس پر مدار زندگی اور اسی کی قوت قائم رہنے سے عمر طویل ہوتی اسکو بڑھاتا بلکہ آب حیات فَاِنَّہٗ مِنْ اَسْرَارِ الْخَفِیَّات کا اثر دکھاتا۔ ۴۰ سال کے بعد دوسری شادی کرنے والے خصوصیت سے خاتون ذی عفت کیساتھ خوب دل بہلاتے۔ وہ جوان جو جوانی میں کثرت مجامعت اور کسی خراب عادت سے اپنے مزاج کے اندر سردی غالب کرلیتے مقوی و مبہی ادویہ کے طالب رہتے ان کو یہ کشتہ طلا جوان رعنا بناتا۔ دل ان کا ہمیشہ محبوبہ کی طرف مائل رہتا مستورات میں وہ مستور رشک حور جو زیادہ بچوں کی پیدائش سے جوانی ہی میں تھک جاتی وہ پھر سے جوانی کی خوبیاں اپنے میں پاتی۔ ایک تولہ اسی روپیہ چھ ماشہ بیالیس روپیہ ۳ ماشہ بائیس روپیہ۔

۲۱۰ کشتہ چاندی۔ اعلیٰ درجہ کا مقوی۔ جریان مردان سیلان زنان جول لی خفقان کھانسی بلغمی تولید و تغلیظ منی۔ رافع مذی و ودی۔ پرانا و نیا سوزاک۔ زخم و قرحہ نالی پیشاب و مثانہ بھر آتا۔ جگر اور معدہ کو قوت دیتا۔ دست زیادہ آئے کو روکتا ایک تولہ پندرہ روپیہ۔ ۶ ماشہ آٹھ روپے

۲۱۷ گولی افیون چھڑانی۔ اول ہی دن کھانے کو طبیعت نہیں چاہتی جیسی وپھر تی بڑھاتی۔ دست صاف لاتی۔ اعضا شکنی نہیں ہوتی دو روپیہ۔

نوٹ اور نمبر کی ادویات و یا مفصل حالات کتب وغیرہ معلوم کرتے ہوں بڑی فہرست طلب فرمائیے +

کتب موجودہ و تیار کردہ مالک دواخانہ شفاء الامراض تجارہ

(۱) تحفہ جہاں حصہ اول بزم عشرت دو روپیہ
(۲) گلدستہ فرحت المعروف افسانہ حکمت آٹھ آنہ
(۳) علاج النساء المعروف عمل عباسی ایک روپیہ
(۴) نصاب الطبیب یعنی طبی خالق باری دو آنہ
(۵) تفارق الامراض و تفارق الادویہ۔ چار آنہ
(۶) مونس الاطبا دو آنہ
(۷) مجربات بو علی سینا ڈیڑھ روپیہ
(۸) مفاتیح الغیب دل کا حال بتانیوالی ۶ر
(۹) نصیحت المسلمین۔ ایک آنہ
(۱۰) تسخیر خلائق ترجمہ عقد المحبت چار آنہ
(۱۱) الحب معروف من موہنی ایک روپیہ آٹھ آنہ
(۱۲) کاشف الاسرار چار آنہ
(۱۳) حرز مرتضوی یعنی دعائے سیفی۔ پانچ آنہ
(۱۴) گلزار رسالت المعروف گلدستہ شہادت پانچ آنہ
(۱۵) بہار بیخزاں یعنی مولود حبیب رحمٰن آٹھ آنہ
(۱۶) فرشتہ رحمت و انجام محبت۔ دو آنہ
(۱۷) سوانح عمری کلیری چار آنہ
(۱۸) شان صابر۔ دو آنہ
(۱۹) سورۂ یٰس مترجم و با تفسیر مع موکل و بلا موکل و صد ہا خاصیت ۶ر
(۲۰) رسالہ مسیحائے زماں ماہ بماہ شائع ہوتا ہے۔ قیمت دو روپیہ سالانہ

نوٹ

اپنا نام نامی اور پتہ گرامی صاف لکھیے تاکہ جلد پڑھ لیا جائے۔

مشتہران اشیائے نادرات

آپ اپنی چیزوں کا اشتہار اس میں لکھائیں انشاء اللہ نفع کثیر اٹھائیں۔ کیونکہ رسالہ مسیحائے زمان تجارہ راجپوتانہ کا سب سے پہلا رسالہ ہے جو ہزار کی تعداد میں چھپ رہا ہے۔ راجپوتانہ کے رؤسا عظام و حکامان ذوی الاحترام اور شائقین عوام کو خصوصیت سے پیش ہوتا ہے۔ انگریزی شہروں اور قصبوں کے معززوں اور گورنمنٹ انگریزی و دیسی کی فوجوں اور ممالک غیر میں بھی ۳ سال سے جا رہا ہے + نرخنامہ ملاحظہ فرمائیے اور دل سے چھپائی ہی کم لیجاتی ہے۔

نتہ عہ	ﷲ ر	للعہ ر	صہ ر	فی سطر عہ سالانہ
لعہ ر	لعہ ر	صہ ر	سے ر	۱۴ر ۶ ماہ
لعہ ر	صہ ر	سے ر	۶ر	۸ر ۳ ماہ
۵ہ ر	سے ر	۶ر	عہ ر	۳ر ایک ماہ

آپ جو کچھ منگائیے یہ پتہ تحریر فرمائیے:- ایچ - کے - ایچ - تجارہ راجپوتانہ Tijara. A.S. 6. R.

آیورویدک شاستر کا ایک نایاب تحفہ

چنتامنی رس

دنیا بھر کے مرضوں کی ایک ہی دوا

(ہر گھر میں اس کی ایک شیشی رہنا ضروری ہے)

چنتامنی اسم بامسمیٰ رس ہے جیسا اس کا سوگشم اور پیارا نام ہے ویسے ہی اسکے فوائد بھی ہیں جیسے نردھن کو دھن کی چنتا میں اچانک روپیہ پراپت ہونے پر خوشی حاصل ہوتی ہے ویسے ہی زندگی کے مایوس کو رس چنتامنی کے استعمال سے خوشی حاصل ہوتی ہے چنتامنی وہ ثبوت پیش کرتی ہے کہ روتا آوے ہنستا جاوے بہت سے بیمار تو وقت پر لائق طبیب کے نہ ملنے یا طبیب کا خرچ برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں یا ایذا پاتے ہیں اور بہت بیچارے ایسی جگہوں میں رہتے ہیں جہاں لائق طبیب کیا نیم حکیم بھی نہیں ملتے ایسے خطرناک موقع پر رس چنتامنی (رفیق بیمار) کا اپنے پاس ہونا نہایت ضروری اور لازمی ہے رس چنتامنی سے تمام امراض جسمانی اندرونی و بیرونی رفع ہوتے ہیں۔ بیرونی امراض مالش سے اور اندرونی امراض پانی۔ عرق۔ یا سفوف وغیرہ کے ساتھ ملا کر کھانے پینے یا ناک کان وغیرہ میں ڈالنے سے مرض دفع ہوتا ہے۔ اس رس کو اگر کسی مناسب بدرقہ کے ساتھ استعمال کرایا جائے تو بلاشک سو فیصدی بیمار اچھے ہو سکتے ہیں۔ طریق استعمال چنتامنی کتاب ہذا میں جو کہ شیشی کے ہمراہ ملتی ہے درج کئے گئے ہیں۔ اس رس چنتامنی کی قیمت بھی بہت کم رکھی گئی ہے تاکہ ہر ایک امیر و غریب باآسانی خرید سکے۔ قیمت بڑی شیشی ایک روپیہ عہ۔ چھوٹی ۸ر علاوہ محصولڈاک چنتامنی کی شیشی جسقدر ضرورت ہو چنتامنی ہوس دہلی سے طلب کریں + (ضروری نوٹ) اگر کوئی شخص ایجنسی لینا چاہے تو منیجر چنتامنی سے بذریعہ خط و کتابت طے ہو سکتا ہے۔

منیجر چنتامنی ہوس دہلی

قومی دنیا میں ہل چل مچا دینے والی

بالکل نئی تصنیف

شہید قوم عرف بیراگی بیر (بطرز ناٹک)

(مصنفہ مہاشہ شام بجنوری)

دلوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کرنے والی سنگھٹن کا اونچا آورش درشانے والی شہادت کی اعلیٰ مثال پیش کرنیوالی۔ راجپوتی شان کا اچھوتا نمونہ دکھانے والی مردہ دلوں کو ویر رس سے بھرنے والی کونسی کتاب ہے؟ یہی

شہید قوم عرف بیراگی بیر

جس کی اشاعت کا بڑھانا ہر ایک ہندو ماتر کا دھارمک اور اخلاقی فرض ہے آپ بھی خریدیئے اور اپنے دوستوں کو بھی ترغیب دیجئے۔

اگر

آپ کی طبیعت ناٹکوں سے اکتا گئی ہے تو اپنے اس علمی شوق کو پھر تازہ کرنیکے لئے ایک بار شہید قوم عرف بیراگی بیر کو پڑھیئے۔

ہمارا دعویٰ ہے

کہ ایکمرتبہ شروع کرنیکے بعد آپ اس کو بلا ختم کئے نہیں چھوڑ سکتے۔ لکھائی دیدہ زیب چھپائی نہایت خوشنما۔ باوجود ان اوصاف کے قیمت صرف ۸ر محصولڈاک علاوہ

نئے فیشن کی عجیب و غریب

شاندار گھڑیاں



ان گھڑیوں کی خوبصورتی میں کاریگر نے کمال کر دیا ہے ہم تحریر کے ذریعہ انکی خوبصورتی نہیں دکھا سکتے جو دیکھنے پر منحصر ہے جیسی یہ گھڑیاں خوبصورت ہیں ویسی ہی پائدار بھی ہیں انکے ڈائل نہایت چمکدار سنہری اور فینسی بنے ہوئے ہیں دیکھنے میں سو روپے کی گھڑیوں کو مات کرتی ہیں منگا کر دیکھیں خوش ہو جاویگا قیمت فی گھڑی معہ تسمہ چرمی ۴ ؎ جس فیشن کی پسند ہو اس کا نمبر تحریر کریں۔

ملنے کا پتہ

گپتا اینڈ کمپنی نئی سڑک دہلی

بھارت ماتا مکمل رجسٹرڈ

مس میو کی مشہور کتاب مدر انڈیا کے جتنے ترجمے ہوئے ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ سب سے زیادہ سلیس بامحاورہ اور مکمل ہے اصل کتاب سے ایک جملہ نہیں کم ہوا ہے۔ ترجمہ میں اصل کتاب کے انداز بیان کی بھی رعایت ہے۔ شروع کے مقدمہ میں مترجم نے بتایا ہے کہ یہ کتاب اس موقعہ پر کس نے لکھوائی اور ہندوؤں کے خلاف ہی کیوں لکھوائی گئی۔ سرورق پر ہندوستان کی حالت کا کارٹون۔ ساڑھے چار سو صفحے سے زیادہ ضخامت۔ دو حصوں میں۔ قیمت دو روپے آٹھ آنے (عہ)

ملنے کا پتہ نیشنل بک ڈپو نمبر ۵ نئی سڑک۔ دہلی

لاکھوں آدمی جانتے اور مانتے ہیں

جڑی بوٹی

کی جادو بھری دوائیں۔ جوگیوں اور فقیروں کے چھو منتر

بچوں کی پسلی کی دوا ۸ بچوں کی کھانسی کی دوا ۸ بچوں کے دانت نکلنے کی دوا ۸ تلی کی دوا بچوں بڑوں سب کے لئے ۱۲ تریاق امرت ۸ بینائی قائم رکھنے کیلئے ۸
داد خارش، دھنبل، کا مرہم، جالا، ناخونہ، پھلا دور کرنے کے لئے ۱۲ جسم کی ضعف، اعضا کی کل شکایتیں دور کرنے والی ۸ بواسیر بادی کی گولیاں آٹھ آنہ ۸
بواسیر خونی کی گولیاں ۸ جریان کی دوا ۸ سوزاک کی دوا ۸ نامردی کی دوا کھانے کی ۸ لگانے کی دوا ایک روپیہ آٹھ آنہ
مستورات کے جریان اور شکایتوں کی دوا دو روپیہ ۸ نوٹ اگر کسی دوا سے کا فائدہ نہ ہو تو دام واپس لیلو جب کسی مرض کے علاج سے عاجز
ہو گئے ہو تو حال لکھو اور فائدہ حاصل کرو۔ ار کے ٹکٹ بھیجکر ہر مرض کے علاج کی کتاب مفت منگا کر دیکھو

جے آنند کاریالیہ ایجنسی پیپل مہادیو نمبر ۱۳۷۶ دہلی

دلکش زندہ حسن راز و نیاز و تخلیہ کی تصویریں!

(۱) حسین نازنین مہ جبین صورتوں کے دلفریب فوٹو (۲) عشق و محبت کے راز و نیاز اور دل چسپ
کرشموں کے فوٹو (۳) نگاہ میں نہ آنیوالی حالتوں یا تخلیہ کے عجیب و غریب فوٹو
ہر ایک قسم کے ایک درجن فوٹو علیحدہ علیحدہ البم میں آراستہ۔ قیمت نمبر ا ۸
نمبر ۲ یا نمبر ۳ (ہے) اور تینوں نمبر صرف چھ روپیہ میں ملیں گے

پتہ کھرا فوٹو کمپنی دہلی

بیکاری سے نجات پانیکے لئے گارنٹی

پڑھے لکھے مگر بے روزگار لوگوں کو ہر جگہ تھوڑے وقت
تھوڑے خرچ البتہ توجہ کے ساتھ مطالعہ ذیل کی کتابیں یقیناً دھندے
سے لگادینگی

کھیتی باڑی ۸ درزی ۸ جادوگر ۸ ساگ ترکاری ۱۲ ککٹ ساز ۱۲
عطار ۸ باغیچہ و پھلواری ۱۲ فوٹو ماسٹر ۸ انگلش ماسٹر ۲ رسونیا و حلوائی ۸ فوٹو گرافر ۱۲ معمول ۸ بادرچی خانہ ۸
گھڑی و گھنٹہ ساز ۸ مفصل ۸ رنگ ساز ۸ دانت بنانیوالا ۸ موٹر کار ۸ صابون گر ۸ ہارمونیم ماسٹر ۱۰ وسیلہ روزگار ۸
انگریزی ۸ مدرس ۱۰ ذخیرہ روزگار ۸

ملنے کا پتہ منیجر کتب خانہ خاص و عام دہلی

شادی خانہ آبادی

کا انتظام ہر حیثیت کے ہندو۔ مسلم۔ عیسائی۔ مرد و عورت۔ لڑکا
لڑکی کو حسب پسند کرنے کے لئے جب ہندکار ہو، ا کا ٹکٹ بھیجکر
تفصیلی کیفیت اصول و ضابطہ منگا کر دیکھیں اور شامل ہوں اور
دھوکہ سے بچیں!

پتہ سکریٹری شادی خانہ آبادی سوسائٹی دہلی

ڈاک کے ردی ٹکٹ

انگریزی یا دیسی ریاستوں کے اور غیر ممالک کے ہم خرید و فروخت
کرتے ہیں۔ وتبادلہ کرتے ہیں جیسی ضرورت ہو لکھو۔
جواب تفصیل کے لئے پوسٹکارڈ یا ٹکٹ بھیجو!

منیجر کھرا آفس دہلی

ہر ایک خریدار کو لاثانی رسالہ رہبر زندگی معہ اعلیٰ فالنامہ اور مستقل لاثانی جنتری (کیلنڈر) و دیگر صدہا مفید معلومات کا ذخیرہ مفت ملے گا۔ علاوہ خریداران کے دیگر اصحاب کی طرف سے رسالہ ہذا کے لیے صرف کے ٹکٹ آنا لازمی ہیں

ایک اعتبار ہی کے باعث

امرت سر کی آہوجہ کمپنی پبلک کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے

اور باوجود حاسدوں کی طرف سے طرح طرح کے جال بچھائے جانے اور نت نئے آڈمبر رچنے کے اسکا کاروبار سورج کی مانند نصف النہار پر چمک رہا ہے۔

دیکھیے جناب نامان رام صاحب گھڑی ساز ضلع ہزارہ سے لکھتے ہیں۔ آپ کی مرسلہ گھڑی آئی طبیعت بہت خوش ہوئی۔ اب سامان ذیل ارسال فرما دیں **اور** رحمت اللہ صاحب پوسٹمین فیروزپور سے لکھتے ہیں کہ ایک ایک کر کے تین آٹھ روزہ گھڑیاں آپ سے منگوا چکا ہوں جو عمدہ کام دے رہی ہیں۔ لہذا اب ایک اور اسی کے ساتھ کی جلد ارسال فرما دیں۔ **جناب** بابو رام صاحب ضلع بلی بھیت سے تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے یہاں سے **سنہ ۱۹۲۰ء** میں ایک گھڑی منگوائی تھی جو اب تک بہت اچھا کام دے رہی ہے۔ اب پھر اور گھڑیاں منگوانے کا ارادہ ہے چنانچہ فہرست جدید ارسال فرما دیں۔ **شری** بی جوشی صاحب ساہتیہ کل بھوشن۔ ساہتیہ شاستری بیکانیر سے تحریر فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے تین روپے والی گھڑی منگوائی تھی۔ وہ خوب مضبوط اور ٹائم کی پابند ہے۔ یہاں تک کہ ایک بار ہمارے ہاتھ سے گر بھی پڑی تو بھی ابھی تک گھڑی ساز کو دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسکے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ امید کہ آپ اسی طرح بڑھیا مال بھیجکر پبلک کی تسلی کرتے رہیں گے۔ پوری فہرست جلد ہی بھیج دیا۔

ایک دو تین نہیں بلکہ سیکڑوں خریدار جنہوں نے ایک دفعہ مال منگوایا وہ ہمیشہ کے لیے نہ صرف خود ہی بلکہ انکے احباب بھی خریدار بن گئے۔

ہمارا اصول آجکل کے اپنے منہ میاں مٹھو بننے والے لمبے چوڑے اشتہاروں کی مانند طرح طرح کے لالچ اور سو پچاس یا دو دو چیز کوڑی کی بابائی پائی کی دیگر خریدار کو دھوکا دینا نہیں بلکہ رحم دامن پر ڈال بچیا ہے۔

یہ دیکھیے ہماری تین روپیہ ۳/ کی پاکٹ واچ معہ چین

جسکا چالان آتے دیر لگتی ہے مگر فروخت ہوتے دیر نہیں ہوتی۔ آج اگر یہی گھڑی کسی پاکھنڈی نقال کے پاس ہوتی تو وہ اسکا دام کم سے کم تین روپیہ نہیں بلکہ آٹھ دس روپیہ رکھتا اور اعلان کرتا کہ اسکے ساتھ سو ڈیڑھ سو یا دو سو انعامی اشیاء مفت ملیں گی۔ اس طرح روپے بارہ آنے کا مال تین روپیہ کی گھڑی کے ساتھ دیکر دو گنے تگنے دام وصول کرتا۔ چنانچہ اسقدر لمبے چوڑے انعامات کے لالچ میں مال خریدنا محض دھوکا کھانا ہے زیادہ لکھنا فضول۔ عقلمند را اشارہ کافی است۔ آپ ایک دفعہ کوئی بھی مال منگوا کر دیکھیں تسلی ہوگی۔ اگر مال پسند نہ ہوگا تو ہم واپس لیں گے

(اپنا نام اور پورا پتہ بہت صاف لکھیے)

چند چیدہ چیدہ گھڑیاں



ملنے کا پتہ۔ آہوجہ واچ کمپنی ہول سیل اینڈ ریٹیل واچ مرچنٹس (کٹرہ گھنیا) امرتسر

یہ ایسے نفیس زیورات ہیں جو دیکھنے میں سونے کے معلوم ہوتے ہیں اور عورتیں انکو پہن کر اپنے حسن کو دوبالا کرلیتی ہیں
چندن ہار
پانچ لڑی جڑاؤ چمپاکلی
نہایت خوبصورت اور آبدار امیٹیشن جواہرات کے
طوق
چھوٹے دار کڑے نایاب
جڑاؤ ٹوپ
ہنسلی
انگوٹھی سنہری
تعویذ
موہن مالا
سنہری زنجیر
کڑے
جھانجھ
ملنے کا پتہ - گوکل چند آہوجہ اینڈ سنز کے ڈی ۳۰ کٹڑہ گھنیاں امرت سر

وزیر ہند پریس امرتسر میں چھپا

علمی مذاق کی بے نظیر کتابیں جن کی ولایت تک تعریف چھپی ہے

ان کو منگا کر تھوڑے خرچ میں پورا کتب خانہ بنالو۔ تھوڑی محنت سے تمام علوم و فنون سیکھ لو۔ ہزاروں روپیہ پیدا کرلو۔ استاد کامل بن جاؤ

کرامات

جادو منتر جنتر وغیرہ جن کو آجکل لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں ان کو سائنس کیموافق ثابت کر کے دکھایا ہے اور ترکیب پوری لکھی ہے بالکل سچی ہے جو چاہے کر سکے دیکھ لے جنکا کرنیوالے اسوقت موجود ہیں اسمیں اتنے مضامین و باب ہیں:-

باب (۱) علم اشراق۔ سب کراماتوں کی جڑ یوگ ابھیاس پرانایام کے اصول جسم انسانی میں کراماتی مرکز ہیں باب (۲) علم کیمیا۔ قوت خیالی کے کرشمے دوسروں پر اثر ڈالنا۔ فاصلہ پر خبر پہنچانا۔ بازیگروں کی نظر بندی۔ باب (۳) روشن ضمیری۔ گذشتہ واقعات۔ دور کی چیزیں اور چھپی چیزوں کو دیکھنا۔ کراماتی انگوٹھی۔ جام جہاں نما۔ باب (۴) تسخیر ارواح۔ روحوں سے کام لینا۔ حاضرات کرنا۔ جادو کی تختی۔ حاضرات کی میز۔ بھوتوں کی دھونی وغیرہ سے ہی آرام ہوتا ہے۔

باب (۵) سحر سامری۔ اشیا کی مخفی خاصیتیں۔ خزانہ تلاش کرنا۔ ادویات کا قیافہ۔ تنتر ودیا۔ جادو کے راز۔ باب (۶) علاج روحانی۔ بصرف ہاتھ پھیر کر یا پھونک مار کر چنگا کرنا۔ فاصلہ پر مریض کا اس کا علاج کرنا وغیرہ۔ باب (۷) مسمریزم کے قواعد اور عملی جانوروں کا قابو میں کرنا۔ انسان کو نظر سے بیہوش کرنا۔ تابع کرنا۔ کتا۔ بلی بنانا۔ باب (۸) عملیات تسخیر ہمزاد۔ دست غیب۔ اسم اعظم۔ بسی کرن۔ سانپ بچھو کا زہر اتارنا۔ بخار۔ پھوڑا وغیرہ کا آزمودہ منتر وغیرہ۔ قیمت (عہ ۱)

ہر فن مولا

گھر بیٹھے ہر قسم کے ہنر سکھانیوالی سب سے اچھی و مکمل کتاب۔ اسمیں ہر ایک ترکیب صحیح و مکمل لکھی ہے نقشہ سے سمجھائی ہے بلا استاد کے معمولی آدمی سمجھ سکے دوسری اشتہاری کتابوں کے موافق اس کو نہ سمجھو اسمیں اتنے مضمون ہیں۔ انگریزی ہنر۔ تار برقی۔ گھڑیسازی۔ فوٹوگرافی۔ صابون وغیرہ دیسی دستکاریاں۔ کافور کی مالا۔ پارہ کا کٹورہ۔ موم کے پھول۔ کھانڈ کے کھلونے بنانا۔ کاریگر عطائی جلوائی۔ رنگریز۔ چھاپہ۔ جلد سازی۔ آئینہ کا کام وغیرہ۔ سوئی کا کام۔ گوٹہ۔ پیک۔ چکن۔ گلوبند۔ بنیان۔ موزہ۔ وغیرہ بنا سکھایا ہے۔ لڑکیوں کو قصیدہ سکھلاؤ۔ خود تار تاؤ۔ فوٹوگرافر گھڑیساز بنجاؤ۔ صابون کا کارخانہ کھول لو قیمت عہ سونے کی چڑیا۔ امرت دھارا۔ نمک سلیمانی۔ خضاب۔ پان کا مصالحہ۔ کراماتی شیشہ وغیرہ بنانے کے سچے نسخے۔ ایسے ایک سو ایک کام۔ قیمت آٹھ آنے ۸/

قدیم ہندوستان

عجیب تواریخی تحقیقات قدیم یونان مصر ایران وغیرہ میں ہندوؤں کی عملداری تھی۔ امریکہ ہندوؤں کو لاکھوں برس سے معلوم تھا۔ ہندو ہر علم کے استاد تھے۔ خوبی میں بھی شہرہ آفاق تھے۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ (عہ ۱)

خلوت طبیب

نامردی۔ جریان۔ سوزاک۔ آتشک۔ بواسیر۔ گنٹھیا وغیرہ کا علاج بقاعدہ یونانی ویدک۔ ڈاکٹری۔ ہومیوپیتھی۔ عطائی فقیری۔ ہر مرض کیواسطے سب سے بہتر حکمی ادویات جو آجتک معلوم ہوئی ہیں۔ کشتے بوٹیاں۔ پھل وغیرہ معہ پرہیز و تشریح۔ مقام مرض و نقصا و ہر اپنا علاج خود کرلو۔ ڈاکٹر کو دکھانے و فیس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ (عہ ۱)

جڑی بوٹی

جنگل کی روکھیڑیاں۔ جو گھستہ پھونکنے یا ادویات میں کام آتی ہیں سب کا بیان معہ نقصان و فوائد شناخت پتہ و پھول بلندی ذائقہ موسم۔ جائے پیدائش خواص۔ فوائد ہر ایک مرض کا علاج اور ہر ایک کشتوں کا پھونکنا بوٹی سے بتایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ عہ ۱

علاج مفتی

ہر قسم کی بیماریوں کیلئے ایسی ادویات جن پر کوڑی خرچ نہو اور ہر جگہ مل سکیں درختوں کی چھال پھل پھول جنگل کی بوٹیاں۔ تیل نمک وغیرہ سے ہی سخت امراض کا حکمی علاج ایک ہزار سے زیادہ فقیری مجرب نسخے۔ قیمت (عہ ۱)

زچہ بچہ

عورتوں کی تمام خصوص بیماریوں کا علاج بقاعدہ یونانی و ویدک صد ہا مجرب نسخے۔ دائیوں کے۔ لیڈی ڈاکٹروں کے تجربات۔ حیض و حمل کی خرابیاں دور کرنا۔ بچوں کا علاج عجیب ٹوٹکے۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ عہ ۱

دنیا کی سیر

چین۔ جاپان۔ روم۔ روس۔ ایران مصر۔ امریکہ وغیرہ تمام ملکوں کے حالات معہ تصاویر صد ہا سیاحوں کے سفرناموں کا انتخاب۔ عجیب دلچسپ رسومات۔ رواج قانون ہر ملک کے جن کو پڑھکر ہنسی آوے۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ عہ ۱

ملک عدم

مرنیکے بعد کیا ہوتا ہے۔ فرشتے کیسے ہوتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ چاند سورج میں آبادی۔ خدا کے گھر کا پتہ تقدیر اور تدبیر کا فیصلہ ہر بات کا ثبوت سائنس کے مطابق قیمت (عہ ۱)

خزانہ کیمیا

ہفت احباب کا خلاصہ گورکھناتھ گھبیان پارے کے سنسکار۔ کیمیا گروں کے تجربات مہاتماؤں کے عطیات۔ قلمی بیاضوں کے لوٹ۔ جنتروں کی تصاویر۔ کیمیا کی تصدیق کے دلائل۔ دھاتوں کی ماہیت۔ قیمت (عہ ۱)

جوہر غیب

قیافہ۔ سامدرک۔ علم کا سر ستر دید۔ تعبیر خواب۔ موسمی پیشینگوئی اتنے علوم کے فوائد مفصل اس میں نقشہ دیکر سمجھایا ہے اور دلائل سے ثابت کئے ہیں بلا استاد کے سمجھ لو اور مخفی حالات بتلاؤ۔ ہر ایک کارآمد باتیں ہیں۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ (عہ ۱)

صلاح قانونی

قانون معاہدہ۔ ہرجہ۔ شرح دو ہرم شاستر وغیرہ کے اصول۔ ہر قسم کے مقدمات کے متعلق سب کارروائیاں۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ (عہ ۱)

عقل کل

دوا فنی عقل کوٹ کر بھر دی ہے حکمت قانون۔ تواریخ وغیرہ سارے علوم و فنون کا بیان ہے۔ قیمت (عہ ۱)

قیمت میں رعایت کے لئے لکھنا فضول ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اشتہار کے موافق نہ ہو تو فوراً واپس کردو۔

ان سب کتابوں کے ملنے کا پتہ:- ودّیا ساگر ڈپو کارخانہ نمبر ۸ مقام علیگڈھ (اپنا پتہ صاف مفصل لکھو)

(ایجنٹ برائے پنجاب) مسرز جے۔ ایس۔ سنت سنگھ اینڈ سنز بک سیلرز چوک متی لاہور

جنتری ملنے کے پتے

دیوی دیال
الکٹرک پرنٹنگ ورکس
اجمیری دروازہ دہلی میں اُردو ہندی
انگریزی کی نفیس چھپائی ماہران
فن کے اہتمام سے
کیجاتی ہے

مندرجہ بالا پتہ کے علاوہ ہر ایک تاجر کتب سے جنتری ہذا مل سکتی ہے۔